بسم اللہ الرحمن الرحیم

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

الحمد للّٰہ المنعم

کہ دریں زمان سعادت اقتران بفضل
ایزد منان تحفہ عجائب وہدیہ غرائب الی اللہ
مقبول بارگاہ شاہ کونین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ

مسمّٰی بہ

مجموعۂ صلوات الرسول ﷺ

الجزء الاول

فی نورہ وظہورہ صلی اللہ علیہ وسلم

از تصنیف خادم مخلوق الملک السبحان خلیفہ حضرت شاہ جیلانی

حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبۂ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَآءِ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَرَبِّ السَّمَآءِ

اللہ کے نام کی برکت سے جو سب ناموں سے بہتر اور افضل ہے۔ اللہ زمین کے مالک اور آسمان کے مالک کے نام کی برکت سے

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی

اللہ کے نام کی برکت سے جس کے نام کی بدولت ضرر نہیں دیتی زمین کی کوئی شئ اور نہ کوئی

السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ تَوَاضَعَتْ لَهٗ

شئ آسمان کی۔ اور وہی سننے جاننے والا ہے۔ اللہ کے نام کی برکت سے جس کے لیے جھکی ہیں

الرِّقَابُ وَبِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ خَافَتْ مِنْهُ الْقُلُوْبُ وَبِسْمِ اللّٰهِ

سب گردنیں۔ اور اللہ کے نام کی برکت سے کہ خوف زدہ ہیں اس سے سب کے دل۔ اللہ کے نام کی برکت سے

الَّذِیْ نَفَّسَ عَنْ دَاوٗدَ كُرْبَتَهٗ وَبِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ قَالَ لِلنَّارِ

جس نے دور فرمائی داؤد علیہ السلام سے ان کی تنگی۔ اور اللہ کے نام برکت سے جس نے فرمایا آگ کو

كُوْنِیْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰۤی اِبْرَاهِيْمَ وَبِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ مَلَاَ الْاَرْكَانَ

ہو جا سراسر ٹھنڈک اور سلامتی ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور اللہ کے نام کی برکت سے جس نے (برکات سے) بھرپور فرمائے ارکان

كُلَّهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَبِحُرْمَةِ

اور اجزائے عالم تمام اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ساتھ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور ساتھ حرمت وعزت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَبِفَضْلِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور ساتھ فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے

وَبِعَظْمَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَبِجَلَالِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

اور ساتھ عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بدولت جلال بسم اللہ الرحمن

الرَّحِيْمِ وَبِجَمَالِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَبِهَيْبَةِ بِسْمِ

الرحیم کے۔ اور بطفیل جمال بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ اور بوسیلہ ہیبت بسم

اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِمَنْزِلَۃِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ الرحمٰن الرحیم کے۔ اور ساتھ برکت منزلت اور مرتبۂ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے

وَبِمَلَکُوْتِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِجَبَرُوْتِ بِسْمِ

اور بطفیل پادشاہی اور مملکت بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے۔ اور ساتھ اعانت جبروت وتسلط بسم

اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِکِبْرِیَآءِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ

اللہ الرحمٰن الرحیم کے۔ اور ساتھ برکت بڑائی اور بزرگی بسم اللہ الرحمٰن

الرَّحِیْمِ وَبِثَنَآءِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِبَھَآءِ

الرحیم کے۔ اور بدولت ثناء وتعریف کے جو بسم اللہ الرحیم میں ہے۔ اور ساتھ برکت اس رونق وبہار کے جو

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِکَرَامَۃِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم میں ہے۔ اور ساتھ برکت اور وسیلہ اس بزرگی وبرتری کے جو بسم اللہ الرحمٰن

الرَّحِیْمِ وَبِسُلْطَانِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِبَرَکَۃِ بِسْمِ اللّٰہِ

الرحیم میں ہے۔ اور ساتھ اعانت تسلط اور غلبۂ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے۔ اور بوسیلہ برکت کے جو بسم اللہ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِعِزَّۃِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِقُوَّۃِ

الرحمٰن الرحیم میں ہے۔ اور بوسیلہ عزت وغلبہ کے جو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم میں ہے اور بطفیل قوت کے جو

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِقُدْرَۃِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم میں ہے۔ اور باعانت اس قدرت کے جو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم میں ہے

اِرْفَعْ قَدْرِیْ وَاشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَیَسِّرْ لِیْ اَمْرِیْ وَارْزُقْنِیْ مِنْ

بلند فرما میری قدر ومنزلت اور کشادہ فرما میرے لیے میرے قلب اور سینہ کو اور آسان فرما میرے لیے میرے امور اور مجھے عطا فرما

حَیْثُ لَا اَحْتَسِبُ بِفَضْلِکَ وَکَرَمِکَ یَا مَنْ ھُوَ کٓھٰیٰعٓصٓ

جہاں سے وہم وگمان بھی (رزق آنے کا) نہ کیا جاسکتا ہو بطفیل اپنے فضل اور کرم کے اے وہ ذات جس کی شان ہے کٓھٰیٰعٓصٓ

حٰمٓ عٓسٓقٓ وَاَسْئَلُکَ بِجَمَالِ الْعِزَّۃِ وَجَلَالِ الْھَیْبَۃِ وَجَبَرُوْتِ

حٰمٓ عٓسٓقٓ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بوسیلہ تیرے جمال عزت کے اور جلال ہیبت کے اور غلبہ وسطوت

الْعَظَمَۃِ اَنْ تَجْعَلَنِیْ مِنْ عِبَادِکَ الصّٰلِحِیْنَ الَّذِیْنَ لَا خَوْفٌ

عظمت کے کہ تو بنا دے مجھے اپنے بندگان نیک سے کسی قسم کا خوف نہیں ہے

عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ یَحْزَنُوْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ وَاَنْ

ان پر۔ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے بطفیل اپنی رحمت کے اے سب رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحمت والے اور یہ کہ

تُصَلِّیَ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّافْعَلْ لِیْ کَذَا

رحمت نازل فرمائے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار محمد کی آل پر صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اور بنا میرے لیے بھی ایسی

وَکَذَا بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

رحمت اور ایسی ہی برکت۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو پرورش کرنے والا سب

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ

جہانوں کا ہے۔ بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے ان صفات کمال کے مالک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے

نَسْتَعِیْنُ ۝ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ

استطاعت وقوت طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں چلا راہ راست پر ان لوگوں کے راستہ پر جنہیں تو نے مخصوص انعامات سے نوازا

عَلَیْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْھِمْ وَلَا الضَّآلِّیْنَ ۝ سُبْحَانَکَ

جو نہ تیرے غضب میں گھرے اور نہ راہ راست سے بھٹکے ہیں۔ پاکیزہ اور منزہ ہے تو

لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اَللّٰھُمَّ وَبِحَمْدِکَ بِاِخْلَادِ الْحَمْدِ حَمْدًا کَثِیْرًا

نہیں علم ہمارے لیے مگر وہ جو تو نے ہمیں جتلایا اے اللہ اور ہم تیری حمد کے ساتھ (مشغول ہیں) اسے دائم اور برقرار رکھنے کے لیے کہ بہت زیادہ

طَیِّبًا مُّبَارَکًا فِیْہِ بِاَمْرِکَ وَتَکُوْنُ بِوُجُوْدِکَ وَبَرَکَۃٍ مِّنْکَ وَتَبَارَکَ

ہو اور پاکیزہ وبابرکت بھی ہو تیرے امر سے اور تیرے ابدی اور سرمدی وجود سے متعلق ہو اور تیری عطا کردہ برکت کی بدولت ہو اور بابرکت ہے

اسْمُکَ وَتَعَالٰی جَدُّکَ بِجَدٍّ جَدٍّ وَّلَآ اِلٰہَ غَیْرُکَ بِکَ اٰمَنَّا وَلَکَ

نام تیرا اور بلند مرتبت ہے تیری بزرگی جو بڑائی کی انتہا پر ہے۔ اور عبادت کے لائق نہیں سوا تیرے۔ تیرے ساتھ ہی ہم ایمان لائے اور تیرے

اَسْلَمْنَا وَعَلَیْکَ تَوَکَّلْنَا حَقِّقْنَا اَللّٰھُمَّ بِنُوْرِکَ یَا مَالِکَ یَوْمِ

لیے ہی طاعت گزار ہوئے اور تجھ پر ہی اعتماد اور بھروسہ کیا ہم نے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نور کے ساتھ منور کرکے برقرار رکھ اے روز قیامت کے

الَّذِیْنَ وَنَوِّرْ بَصَآئِرَنَا بِنُوْرِكَ یَا نُوْرَ النُّوْرِ یَا هَادِیَ الْمُضِلِّیْنَ

مالک۔ اور ہماری قلبی نگاہوں کو منوّر فرما اپنے نور خاص کے ساتھ اے انوار کو منور کرنیوالے اے گمراہوں اور گمراہ کرنے والوں کے ہادی و رہنما

لَا هَادِیَ غَیْرُكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ اَغْنِنَا عَنْ غَیْرِكَ یَا غَنِیُّ الرَّحْمٰنُ

نہیں کوئی ہدایت دینے والا سوا تیرے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار سب جہانوں کا ہے مجھے اپنی ذات کے طفیل ماسوا سے بے نیاز کر اے بے نیاز

الرَّحِیْمُ شُهُوْدُ ذَاتِكَ یَا قَرِیْبُ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِیْمٍ ۝ مٰلِكِ یَوْمِ

رحمٰن رحیم۔ تیرا شہود ذات (مطلوب ہمارا ہے) اے (ہماری جانوں سے) قریب۔ سلام ہے رب رحیم کی طرف سے کہا ہوا جو مالک ہے روز قیامت کا

الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ

اے صفات کمال والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہر قسم کی مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

فِیْ حَقَآئِقِ مَحْضِ التَّخْصِیْصِ وَبِاَنَّكَ عَلٰی كُلِّ حَالٍ مِّنْ اَحْوَالِ

تیری اس شان کے صدقے سے کہ تو ہی اللہ ہے جس کا ظہور تشخصات مخصوصہ کے حقائق میں ہے۔ اور اس شان کے طفیل کہ تو مخلوق کے تمام احوال

الْجِدِّ وَالتَّعْدِیْلِ وَبِاَنَّكَ اَنْتَ بِخَصَآئِصِ الْاَحَدِیَّةِ وَالصَّمَدِیَّةِ

حقیقی اور عزم کامل اور ان میں موزونیت و تناسب (پیدا کرنے) پر غالب و قادر ہے اور بوسیلہ اس امر کے کہ تو احدیت و صمدیت کے خصائص

عَنِ الضِّدِّ وَالنِّدِّ وَالنَّقِیْضِ وَالنَّظِیْرِ وَالظَّهِیْرِ وَبِاَنَّكَ اَنْتَ الَّذِیْ

کے ساتھ متصف ہو کر مقدس و پاکیزہ ہے مدمقابل اور مخالف سے معاند اور مماثل سے اور مناسب و مددگار سے اور اس شان کے طفیل کہ تو ہی وہ ذات ہے

لَیْسَ كَمِثْلِهٖ شَیْءٌ ۚ وَّهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ اَنْ تَقْضِیَ حَاجَتِیْ بِحَقِّ

جس کی مثل کوئی نہیں ہے اور اسی شان امتیازی والا ہی سننے جاننے والا ہے کہ تو میری حاجت کو پورا کرے صدقے میں

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ اَللّٰهُمَّ لَا

اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے اے اللہ نہ

تَجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِ الْخِزْیِ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَاجْعَلْنَا مِنَ

بنا ہمیں ان لوگوں سے جو رسوا ہیں حیات دُنیا اور آخرت میں اور بنا ہمیں

الَّذِیْنَ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّآلِّیْنَ ۝ اٰمِیْنَ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا

ان لوگوں سے جن پر غضب نہیں کیا گیا اور نہ وہ گم گشتگانِ راہ ہدیٰ ہیں۔ آمین۔ اے اللہ نہ بنا ہمیں

ضَآلِّیْنَ وَلَا مُضَآلِّیْنَ وَلَا عَنْ بَابِكَ مَطْرُوْدِیْنَ وَلَا مِنْ وَّجْهِكَ اٰئِسِیْنَ

بذاتِ خود گمراہ ہونے والے اور نہ گمراہ کئے ہوئے۔ اور نہ اپنے در سے ہانکے ہوئے اور نہ اپنے دیدار ذات سے ناامید

الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ

الٓمّٓ۔ وہ عظیم الشان کتاب جو شک کے لائق نہیں ہے سراسر ہدایت ہے تقویٰ کی طرف مائل لوگوں کیلئے جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ

وَیُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ

اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیئے سے بعض کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا

اِلَیْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ یُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًی

آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے اور آخرت کے ساتھ وہی یقین رکھنے والے ہیں۔ وہی لوگ ثابت قدم ہیں اس ہدایت

مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ هُوَ

پر جو ان کے رب کی طرف سے ہے اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کے نام کی برکت سے جو بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے

اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

وہی اللہ ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی جو رحمٰن رحیم ہے بادشاہ۔ پاکیزہ و منزہ۔ سراسر سلامتی۔ ایمان دینے والا

الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

نگہبان۔ غالب۔ جبار۔ بڑائی کا ظاہر کرنے والا۔ وجود بخشنے والا۔ تناسب انداز میں پیدا کرنے والا مختلف صور و اشکال میں ڈھالنے والا

الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِیْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ

بخشنے والا۔ قہر و جلال والا۔ گوناگوں نعمتیں بلاعوض دینے والا ہے۔ بہت زیادہ روزی رساں۔ مشکلات حل کرنے والا۔ ظاہر و باطن کا جاننے والا رزق میں تنگی کرنیوالا۔ کشادگی

الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ الْحَكَمُ

اور فراخی کا مالک۔ پستی میں گرانے والا۔ بلندی پر لیجانے والا۔ عزت دینے والا۔ قعر مذلت میں گرانے والا۔ ہر ایک کی سننے والا۔ سب کو دیکھنے والا۔ حکم نافذ کرنے والا۔

الْعَدْلُ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ الْحَلِیْمُ الْعَظِیْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ

عدل فرمانے والا۔ مخلوق کی نگاہوں سے بالاتر اور سب کی خبر رکھنے والا۔ حلم والا۔ عظمت کا مالک۔ بہت زیادہ بخشش فرمانے والا۔ شکر کی جزا دینے والا۔

الْعَلِیُّ الْكَبِیْرُ الْحَفِیْظُ الْمُقِیْتُ الْحَسِیْبُ الْجَلِیْلُ الْكَرِیْمُ

بلند شان۔ کبریائی والا۔ بہت حفاظت فرمانے والا۔ روزی مہیا کرنے والا۔ حساب لینے والا۔ جلالت و بزرگی کا مالک۔ صاحب جود و کرم

الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ

نگہبانی کرنے والا۔ دُعائیں قبول کرنے والا۔ ہرشی کا احاطہ کرنے والا۔ حکمت ودانائی والا۔ محبت رکھنے والا۔ بزرگ ۔ مردوں کو اٹھانے والا۔

الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِي

مشاہدہ کرنے والا۔ موجودِ حقیقی۔ کارسازِ حقیقی قوّت کا مالک ۔ شدید قوت والا۔ ناصرومددگار۔ لائق حمدوثناء شمار کرنے والا۔

الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِي الْمُمِيْتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ

آغاز کرنے والا۔ لوٹانے والا۔ حیات بخشنے والا۔ مارنے والا۔ بذات خود زندہ دوسروں کو قائم وبرپا رکھنے والا۔ ذاتی وجود والا۔ صاحب مجد۔

الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ

اکیلا۔ یکتا۔ بے نیاز۔ صاحب قدرت۔ مالک اقتدار۔ آگے بڑھانے والا۔ پیچھے ہٹانے والا۔ سب سے پہلے موجود

الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْعِمُ

سب کے بعد بھی موجود۔ بے حجاب وبے پردہ آثار قدرت کے لحاظ سے۔ نگاہائے خلق سے بالاتر کنہ ذات کے لحاظ سے۔ مالک۔ بلند مرتبت۔ نکوکار توبہ کی بہت توفیق دینے

الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

والا نعمتیں عطا کرنیوالا۔ انتقام اور بدلہ لینے والا۔ عفو ودرگزر کرنے والا۔ رأفت ورحمت فرمانے والا۔ ملک کائنات کا مالک۔ جلالت وعزت والا۔

الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمُعْطِي الْمَانِعُ الضَّآرُّ النَّافِعُ

عدل کرنے والا قیامت کے دن جمع کرنے والا۔ مستغنی اور بے پرواہ۔ بے پرواکرنیوالا۔ عطا کرنیوالا۔ روکنے والا۔ ضرر ونقصان کا مالک۔ فائدہ اور منفعت پہنچانے والا۔

النُّوْرُ الْهَادِي الْبَدِيْعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ

نور۔ ہدایت دینے والا۔ انوکھی ایجادوں والا۔ ہمیشہ رہنے والا۔ وارث۔ سیدھی راہ والا۔ بہت زیادہ حلم اور برداشت والا۔

الصَّادِقُ الرَّبُّ الْاَكْرَمُ الْاَعْلَى الْحَافِظُ الْخَلَّاقُ السَّاتِرُ

سچائی والا۔ پالنے والا۔ عزت وکرامت والا۔ بہت بلند مراتب والا۔ حفاظت فرمانے والا۔ بہت زیادہ پیدا کرنے والا۔ پردہ پوشی کرنے والا

السَّتَّارُ الشَّاكِرُ الْعَادِلُ الْعَالِمُ الْعَلَّامُ الْغَالِبُ النَّاظِرُ

بہت زیادہ پردہ دینے والا۔ جزائے شکر دینے والا۔ عدل والا۔ علم والا۔ بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ غالب۔ دیکھنے والا۔

الْفَارِقُ الْقَدِيْرُ الْقَرِيْبُ الْقَاهِرُ الْكَفِيْلُ الْكَافِي الْمُنِيْرُ

جدا کرنے والا۔ دائمی قدرت والا۔ سب سے نزدیک۔ قہر والا۔ کفالت فرمانے والا۔ کفایت کرنے والا۔ نورانی بنانے والا۔

الْمُحِيْطُ الْمَلِكُ الْمَوْلَى النَّصِيْرُ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ اَحْسَنُ

سب کا احاطہ کرنے والا۔ بادشاہ۔ محبوب۔ بہت مددگار۔ سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنیوالا۔ سب سے بہتر

الْخَالِقِيْنَ ذُوالْفَضْلِ ذُوالطَّوْلِ ذُوالْقُوَّةِ ذُوالْمَعَارِجِ ذُوالْعَرْشِ

خالق۔ فضل و کمال والا۔ قوّت و طاقت والا۔ قوّت والا۔ بلندیوں والا۔ عرش کا مالک۔

رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ مُخْرِجُ

بلند درجات والا۔ گناہ بخشنے والا۔ قبول کرنے والا توبہ کا۔ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والا۔ برآمد کرنے والا۔

الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ الْمُغِيْثُ

زندہ کو مردہ سے ۔ اور برآمد کرنے والا مردہ کو زندہ سے ۔ مہربان احسان کرنے والا۔ فریاد رس۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى

اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے نہیں معبود برحق مگر تو ہی۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا عبد ہوں اور میں قائم ہوں

عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ

تیرے عہد وپیمان اور وعدہ پر جہاں تک مجھ سے ممکن ہوگا اور پناہ پکڑتا ہوں تیری ذات کے ساتھ اس کے شر سے جو میں نے کمایا میں اقرار کرتا ہوں

لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا فَاِنَّهٗ لَا

تیرے لیے تیری نعمتوں کا جو مجھ پر ہیں۔ اور اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا پس بخش دے میرے لیے میرے تمام کے تمام گناہ۔ کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ نہیں

يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ يَآ اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا مَالِكُ يَا قُدُّوْسُ

بخشتا گناہوں کو مگر تو ہی۔ اے اللہ۔ اے رحمٰن ۔ اے رحیم ۔ اے شہنشاہ۔ اے انتہائی پاکیزہ۔

يَا سَلَامُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا عَزِيْزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا خَالِقُ

اے سلامتی مہیا کرنے والے۔ اے امن وایمان دینے والے۔ اے نگہبان۔ اے عزت وغلبہ کے مالک۔ اے جبر کے حقداروں پر جبر کرنیوالے۔ اے بڑائی کا اظہار کرنیوالے۔

يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا غَفَّارُ يَا قَهَّارُ يَا وَهَّابُ يَا رَزَّاقُ يَا فَتَّاحُ

اے خالق۔ اے موزوں انداز میں پیدا کرنے والے۔ اے مختلف صور واشکال میں ڈھالنے والے۔ اے مغفرت فرمانیوالے۔ اے قہر کے حقداروں پر قہر نازل کرنے والے۔ اے بلاعوض نعمتیں دینے

يَا عَلِيْمُ يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ يَا خَافِضُ يَا رَافِعُ يَا مُعِزُّ يَا مُذِلُّ

والے اے سب کے روزی رساں۔ اے سب کے مشکل کشا۔ اے دائمی علم والے۔ اے رزق میں تنگی کرنے والے۔ اے رزق میں وسعت وفراخی پیدا کرنیوالے۔ اے پست کرنے والے۔ اے بلندیوں پر پہنچانے

يَا سَمِيْعُ يَا بَصِيْرُ يَا حَكَمُ يَا عَدْلُ يَا لَطِيْفُ يَا خَبِيْرُ يَا حَلِيْمُ

والے۔ اے عزتیں دینے والے۔ اے ذلتوں سے دوچار کرنے والے۔ اے ہمیشہ سننے والے۔ اے ہمیشہ دیکھنے والے۔ اے حکمران۔ اے سراسر عدل۔ اے لطف وکرم

يَا عَظِيْمُ يَا غَفُوْرُ يَا شَكُوْرُ يَا عَلِيُّ يَا كَبِيْرُ يَا حَفِيْظُ يَا مُقِيْتُ

والے۔ اے خبر رکھنے والے۔ اے حلم والے۔ اے عظمت والے۔ اے بہت بخشنے والے۔ اے بہت جزائیں دینے والے شکر ومحمدکی۔ اے بلند شان والے۔ اے

يَا حَسِيْبُ يَا جَلِيْلُ يَا كَرِيْمُ يَا رَقِيْبُ يَا مُجِيْبُ يَا وَاسِعُ

بڑائی والے۔ اے حفاظت فرمانے والے۔ اے روزی رساں۔ اے حساب لینے والے۔ اے جلالت کے مالک۔ اے صاحب کرم۔ اے نگران۔ اے قبول کرنیوالے۔ اے وسعت کے

يَا حَكِيْمُ يَا وَدُوْدُ يَا مَجِيْدُ يَا بَاعِثُ يَا شَهِيْدُ يَا حَقُّ يَا

مالک۔ اے حکمت اور دانائی والے۔ اے محبت رکھنے والے۔ اے صاحب مجد اور برتری۔ اے مردوں کو اٹھانے والے۔ اے موجود وحاضر۔ اے موجود حقیقی اے

وَكِيْلُ يَا قَوِيُّ يَا مَتِيْنُ يَا وَلِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُحْصِيْ يَا

کارساز۔ اے قوت والے۔ اے پختگی کے مالک۔ اے محبوب خلائق۔ اے لائق ستائش۔ اے حصر اور احاطہ کرنے والے۔ اے

مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا مُحْيِيْ يَا مُمِيْتُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا وَاجِدُ

آغاز کرنے والے۔ اے لوٹانے والے۔ اے زندگی دینے والے۔ اے مارنے والے۔ اے بذات خود زندہ رہنے والے۔ اے سب کو قائم رکھنے والے۔ اے ہر

يَا مَاجِدُ يَا وَاحِدُ يَا اَحَدُ يَا صَمَدُ يَا قَادِرُ يَا مُقْتَدِرُ

مطلوب کو موجود پانے والے۔ اے مجد اور برتری کے مالک۔ اے تنہا۔ اے یکتا۔ اے بے نیاز۔ اے صاحب قدرت۔ اے صاحب اقتدار

يَا مُقَدِّمُ يَا مُؤَخِّرُ يَا اَوَّلُ يَا اٰخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا وَالِيْ

اے بڑھانے والے۔ اے ہٹانے والے۔ اے اول۔ اے آخر۔ اے ظاہر۔ اے سب سے اوجھل۔ اے مالک۔

يَا مُتَعَالِيْ يَا بَرُّ يَا تَوَّابُ يَا مُنْتَقِمُ يَا مُنْعِمُ يَا عَفُوُّ يَا رَءُوْفُ

اے علو اور برتری ظاہر کرنے والے۔ اے نکوکار۔ اے توبہ کی توفیق دینے والے۔ اے انعام فرمانے والے۔ اے انتقام لینے والے۔ اے عفو ودرگزر فرمانے والے۔ اے

يَا مَالِكَ الْمُلْكِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا مُقْسِطُ يَا جَامِعُ

مہربان۔ اے ملک کائنات کے مالک۔ اے جلالت وعزت والے۔ اے عدل کرنے والے۔ اے لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرنے والے

يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِيْ يَا مُعْطِيْ يَا مَانِعُ يَا ضَآرُّ يَا نَافِعُ يَا نُوْرُ

اے بے پروا۔ اے بے نیاز کرنے والے۔ اے عطا کرنے والے۔ اے روکنے والے۔ اے ضرر پہنچانے والے۔ اے نفع دینے والے۔ اے سراسر نور

يَا هَادِيْ يَا بَدِيْعُ يَا بَاقِيْ يَا وَارِثُ يَا رَشِيْدُ يَا صَبُوْرُ

اے ہدایت دینے والے۔ اے انوکھی ایجادات والے۔ اے ہمیشہ رہنے والے۔ اے وارث۔ اے سیدھی راہ والے۔ اے بہت زیادہ حلم وتحمل والے

يَا مَنْ تَقَدَّسَتْ عَنِ الْاَشْبَاهِ ذَاتُهٗ وَيَا مَنْ تَنَزَّهَتْ

اے وہ ہستی مطلق کہ پاک ہے مشابہت رکھنے والوں سے ذات اس کی۔ اور اے وہ کہ منزہ ہیں

عَنْ مُّشَابَهَةِ الْاَمْثَالِ اَفْعَالُهٗ وَصِفَاتُهٗ وَيَا مَنْ دَلَّتْ عَلٰى

امثال واشباہ کی مشابہت سے افعال اس کے۔ اور صفات اس کی اے وہ ذات والا کہ دلالت کی ہے اس کی

وَحْدَانِيَّتِهٖ اٰيَاتُهٗ وَشَهِدَتْ بِرُبُوْبِيَّتِهٖ مَصْنُوْعَاتُهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

وحدانیت پر اس کی آیات نے اور گواہی دی ہے اس کی شان پرورش پر اس کی مصنوعات نے۔ نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ تو ہے شہنشاہ۔ موجود حقیقی کہ نہیں لائق پرستش مگر تو ہی۔

يَآ اَللّٰهُ يَآ اَللّٰهُ يَآ اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَآ اَللّٰهُ يَا رَحِيْمُ يَآ اَللّٰهُ يَا مَلِكُ

اے اللہ۔ اے اللہ۔ اے اللہ۔ اے رحمٰن۔ اے اللہ۔ اے رحیم۔ اے اللہ۔ اے بادشاہ حقیقی

يَآ اَللّٰهُ يَا قُدُّوْسُ يَآ اَللّٰهُ يَا سَلَامُ يَآ اَللّٰهُ يَا مُؤْمِنُ يَآ اَللّٰهُ يَا

اے اللہ اے مقدس ترین ذات۔ اے اللہ اے سراسر سلامتی۔ اے اللہ اے ایمان دینے والے۔ اے اللہ۔ اے

مُهَيْمِنُ يَآ اَللّٰهُ يَا عَزِيْزُ يَآ اَللّٰهُ يَا جَبَّارُ يَآ اَللّٰهُ يَا مُتَكَبِّرُ يَآ اَللّٰهُ

نگہبان۔ اے اللہ اے غالب۔ اے اللہ۔ اے جبّار۔ اے اللہ اے بڑائی و بزرگی والے۔ اے اللہ

يَا خَالِقُ يَآ اَللّٰهُ يَا بَارِئُ يَآ اَللّٰهُ يَا مُصَوِّرُ يَآ اَللّٰهُ يَا غَفَّارُ يَآ اَللّٰهُ

اے عدم سے ہستی کی طرف لانے والے۔ اے اللہ اے موزوں انداز میں پیدا کرنے والے۔ اے اللہ اے صورتگر ہستی۔ اے اللہ اے بہت بخشنے والے

يَا قَهَّارُ يَآ اَللّٰهُ يَا وَهَّابُ يَآ اَللّٰهُ يَا رَزَّاقُ يَآ اَللّٰهُ يَا فَتَّاحُ يَآ اَللّٰهُ

اے اللہ۔ اے قہر والے۔ اے اللہ۔ اے ہبہ کرنے والے۔ اے اللہ۔ اے روزی رسان خلق۔ اے اللہ اے مشکل کشائے ہمہ۔ اے اللہ

يَا عَلِيْمُ يَآ اَللّٰهُ يَا قَابِضُ يَآ اَللّٰهُ يَا بَاسِطُ يَآ اَللّٰهُ يَا خَافِضُ

اے دائمی علم والے۔ اے اللہ اے رزق میں تنگی پیدا کرنے والے۔ اے اللہ اے رزق میں فراخی پیدا کرنے والے۔ اے اللہ اے پست کرنیوالے مراتب خلق کے

يَآ اَللّٰهُ يَا رَافِعُ يَآ اَللّٰهُ يَا مُعِزُّ يَآ اَللّٰهُ يَا مُذِلُّ يَآ اَللّٰهُ يَا سَمِيْعُ

اے اللہ اے بلند کرنے والے درجات خلق کے۔ اے اللہ اے عزت دینے والے۔ اے اللہ اے ذلت دینے والے۔ اے اللہ اے سب کی

يَآ اَللّٰهُ يَا بَصِيْرُ يَآ اَللّٰهُ يَا حَكَمُ يَآ اَللّٰهُ يَا عَدْلُ يَآ اَللّٰهُ يَا لَطِيْفُ

سُننے والے۔ اے اللہ اے سب کو دیکھنے والے۔ اے اللہ اے حکمرانِ مطلق۔ اے اللہ اے سراسر عدل۔ اے اللہ اے لُطف و کرم والے۔

يَآ اَللّٰهُ يَا خَبِيْرُ يَآ اَللّٰهُ يَا حَلِيْمُ يَآ اَللّٰهُ يَا عَظِيْمُ يَآ اَللّٰهُ يَا غَفُوْرُ

اے اللہ اے باطن کی خبر رکھنے والے۔ اے اللہ اے حلم والے۔ اے اللہ اے عظمت والے۔ اے اللہ اے بخشنے والے

يَآ اَللّٰهُ يَا شَكُوْرُ يَآ اَللّٰهُ يَا عَلِيُّ يَآ اَللّٰهُ يَا كَبِيْرُ يَآ اَللّٰهُ يَا حَفِيْظُ

اے اللہ اے جزائے حمد و شکر دینے والے۔ اے اللہ اے بلند مرتبت۔ اے اللہ اے بزرگ۔ اے اللہ اے حفاظت فرمانے والے

يَآ اَللّٰهُ يَا مُقِيْتُ يَآ اَللّٰهُ يَا حَسِيْبُ يَآ اَللّٰهُ يَا جَلِيْلُ يَآ اَللّٰهُ يَا كَرِيْمُ

اے اللہ اے روزی رسان۔ اے اللہ اے حساب لینے والے۔ اے اللہ اے صاحبِ جلالت۔ اے اللہ اے صاحبِ کرم

يَآ اَللّٰهُ يَا رَقِيْبُ يَآ اَللّٰهُ يَا مُجِيْبُ يَآ اَللّٰهُ يَا وَاسِعُ يَآ اَللّٰهُ يَا حَكِيْمُ

اے اللہ اے نگرانِ خلق۔ اے اللہ اے صاحبِ قبولیت۔ اے اللہ اے مالکِ وسعت۔ اے اللہ اے صاحبِ حکمت

يَآ اَللّٰهُ يَا وَدُوْدُ يَآ اَللّٰهُ يَا مَجِيْدُ يَآ اَللّٰهُ يَا بَاعِثُ يَآ اَللّٰهُ يَا شَهِيْدُ

اے اللہ اے صاحبِ مودّت۔ اے اللہ اے صاحبِ بزرگی و مجد۔ اے اللہ اے صاحبِ نشر۔ اے اللہ اے صاحبِ شہادت

يَآ اَللّٰهُ يَا حَقُّ يَآ اَللّٰهُ يَا وَكِيْلُ يَآ اَللّٰهُ يَا قَوِيُّ يَآ اَللّٰهُ يَا مَتِيْنُ يَآ اَللّٰهُ

اے اللہ اے ہستیٔ مطلق۔ اے اللہ اے کارساز۔ اے اللہ اے صاحبِ قوت و توانائی۔ اے اللہ اے صاحبِ متانت۔ اے اللہ

يَا وَلِيُّ يَآ اَللّٰهُ يَا حَمِيْدُ يَآ اَللّٰهُ يَا مُحْصِيُ يَآ اَللّٰهُ يَا مُبْدِئُ يَآ اَللّٰهُ

اے مددگار۔ اے اللہ اے ہمیشہ کے لیے سزاوارِ حمد۔ اے اللہ اے شمار و احاطہ کرنے والے۔ اے اللہ اے آغازِ کار فرمانے والے۔ اے اللہ

يَا مُعِيْدُ يَآ اَللّٰهُ يَا مُحْيِيُ يَآ اَللّٰهُ يَا مُمِيْتُ يَآ اَللّٰهُ يَا حَيُّ يَآ اَللّٰهُ

اے حالتِ سابقہ کی طرف لوٹانے والے۔ اے اللہ۔ اے حیات بخش۔ اے اللہ اے موت وارد کرنے والے۔ اے اللہ اے صاحبِ حیاتِ دائم اے

يَا قَيُّوْمُ يَآ اَللّٰهُ يَا وَاجِدُ يَآ اَللّٰهُ يَا مَاجِدُ يَآ اَللّٰهُ يَا وَاحِدُ يَآ اَللّٰهُ

اللہ اے ہمیشہ موجود و قائم۔ اے اللہ اے مراد کو موجود پانے والے۔ اے اللہ اے صاحبِ بزرگی و مجد۔ اے اللہ اے بے ہمتا۔ اے اللہ

يَآ اَحَدُ يَآ اَللّٰهُ يَا صَمَدُ يَآ اَللّٰهُ يَا قَادِرُ يَآ اَللّٰهُ يَا مُقْتَدِرُ يَآ اَللّٰهُ يَا مُقَدِّمُ

اے یکتا۔ اے اللہ۔ اے بے نیاز۔ اے صاحبِ قدرت۔ اے اللہ اے صاحبِ اختیار و اقتدار۔ اے اللہ اے سبقت دینے والے

يَآ اَللّٰهُ يَا مُؤَخِّرُ يَآ اَللّٰهُ يَآ اَوَّلُ يَآ اَللّٰهُ يَآ اٰخِرُ يَآ اَللّٰهُ يَا ظَاهِرُ يَآ اَللّٰهُ

اے اللہ اے مؤخر کرنے والے۔ اے اللہ۔ اے اول۔ اے اللہ۔ اے آخر۔ اے اللہ۔ اے ظاہر۔ اے اللہ

يَا بَاطِنُ يَآ اَللّٰهُ يَا وَالِيُ يَآ اَللّٰهُ يَا مُتَعَالِيُ يَآ اَللّٰهُ يَا بَرُّ يَآ اَللّٰهُ يَا تَوَّابُ

اے سب سے پوشیدہ۔ اے اللہ اے صاحبِ ولایت۔ اے اللہ۔ اے برتری والے۔ اے اللہ اے صاحبِ بر و احسان۔ اے اللہ اے مخلوق پر نظرِ رحمت

يَآ اَللّٰهُ يَا مُنْعِمُ يَآ اَللّٰهُ يَا مُنْتَقِمُ يَآ اَللّٰهُ يَا عَفُوُّ يَآ اَللّٰهُ يَا رَءُوْفُ

فرمانے والے۔ اے اللہ اے صاحبِ انعام۔ اے اللہ اے صاحبِ انتقام۔ اے اللہ اے صاحبِ عفو و درگزر۔ اے اللہ اے صاحبِ رأفت و عنایت

يَآ اَللّٰهُ يَا مَالِكَ الْمُلْكِ يَآ اَللّٰهُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَآ اَللّٰهُ

اے اللہ۔ اے مالکِ ملک۔ اے اللہ اے صاحبِ جلال و اکرام۔ اے اللہ

يَا رَبُّ يَآ اَللّٰهُ يَا مُقْسِطُ يَآ اَللّٰهُ يَا جَامِعُ يَآ اَللّٰهُ يَا غَنِيُّ يَآ اَللّٰهُ

اے صاحبِ پرورش و ربوبیت۔ اے اللہ اے صاحبِ عدل و انصاف۔ اے اللہ۔ اے جمع کرنے والے خلائق کے۔ اے اللہ اے بے پروا۔ اے اللہ

يَا مُغْنِيُ يَآ اَللّٰهُ يَا مُعْطِيُ يَآ اَللّٰهُ يَا مَانِعُ يَآ اَللّٰهُ يَا ضَآرُّ يَآ اَللّٰهُ يَا

اے احتیاجِ خلق سے بے پروا کرنے والے۔ اے اللہ اے صاحبِ جود و عطا۔ اے اللہ اے مالکِ بندشِ رزق۔ اے اللہ اے مالکِ ضرر و نقصان۔ اے اللہ اے

نَافِعُ يَآ اَللّٰهُ يَا نُوْرُ يَآ اَللّٰهُ يَا هَادِيُ يَآ اَللّٰهُ يَا بَدِيْعُ يَآ اَللّٰهُ يَا

مالکِ نفع و افادہ۔ اے اللہ اے نورانی بنانے والے۔ اے اللہ اے منزلِ مقصود تک پہنچانے والے۔ اے اللہ اے امتیازی ایجاد و تخلیق والے۔ اے اللہ اے

بَاقِيُ يَآ اَللّٰهُ يَا وَارِثُ يَآ اَللّٰهُ يَا رَشِيْدُ يَآ اَللّٰهُ يَا صَبُوْرُ يَآ اَللّٰهُ يَا مَنْ

دائم۔ اے اللہ۔ اے وارثِ خلق۔ اے اللہ اے صاحبِ رشد و ہدایت۔ اے اللہ اے صبرِ فراواں والے۔ اے اللہ۔ اے وہ ذات والا

تَعَالَيْتَ عَنْ وَّسْمَةِ النَّقْصِ وَالزَّوَالِ وَتَقَدَّسْتَ بِشِيْمَةِ الْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ

کہ بلند و برتر ہے علاماتِ نقص و زوال سے۔ اور مقدس و منزہ ہے بسببِ زینتِ عظمت و جلال کے۔

وَتَنَزَّهْتَ عَنْ اِدْرَاكِ الْاَوْهَامِ وَالْخَيَالِ وَتَفَرَّدْتَ بِجِيَادِ الْخِلَالِ وَالْفِضَالِ

اور تو منزہ و مبرا ہے۔ اوہام و خیالات کے ادراک و احاطہ سے۔ اور منفرد و یکتا ہے بسبب عمدہ خصلتوں اور فضیلتوں کے۔

نَسْئَلُكَ اَنْ تُفِيْضَ عَلَيْنَا ذَوَارِفَ الْعَوَارِفِ بِفَضْلِكَ الْمُتَعَالِ وَ

ہم تیری بارگاہ میں دستِ سوال دراز کئے ہوئے ہیں کہ تو ہم پر فیضان فرمائے عمدہ نیکیوں کا بطفیل اپنے فضل عالی شان کے۔ اور

تُلْهِمَ حَقَآئِقَ الْمَعَارِفِ بِجَزَآئِلِ النَّوَالِ وَتُرَشِّحَ مِنْ شَآبِيْبِ الشُّهُوْدِ مِلْءَ

الہام فرمائے معارف کے حقائق کا بوسیلہ اپنے عظیم جود ونوال کے۔ اور برسائے مشاہدۂ ذات کی برساتوں سے بھرپور

السِّجَالِ وَتَجُوْدَ مِنْ بِحَارِ التَّوْحِيْدِ كُؤُسَ الْوِصَالِ وَتَرْفَعَنَا مِنْ حَضِيْضِ

ڈول۔ اور عطا فرمائے بحر ہائے توحید سے وہ پیمانے جو موجبِ وصل ہوں اور ہمیں بلند فرمائے پستیٔ

التَّدَنُّسِ اِلٰى ذُرْوَةِ اللِّقَآءِ الْكَمَالِ وَتُبَلِّغَنَا اِلٰى نَيْلِ بَقَآءٍ لَّا يَزَالُ وَتُكَرِّمَنَا بِصِلَةِ

آلائش اور میلگونی سے لقاء کامل کی بلندی کی طرف۔ اور ہمیں پہنچائے طرف ایسے بقاء ودوام کے حصول کے جو کبھی زوال پذیر نہ ہو اور ہمیں معزز

مَدَارِجِ فَنَآءِ الْمُطْلَقِ وَالْخِصَالِ بِوَجَاهَةِ مَنْ لَّوْلَاهُ لَمَا كُسِيْنَا كِسَآءَ التَّنَيُّسِ

ٹھرائے ساتھ عطا کرتے فنائے مطلق والے مدارج اور اخلاق کے بطفیل وجاہت اور آبرو اس ذات کے کہ جن کا وجود نہ ہوتا تو ہمیں نہ پہنائی جاتی پوشاک ہستی کی

وَالْمِثَالِ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ اَزْيَدُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَاةِ وَالرِّمَالِ وَعَلٰى اٰلِهٖ

اور خلعت شکل وصورت کی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے درود اور رحمتیں نازل ہوں کنکریوں اور ریت کے ذرات کی مقدار سے زائد اور ان کی آل پر

وَصَحْبِهٖ اُولِى الشَّرَفِ وَالْجَمَالِ يَا فَاطِرَ الْجَبَرُوْتِ مِنْكَ تَلَذُّ الْاَلْسِنَةُ

اور اصحاب پر جو اربابِ شرف وجمال ہیں۔ اے پیدا کرنے والے مظاہر قہر وجبر کے۔ تجھی سے لذت پاتی ہیں زبانیں

بِالْمَقَالِ يَا مَالِكَ الْمَلَكُوْتِ اَنْتَ مُشَرِّفُ النُّفُوْسِ بِشَرَافَةِ الْحَالِ وَاَنْتَ

گفتگو اور ہمکلامی کے ساتھ۔ اے ملکوت کے مالک تو ہی نفوس کو مشرف فرمانے والا ہے احوال کے شرف اور بزرگی کے ساتھ۔ اور تو ہی

حَقٌّ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ وَمِنْكَ الْبِدَايَةُ وَاِلَيْكَ الْمَآلُ

موجود مطلق ہے۔ نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی اے عزت وجلال والے۔ تجھی سے ہی ابتداء ہے اور تیری طرف ہی سب کی بازگشت ہے۔

بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

تیری رحمت کے ہی امیدوار ہیں اے سب سے بڑے مہربان۔ اور سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو پرورش کرنے والا ہے سب جہانوں کی۔ اللہ۔ اللہ

اَللّٰهُ رَبُّنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ حَسْبُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ جَلْبُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ نُوْرُنَا

اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے۔ اللہ اللہ۔ اللہ ہی ہماری کشش ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا نور ہے

اَللّٰهُ اَللّٰهُ ظُهُوْرُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ حُضُوْرُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ سُرُوْرُنَا اَللّٰهُ

اللہ اللہ۔ اللہ ہی ہمارا سبب ظہور ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی کے لیے ہماری حاضری ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا سرور ہے اللہ

اَللّٰهُ اَللّٰهُ مَوْفُوْرُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ مَحْبُوْبُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ مَطْلُوْبُنَا اَللّٰهُ

اللہ۔ اللہ ہی کامل جزاءٌ ہماری ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا محبوب ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا مطلوب ہے۔ اللہ

اَللّٰهُ اَللّٰهُ مَرْغُوْبُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ مَعْبُوْدُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ مَقْصُوْدُنَا اَللّٰهُ

اللہ۔ اللہ ہی ہماری رغبتوں کا مرکز ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا مقصود ہے۔ اللہ

اَللّٰهُ اَللّٰهُ مَشْهُوْدُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَارُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَسْتَارُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ

اللہ۔ اللہ ہی ہماری نگاہِ قلوب کے مشاہدہ میں ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی سے ہماری بڑائیاں ہیں۔ اللہ اللہ اللہ ہی سے ہماری پردہ داریاں ہیں اللہ اللہ

اَللّٰهُ اَسْرَارُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اِسْتَارُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اِيْمَانُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

اللہ ہی ہمارے اسرار ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا پردہ پوش ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی

اِيْقَانُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَفْرَاضُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اِضَاضُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

ہمارا یقین ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارے فرائض ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا ملجا وماویٰ ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی

فَيَّاضُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَرْوَاحُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اِصْلَاحُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

ہمارا فیض رساں ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی سے ہماری روحیں (مدارِ حیات) ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی سے ہماری اصلاح اور بہتری ہے اللہ اللہ

اَللّٰهُ اِفْلَاحُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اِصْبَاحُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اِسْتِفْتَاحُنَا

اللہ ہی سے ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی سے ہماری روشنی ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی سے ہماری حل مشکلات کی آرزو ہے

اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ حَبِيْبُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ طَبِيْبُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ كَنْزُنَا اَللّٰهُ

اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا حبیب ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا طبیب اور دافع امراض ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا خزانہ ہے۔ اللہ

اَللّٰهُ اَللّٰهُ حِرْزُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ عِيَاذُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ غِيَاثُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ

اللہ اللہ ہی ہمارے لیے حفظ وامان ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہماری پناہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا فریادرس ہے۔ اللہ اللہ

اَللّٰهُ حِصْنُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ فَخْرُنَا اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ مَا فِى الْقُلُوْبِ اِلَّا اللّٰهُ

اللہ ہی ہمارا قلعہ اور جائے پناہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہی ہمارا سرمایۂ فخر وناز ہے۔ اللہ اللہ اللہ ہمارے دلوں میں نہیں مگر اللہ ہی

اَللّٰہُ اَللّٰہُ مَا فِی السِّرِّ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ مَا فِی الْوُجُوْدِ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ

اللہ اللہ اللہ نہیں ہے ہمارے لطیفۂ سِر میں مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے ہر وجود میں مگر اللہ اللہ

اَللّٰہُ اَللّٰہُ مَا فِی الْکَوْنِ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ مَا فِی الْکَوْنَیْنِ اِلَّا اللّٰہُ

اللہ اللہ نہیں ہے جہان میں مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے دونوں جہان میں مگر اللہ

اَللّٰہُ اَللّٰہُ مَا فِی الْمُکَوَّنِ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ اِلَّا

اللہ اللہ نہیں ہے مخلوق میں سوائے اللہ کے۔ اللہ اللہ اللہ نہیں آسمانوں میں مگر

اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ مَا فِی الْاَرْضِیْنَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ مَا فِی الدُّنْیَا

اللہ اللہ اللہ نہیں ہے زمینوں میں مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں دُنیا میں

اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ مَا فِی الْاٰخِرَۃِ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَآ اَوَّلَ اِلَّا اللّٰہُ

مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے آخرت میں مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے اوّل مگر اللہ

اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَآ اٰخِرَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا ظَاہِرَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ

اللہ اللہ اللہ نہیں ہے آخر مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے ظاہر مگر اللہ۔ اللہ اللہ

اَللّٰہُ لَا بَاطِنَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا فَاخِرَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا

اللہ نہیں ہے باطن و مخفی مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے صاحب فخر مگر اللہ۔ اللہ اللہ نہیں ہے

غَافِرَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا مَالِکَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا مَلِکَ

بخشنے والا مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں مالک ہر شی کا مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے حقیقی بادشاہ

اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا قَآئِمَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا دَآئِمَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ

مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے قائم و پائندہ مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے دائم و باقی مگر اللہ اللہ

اَللّٰہُ لَآ اِمْتِنَانَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَآ اِمْتِہَانَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ

اللہ اللہ نہیں ہے سراسر احسان مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے ہماری سراپا عجز و نیازی (کا حقدار مگر) اللہ اللہ

اَللّٰہُ لَآ اَمِیْنَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَآ اٰمِّیْنَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ

اللہ اللہ نہیں لائق امانت مگر اللہ تعالےٰ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہیں ہم قصد کرنیوالے مگر اللہ کا۔ اللہ اللہ

اَللّٰہُ لَا بَلُوْجَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا بَلَجَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا

اللہ نہیں ہے بہت واضح اور روشن مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے سراسر وضوح اور روشنی مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے

سُلْطَانَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا بُرْہَانَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا

سلطان اور صاحب سطوت مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے دلیل روشن مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے۔

رَحِیْمَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا کَرِیْمَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا عَظِیْمَ

رحمت دائم والا مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں دائمی کرم و بخشش والا مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے دائمی عظمت والا

اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا رَحْمٰنَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا سُبْحَانَ اِلَّا اللّٰہُ

مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں مومن و کافر پر فضل و احسان کرنے والا مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں ہے پاکیزہ و تقدس مطلق مگر اللہ

اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا رَبَّ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ لَا نُوْرَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ

اللہ اللہ اللہ نہیں ہے پرورش کرنے والا مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ نہیں منور کرنے والا مگر اللہ۔ اللہ اللہ

اَللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ

اللہ نہیں ہے عبادت کے لائق مگر اللہ۔ اللہ اللہ اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اللہ اللہ

اَللّٰہُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِہٖ کَمِشْکٰوۃٍ فِیْہَا مِصْبَاحٌ ط

اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کے نور کی شان اور حالت طاق میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے

اَلْمِصْبَاحُ فِیْ زُجَاجَۃٍ ط اَلزُّجَاجَۃُ کَاَنَّہَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَۃٍ

وہ چراغ کہ شیشہ میں ہے۔ اور وہ شیشہ گویا کہ چمکتا ستارہ ہے۔ جس چراغ کو جلایا جاتا ہے اس تیل سے جو حاصل کیا جاتا ہے بابرکت درخت

مُّبٰرَکَۃٍ زَیْتُوْنَۃٍ لَّا شَرْقِیَّۃٍ وَّلَا غَرْبِیَّۃٍ یَّکَادُ زَیْتُہَا یُضِیْٓءُ وَلَوْ لَمْ

یعنی زیتون سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی (بلکہ درمیانی علاقہ سے ہے) جس کا تیل اس قابل ہے کہ خود ہی روشنی دے۔ اگرچہ نہ

تَمْسَسْہُ نَارٌ نُوْرٌ عَلٰی نُوْرٍ ط یَہْدِی اللّٰہُ لِنُوْرِہٖ مَنْ یَّشَآءُ وَیَضْرِبُ

مس کرے اسے آگ۔ بس نور ہی نور ہے۔ ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جسے چاہے اور بیان کرتا ہے

اللّٰہُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللّٰہُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝ اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی

اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے۔ اور اللہ ہر چیز کا ہمیشہ کے لیے جاننے والا ہے۔ اے اللہ درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَصَدَ لَهُ الْمُخَالِفُوْنَ اَعْنِىْ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ

ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی مخالفت کا مخالفین نے قصد کیا یعنی ارادہ رکھتے تھے کہ بجھا دیں نور خدا کو

اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝ اَلنُّوْرُ وَيَا نُوْرَ كُلِّ

اپنے مونہوں (کے پھونکوں) سے اور اللہ اپنے نور مخصوص کو کامل تر کرنے والا ہے اگرچہ ناپسند کریں کفار۔ نور مطلق اور اے نور ہر

شَيْءٍ وَّهُدَاهُ اَنْتَ الَّذِىْ فَلَقْتَ الظُّلُمَاتِ بِنُوْرِهٖ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ

شئ کے۔ اور سب کی ہدایت (کے ساز گار) تو ہی ہے جس نے پھاڑا ظلمتوں کو اپنے نور کے ساتھ۔ تو ہی منور کرنے والا ہے آسمانوں کا

الَّتِىْ كَنَفْتَهَا بِنُوْرِكَ الْجَامِدِ بِتَخْلِيْطِ الْاَبْخِرَةِ الْجَلَالِيَّةِ وَالْجَمَالِيَّةِ

جنہیں تو نے اپنے نور سے ڈھانپا جو کہ انجماد پذیر ہیں بسبب اختلاط بخارات جلالیہ اور جمالیہ کے

وَاَشْرَقَتِ الشَّمْسُ بِتَخْلِيْقِكَ قُرْصَهَا مِنْ نُّوْرِ الْجَلَالِ الْغَالِبِ وَجَمَالِ

اور چمک اٹھا سورج بسبب پیدا کرنے تیرے اس کے قرص کو جلال غالب اور جمال مطالب کے نور سے

الْمَطَالِبِ حَتّٰى عَكَسَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ وَصَارَتِ الْهَوَآءُ حَارَّةً بِتَحَرِّ

حتیٰ کہ وہ تنور کے عکس و پرتو کا مظہر بنا۔ اور ہوا حرارت پذیر ہو گئی بسبب

الشُّعَاعَاتِ طَبَّاخَةً وَّخَلَقْتَ الْقَمَرَ مُضِيْئًا بَارِدًا اَشِعَّاعَاتِهٖ وَكَوَّنْتَ

شمسی شعاعوں کی حرارت کے اور اشیاء کی پکانے والی بن گئی اور تو نے پیدا کیا ماہتاب کو اس انداز میں کہ نور افشاں ہے اور ٹھنڈی ہیں شعاعیں اسکی اور تو نے

الْكَوَاكِبَ بَرَّاقَةً هَادِيَةً رَّاجِمَةً اِنْفَصَلَتْ شُعَاعَاتُهَا مِنْهَا ثُمَّ تَتَّصِلُ بِمَقَارِّهَا

پیدا فرمایا ستاروں کو اسی انداز میں کہ چمکتے ہیں اور باعث ہدایت و راہنمائی ہیں اور شیاطین کو ہلاک کرنے والے ہیں انہیں (اجرام مضیئہ) سے ان کی شعاعیں جدا ہوتی

وَمَرَاكِزِهَا حَتّٰى صَارَتِ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ مُزَيَّنَةً بِاَحْسَنِ زِيْنَةٍ ثُمَّ

ہیں پھر اپنے محل قرار اور مراکز تک واصل و متصل ہوتی ہیں حتیٰ کہ ساتوں آسمان مزین ہو گئے انتہائی حسین آرائش کے ساتھ پھر

اَبْدَعْتَ اَشْخَاصَ الْمَلٰٓئِكَةِ مِنْ غَيْرِ تَامُوْرٍ وَّتَامُوْرَةٍ مِّنْ اِهَابٍ وَّلَحْمٍ

تو نے از سر نو پیدا فرمایا ملائکہ کے وجودوں کو بغیر مخلوط کرنے مذکر و مؤنث کے مواد کے جو حاصل ہوں چمڑے اور گوشت

وَّعِظَامٍ مَّشْكُوْةٍ بَلْ اَوْجَدْتَهَا مِنْ صِرْفِ نُوْرٍ لَطِيْفٍ قَابِلِ الشَّكْلِ

اور پردوں میں چھپی ہڈیوں کے (مجسموں سے) بلکہ تو نے انھیں ایجاد فرمایا خالص لطیف نور سے جو قبول کرنے والا تھا پاکیزہ و لطیف شکل کو

اللَّطِيْفِ وَالْكَثِيْفِ مَعَ بَقَآءِ الْهَيْئَةِ الْمَلَكِيَّةِ النُّوْرَانِيَّةِ فِىْ هَيْاٰتِهَا الْجِبِلِّيَّةِ

اور کثیف کو بھی باوجود باقی رہنے حالت ملکی نورانی کے اپنی جبلی ہیئات پر

حَتّٰى تَيَسَّرَ لَهُمُ الْهُبُوْطُ وَالصُّعُوْدُ فِىْ اَدْنٰى لَمْحَةٍ وَالْجِهَاتُ طُوِيَتْ لَهُمْ

حتیٰ کہ سہل ہو گیا ان کے لیے اترنا زمین کی طرف اور چڑھنا آسمانوں کی طرف آنکھ جھپکنے کی دیر میں اور شش جہات ان کیلئے سمیٹ دی گئیں

فِىْ لَطَافَةٍ بَرَاقَتِهَا فَصَارَتْ جِهَةً وَّحْدَانِيَّةً وَّعَيْنًا سِوَانِيَّةً

لطیف چمک اور نورانیت میں تو وہ وحدانی جہت بن گئیں اور ان کی نگاہ سب کو دیکھنے میں برابر ہو گئی

يُلَاحِظْنَ بِهَآ اَحْوَالَ الْمَوْجُوْدَاتِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلٰى كَسْبٍ بَلْ هُمْ

وہ اس نگاہ سے ملاحظہ کرتے ہیں مخلوقات کے احوال کا بغیر موقوف ہونے اس مشاہدہ کے اوپر کسی مشقت و تعب کے بلکہ وہ خود

ذَوَاتٌ بِالْفِعْلِ نَفَّاذَةٌ مُّخَلْخَلَةٌ مُّجَلْجَلَةٌ يَّتَرَشَّحُ مِنْهَا الْاَنْوَارُ عَلٰى

موجودات ہیں جو افعال کو نافذ کرنے والے ہیں اور ہر شئی کے اندر نفوذ کرنیوالے ہیں اور اسے جنبش اور حرکت دینے والے ہیں انہیں سے برستے ہیں انوار اوپر

قُلُوْبِ الْعَارِفِيْنَ يَهْتَدُوْنَ بِهَآ اِلَى اللّٰهِ وَتَنْشَرِحُ صُدُوْرُهُمْ بِالَّتِىْ

قلوب عارفین کے جن کی بدولت اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی پاتے ہیں اور کشادہ ہوتے ہیں ان کے سینے ان انکشافات کے ساتھ جو

سُمِّيَتْ بِاِلْهَامَاتِ الْمَلٰٓئِكَةِ وَخَلَقْتَ مِنْ نُّوْرِهِ الْاَنْوَارَ الْمُقَرَّبَ

جو موسوم کئے جاتے ہیں ملائکہ کے الہامات کے ساتھ اور تو نے پیدا فرمایا ان کے نور مقرب اور سرچشمہ ہدایت سے سبھی انوار کو

الْمَهْدِىْ وَفَلَقْتَ الْبَيْضَآءَ الطَّرْقَآءَ مِنَ السَّوْدَآءِ الْقَمْصَآءِ اِلٰهَنَا

اور تو نے پھیلایا زمین کے سفید سے کو جو چلنے کے قابل موزوں ڈھلوان والی ہے سیاہ خام لرزتے مادے سے اے ہمارے خدا تو

نَوِّرْنَا بِنُوْرِكَ وَخَلِّصْنَا عَنِ الظُّلْمَةِ حَتّٰى لَا يَبْقٰى فِيْنَا شَآئِبَةُ الْعِصْيَانِ

ہمیں منور فرما اپنے نور مخصوص کے ساتھ اور چھٹکارا دے ظلمتوں سے حتیٰ کہ نہ باقی رہے ہم میں شائبہ نافرمانی کا

فَاِنَّ الْعِصْيَانَ مِنَّا وَالْعَفْوَ مِنْكَ وَاِنَّكَ مَحْضُ النُّوْرِ وَنَحْنُ مَحْضُ الظُّلْمَةِ

کیونکہ نافرمانی ہماری طرف سے ہے اور درگزر تیری طرف سے ہے اور بالیقین تو نور محض ہے اور ہم محض ظلمت اور تاریکی ہیں

فَلَا يُعَادِلُهٗ شَىْءٌ مِّنْ خَلْقِهٖ اَللّٰهُمَّ نَوِّرْنَا بِنُوْرِ وَحْدَتِكَ وَكَثْرَتِكَ وَ

پس نہیں برابر اور مماثل اس ذات اقدس کے مخلوق میں سے کوئی شئی اے اللہ ہمیں منور فرما اپنے نور وحدت اور نور کثرت کے ساتھ اور

نُورُكَ فَوْقَ كُلِّ نُورٍ وَّنَارٍ وَّكُلٌّ مِّنْ فُرُوعِ اَنْوَارِهٖ وَاَسْمَآئِكَ فَنَوِّرْ

تیرا نور ہی تمام انوار پر اور نار پر غالب ہے اور سبھی تیرے اسمائے انوار کی فروع اور نتائج ہیں۔ پس منور فرما

قَلْبِیْ بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ وَعِرْفَانِكَ لِاسْتِعْدَادِ مُشَاهَدَةِ كُرَّاتِ الْاَنْوَارِ لَا

میرے دل کو اپنے نورِ معرفت وعرفان کے ساتھ تاکہ مستعد اور قابل ہو جائے انوار کے جہانوں کے مشاہدہ کے۔

مِنْ تَعَبٍ وَّلَا تَعَبٍ وَّاَعِدَّ نَفْسِیْ لِحُلُولِ الْاَفْيَاضِ وَاَنْوَارِ الْحَقَآئِقِ

بلا تھکان و کلفت کے اور بغیر ہلاکت کے۔ اور باصلاحیت بنا میرے نفس کو فیوض اور انوار حقائق کے حلول کے لیے

اَلَّتِیْ هِیَ عُلُومٌ بِالنِّسْبَةِ وَخَوَارِقُ بِالْمَقْدِرَةِ وَاجْعَلْ فَوْقِیْ نُورًا وَّتَحْتِیْ

جو کہ ایک لحاظ سے علوم ہیں تو دوسری جہت سے قدرت کے کرشمے اور کرامات ہیں۔ اور بنا میرے اوپر نور اور نیچے

نُورًا مُّحِيطًا حَتّٰى لَآ اَرٰی بِالْبَصَرِ وَالْبَصِيرَةِ اِلَّا نُورَكَ الْهَادِیْ بِنُورِكَ

نور جو مجھے اپنے گھیرے میں لینے والا ہو حتیٰ کہ میں نہ دیکھوں سر اور دل کی آنکھوں سے مگر تیرے ہی نور کو جو خود ہی اپنی طرف ہمارا ہادی ہے بطفیل اپنے نور کے

الْقَاضِیْ وَجَمِّلْ رُوحِیْ بِحَيْثُ تَتَهَافَتُ الْاَنْوَارُ عَلَيْهِ وَتُسْرِیْ مِنْهُ اِلَی

جو سب پر اثر انداز ہے۔ اور جمیل بنا میرے روح کو اس انداز میں کہ زور سے برسیں انوار اس پر پھر انہیں پہنچائے تو

الْمُسْتَرْشِدِينَ وَالْمُتَوَجِّهِينَ اِلٰی هٰذَا الدَّاعِیْ وَاِلٰی مَنْ اَرَادَ بِهٖ نَفْعًا

ان طالبان رشد و ہدایت تک اور توجہ ورغبت رکھنے والوں تک طرف اس دعا گو کے اور جو بھی اس سے نفع اندوزی کا ارادہ کرے

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ نُورًا بِنُورِ الْوَسَاطَةِ وَبِظُهُورِ الْوَسَامَةِ وَاَعْطِنِیْ مَعِيَّةَ

اے اللہ مجھے نورانی بنادے ساتھ نورِ شرافت اور ظہور جمال کے اور عطا فرما مجھے معیت

الْوَصَامَةِ الْوَحْدَةِ بِوَدَادَةِ الْوَصَافَةِ وَارْحَمْنِیْ مِنَ الْوَرَاثَةِ الْحَقِيقِيَّةِ

شدت تنہائی کی بمع حسن طاعت و خدمت کے اور مجھ پر احسان فرما (ساتھ بخشنے) وراثت حقیقیہ

الْمُحَمَّدِيَّةِ وَاهْدِنِیْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَّاَمُرَّنِیْ عَلَيْهِ مَعَ

محمدیہ کے اور مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اور اس پر ثابت قدم رکھ ساتھ

الْمُتَّقِينَ بِفَضْلِكَ وَهُوَ قُوَّةُ هِدَايَتِكَ اٰمِينَ مَعَ كُلِّ اٰمِينَ فِیْ

اپنے نیکوکار لوگوں کے اپنے فضل سے۔ اور اس فضل کا مظہر تیری قوی اور برپا ہدایت ہے اور یہ دعا بھی قبول فرمائے مجیب الدعوات بمع ہر اس دعا کے

الدِّينِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ الْكَلِيمُ الدَّآئِمُ فِی الْاَزَلِ وَالْقَدَرِ

جو امور دین سے متعلق ہو۔ اے اللہ تو ہی ازلی حکمت والا ہے اور سرمدی علم والا صاحب کلام ہمیشہ موجود رہنے والا ازل اور تقدیر میں

وَلَمْ يَكُنْ مَّعَكَ شَیْءٌ مِّنَ الْاُصُولِ وَالْفُرُوعِ سِوَا ذَاتِكَ وَالْعَكَسَاتِ

جبکہ نہ تھی ساتھ تیرے کوئی شئی اصول وفروع سے سوا تیری ذات کے اور سوا عکس وپرتوہائے

النُّورِيَّةِ الْحَادِثَةِ مِنْ اَنْوَارِ ذَاتِكَ الْقَدِيمِ مِنْ نِّهَايَةِ كُلِّ مَادَّةٍ وَّ

نورانی کے جو پیدا ہونے والے ہیں تیری ذات قدیم کے انوار کی نہایت سے اور ان انوار حادثہ میں سے ہر ایک مادہ اور

اَصْلٍ لِّمِثْلِ هٰذَا الْعَالَمِ مِنْ غَيْرِ فَنَآءٍ وَّلَا زَوَالٍ فَاَنَا مِلْعَانٌ وَّاَنْتَ

اصل ہے واسطے ایک عالم کے بغیر فنا و زوال کے پس میں خوشی سے محروم ہوں اور تو

مِعْوَانٌ اُرِيدُ مِنْكَ بَهْجَةً فِیْ تَوَجُّهِیْ اِلَيْكَ وَلِسَانِیْ فِیْ ذِكْرِكَ وَ

مددگار ہے۔ میں تجھ سے ارادہ کرتا ہوں بہجت وسرور کا تیری طرف متوجہ ہونے کے دوران اور میری زبان کے تیرے ذکر میں اور

قَلْبِیْ فِیْ فِكْرِكَ وَجِسْمِیْ لَمْعَانٌ بِعَكْسِ نُورِ جَمَالِكَ وَجَلَالِكَ دَآئِمًا

دل کے تیرے فکر میں (مستغرق ہونے کے دوران) درآنحالیکہ میرا جسم چمکتا ہو ہمیشہ تیرے نور جمال وجلال کے عکس وپرتو کے ساتھ

وَّبِعَيْنِ نُورِ كَمَالِكَ وَكَمَالِ كَمَالِكَ مَوَالِدَ النَّبِيِّينَ وَجَعَلَ اللّٰهُ مَوْضِعَ

اور تیرے نور کمال کے عین اور کمال کے کمال کے ساتھ (چمکتا ہو) انبیاء علیہم السلام کے مقامات ولادت میں اور بنائے اللہ میرے جسم کی اقامت گاہ

اِسْتِيطَانِهٖ مَحَلَّ اَمْنِهٖ وَاِيمَانِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کو اپنے امن اور ایمان کی جگہ۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمدؐ پر

وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الْمَعْنِیِّ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰی عَزَّ وَجَلَّ اِظْهَارًا لِّقَدْرِهٖ وَ

اور ہمارے آقا محمدؐ کی آل پر جو مقصود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے جو ان کی قدر کو ظاہر کرنے کے لیے ہے

بَيَانًا لِّمَرْتَبَتِهٖ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَی الْكُفَّارِ

اور ان کے مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو ان کے ساتھ ہیں بہت سخت ہیں کفار پر (اور)

رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ط

آپس میں رحیم اور مہربان ہیں۔ دیکھو گے انہیں رکوع کرتے۔ سجدے کرتے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کے طلبگار ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ لَا نُوْرَ اِلَّا هُوَ

اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی آل پر جو آقا ایسے نور کامل ہیں کہ نور نہیں مگر وہی

وَلَا ظُهُوْرَ اِلَّا هُوَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

اور نہیں ظہور مگر انہیں کا۔ درود بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر اور سلام بھیجے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما اوپر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى الْخَلْقَ

ہمارے سردار محمد اور ہمارے سردار محمد کی آل پر وہ آقا کہ پیدا فرمایا ہے اللہ نے

وَالْمَخْلُوْقَ مِنْ نُّوْرِهٖ وَخَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى كُلَّ خَيْرٍ مِّنْ نُّوْرِهٖ وَخَلَقَ اللّٰهُ

مخلوق کو ان کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ تعالےٰ نے ہر خیر کو ان کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ

تَعَالَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرَضِيْنَ مِنْ نُّوْرِهٖ وَخَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى الْعَرْشَ

تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو ان کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ تعالےٰ نے عرش کو

وَحَمَلَةَ الْعَرْشِ مِنْ نُّوْرِهٖ وَخَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى الْكُرْسِىَّ وَخَزَانَةَ

اور عرش کو اُٹھانے والے فرشتوں کو ان کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ تعالےٰ نے کرسی کو اور کرسی

الْكُرْسِىِّ مِنْ نُّوْرِهٖ وَخَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى الْقَلَمَ وَاللَّوْحَ مِنْ نُّوْرِهٖ وَ

کے خزانہ کو ان کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ تعالےٰ نے قلم اور لوح کو ان کے نور سے اور

خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ وَالْمَلٰٓئِكَةَ مِنْ نُّوْرِهٖ وَخَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى الشَّمْسَ

پیدا فرمایا اللہ تعالےٰ نے جنت اور ملائکہ کو ان کے نور سے۔ اور پیدا فرمایا اللہ تعالےٰ نے سورج

وَالْقَمَرَ وَالْكَوَاكِبَ مِنْ نُّوْرِهٖ وَخَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى الْعَقْلَ الْاَكْمَلَ وَالْعِلْمَ

چاند اور ستاروں کو ان کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ نے کامل ترین عقل اور علم

الْكَامِلَ مِنْ نُّوْرِهٖ وَخَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى الْحِلْمَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ نُّوْرِهٖ وَخَلَقَ

کامل کو انہیں کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تحمل و بردباری اور عصمت و عفت کو آپ کے نور سے اور پیدا کیا

اللّٰهُ تَعَالَى التَّوْفِيْقَ بِخَيْرِ رَفِيْقٍ مِّنْ نُّوْرِهٖ وَخَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَرْوَاحَ الْاَنْبِيَآءِ

اللہ تعالیٰ نے توفیق کو جو بہترین رفیق ہے آپ کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ارواحِ انبیاء

وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْاَوْلِيَآءِ وَالشُّهَدَآءِ وَالسُّعَدَآءِ وَالْمُطِيْعِيْنَ مِنَ

و مرسلین۔ اور (ارواح) اولیاء و شہداء کو اور سعادت مند اور فرمانبردار مؤمنین

الْمُؤْمِنِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ مِنْ نُّوْرِهٖ وَخَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى كُلَّ مَاسِوَى

جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں (ان کی روحوں کو) آپ کے نور سے۔ اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تمام ماسویٰ کو

اللّٰهِ مِنْ نُّوْرِهٖ يَا نُوْرَ خَلْقِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَنْوِرْ ظَاهِرِىْ وَبَاطِنِىْ بِنُوْرِ

آپ کے نور سے۔ اے اللہ کی ساری مخلوق کے نور (محمد عربی) اے اللہ منور فرما میرے ظاہر اور باطن کو ساتھ نورِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

مُحَمَّدٍ وَّحَقِّقْ بَاطِنِىْ وَظَاهِرِىْ بِحَقَآئِقِ حَقِيْقَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

کے اور میرے باطن وظاہر کو بر پا اور قائم فرما حقیقت محمدیہ کے حقائق کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم

وَاسْتَغْرِقْ فِيْكَ كُلِّىْ بِاِحَاطَةِ مُخَالَطَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَاحْفَظْنِىْ

اور میرے پورے وجود کو مستغرق کردے اپنی ذات میں بہ محمدی انوار کی محیط مخالطت اور کامل اختلاط کے اور میری حفاظت فرما

بِحَفَاظَتِكَ بِحِفْظِ حَفِيْظِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ بِكَ فِىْ مَرَاتِبِ وُجُوْدِكَ

اپنے حفظ خاص کے ساتھ صدقے میں اس حفاظت کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظ ہے۔ اے اللہ میں تیرے ساتھ استعانت کرتا ہوں تیرے مراتب وجود

وَشُهُوْدِكَ حَتّٰى لَا اَشْهَدَ غَيْرَ اَفْعَالِكَ وَصِفَاتِكَ بِوَجْهِ الْحَقِّ الَّذِىْ

اور شہود میں حتی کہ میں نہ دیکھوں (کوئی فعل اور صفت) سوائے تیرے افعال اور صفات کے بطفیل اس جہت حق کے

خَلَقَ نُوْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لَنَا عِلْمَ التَّوْحِيْدِ وَالْعِرْفَانِ

جس نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اے اللہ ہمارے لیے توحید وعرفان کے علم کو آسان فرما۔

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَا كُنُوْزَ الْخَفِىِّ الْحَفِىِّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَفِضْ عَلَىَّ مَوَاهِبَ

اے اللہ ہمارے لیے کھول دے مخفی اور اہم کلمہ لا الٰہ الّا اللہ کے خزانے۔ اے اللہ فیضان فرما مجھ پر

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِىْ بِفَضْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِىْ

لا الٰہ الّا اللہ کے مواہب وعطیات کا۔ اے اللہ مجھے غنی فرمادے لا الٰہ الّا اللہ کی فضیلت کی بدولت۔ اے اللہ مجھے معزز فرما

بِعِزِّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ زَيِّنِّىْ بِزِيْنَةِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ جَمِّلْنِىْ

لا الٰہ الّا اللہ کی عزت کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے آراستہ فرما لا الٰہ الّا اللہ کی زینت کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے صاحبِ جمال بنا

بِجَمَالِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ كَمِّلْنِىْ بِكَمَالِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ قَوِّنِىْ

لا الٰہ الاّ اللہ کے جمال کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے صاحب کمال بنا لا الٰہ الاّ اللہ کے کمال کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے طاقتور بنا

بِقُوَّةِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَيِّدْنِىْ بِرُوْحِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ سَخِّرْ لِىْ

لا الٰہ الا اللہ کی قوت کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے تقویت بخش لا الا الا اللہ کی روحانیت کے ساتھ۔ اے اللہ مسخر فرما میرے لیے

رُوْحَانِيَّةَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَهْلِكْ اَعْدَآئِىَ الْجَلِىَّ وَالْخَفِىَّ بِسَيْفِ

روحانیت لا اِلٰہ الاّ اللہ کی۔ اے اللہ ہلاک فرما میرے علانیہ اور خفیہ دشمن کو ساتھ سیف و تیغ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَجْلِسْنِىْ عَلٰى بِسَاطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ نَزِّهْ رُوْحِىْ

لا الٰہ الا اللہ کے۔ اے اللہ مجھے بٹھا لا الٰہ الاّ اللہ کے بساط اور بچھونے پر۔ اے اللہ سیر کرا میری روح کو

فِىْ رِيَاضِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْنِىْ مِنْ مَّوَآئِدِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

لا الٰہ الاّ اللہ کے باغات میں۔ اے اللہ مجھے کھلا لا الٰہ الا اللہ کے دستر خوانوں سے۔

اَللّٰهُمَّ اسْقِنِىْ مِنْ شَرَابِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْنِىْ عَلٰى لَآ اِلٰهَ اِلَّا

اے اللہ مجھے پلا لا الٰہ اِلاّ اللہ کے شراب سے۔ اے اللہ مجھے ثابت و برقرار رکھ لا الٰہ الا اللہ

اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ عَلٰى كَلِمَةِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَمِتْنِىْ عَلٰى لَآ اِلٰهَ اِلَّا

پر۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ لا الا الاّ اللہ (کے ساتھ ایمان) پر۔ اے اللہ مجھے موت دے لا الٰہ الا اللہ کے

اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْنِىْ عَلٰى لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ اَقْدَامِىْ عَلَى الصِّرَاطِ

(اقرار پر) اے اللہ مجھے قبر سے اٹھانا لا اِلٰہ اِلاّ اللہ ای تصدیق) پر۔ اے اللہ برپا اور قائم رکھنا میرے قدموں کو راہ

الْمُسْتَقِيْمِ بِقُوَّةِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ بِحِرْزِ

راست پر لا الا الاّ اللہ کی قوت کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے پناہ دینا نار جہنم سے ساتھ حرز اور امان

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنِى الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰى بِعِزَّةِ لَآ اِلٰهَ

لا الٰہ اِلا اللہ کے۔ اے اللہ مجھے فردوس اعلیٰ میں داخل فرما بطفیل عزت لا اِلٰہ

اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ تَوِّجْنِىْ بِاَنْوَارِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قَلْبِىْ بِاَنْوَارِ

الاّ اللہ کے۔ اے اللہ مجھے تاج پہنا لا اِلٰہ الاّ اللہ کے انوار کا۔ اے اللہ میرے دل کو منور فرما ساتھ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ بِمُشَاهَدَةِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ بِنُوْرِ اَنْوَارِ لَآ

لا الا الاّ اللہ کے انوار کے۔ اے اللہ مجھے بیش از بیش عطا کر مشاہدہ اپنی ذات کریمہ کا لا الا الاّ اللہ کے انوار

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ هُوَ هُوَ هُوَ وَمُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

سے نور خاص کی بدولت اللہ اللہ اللہ ہو ہو ہو۔ اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صلی اللہ

عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا نَحْيٰى وَعَلَيْهَا نَمُوْتُ وَعَلَيْهَا نُبْعَثُ اِنْشَآءَ اللّٰهُ

علیہ و آلہٖ وسلم اسی (عقیدہ توحید و رسالت) پر ہم زندہ رہیں گے اور اسی پر فوت ہونگے اور اس پر اٹھائے جائیں گے انشاء اللہ

مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُطْمَئِنِّيْنَ الْمُسْتَبْشِرِيْنَ بِنِعَمِهٖ وَكَرَمِهٖ وَفَضْلِهٖ

ان ایمان داروں کی معیت میں جو مطمئن اور مسرور ہیں اللہ تعالےٰ کے انعامات اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ

اِرْحَمْ عَلَىَّ بِالْاَنْوَاعِ حَتّٰى تَسْتَغْرِقَ نُوْرٌ فَوْقِىْ وَنُوْرٌ تَحْتِىْ وَنُوْرٌ

مجھ پر ہر طرح کی رحمت نازل فرما یہاں تک گھیرے میں لے نور میرے اوپر سے اور نور ہی نیچے سے اور نور

شِمَالِىْ وَنُوْرٌ يَّمِيْنِىْ وَقَلْبِىْ مَمْلُوٌّ بِنُوْرٍ وَّصَيِّرْ عَدُوِّىْ مُسَخَّرًا وَّمُنْقَادًا

بائیں سے۔ اور نور دائیں سے درآنحالیکہ میرا دل بھرپور ہو نور کے ساتھ۔ اور مسخر فرما میرے لیے میرے دشمن (نفس) کو اور اسے میرا

لِّىْ بِرَحْمَتِكَ فَلَا يَضُرُّنِىْ بَلْ حَوِّلْهُ اِلٰى نُوْرٍ لَّطِيْفٍ كَآئِنٍ مَّظْهَرِ

تابعدار بنا ساتھ اپنی رحمت خاص کے پس وہ مجھے ضرر نہ دے۔ بلکہ اس کو پھیر دے طرف لطیف نور کے جو تیرا مظہر

جَمَالِىْ رَحِيْمِىْ وَّاَوْقِفْنِىْ عَلٰى اَنْوَاعِ الرَّحْمَةِ اللَّآئِقَةِ بِخَلَآئِقِكَ اِمَّا

جمال اور عکس شان رحیمی ہو اور مجھے واقف فرما رحمت کے ان اقسام پر جو لائق ہیں تیری مخلوقات کے ساتھ یا تو

بِدَعْوَةِ الْاِسْمِ النُّوْرِ اَوْ بِالدَّوَامِ يَا نُوْرَ الْاَنْوَارِ اَوْ بِكِتَابَةِ صَحِيْفَةٍ

اسم نور کی دعوت و وظیفہ کے ساتھ یا ہمیشہ کے لیے اے نور سب انوار کے۔ یا ساتھ لکھنے صحیفہ کے

مَّجْعُوْلَةٍ فِىْ عُنُقِهٖ اَوْ مَشْغُوْلَةٍ فِىْ شَرَابِهٖ مُؤَثِّرَةٍ بِتَاثِيْرٍ تَآمٍّ مِّنْ

جو ڈالا گیا ہے نفس کی گردن میں۔ یا وہ مشغول ہے اس کے پینے میں جو مکمل مؤثر ہے تاثیر کامل کے ساتھ

عِنْدِكَ يَا عَلَّامُ اِرْفَعْ اَنْوَاعَ الْاٰلَامِ وَاَنْتَ نُوْرٌ فِىْ كُلِّ السَّاعَاتِ

تیرے پاس سے۔ اے بہت زیادہ علم والے اور فرما تمام قسم کے درد و الم کو۔ اور تو ہی نور ہے تمام ساعتوں میں۔

وَالْاَيَّامِ وَالْاٰنِ وَالْاٰنَاتِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تُعْطِيْ مَا يَسْئَلُهٗ عَبْدُكَ

اور ایام ہیں۔ آن واحد میں۔ اور تمام آنوں میں۔ اے اللہ تو ہی عطا کرتا ہے جس کا سوال کرتا ہے عبد تیرا۔

فَطَهِّرْنِيْ عَنِ الْخَطَرَاتِ كُلِّهَا صَغِيْرِهَا وَكَبِيْرِهَا حَتّٰى يَسْتَعِدَّ قَلْبِيْ

لہٰذا تو پاک فرما مجھے تمام تر خیالات نفسانیہ سے چھوٹے ہوں یا بڑے تا آنکہ صلاحیت حاصل کرلے میرا دل

لِمُشَاهَدَتِكَ عَلٰى وَجْهِ الْاِسْتِغْرَاقِ فَاِذَا رَجَعْنَا مِنْ ذٰلِكَ فَجَآءَ مَعَنَا

تیرے مشاہدہ کی استغراق وانہماک کے طریقہ پر جب ہم اس استغراق اور سکر سے حالت محو کی طرف لوٹیں تو ہمارا دل بھی ہمارے ساتھ آئے

مَعَ الصُّوَرِ الْحَسَنَةِ مُشَافِهًا مَعَهَا مُتَلَذِّذًا بِاجْتِمَاعٍ رُوْحِيٍّ مُنَزَّهٍ عَنْ

بمع ایسی حسین صورتوں کے جن کو آمنے سامنے دیکھے۔ جن کے ساتھ روحانی اجتماع کے ساتھ لطف اندوز ہو اور نفسانی آمیزش سے منزہ ہو

نَفْسِيٍّ وَاَخَافُ فِيْ نَفْسِيْ غِنَآءَ مَنْ لَّا يَحْتَاجُ اِلَيْكَ مِنْ حَيْثُ ذَاتِ

اور میں خوف رکھتا ہوں اپنے نفس میں ایسے شخص جیسی بے پرواہی کے پیدا ہونے سے جو اپنے آپ کو تیری طرف محتاج نہ سمجھے ذات واحد ہونے کی

الْوَاحِدِ وَحْدَةِ الْوَاحِدِيَّةِ سَآئِرًا فِيْ لَمْحٍ دُوْنَ لَمْحٍ فِيْ نُوْرٍ دُوْنَ نُوْرٍ

حیثیت جس میں یکتائی وانفرادیت کی وحدت کاملہ موجود ہے۔ جو چلنے والا ہو ایک لمحہ بغیر دوسرے لمحہ کے اور ایک نور میں بغیر دوسرے نور کے

رَآئِيًا لِكُلِّ مَوْجُوْدٍ فِيْ عَيْنٍ مَّشْهُوْدَةٍ فِيْ ذٰلِكَ النُّوْرِ يَا وَاجِبَ

دیکھنے والا ہے ہر موجود کو اس تشخص خاص میں جس کو دیکھا گیا ہے اسی نور میں یا وہ ذات جس کا وجود

الْوُجُوْدِ وَيَا فَآئِضَ الْجُوْدِ يَا صَانِعَ الدُّهُوْرِ وَيَا خَالِقَ النُّوْرِ الرَّحْمٰنِيِّ

اپنے آپ ضروری ہے اور اے وہ ذات جس پر جود و نوال جاری ہے۔ اے بنانے والے ازمنہ ودھور کے۔ اور اے نور رحمانی کے

اَفِضْ عَلَيْنَا الْاَنْوَارَ الَّتِيْ هِيَ مَظَاهِرُ الْوَهَّابِ الرَّزَّاقِ سَارِيَةً فِيْ

خالق ہم پر برسا اور جاری فرما وہ انوار جو تیری شان واہبی اور رزاقی کے مظاہر ہیں۔ سرایت کرنے والے ہیں

حَوَاسِّنَا لِتُكْتَسَبَ الْجُزْئِيَّاتُ مِنْ تَعْطِيْلٍ وَّصَيِّرْنِيْ نُوْرًا لَّطِيْفًا

ہمارے حواس میں تاکہ جزئیات کی آرائش کی جاسکے ان کی بے رونقی کے بعد۔ اور کردے مجھے ایسا لطیف نور

عَآئِقًا لِّكَشْفٍ حِسِّيٍّ اَوْ قُبْحٍ مَّعْنَوِيٍّ مُّمْحِقٍ مُّغْلِقٍ اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْعَبْدَ

جو روکنے والا ہو محسوس نقص کو یا معنوی غیر محسوس قباحت کو جو بے نور اور بندش والی ہے۔ اے اللہ بنا تو اپنے اس بندے کو

الدَّاعِيَ اِلَيْكَ مِنْ نُّوْرٍ مَّعْدِيٍّ فَامْتَلَأْ اَمْعَائِيْ وَكَبِدِيْ وَعُرُوْقِيْ

جو تیری طرف بلانے والا ہے عظیم وجلیل نور سے پس بھر دے میری انتڑیوں، جگر اور تمام رگوں کو

بِالْاَنْوَارِ امْتِلَآءَ الْعَرْشِ بِهَا فَاقَابِلَهٗ رَاسًا بِرَأْسٍ مِّنْ غَيْرِ حِسَابٍ

ساتھ انوار کے مانند بھرنے عرش کے ساتھ ان انوار کے پس ان کو قبول کرنے کی صلاحیت دیا جاؤں تمام کے تمام کی بغیر حساب وحد بندی کے

وَاَسْقِنِيْ كَاْسًا كَادِحًا مِّنْ قَدَّاحِهٖ وَنَوِّرْ قَلْبِيْ بِنُوْرٍ نُوْرِهٖ فِي

اور پلا مجھے پیالا کہ سخت مشقت اٹھانے والا ہے اپنے بنانے والے سے۔ اور منور فرما میرے دل کو عظیم نور کے ساتھ انوار میں سے

الْاَنْوَارِ وَانْظُرْ بِنَظَرٍ نَاظِرَةٍ فِي النَّوَاظِرِ الْاَنْظَارِ عَنْ جَوْهَرَةِ الْاَنْوَارِ

اور مشرف فرما مجھے آنکھوں کی نظروں میں سے ایسی نظر کے ساتھ جو (نور حاصل کرنے والی ہے) انوار لاہوتیہ

اللَّاهُوْتِيَّةِ الْاَزَلِيَّةِ الصَّمَدِيَّةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ النُّوْرَ يَا نُوْرَ

ازلیہ صمدیہ کے جوہر سے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نور کا اے نور کو نورانیت بخشنے

النُّوْرِ وَيَا مُدَبِّرَ الْاُمُوْرِ وَيَا عَالِمَ الْاَسْرَارِ وَالسُّرُوْرِ وَيَا نُوْرَ

والے اور اے امور کی تدبیر فرمانے والے۔ اور اے جاننے والے اسرار کے مسرتوں کے۔ اور اے نور کو

النُّوْرِ اَنْوِرْ لَنَا لِحَالٍ خَيَالٍ اَفْعَالٍ اَعْمَالٍ اَقْوَالٍ كُلِّ اِلَيْنَا مِنْ نُّوْرٍ

منور کرنے والے ہمارے لیے نورانیت پیدا فرما واسطے ہماری طرف راجع احوال، خیال، افعال، اعمال واقوال کے اپنے نور خاص

نُوْرِكَ وَنُوْرِ الْكُلِّ اَعْنِيْ نُوْرَ حَبِيْبِكَ وَمَحْبُوْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

سے اور ساری مخلوق کے نور یعنی اپنے حبیب ومحبوب محمد کے نور سے صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَطَائِكَ وَنَوِّرْنَا بِنُوْرِ طَاعَتِكَ وَاِطَاعَتِكَ وَاِطَاعَةِ

علیہ وسلم بطفیل اپنی عطا کے۔ اور ہمیں منور فرما اپنی فرمانبرداری۔ اپنی اطاعت کے نور سے اور اپنے

رَسُوْلِكَ بِحُرْمَةِ نُوْرِهٖ وَاَنْوَارِهٖ وَعِزِّهٖ وَعِزَّتِهٖ وَسِرِّهٖ وَاَسْرَارِهٖ

رسول کی اطاعت کے نور سے بوسیلہ عزت واحترام ان کے نور وانوار کے اور ان کے غلبہ اور عزت کے اور ان کے لطیفہ سر اور اسرار ورموز کے

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ

صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور ان کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ قُلُوْبِنَا وَسِرِّ سَرَآئِرِنَا وَفَهْمِ عُقُوْلِنَا وَبَاصِرِ

جو ہمارے قلوب کے نور ہیں۔ اور ہمارے بواطن واندرون کے سرِ مخفی ہیں۔ اور ہمارے عقول کا فہم اوران کی دانش ہیں، اور ہماری بصیرت اورنگاہ قلب کی

بَصِيْرَتِنَا وَبَصَرِ بَصَرِنَا مِنْ نُّوْرِ دَقَآئِقِ الْجَلَالِ الْاَكْرَمِ وَسِرِّ حَقَآئِقِ

بینائی ہیں اور چشم سر کی بصارت ہیں یعنی جلال اکرم کے دقائق کے نور

الْجَمَالِ الْاَعْظَمِ وَمَظْهَرِ الْاَنْوَارِ الصِّفَاتِيِّ الْاَتَمِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جمال اعظم کے حقائق کے رازِ پنہانی اور اللہ تعالٰے کے انوار صفاتیہ کے مظہر اتم پر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ حَقَآئِقِ الْجَمَالِ الْاَعْظَمِ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ جمال اعظم کی حقیقتوں کے راز مخفی ہیں

وَنُوْرِ دَقَآئِقِ الْجَلَالِ الْاَكْرَمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور (تیرے) جلال اکرم کی لطافتوں اور باریکیوں کے نور ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قِبْلَةِ التَّجَلِّي الذَّاتِيِّ وَمَظْهَرِ النُّوْرِ الصِّفَاتِيِّ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ تیری تجلی ذاتی کا قبلہ اور مرکز ہیں اور تیرے نورِ صفاتی کی جلوہ گاہ ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّفِيْضِ النُّوْرِ

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ نور کا چشمہ فیضان ہیں

السِّرَاجِ الثَّجَّاجِ وَمُتَلَاطِمِ الْاَمْوَاجِ بِنُوْرِ الْبَصَآئِرِ وَمَدَدِ الدَّوَآئِرِ

جو ایسے چراغ ہیں کہ اس سے روشنی پھوٹ رہی ہے اور ایسے سمندر ہیں جس کی موجیں تلاطم خیز ہیں بصیرتوں کے نور کے ساتھ اور مصائب وآفات میں امداد واعانت

اِلٰهِيْ اَظْهِرْ نُوْرَ حَيَاتِكَ فِيْ حَيَاتِيْ اَنْتَ اِلٰهُ الْاَنْوَارِ الْمُشْرِقَةِ فِيْ

کے ساتھ۔ اے میرے معبود برحق ظاہر فرما اپنی حیات ابدی کے نور کو میری حیاتی میں تو ہی مالک ہے ان انوار کا جو چمکنے والے ہیں

اَطْبَاقِ السَّمٰوٰتِ الْمُتَجَلِّيَةِ وَالْاَنْوَارِ الْجَلِيَّةِ الْبَرَّاقَةِ الْمُسْتَجِنَّةِ مِنْهُ

روشن آسمانوں کے طبقات میں اور بے پردہ چمکتے انوار ہیں جن کی بدولت چھپ جانے والے ہیں

الْاَنْوَارُ الظُّلْمَانِيَّةُ الْكَدِرَةُ الْجَهَنَّمِيَّةُ الْمُخْلِقَةُ الْمُمْحِلَةُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ

وہ انوار جو ظلمانی اور مکدر ہیں اور جہنم سے تعلق رکھتے ہیں اور بوسیدہ کرنے والے اور بے رونق ہیں۔ اے اللہ میں بالیقین

اَسْئَلُكَ خَيَالَ اَنْوَارِ الْمُتَحَقِّقِ بِاَنْوَارِ الْمُطْلَقِ وَبِاَكْبَارِ الدِّيْنِ خُلُقًا

سوال کرتا ہوں تجھ سے اس ہستی مقدس کا خیال نورانی جو تیری ذات مطلق کے انوار سے قائم وثابت ہیں اور دین کو از روئے اخلاق بڑائی اور عظمت دینے کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ نَوَّرَ

ساتھ موصوف ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور اوپر آل سیدنا محمد کے (وہ سید خلائق) کہ منور فرمایا

اللّٰهُ الْاَنْوَارَ بِنُوْرِ نُوْرِ مُحَيَّاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

اللہ تعالیٰ نے انوار کو ان کے چہرۂ انور کے نور سے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد اور

عَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَلَاْلَاَتِ الْاَنْوَارُ الرَّبَّانِيَّةُ حَوَالَيْهِ

آل محمد پر کہ چمکے انوار ربانی اس (آقا) کے اردگرد

لَمَّا اَتْحَفَهُ اللّٰهُ بِالْقُرْبِ مِنْهُ وَاِلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرف فرمایا اپنے قرب ذات سے اور اپنی طرف بلانے کے ساتھ۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد اور

عَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَحْبَبْتَ وَتَوَجَّهْتَ اِلٰى نُوْرِ اللّٰهِ

آل محمد پر جسے تو نے محبوب بنایا اور راغب وطالب بنایا اپنے نور کا اپنے فضل

بِفَضْلِ اللّٰهِ وَكَرَمِ اللّٰهِ مِنْ عَيْنِ نُوْرِ اللّٰهِ وَنَوَّرَهُ وَنَوَّرَ ظُهُوْرَهُ صَلَّى

اور کرم سے جو شروع ہونے والا ہے عین نور ذات سے اور ان کی ذات کو نورانی بنا اور ان کے ظہور کو بھی نورانی بنا صلی

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ رحمتیں نازل فرما ہمارے مولیٰ محمد اور آل محمد پر جو (مولیٰ) کہ شب بیدار ہیں

مُحَمَّدِنِ الْهَجُوْدِ الْهَادِي الَّذِيْ خَلَقْتَ اَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ نُوْرَهُ وَنُوْرُهُ

اور رہنمائے خلق ہیں کہ پیدا کیا تو نے ہر شئی سے پہلے ان کے نور کو جبکہ ان کا نور

قَبْلَ كُلِّ نُوْرٍ وَّنُوْرُهُ مِنْ نُّوْرِ اللّٰهِ وَظُهُوْرُهُ مِنْ ظُهُوْرِ اللّٰهِ وَسُرُوْرِ

ہر نور سے پہلے ہے۔ ان کا نور اللہ کے نور سے ہے اور ان کا ظہور اللہ تعالیٰ کے ظہور کا مظہر ہے اور اس کے سرور سے ہے

اللّٰهِ وَسُرُوْرُهُ مِنْ سُرُوْرِ اللّٰهِ وَسُرُوْرُ اللّٰهِ مِنْ ظُهُوْرِهِ وَسُرُوْرِهِ

اور ان کا سرور اللہ تعالےٰ کے سرور سے ہے اور اللہ تعالےٰ کا سرور ان کے ظہور اور سرور سے ہے

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ بِوَجْهِكَ النُّوْرِ وَبِعَرْشِكَ

صلی اللہ علیہ وسلم اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری ذات نورانی کے توسل سے۔ اور عرش نورانی کے صدقے میں

النُّوْرِ وَبِقَلَمِكَ النُّوْرِ وَبِرُوْحِكَ النُّوْرِ وَبِصُوْرِكَ النُّوْرِ وَبِكُرْسِيِّكَ

اور تیرے قلم قدرت کے وسیلے سے جو سراسر نور ہے۔ اور تیرے مخصوص روح کے طفیل جو کہ سراسر نور ہے۔ اور نورانی صور اسرافیل کے صدقے۔ اور تیری کرسی

النُّوْرِ وَاَسْئَلُكَ يَا نُوْرَ النُّوْرِ وَيَا نُوْرَ كُلِّ نُوْرٍ وَّيَا مُنَوِّرَ كُلِّ نُوْرٍ وَّ

کے توسل سے جو نور محض ہے۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے نور کی نورانیت اور سب انوار کے نور اور انوار کو منور کرنے والے اور

اَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّفِيْ عِظَامِيْ

میں طلب کرتا ہوں تجھ سے کہ تو پیدا کرے میرے دل میں نور کو۔ اور میری آنکھ میں نور۔ اور میری ہڈیوں میں

نُوْرًا وَّفِيْ لَحْمِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَشَرِيْ نُوْرًا وَّفِيْ شَعْرِيْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّمِيْنِيْ

نور کو اور میرے گوشت میں نور۔ اور میرے چمڑے میں نور پیدا فرما دے۔ اور میرے بالوں میں نور کو تخلیق کرے۔ اور میری دائیں جانب

نُوْرًا وَّعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا وَّمِنْ اَمَامِيْ نُوْرًا وَّمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَّمِنْ فَوْقِيْ

نور۔ بائیں طرف نور۔ اور میرے آگے نور۔ اور میرے پیچھے نور۔ اور میرے اوپر

نُوْرًا وَّاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحَقُّقٍ وَّاَنْ تَغْشَانِيْ فِي النُّوْرِ اِنَّكَ

نور پیدا فرما دے۔ اور میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری ذات کی اس سے کہ میں غارت کیا جاؤں دولت یقین سے اور مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے چھپا لے نور میں

اَنْتَ نُوْرُ الْاَنْوَارِ مُنَوِّرُ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالْاَبْرَارِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ

بیشک تو ہی سب انوار کا نور ہے۔ اور نور بخشنے والا ہے مقربین اور محسنین کو۔ بہت ہی پاکیزہ و مقدس ہے۔ رب ہے

الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ تَعَالٰى رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ حَضْرَةِ الْقُدُسِ

تمام ملائکہ کا بالعموم اور روح امین کا بالخصوص۔ بلند مرتبت ہے رب ان ملائکہ کا جو کہ اس کی بارگاہ مقدس میں

حَاضِرُوْنَ تَعَالٰى رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ الَّذِيْنَ هُمْ فَاعِلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

حاضر ہیں۔ بلند شان ہے رب ان ملائکہ کا جو کہ وہی کرتے جس کا حکم دیئے جاتے ہیں

تَعَالٰى رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ الَّذِيْنَ هُمْ فِي الْاَرْضِ سَاعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ

عالی مرتبت ہے اب ان ملائکہ کا جو زمین میں سعی اور جدوجہد کرنے والے ہیں۔ اے اللہ بے شک میں ہوں

اَسْئَلُكَ بِالْاَرْوَاحِ الْمُفَضَّلَةِ وَبِلَيَالٍ عَشْرٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

سائل تیری بارگاہ کا بوسیلہ ان ارواح کے جو فضیلت اور برتری دیے گئے ہیں اور بطفیل دس مقدس راتوں کے۔ اے اللہ صلاۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ شَجَرَةً لَّهَا اَرْبَعَةُ اَغْصَانٍ

ہمارے سرور محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں پیدا فرمایا ایک درخت کو جس کی چار ٹہنیاں

وَسَمَّاهَا شَجَرَةَ الْيَقِيْنِ بِالْاِبْتِدَآءِ ثُمَّ خَلَقَ نُوْرَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

ہیں اور اس کو شجرۃ الیقین کے نام سے موسوم فرمایا۔ پھر پیدا فرمایا آپ کے نور کو صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ كَمِثْلِ طَاوٗسٍ فِيْ حِجَابٍ مِّنَ الدُّرَّةِ الْبَيْضَآءِ ثُمَّ وَضَعَهٗ

مانند طاؤس کے سفید و براق موتی کے حجاب میں پھر اسے رکھا

عَلٰى تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَسَبَّحَ عَلَيْهَا سَبْعِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ خَلَقَ مِرْاٰةَ

اس درخت پر۔ اور اس پر صلوات نازل فرمائیں ستر ہزار سال تک پھر پیدا فرمایا حیا کا آئینہ

الْحَيَآءِ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلٰى نُوْرِهٖ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرِيْمِ هُوَ

اور آپ کی آل اور اصحاب پر صلواۃ و سلام بھیج اجو آپ کے انوار کو دیکھا کرتے تھے آپکے چہرۂ مکرم میں درآنحالیکہ آپ

اَشَدُّ حَيَآءً مِّنَ الْعَذْرَآءِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ مَآ اَشْرَقْتَ بِالنُّوْرِ الَّذِيْ

بہت زیادہ شرمیلے تھے کنواری عورتوں سے (جو پردہ میں ہوں) اور آپ کی ذات پر برکت اور سلامتی نازل فرما ان اشیاء کی گنتی و شمار کے مطابق جو

خَلَقْتَ مِنْ نُّوْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَشْيَآءِ اَللّٰهُمَّ

تونے روشن فرمائیں ساتھ اس نور کے جو تونے پیدا کیا محمّد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ اور تیرے رسول محتشم اور حبیب مکرم ہیں جو ایسے

الَّذِيْٓ اَخْبَرَ فَوَضَعَ اللّٰهُ مِنْكَ الدُّرَّةَ بِاسْتِقْبَالِهٖ فَلَمَّا نَظَرَ

نبی امی ہیں کہ انہوں نے اکان و مایکون کی خبر دی ہے تب اللہ تعالیٰ نے رکھا تمہارے انور پر محیط موتی کو اپنے روبرو جب نظر کی

الطَّاوٗسُ فِيْهَا رَاٰى صُوْرَةً اَحْسَنَ فَاسْتَحْيٰى مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَسَجَدَ

تمہارے طاؤس نور نے اس سفید موتی پر تو بہت ہی حسین صورت کو دیکھا۔ پس اللہ تعالیٰ سے حیا دامنگیر ہو گئی تب سجدہ کیا

خَمْسَ مَرَّاتٍ فَصَارَتْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اُمَّتِهٖ فَرْضًا بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ

پانچ مرتبہ تو فرض ہو گئے آپ پر اور آپ کی اُمت پر وہ سجدے پانچ نمازوں کی صورت میں

بِاَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَظَرَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِلٰى ذٰلِكَ النُّوْرِ نَظَرَ الْمَحَبَّةِ

اللہ تعالےٰ کے امر سے ۔ اور نظر فرمائی اللہ عزّوجل نے طرف اس نور کے نظر محبت والی

فَتَعَرَّقَ حَيَآءً مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى ۚ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ اَمَرَ اللّٰهُ مَحْبُوْبَهٗ

تو وہ پسینہ پسینہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے شرم وحیاء کی وجہ سے ۔اور صلوات نازل فرما آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر جن کے متعلق اللہ تعالےٰ نے اپنے

بِتَعْلِيْمِ مَحَبَّتِهِمْ اِيَّاهُ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى

محبوب کو حکم دیا انھیں اپنی محبت کی تعلیم دینے اور اس کے وجوب ولزوم کو ان کے سامنے بیان کرنے کا فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ مَا لَا نِهَايَةَ لِاَفْرَادِهٖ وَلَا يَقْدِرُ عَلٰى اِحْصَآئِهٖ اَحَدٌ

کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیگا ۔ اور برکات وتعلیمات نازل فرما اپنے محبوب اور انکے اہل بیت واصحاب پر اتنی کثیر مقدار میں کہ جس کے افراد کی انتہا نہ ہو ۔ اور نہ

غَيْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَ

قادر ہو سکے اس کے احاطہ اور شمار پر کوئی بھی ۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے ۔ اے اللہ درود وصلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو تیرے عبد خاص ، رسول محتشم ہیں اور

حَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ خُلِقَ مِنْ نُّوْرِهٖ فَمِنْ عَرَقِ رَاْسِهٖ خُلِقَ الْمَلٰٓئِكَةُ

تیرے حبیب نبی اُمّی جو (سرتاپا) نور سے پیدا کئے گئے ۔ پس ان کے سر اقدس کے پسینہ سے پیدا کیا گیا ملائکہ کو

وَمِنْ عَرَقِ وَجْهِهٖ خُلِقَ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ وَاللَّوْحُ وَالْقَلَمُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

اور ان کے چہرہ اقدس کے پسینہ سے پیدا کئے گئے عرش و کرسی اور لوح و قلم اور شمس و قمر

وَمَا كَانَ فِي السَّمَآءِ مِنَ الْحِجَابِ وَالْكَوْكَبِ الْمُضِيْءِ وَمِنْ عَرَقِ صَدْرِهٖ

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے یعنی حجابات نور اور روشن ستارے ۔ اور ان کے سینہ مبارک کے پسینہ سے

خُلِقَ الْاَنْبِيَآءُ وَالْمُرْسَلُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ وَالصَّالِحُوْنَ وَكُلُّ وَلِيٍّ ۚ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ

پیدا کئے گئے انبیاء و مرسلین اور شہداء و صالحین اور تمام اولیاء اور

صَحْبِهِ الَّذِيْنَ اَفْضَلُهُمُ الصِّدِّيْقُ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ مَنْ قَالَ لَهٗ

(درود وصلوٰۃ نازل فرما) آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر جن میں سے سب سے افضل ابوبکر ہیں ۔ ان کے بعد عمر ۔ پھر عثمان اور ان کے بعد علی مرتضیٰ جن کے متعلق

جِبْرَآئِيْلُ لَا فَتٰى اِلَّا عَلِيٌّ ۚ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جبرئیل علیہ السلام نے کہا نہیں کوئی صاحب فتوت اور جوانمرد مگر علی ۔ اور برکتیں اور سلامتی عطا فرما ۔ اے اللہ صلوات نازل فرما ہمارے آقا محمد

عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ خُلِقَ مِنْ عَرَقِ

پر جو تیرے عبد خاص ۔ رسول و حبیب نبی امی ہیں کہ پیدا کیا گیا

حَاجِبَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ ۝

ان کے ہر دو ابروں کے پسینہ سے مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کو ۔

وَمِنْ عَرَقِ اُذُنَيْهِ اَرْوَاحُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسِ وَمَا اَشْبَهَ

اور آپ کے دونوں کانوں کے پسینہ سے یہودیوں ۔ نصرانیوں ۔ مجوسیوں اور ان جیسے دیگر

ذٰلِكَ مِنْ اَهْلِ الضَّلَالَاتِ ۚ وَمِنْ عَرَقِ رِجْلَيْهِ خُلِقَ الْاَرْضُ مِنَ الْمَغْرِبِ

گمراہوں کی روحوں کو (پیدا کیا) اور آپ کے دونوں پاؤں کے پسینہ سے پیدا کی گئی ساری زمین مغرب سے

وَالْمَشْرِقِ وَمَا فِيْهَا مِنْ اَنْوَاعِ الْمَخْلُوْقَاتِ ۝ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا

مشرق تک اور وہ تمام انواع واقسام کی مخلوقات جو اس زمین میں ہے ۔ اور (درود وسلام بھیج) آپ کے آل واصحاب پر جو کہ تھے

عَاشِقِيْنَ بِنُوْرِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُقَدَّمِيْنَ بِرُؤْيَةِ جَمَالِهٖ

عاشق ان کے نور جمال پر صلی اللہ علیہ وسلم اور سب اُمت پر شرف پانے والے تھے آپ کے دیدار جمال کی بدولت

فَبِذٰلِكَ النُّوْرِ صَارُوْا كَالنُّجُوْمِ فِي السَّمٰوٰتِ ۝ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ

پس ہو گئے اس نور مقدس (کے عکس اور پرتو) کی بدولت آسمان کے ستاروں کی مانند اور برکت وسلامتی عطا فرما مطابق تعداد

كُلِّ مَا تَعَلَّقَ بِهٖ اِيْجَادُكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْاَعْرَاضِ فِي الْاَرْضِ وَ

ان تمام اشیاء کے جن کے ساتھ تیری ایجاد وتخلیق کا تعلق ہوا خواہ وہ جواہر ہیں یا اعراض ۔ زمین میں ہیں یا

السَّمَآءِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ الْمَادِّيَّاتِ مِنْهَا وَالْمُجَرَّدَاتِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

آسمان میں ۔ جنت میں ہیں یا دوزخ میں ۔ مادیات ہیں یا مجردات ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

نازل فرما ہمارے آقا ومولیٰ محمد پر جو تیرے عبد خاص ، رسول معظم اور حبیب مکرم نبی امی ہیں

الَّذِیْ اَمَرَ اللّٰہُ نُوْرَہٗ اَنِ انْظُرْ فَرَاٰی عَنْ اَمَامِہٖ نُوْرًا وَّعَنْ وَّرَآئِہٖ نُوْرًا

جس کے نور مقدس کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نظر اٹھایئے تو اس نور انور نے اپنے آگے ایک نور دیکھا اور اپنے پیچھے بھی نور دیکھا۔

وَّعَنْ یَّمِیْنِہٖ نُوْرًا وَّعَنْ یَّسَارِہٖ نُوْرًا ؕ وَھُوَ نُوْرُ اَبِیْ بَکْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ

اور اپنی دائیں جانب ایک نور اور بائیں جانب بھی نور دیکھا اور وہ چاروں نور ابوبکر و عمر اور عثمان

وَحَیْدَرَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھُمْ وَسَقٰھُمْ رَبُّھُمْ شَرَابًا طَھُوْرًا ؕ ثُمَّ سَبَّحَ

و حیدر (رے) تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انھیں جنّت کی پاکیزہ شراب پلائے۔ پھر تسبیح کہی

سَبْعِیْنَ اَلْفَ سَنَۃٍ ثُمَّ خَلَقَ نُوْرَ الْاَنْبِیَآءِ مِنْ نُّوْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ

ستر ہزار سال۔ پھر پیدا کیا گیا انبیاء کے نور کو نورِ محمّدی سے صلّی اللہ علیہ

عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَرْوُرًا ؕ وَّاٰلِہٖ وَصَحْبِہِ الَّذِیْنَ کَانَ کُلٌّ مِّنْھُمْ عِنْدَ

وسلم سلسلہ وار ۔ اور صلٰوۃ وسلام نازل ہو آپ کے آل و اصحاب پر جن میں سے ہر ایک مومنین

الْمُؤْمِنِیْنَ لَیِّنًا وَّعَلَی الصِّغَارِ رَحِیْمًا وَّعَلَی الْفُقَرَآءِ مُحْسِنًا وَّعَلَی

کے لیے نرم اور گداز تھا اور برخورداروں پر رحم فرمانے والا۔ فقراء پر احسان فرمانے والا (اللہ ورسول کے)

الْاَعْدَآءِ قَھُوْرًا ؕ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ کُلِّ مَا فِیْ دَرَجَاتِ الْجِنَانِ وَالْحُوْرِ

دشمنوں پر قہر اور غضب الٰہی کا نمونہ۔ اور برکات وسلامتی نازل فرما مطابق تعداد ان تمام اشیاء کے جو جنتوں کے مختلف درجات میں ہیں اور

وَالْقُصُوْرِ وَالْفَوَاکِہِ وَالْاَطْعِمَۃِ طَیِّبًا لِّاَھْلِھَا وَرَاحَۃً وَّسُرُوْرًا اَللّٰھُمَّ

شمار حوروں کے اور محلات کے اور جنتی میوہ جات اور طعاموں کے جو اہلِ جنّت کے لیے طیب و پاکیزہ ہیں اور موجب راحت و سرور۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَرَسُوْلِکَ وَحَبِیْبِکَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ

صلوات نازل فرما ہمارے آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول معظم اور حبیب مکرم نبی امّی ہیں جن کے

نَظَرَ اللّٰہُ اِلٰی نُوْرِہٖ فَخَلَقَ مِنْھَا اَرْوَاحَ الْاَنْبِیَآءِ فَقَالُوْا لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ

نور مقدس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نظر خاص فرمائی پس اس سے انبیاء علیہم السّلام کی روحوں کو پیدا فرمایا تو وہ سب کہنے لگے لا الٰہ الّا اللہ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ ثُمَّ خَلَقَ قِنْدِیْلًا مِّنَ الْعَقِیْقِ الْاَحْمَرِ یُرٰی

محمد رسول اللہ پھر اللہ تعالےٰ نے پیدا فرمائی ایک قندیل سرخ عقیق سے کہ دیکھا جا سکتا تھا (اس کی شفافیت کی وجہ سے)

ظَاھِرُہٗ مِنْ بَاطِنِہٖ ثُمَّ خَلَقَ صُوْرَۃَ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰہِ ؕ کَصُوْرَتِہٖ فِی

اس کا بیرونی حصّہ اندرونی حصّہ سے۔ پھر پیدا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی صورت کو مانند آپ کی دنیوی جسمانی

الدُّنْیَا ثُمَّ وَضَعَھَا فِیْ ذٰلِکَ الْقِنْدِیْلِ قِیَامُہٗ فِیْہِ کَقِیَامِہٖ فِی الصَّلٰوۃِ

صورت کے بعد ازاں اس کو ودیعت فرمایا اس قندیل میں اس انداز سے کہ آپ کے وجود نورانی کا قیام اس میں مثل آپ کے قیام صلوٰۃ

اِلٰی وَجْہِ اللّٰہِ ؕ وَاٰلِہٖ وَصَحْبِہِ الَّذِیْنَ کَانُوْا یَنْظُرُوْنَ اِلٰی نُوْرِ اللّٰہِ کَاَنَّ عَلٰی

کے تھا ذات باری تعالیٰ کی طرف انابت ورجوع کی حالت میں۔ اور صلوٰۃ وسلام نازل فرما آپ کی آل اور اصحاب پر جو کہ دیکھا کرتے تھے نور خداوند

رُءُوْسِھِمُ الطُّیُوْرَ وَیَقُوْمُوْنَ فِی الصَّلٰوۃِ خَاشِعِیْنَ مُتَضَرِّعِیْنَ

کی طرف (ادب ونیاز اور تعظیم وتکریم سے) گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں (جو ذرا سی جنبش پر اڑ جائیں گے) اور نماز میں قیام کرتے تھے خضوع وخشوع کی حالت میں

لِخَشْیَۃِ اللّٰہِ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ کُلِّ مَوْجُوْدٍ مِّنْ فَوْقِ الْعَرْشِ اِلٰی

بسبب اللہ تعالیٰ کے خوف کے۔ اور برکات وتسلیمات نازل فرما مطابق تعداد جمیع موجودات کے بالائے عرش سے لے کر

اَسْفَلِ الْفَرْشِ مِمَّا لَا یَقْدِرُ اَحَدٌ اَنْ یُّحْضِرَہٗ وَیُحِیْطَ بِہٖ وَمَا لَا یَعْلَمُ

نشیب فرش تک کہ کسی کو قدرت نہیں کہ سب کے پاس حاضر ہو اور ان کا احاطہ کرے اور ایسی مخلوق کہ نہیں جانتا

جُنُوْدَہٗ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَرَسُوْلِکَ وَ

اس کے انواع واصناف کو مگر اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول مکرم اور

حَبِیْبِکَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ طَافَ الْاَرْوَاحُ نُوْرَہٗ بِالتَّسْبِیْحِ وَالتَّھْلِیْلِ مِائَۃً

حبیب معظم نبی اُمّی ہیں جن کے نور انور کا طواف کیا تمام روحوں نے تسبیح و تہلیل کہتے ہوئے

وَّسَبْعِیْنَ اَلْفَ سَنَۃٍ ؕ ثُمَّ اُمِرُوْا لِیَنْظُرُوْا اِلَیْھَا فَمِنْھُمْ مَّنْ رَّاٰی

ایک لاکھ ستر ہزار سال تک۔ پھر انہیں حکم دیا گیا کہ اس صورت نورانی کی طرف دیکھیں تو ان میں سے بعض نے دیکھا

رَاْسَہٗ صَارَ لِلْخَلْقِ سُلْطَانًا وَّخَلِیْفَۃً ؕ وَمَنْ رَّاٰی جَبْھَتَہٗ صَارَ اَمِیْرًا

اس کے سرناز کو تو وہ مخلوق کا بادشاہ اور حکمران ہوا۔ اور جس نے اس کی پیشانی کو دیکھا تو وہ فرماں روائے

عَادِلًا وَّمَنْ رَّاٰی عَیْنَیْہِ صَارَ حَافِظًا لِّکَلَامِ اللّٰہِ وَاٰیَاتِہِ الْبَیِّنَۃِ ؕ

عادل ہوا اور جس نے اس نورانی صورت کی آنکھوں کو دیکھا تو وہ کلام اللہ اور اس کی آیات بیّنہ کا حافظ ہوا

وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَطُوْفُوْنَ رُوْحَهٗ فِيْ جِسْمِهِ الْمُطَهَّرِ صَلَّى

اور (درود وسلام نازل فرما) آپ کی آل اور اصحاب پر کہ جو آپ کے روح مقدس کا طواف کرتے رہتے تھے جسم مطہر میں ہوتے کی حالت

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيِّفًا وَّعِشْرِيْنَ سَنَةً ۔ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ كُلِّ مَا

میں بیس سال سے زائد عرصہ تک (صلی اللہ علیہ وسلم) اور برکت وسلامتی عطا فرما مطابق تعداد اور شمار ان تمام امور کے جو عزت

فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۔ اَللّٰهُمَّ

والے بلند مرتبت اور پاکیزہ صحائف میں (مرقوم ہیں) ان کاتبوں کے ہاتھوں سے جو بزرگ اور محسن ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ

رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص، رسول مکرم اور حبیب معظم نبی اُمّی ہیں کہ جس

مَنْ رَّاٰى حَاجِبَيْهِ صَارَ نَقَّاشًا وَّمَنْ رَّاٰى اُذُنَيْهِ صَارَ مُسْتَمِعًا وَّمُقْبِلًا

نے دیکھا ان کے دونوں ابروؤں کو تو وہ نقاش ہوا اور جس نے آپ کے ہر دو گوش مبارک کو دیکھا تو وہ کان لگا کر سننے والا اور غور کرنے والا ہوا۔

وَمَنْ رَّاٰى اَنْفَهٗ صَارَ حَكِيْمًا وَّعَطَّارًا وَّمَنْ رَّاٰى شَفَتَيْهِ صَارَ وَزِيْرًا وَّ

اور جس نے آپ کی بینی مبارک کو دیکھا تو وہ صاحب حکمت اور عطار ہو گیا۔ اور جس نے آپ کے ہونٹوں کی زیارت کی تو وہ وزیر اور

جَمِيْلًا ۔ وَمَنْ رَّاٰى اَسْنَانَهٗ صَارَ حَسَنَ الْوَجْهِ وَمَنْ رَّاٰى لِسَانَهٗ صَارَ

صاحب جمال ہو گیا۔ اور جس نے آپ کے دندان مبارک کی زیارت کی تو وہ خوبرو ہو گیا اور جس نے آپ کی زبان مبارک دیکھی تو

بَيْنَ السَّلَاطِيْنِ رَسُوْلًا ۔ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَقْتَبِسُوْنَ

وہ سلاطین وامراء کے درمیان سفیر بن گیا۔ اور (درود بھیج) آپ کی آل اور اصحاب پر جو کہ حاصل کرتے رہتے تھے فیضان

مِنْ نُّوْرِهٖ بِرُؤْيَةِ وَجْهِهٖ لَيْلًا وَّنَهَارًا وَّبُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۔ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

آپ کے نور اقدس کا آپ کے چہرہ انور کے دیدار سے شب وروز اور صبح وشام۔ اور برکت وسلامتی نازل فرما

بِعَدَدِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَوْهَرًا كَانَ اَوْ عَرَضًا مَّادِيًّا كَانَ اَوْ

آسمانوں اور زمینوں میں موجود تمام اشیاء کی تعداد کے مطابق خواہ وہ جوہر ہیں یا عرض مادی وکثیف ہیں یا

مُجَرَّدًا كَثِيْرًا كَانَ اَوْ قَلِيْلًا ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

مجرد اور لطیف کثیر ہیں یا قلیل۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص

وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ مَنْ رَّاٰى حَلْقَهٗ صَارَ وَاعِظًا

اور رسول معظم اور حبیب مکرم نبی اُمّی ہیں کہ جس نے بھی ان کے حلقوم مبارک پر نگاہ ڈالی تو وہ واعظ بن گیا

وَمُؤَذِّنًا وَّنَاصِحًا وَّمَنْ رَّاٰى لِحْيَتَهٗ صَارَ مُجَاهِدًا وَّمَنْ رَّاٰى عَضُدَيْهِ

اور مؤذن اور مخلص وہمدرد بن گیا۔ اور جس نے آپ کی ریش مبارک کی زیارت کی تو وہ مجاہد بن گیا اور جس نے آپ کے دونوں بازوؤں

صَارَ شُجَاعًا وَّمَنْ رَّاٰى عَضُدَهُ الْاَيْمَنَ صَارَ حَجَّامًا وَّفَصَّادًا ۔

کی زیارت کی تو وہ مجسمہ شجاعت بن گیا۔ اور جس نے آپ کے صرف دائیں بازو کو دیکھا تو وہ جراح اور رگزن بن گیا۔

وَمَنْ رَّاٰى عُنُقَهٗ صَارَ تَاجِرًا وَّمَنْ رَّاٰى عَضُدَهُ الْاَيْسَرَ صَارَ

اور جس نے آپ کی گردن مبارک کا دیدار کیا تو وہ تاجر ہو گیا۔ اور جس نے آپ کا صرف بایاں بازو دیکھا تو وہ

غَلِيْظَ الْقَلْبِ جَلَّادًا ۔ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ كَانَ كُلٌّ مِّنْهُمْ قَاهِرًا

سخت دل جلاد بن گیا۔ اور (درود بھیج) آپ کی آل اور اصحاب پر کہ جن میں سے ہر ایک قاہر اور غالب تھا

عَلَى الْاِمَارَةِ وَصَارِفًا عِنَانَ الْهِمَّةِ عَنِ الدَّنَاءَةِ وَصَابِرًا وَّحَامِدًا ۔

امارت وحکومت پر۔ اور اپنے عزم وہمت کی باگ کو پھیرنے والا تھا خساست اور کمینگی سے اور مجسمہ صبر تھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ كُلِّ فَرْدٍ مِّنَ الْمَوْجُوْدِ عُلْوِيًّا كَانَ اَوْ سُفْلِيًّا قَائِمًا

اور برکت وسلامتی عطا فرما (اے اللہ) تمام افراد موجودات کی تعداد کے مطابق عالم بالا سے تعلق رکھنے والے ہوں یا اسفل سے، خود بخود

بِنَفْسِهٖ اَوْ غَيْرِهٖ حَيًّا اَوْ مَيِّتًا نَامِيًا اَوْ جَامِدًا ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

قائم اور موجود ہوں یا دوسروں کے سہارے قائم ہوں، زندہ ہوں یا فوت شدہ، نباتات کے قبیل سے ہوں یا جمادات سے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ مَنْ رَّاٰى

ہمارے مخدوم محمد پر جو تیرے عبد خاص، رسول معظم اور حبیب مکرم نبی اُمّی ہیں کہ جس نے زیارت کی

كَفَّهُ الْاَيْمَنَ صَارَ صَرَّافًا ۔ وَمَنْ رَّاٰى كَفَّهُ الْاَيْسَرَ صَارَ كَيَّالًا ۔

ان کے دائیں کف دست کی تو وہ صراف بن گیا اور جس نے ان کے بائیں کف دست کی زیارت کی تو وہ ناپنے میں ماہر بن گیا

وَمَنْ رَّاٰى يَدَيْهِ صَارَ سَخِيًّا وَّكَيِّسًا ۔ وَمَنْ رَّاٰى ظَهْرَ كَفِّهِ الْاَيْسَرِ

اور جس نے آپ کے ہر دو دست مبارک کی زیارت کی تو وہ سخی بن گیا اور صاحب عقل وخرد۔ اور جس نے آپ کی بائیں ہتھیلی کی پشت دیکھی

صَارَ صَبَّاغًا وَمَنْ رَّاٰی اَنَامِلَهٗ صَارَ كَاتِبًا وَّمُسَبِّحًا ۞ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهِ
وہ رنگریز ہو گیا۔ اور جس نے آپ کی انگلیوں کے پورے دیکھے تو وہ فن کتابت میں ماہر ہوا اور تسبیح خوان بنا اور رحمت نازل

الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعْدِنَ الْعِلْمِ وَالْكَرَمِ وَمَنْبَعَ النُّوْرِ الْمُعَظَّمِ ۞
فرما۔ آپ کی آل اور اصحاب پر جو کہ علم و سخا کی کان تھے اور نور معظم کا سرچشمہ

فَصَارَ كُلٌّ وَّاحِدٍ نَّجْمًا ۞ مَنِ اقْتَدٰى بِهٖ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۞
پس ان میں سے ہر ایک نجم ہدایت بن گیا۔ جس نے ان کی اقتداء کی تو بس وہی راہ راست کی کامل ہدایت پانے والا ہے۔

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ مَنْ هَدَيْتَهٗ بِفَضْلِكَ فَصَارَ عَزِيْزًا اَوْ مَنْ
اور برکت و سلامتی عطا فرما ان لوگوں کی تعداد کے مطابق جنہیں تو نے ہدایت عطا کی اپنے فضل سے پس وہ عزت والے ہو گئے یا جنہیں

ضَلَّ فِيْ تِيْهِ الْغَوٰى فَصَارَ مُهَانًا وَّذَلِيْلًا ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا
(تو نے ہدایت نہ بخشی) وہ گمگشتگان بادیۂ ضلالت ہوئے پس حقیر اور ذلیل ہو گئے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ مَنْ رَّاٰى
محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول معظم اور حبیب مکرم نبی امی ہیں کہ جس نے ان کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی بیرونی جانب دیکھی

ظَهْرَ اَصَابِعِهِ الْيُسْرٰى صَارَ خَيَّاطًا وَمَنْ رَّاٰى ظَهْرَ اَصَابِعِهِ الْيُمْنٰى
تو وہ درزی بن گیا اور جس نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا بیرونی حصہ دیکھا تو وہ

صَارَ حَدَّادًا اَوْ صَائِغًا وَمَنْ رَّاٰى صَدْرَهٗ صَارَ عَالِمًا وَّمُجْتَهِدًا ۞ وَمَنْ
آہنگر بن گیا اور سنار و زرگر بنا۔ اور جس نے آپ کے سینہ مبارک کی زیارت کی وہ عالم اور مجتہد بن گیا۔ اور جس نے

رَّاٰى ظَهْرَهٗ صَارَ مُطِيْعًا لِّاَمْرِ الشَّرْعِ مُتَوَاضِعًا وَمَنْ رَّاٰى جَنْبَهٗ صَارَ
آپ کی پشت مبارک پر نگاہ ڈالی وہ امور شرعیہ کا اطاعت گزار اور سراپا تواضع بن گیا۔ اور جس نے آپ کے پہلو مبارک کو دیکھ لیا

غَازِيًا وَمَنْ رَّاٰى بَطْنَهٗ صَارَ زَاهِدًا اَوْ قَانِعًا وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ كَانَ
وہ غازی بن گیا۔ اور جس نے آپ کے بطن اقدس کی زیارت کی وہ سراپا زہد و قناعت بن گیا۔ اور (صلوٰۃ نازل فرما) آپ کی آل اور اصحاب پر

كُلٌّ مِّنْهُمْ رَاغِبًا عَنِ الدُّنْيَا وَطَالِبًا لِّلْمَوْلٰى وَعَنِ السَّيِّئَاتِ مُعْرِضًا
کہ جن میں سے ہر ایک دنیا سے منہ موڑنے والا تھا اور اپنے مولیٰ کا طلب گار۔ برائیوں سے اعراض کرنے والا

وَفِي الْحَسَنَاتِ طَائِعًا ۞ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ مَنْ شَبِعَ فِيْ وَقْتٍ اَوْ
اور نیکیوں میں سراپا اطاعت۔ اور برکت و سلامتی عطا فرما ان تمام لوگوں کی گنتی کے مطابق جو کسی وقت سیر ہوئے یا

شَرِبَ فِيْ زَمَانٍ وَّمَنْ عَطِشَ فِيْ حِيْنٍ اَوْ صَارَ فِيْ اٰنٍ جَائِعًا اَللّٰهُمَّ
کسی زمانہ میں پیا۔ اور جو کسی لمحے پیاس سے دوچار ہوئے یا کسی آن میں بھوکے رہے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ
صلوٰۃ نازل فرما محمد کریم پر جو تیرے عبد خاص، رسول معظم اور حبیب مکرم نبی اُمّی ہیں کہ جس نے

مَنْ رَّاٰى رُكْبَتَيْهِ صَارَ سَاجِدًا اَوْ رَاكِعًا وَمَنْ رَّاٰى رِجْلَيْهِ صَارَ صَيَّادًا
آپ کے دونوں زانوں مبارک کی زیارت کی تو وہ سجود و رکوع کرنے والا بن گیا اور جس نے آپ کے دونوں قدموں کی زیارت کی تو صیاد بن گیا

وَمَنْ رَّاٰى تَحْتَ قَدَمَيْهِ صَارَ مَاشِيًا وَمَنْ رَّاٰى ظُفْرَهٗ صَارَ صَاحِبَ
اور جس نے آپ کے دونوں تلووں کو دیکھا تو وہ پیدل چلنے والا ہوا۔ اور جس نے آپ کے ناخن مبارک کو دیکھا تو وہ

الطَّنْبُوْرِ وَمُغَنِّيًا وَّمَنْ لَّمْ يَنْظُرْ اِلَيْهِ صَارَ كَافِرًا وَّمُدَّعِيًا لِّلرُّبُوْبِيَّةِ
طنبور نواز اور گویا بن گیا۔ اور جس نے آپ کی زیارت ہی نہ کی تو وہ کافر ٹھہرا اور ربوبیت کا دعوے دار

كَالْفَرَاعِنَةِ اَوْ نَصْرَانِيًا وَّيَهُوْدِيًا ۞ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ كَانَ كُلٌّ مِّنْهُمْ
مانند فرعونوں کے یا نصرانی اور یہودی ہو گیا۔ اور (درود بھیج) آپ کی آل و اصحاب پر کہ جن میں سے ہر ایک

رَحِيْمًا عَلَى الضُّعَفَآءِ وَمُوَقِّرًا لِّلْكُبَرَآءِ وَمُحْسِنًا عَلَى الْفُقَرَآءِ وَعَلَى الْاَعْدَآءِ
کمزوروں پر مہربان تھا اور بڑوں کی توقیر و تعظیم کرنے والا۔ اور فقراء پر احسان فرمانے والا تھا۔ اور دشمنان خدا و رسول کے لیے

غَلِيْظًا وَّجَرِيْئًا ۞ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ كُلِّ حَيَوَانٍ كَانَ اَوْ يَكُوْنُ فِي
سخت طبع اور دلیر تھا اور برکت و سلامتی عطا فرما ان تمام جانداروں کی تعداد کے مطابق جو پیدا ہو چکے ہیں یا ہوں گے

الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ اَوْ هُوَ الْاٰنَ بَحْرِيًّا كَانَ اَوْ بَرِّيًّا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
زمین میں خواہ آسمان میں یا اب موجود ہیں بحر میں ہوں یا بر میں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ سَبَقَ
سردار محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول معظم۔ حبیب مکرم اور نبی امی ہیں کہ سبقت لے گیا

نُوْرَهٗ عَلٰى خَلْقِ الْخَلْقِ طُرًّا جَمِيْعًا وَّخَلَقَ مِنْهُ مَا خَلَقَ خَالِقُ الْاَرْضِ وَ
ان کا نور (ایجاد و تخلیق میں) تمام خلائق کی ایجاد و تخلیق پر اور اسی نور سے پیدا فرمایا جو بھی پیدا کیا خالق ارض و
السَّمَآءِ بَدِيْعًا فَوَيْلٌ لِّمَنْ لَّمْ يَنْظُرْ اِلَيْهِ وَطُوْبٰى لِمَنْ صَارَ بِيُمْنِ ذٰلِكَ
سماء نے انوکھے انداز میں پس ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے ان کی طرف نہ دیکھا اور مبارکبادی ہے اس شخص کیلئے جو ہوگیا ان کے
النَّظَرِ لِاَمْرِهٖ مُطِيْعًا ۝ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ كَانَ كُلٌّ مِّنْهُمْ فِيْ اَمْرِ
دیکھ لینے کی برکت سے ان کا مطیع فرمان۔ اور (درود بھیج) آل و اصحاب پر کہ جن میں سے ہر ایک امور دنیویہ (کی طرف رغبت) میں
الدُّنْيَا بَطِيْئًا وَّفِيْ اُمُوْرِ الدِّيْنِ جَلْدًا وَّسَرِيْعًا ۝ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ
سست گام تھا۔ اور امور دین میں مضبوط اور سریع السیر (تیز رفتار) تھا اور برکت و سلامتی نازل فرما ان مقدس ہستیوں پر، مطابق تعداد
مَا نَطَقَ بِهٖ كُلُّ نَاطِقٍ بِكُلِّ لُغَةٍ وَّكُنْتَ لَهٗ سَمِيْعًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا
ان تمام حروف و کلمات کے کہ نطق کیا ساتھ ان کے کسی بھی ناطق نے کسی بھی لغت میں اور تو ہی اس کے نطق کو سننے والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج ہمارے
مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ خَلَقَ نُوْرَهٗ قَبْلَ
آقا محمد پر جو کہ تیرے عبد خاص، رسول معظم، حبیب مکرم نبی اُمّی ہیں کہ جن کا نور پیدا کیا گیا تمام
الْخَلْقِ بِاَلْفِ اَلْفٍ وَّسِتِّمِائَةٍ وَّسَبْعِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝ فَسَبَّحَ اللّٰهَ
مخلوق سے سولہ لاکھ ستر ہزار سال قبل تو اس نور نے اللہ تعالےٰ کی تسبیح کہی
مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ حِجَابًا بِتَسْبِيْحٍ خَاصٍّ اِثْنَيْ عَشَرَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝ وَهِيَ حِجَابٌ
بارہ حجابات سے تسبیح مخصوص کے ساتھ بارہ ہزار سال تک اور وہ حجابات یہ ہیں
الْقُدْرَةِ وَالْمِنَّةِ وَالرَّحْمَةِ وَالسَّعَادَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالنُّبُوَّةِ ۝ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ
قدرت اور فضل و احسان۔ رحمت اور سعادت اور کرامت و نبوت۔ اور صلوٰۃ نازل ہو آپ کے آل و اصحاب پر
الَّذِيْنَ اَخْبَرَهُمْ بِهَا وَبِالْهِدَايَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الرَّفِيْعَةِ وَالْهَيْبَةِ وَ
کہ جنہیں آپ نے ان (چھ حجابات) کی خبر دی اور (ان کے علاوہ) ہدایت و منزلت رفعت۔ ہیبت۔ اور
الشَّفَاعَةِ وَالْعَظَمَةِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ تَسْبِيْحَاتٍ وَّاَذْكَارٍ صَدَرَ مِنْ
شفاعت و عظمت (والے چھ حجابات) کی خبر دی۔ اور برکت و سلامتی عطا فرما مطابق اعداد ان تسبیحات و اذکار کے جو

نُوْرِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذِهِ الْحُجُبِ وَالْاَزْمِنَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
سرزد ہوئے آپ کے نور الانور سے ان حجابات (صفات) میں اور ان ازمنہ میں۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ اَخْرَجْتَ
آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول معظم اور حبیب مکرم نبی امی ہیں کہ باہر نکالا تو نے
نُوْرَهٗ مِنَ الْحُجُبِ ثُمَّ اَغْمَسْتَهٗ فِي الْبِحَارِ الْعَشَرَةِ وَهِيَ بَحْرُ الشَّفَاعَةِ وَ
ان کے نور اقدس کو ان حجابات سے پھر تو نے اسے غوطہ دیا دس سمندروں میں جو یہ ہیں۔ بحر شفاعت،
النَّصِيْحَةِ وَالشُّكْرِ وَالصَّبْرِ وَالسَّخَاوَةِ وَالْاِنَابَةِ وَالْيَقِيْنِ وَالْحِلْمِ وَ
بحر اخلاص و نصیحت۔ بحر شکر۔ بحر صبر۔ بحر سخاوت۔ بحر انابت و رجوع الی اللہ۔ بحر یقین۔ بحر حلم و حوصلہ مندی اور
الْقَنَاعَةِ يَغُوْصُ فِيْهَا وَالْمَحَبَّةِ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ اَخْبَرَهُمْ اَنَّهٗ سَبَّحَ
بحر قناعت کہ وہ نور ان (نو سمندروں) میں غوطہ زن تھا اور بحر محبت میں اور آپ کے اہل و اصحاب پر درود ہو جنہیں آپ نے خبر دی کہ
وَغَاصَ فِيْ بَحْرِ الشَّفَاعَةِ بِمِقْدَارِ اَلْفِ سَنَةٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ
آپ نے تسبیح کہی ہے اور غوطے لگائے ہیں بحر شفاعت میں ہزار سال کا عرصہ اور برکت و سلامتی عطا فرما ان سمندروں کے
قَطَرَاتِ تِلْكَ الْاَبْحُرِ كُلُّ قَطْرَةٍ مِّنْهَا بِمِثْلِ ذَرَّةٍ فِي الْعَقْلِ وَالْمُدْرِكَةِ
قطروں کی تعداد کے مطابق کہ جن قطروں میں سے ہر قطرہ نگاہ عقل و خرد میں ایک ذرہ کی مانند ہے
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ
اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو کہ تیرے عبد خاص، رسول معظم اور حبیب مکرم نبی امی ہیں کہ
الَّذِيْ سَبَّحَ وَغَاصَ فِي الثَّانِيْ بِاَلْفَيْنِ وَالثَّالِثِ بِثَلَاثٍ وَّهٰكَذَا هَلُمَّ
جنہوں نے تسبیح و تقدیس کی اور غوطے لگائے دوسرے سمندر میں دو ہزار سال تک اور تیسرے سمندر میں تین ہزار سال تک اور اسی ترتیب
فِيْ تِلْكَ الْاَبْحُرِ الْعَشَرَةِ وَتَسْبِيْحُهٗ فِي الْاَخِيْرِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ
کے ساتھ ان دس سمندروں میں۔ اور آپ کی تسبیح آخری سمندر میں یہ تھی۔ سبوحٌ قدوسٌ
يَا اَللّٰهُ يَا كَرِيْمُ ثُمَّ اَخْرَجَ مِنْهُ بَعْدَ تِلْكَ الْاَزْمِنَةِ وَاُجْلِسَ عَلٰى بِسَاطِ
یا اللہ یا کریم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ (کے نور اقدس) کو ان سمندروں سے نکالا بعد ہزاروں سال کے طویل تر زمانوں کے اور بٹھایا گیا آپ کے نور کو ایسی

كَانَ اَوْسَعَ مِنَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ بِسَبْعِيْنَ مَرَّةً وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ

مسند پر کہ جو آسمانوں اور زمین سے ستر گنا زیادہ وسیع و عریض تھی اور آپ کے آل و اصحاب پر (درود بھیج)

الَّذِيْنَ اَخْبَرَهُمْ اَنَّهٗ كَانَ فِيْهِ دَرَجَاتٌ كَثِيْرَةٌ وَّمَقَامَاتٌ عَلِيَّةٌ وَّ

جنہیں آپ نے بتلایا کہ اس مسند عالی میں بہت سے درجات اور بلند مقامات تھے اور برکت وسلامتی عطا فرما

بَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ الْاَمَاكِنِ وَالْاَزْمَانِ الَّتِیْ كَانَتْ فِیْ تِلْكَ الْحُجُبِ

ان مکانوں اور زمانوں کی تعداد کے مطابق جو ان حجابات اور سمندروں

وَالْبِحَارِ وَالْمَقَامَاتِ الْمُعَظَّمَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

اور عظمت والے مقامات میں تھے۔ اے اللہ دُرود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول معظم

وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِیْ اُمِرَ نُوْرُهٗ بِالْقِيَامِ وَالسُّجُوْدِ

اور حبیب مکرم نبی اُمی ہیں کہ جن کے نور اقدس کو حکم دیا گیا قیام و سجود کا

وَالْجُلُوْسِ وَالتَّشَهُّدِ فِیْ تِلْكَ الْمَقَامَاتِ فَيَعِيْدُ فِيْهَا اُلُوْفًا ثُمَّ كُرِّمَ

اور جلسہ اور تشہد کا ان مقامات میں جبکہ وہ مقیم تھے ان مقامات میں ہزاروں سال تک۔ پھر آپ کے نور اقدس کو عزت وکرامت

بِالْخَلْوَةِ الْخَاصَّةِ الَّتِیْ لَا يَعْلَمُ اَسْرَارَهَا اَحَدٌ مِّنَ الْمَخْلُوْقَاتِ ثُمَّ

دی گئی خلوت خاصہ کے ساتھ کہ جس کے اسرار کو مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر اس نور اقدس کو اس صورت میں ڈھالا جو جسمانی طور پر دنیا میں ہونی تھی اور اسے

صُوِّرَ وَوُضِعَ الْقِنْدِيْلُ عَلَی الشَّجَرَةِ كَمَا مَرَّ تَفْصِيْلُهٗ هٰذَا مَا هُوَ

قندیل میں ودیعت کر کے اقندیل کو درخت پر رکھا گیا جیسے کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے اور یہی اس حقیقت کے بیان میں صحیح ترین

اَصَحُّ الرِّوَايَاتِ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ اَخْبَرَهُمْ ثُمَّ بَعْدَ الْخِلْقَةِ

روایت ہے۔ اور آپ کی آل اور اصحاب پر درود بھیج کہ جنہیں آپ نے اس حقیقت سے خبر دی، پھر مخلوق کے کیفیات تخلیق کی تکمیل کے

عُلِّقَ الْقِنْدِيْلُ بِسَاقِ الْعَرْشِ فَوْقَ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

بعد اس قندیل کو پایۂ عرش کے ساتھ معلق کر دیا گیا سات آسمانوں سے اُوپر اور برکت وسلامتی نازل فرما

بِعَدَدِ مَا لَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ وَمَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ اِحَاطَةِ التَّصَوُّرَاتِ وَ

آپ پر ان تمام اشیاء کی مقدار جن کے احاطہ سے عقل قاصر ہے اور جو کہ باہر ہیں تصورات کے احاطہ سے۔ اور

زَائِدٌ عَنِ التَّصْدِيْقَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

تصدیقات کی رسائی اور پہنچ سے بالاتر ہیں۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو کہ تیرے عبد خاص۔

وَرَسُوْلِكَ وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِیْ حَفِظْتَ نُوْرَهٗ عَلٰی سَاقِ

رسول معظم اور حبیب مکرم نبی اُمی ہیں جن کے نور کو تو نے محفوظ رکھا پایۂ

الْعَرْشِ حَتّٰی خَلَقْتَ اٰدَمَ فَوَضَعْتَهٗ فِیْ جَبِيْنِهٖ كَكَوْكَبٍ دُرِّيٍّ وَّمَكَّنْتَ

عرش پر تا آنکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پس اسے ان کی جبین انور میں رکھا مانند چمکتے ستارے کے

اَنْ يَكُوْنَ سُجُوْدُ الْمَلٰٓئِكَةِ اِلَيْهِ وَاِنْ كَانَ فِی الظَّاهِرِ لِقَرِيْنِهٖ ثُمَّ انْتَقَلَ

(تاکہ) ہو سکے ملائکہ کا سجدہ طرف اس نور کے اگرچہ بظاہر وہ سجدہ اس نور کے قرین یعنی آدم کی طرف تھا پھر منتقل ہوا

اِلٰٓی اٰبَآئِهٖ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صُلْبٍ اِلٰی رَحِمٍ وَّمِنَ الرَّحِمِ

وہ نور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آباء و اجداد کی طرف یکے بعد دیگرے ایک پشت سے دوسرے رحم کی طرف اور رحم

اِلٰی جَبِيْنِهٖ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ بَذَلُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ لِاِعْلَاءِ

سے اس کے جبین کی طرف۔ اور (درود نازل فرما) آپ کے آل و اصحاب پر جنہوں نے صرف کر دیا اپنی جانوں اور مالوں کو تیرے

كَلِمَتِكَ وَتَرْجِيْحِ مِلَّتِهٖ وَدِيْنِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ مَا فِی الْجِبَالِ

کلمۂ توحید کو بلند کرنے کے لیے اور آنحضرت کی ملت و شریعت کو غالب کرنے کے لیے۔ اور برکت وسلامتی عطا فرما آپ کو ان تمام اشیاء

وَالْبِحَارِ وَالْبِلَادِ وَالْاَمْصَارِ مِنَ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ وَالْحَيِّ وَالْمَيِّتِ وَمَنْ

کی تعداد کے مطابق جو پہاڑوں، سمندروں اور بلاد و امصار میں ہیں یعنی حجر و شجر اور زندہ و فوت شدہ اور جو

جَعَلْتَهٗ مِنْ طِيْنَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ

پیدا کیے تو نے آپ کی طینت سے۔ اے اللہ دُرود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول معظم

وَحَبِيْبِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِیْ خَلَقْتَ نُوْرَهٗ اَیْ اَظْهَرْتَهٗ مِنْ نُّوْرِكَ

اور حبیب مکرم نبی اُمی ہیں کہ پیدا فرمایا تو نے ان کے نور کو یعنی ظاہر کیا اسے اپنے نور کے عکس و پرتو سے

فَاللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ اَیْ هُوَ ظَاهِرٌ وَّمُظْهِرٌ

پس اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور کی شان ایسے ہے کہ جیسے چراغ کے ساتھ سجا ہوا طاق ہو یعنی وہ خود بھی ظاہر ہے اور

فِیْ حُجُبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُنْتُ كَنْزًا مَّخْفِیًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ

ظاہر کرنے والا بھی ہے (اشیاء کو) سماوی اور ارضی حجابات میں (جیسے کہ فرماتا ہے) میں مخفی خزانہ تھا تو مجھے اپنا پہچانا جانا پسند آیا

فَخَلَقْتُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِیْنَ كَانُوْا یَطُوْفُوْنَ

لہٰذا میں نے پیدا کردیا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور درود بھیج آپ کے آل واصحاب پر کہ جو طواف کیا کرتے تھے

نُوْرَهٗ فِیْ زُجَاجَةِ بَدَنِهٖ بَعْدَ مَا وَصَلَ مَا وَصَلَ اِلَیْهِ مِنْ سَیْرِ السَّمٰوٰتِ

آپ کے نور اقدس کا بدن کے شیشہ میں ہوتے ہوئے بعد اس کے کہ پہنچا وہ نور جہاں تک کہ پہنچا یعنی آسمانوں کی اور زمین

وَالْاَرْضِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ مَا خَلَقْتَ مِنْ ذٰلِكَ النُّوْرِ مَا فِیْ اَطْبَاقِ

کی سیر وسیاحت سے (بعد ولادت کے) اور برکت وسلامتی عطا فرما آپ کو مطابق ان تمام اشیاء کے جو پیدا فرمائیں اس نور سے جو کہ ہیں

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِیْهَا وَمَا تَحْتَهَا وَمَا فِی الْاَرْضِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

طبقات سماویہ میں۔ اور ان کے اندر اور نیچے اور جو کہ زمین میں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج ہمارے

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَحَبِیْبِكَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ

آقا محمد پر جو تیرے عبد خاص۔ رسول معظم اور حبیب مکرم نبی اُمّی ہیں کہ

اَوْصَلْتَ نُوْرَهٗ مِنْ اَصْلَابِ اٰبَائِهٖ اِلٰی اَبِیْهِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُفْدٰی

پہنچایا تو نے ان کے نور اقدس کو آباء و اجداد کی اصلاب سے آپ کے والد عبداللہ تک جن کا فدیہ دیا گیا عظیم قربانی (سو اونٹ) کے ساتھ

بِالْقُرْبَانِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَیِّ

جو بیٹے ہیں عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی

ابْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ وَكَانَ ابْنُ كَعْبِ بْنِ لُؤَیِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ

بن کلاب بن مرہ کے اور مرہ بیٹے تھے کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن

مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ فِی الزَّمَانِ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الَّذِیْنَ قَالُوْا اِنَّهٗ

مالک بن نضر بن کنانہ کے (اور وہ معروف تھے) زمانہ میں۔ اور آپ کے آل واصحاب پر صلوٰۃ بھیج کہ جنہوں نے کہا کہ وہ

ابْنُ خُزَیْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ ابْنِ اِلْیَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مُعَدِّ بْنِ

کنانہ فرزند ہے خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن

عَدْنَانَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعَدَدِ كُلِّ اَبٍ وَّابْنٍ وَّكُلِّ نَسَبٍ وَّذِیْ نَسَبٍ

عدنان کا اور برکت وسلامتی نازل فرما آنحضرت پر موافق تعداد ہر باپ اور بیٹے کے اور ہر نسب اور نسب والے کے

وَقَدْ قِیْلَ كَذَبَ النَّسَّابُوْنَ فَوْقَ الْعَدْنَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

اور تحقیق کہا گیا ہے کہ غلط بیانی سے کام لیا ہے نسب بیان کرنے والوں نے عدنان سے اوپر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ كَتَبَ اللّٰهُ اسْمَهٗ فَوْقَ الْعَرْشِ

ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر جس آقا کا نام اللہ تعالٰی نے لکھا عرش اعظم پر

قَبْلَ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِیْنَ ط وَنَبَّاَهُ اللّٰهُ وَاٰدَمُ بَیْنَ الْمَآءِ وَ

آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے۔ اور ان کو منصب نبوت عطا فرمایا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی آب و

الطِّیْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ ِ

گل میں تھے۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

الَّذِیْ لَمَّا اهْتَزَّ الْعَرْشُ وَاضْطَرَبَ كُتِبَ عَلَیْهِ اسْمُهٗ فَسَكَنَ وَطَرِبَ

جس آقا کی شان یہ ہے کہ جب عرش اعظم لرزا اور مضطرب ہوا تو اس پر آپ کا نام نامی لکھا گیا پس اسے سکون اور طرب حاصل ہوگیا

وَاَوَّلُ مَا كَتَبَ الْقَلَمُ اسْمُهُ الْكَرِیْمُ وَاَعْلَنَ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِیْمُ

اور قلم نے سب سے پہلے انہیں کے اسم کرامت نشان کو تحریر کیا۔ اور اسی کو ظاہر فرمایا علیہ الصلوٰۃ والتسلیم

وَكَتَبَ اللّٰهُ اسْمَهُ الْمَنْعُوْتَ ط عَلٰی فُصُوْصِ اللُّؤْلُؤِ وَالْیَاقُوْتِ ط

اور اللہ تعالٰی نے لکھا آپ کے اسم موصوف کو لولؤ اور یاقوت کے نگینوں پر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ

اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جس

كَتَبَ اللّٰهُ اسْمَهٗ فِی الْاَلْوَاحِ وَالْكُتُبِ ط وَعَلٰی اَطْرَافِ الْحُجُبِ ط وَعَلٰی

(آقا) کا نام اللہ تعالٰی نے لکھا نوری تختیوں اور صحیفوں میں اور حجابات کے اطراف پر

نُحُوْرِ الْحُوْرِ الْعِیْنِ وَبَیْنَ اَعْیُنِ الْمَلٰٓئِكَةِ الْحَافِّیْنَ وَعَلٰی اَوْرَاقِ شَجَرِ

اور حور عین کے سینوں پر اور (عرش کے گرد) احاطہ کرنے والے ملائکہ کی آنکھوں میں۔ اور جنتوں کے درختوں کے پتوں پر

الْجِنَانِ ط وَعَلٰى وَرَقِ الْوَرْدِ وَالرَّيْحَانِ ط وَعَلٰى لِسَانِ الْقَلَمِ الْمَنْصُوْبِ

اور گل گلاب وریحان کی پتیوں پر۔ اور قلم کی زبان پر لکھا جو قلم کہ قائم ودائم ہے

وَعَلٰى قُنَّةِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ مَكْتُوْبٌ وَّعَلٰى وَرَقِ شَجَرَةِ طُوْبٰى وَسِدْرَةِ

اور لوح محفوظ کی (سطر) اعلیٰ واول میں لکھا ہوا ہے۔ اور شجر طوبیٰ کے پتوں پر اور سدرۃ

الْمُنْتَهٰى وَعَلٰى مَفَارِقِ تِيْجَانِ النُّوْرِ وَالْبَهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

المنتہیٰ کے پتوں پر۔ اور نورانی با رونق تاجوں کے درمیانی حصہ پر (لکھا ہوا ہے) اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كُتِبَ اسْمُهٗ عَلٰى عَرْشِكَ قَبْلَ

محمد اور آپ کی آل پر کہ جس (محبوب) کا نام لکھا گیا تیرے عرش پر قبل

خَلْقِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَاسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ فِيْ دِيْوَانِ الْمُؤَيِّدِيْنَ

پیدا کئے جانے اوّلین وآخرین کے۔ اور آپ کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے قدرت ونصرت والے (ملائکہ) کے دیوان میں

وَعَلٰى اَطْرَافِ خِيَامِ اَهْلِ عِلِّيِّيْنَ وَعَلَى الْغُرُفَاتِ وَالْقُصُوْرِ وَعَلٰى

اور علیین والوں کے خیموں کے کناروں پر۔ جنت کے بالا خانوں اور محلات پر اور

قِبَابِ الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ط وَعَلٰى فَنَنِ الْاَغْصَانِ وَالْاَشْجَارِ وَعَلٰى

بیت المعمور کے قبہ جات پر اور جنتی درختوں کی ٹہنیوں کے آغاز پر اور ان درختوں کے تنوں پر اور

طِرَازِ الْاَحْجَارِ وَالْاَنْهَارِ ط وَعَلٰى خَاتَمِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلٰى اَكْنَافِ

(جنتی) پتھروں اور نہروں کے نقش ونگار میں۔ اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر۔ اور جنت کے اطراف وجوانب

الْجِنَانِ وَعَلٰى خَاتَمِ نُوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ وَعَلٰى خَاتَمِ دَاوٗدَ وَاِسْمٰعِيْلَ

پر۔ اور حضرت نوح اور ابراہیم خلیل علیہما السلام کی انگوٹھیوں پر، اور داؤد واسماعیل علیہما السلام کی انگوٹھیوں پر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ

اے اللہ دُرود وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جس (آقا)

اِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ عَلٰى جَانِبِ السَّفِيْنَةِ وَفِيْ لَوْحٍ مِّنْ ذَهَبٍ تَحْتَ جِدَارِ

کا اسم گرامی لکھا ہوا تھا (نوح علیہ السلام کی) کشتی کے کنارے پر اور سنہری تختی پر لکھا تھا جو تھی

الْغُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَمَكْتُوْبٌ بِالنُّوْرِ الْاَحْمَرِ عَلٰى شَاطِئِ

دو یتیم بچوں والی دیوار کے نیچے شہر کے اندر۔ اور لکھا ہوا ہے (وہ اسم گرامی) سُرخ نور کے ساتھ فرات

الْفُرَاتِ وَالْكَوْثَرِ وَبِالنُّوْرِ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالزَّبُوْرِ وَعَلٰى جِبَاهِ

اور کوثر کے کنارے پر۔ اور نور کے ساتھ (لکھا ہے) تورات، انجیل اور زبور میں۔ اور اُوپر

الْحُوْتِ وَعَلٰى جَبِيْنِ مَلَكِ الْمَوْتِ وَمَكْتُوْبٌ بِالْقَلَمِ الْمُنِيْرِ عَلٰى

مچھلیوں کی جبینوں کے اور ملک الموت کی پیشانی پر۔ اور (وہ نام نامی) لکھا ہوا ہے نورانی قلم کے ساتھ

لِسَانِ مُنْكَرٍ وَّنَكِيْرٍ وَّعَلٰى جُيُوْبِ حُلَلِ السُّنْدُسِ وَعَلٰى اَبْوَابِ حَظَائِرِ

منکر ونکیر کی زبانوں پر۔ اور سبز ریشمی جوڑوں کے گریبانوں پر۔ اور محفوظ ومقدس محلات

الْقُدْسِ وَاسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَاَزْكَى السَّلَامِ مِنْ

کے دروازوں پر۔ اور آپ کا نام نامی لکھا ہوا ہے (آپ پر افضل ترین درود ہو اور پاکیزہ تر سلام)

قَبْلِ اَنْ يُّخْلَقَ جِبْرَآئِيْلُ بِاَلْفَيْ عَامٍ وَّمَكْتُوْبٌ عَلٰى كُلِّ عَلَمٍ فِي الْجَنَّةِ

جبرئیل علیہ السلام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے۔ اور لکھا ہوا ہے جنت کے ہر علم اور جھنڈے پر

وَكَانَ الْاِسْرَآءُ فِيْ رَجَبٍ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور تھا آپ کا اسراء (اور معراج) رجب المرجب میں ہجرت سے ایک سال قبل۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي اصْطَفَاهُ اللّٰهُ مِنْ وُّلْدِ

آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو اللہ تعالےٰ نے چن لیا اولادِ

اِسْمٰعِيْلَ وَاسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ عَلٰى جَبْهَةِ جِبْرَآئِيْلَ وَعَلَّمَهُ اللّٰهُ الْاَسْمَآءَ

اسماعیل علیہ السلام سے۔ اور ان کا نام مقدس لکھا ہوا ہے جبرئیل علیہ السلام کی پیشانی پر اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسماء کا علم عطا فرمایا

وَاسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ عَلٰى بَابِ كُلِّ سَمَآءٍ وَّجَعَلَ اللّٰهُ ذِكْرَهٗ قُوْتًا وَّدَوَآءً

اور آپ کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے ہر آسمان کے دروازہ پر۔ اور اللہ تعالےٰ نے آپکے ذکر کو (روحوں کی) روزی اور دوا وعلاج بنادیا ہے

وَاسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ عَلٰى بَابِ جَنَّةِ الْمَاْوٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور آپ کا اسم گرامی جنت الماوٰی کے دروازے پر مرقوم ہے۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے سردار

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمَعْنِیِّ بِقَوْلِهٖ عَزَّوَجَلَّ فِیْ مُحْکَمِ التَّنْزِیْلِ ۙ

محمد اور آپ کی آل پر جس محبوب کا ہی قصد اور ارادہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کے اس قول سے جو اس کے ناقابل نسخ و تغییر کلام منزل میں موجود ہے

اَلَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِیَّ الْاُمِّیَّ الَّذِیْ یَجِدُوْنَهٗ مَکْتُوْبًا عِنْدَهُمْ

جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول نبی امی کی جس (کے اوصاف اور کمالات کو) لکھا ہوا پاتے ہیں ۔

فِی التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِیْلِ ۙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

اپنے ہاں تورات و انجیل میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور

عَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ یَّخْلُقَهٗ مِنْ اَرْضَی

آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا کہ پیدا کرے اس (کے لباس بشری) کو

الْاَرْضِ اَرْضٰی اَهْلِ الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ اَمَرَ جِبْرَآئِیْلَ اَنْ یَّاْتِیَ

زمین کے انتہائی پسندیدہ حصہ سے اس شان کے ساتھ کہ وہ سب اہل ارض اور اہل سماء سے پسندیدہ تر ہوں تو حکم دیا جبرئیل کو کہ لے آئے

بِالْقِطْعَةِ الْبَیْضَآءِ وَالطِّیْنَةِ الْبَیْضَآءِ وَخَلَقَ اللّٰهُ جَبِیْنَهٗ مِنَ الطِّیْنَةِ

زمین سے اسفید ٹکڑا اور چکیلی مٹی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی جبین اقدس کو اس ارضی خمیر سے پیدا فرمایا

الَّتِیْ هِیَ قَلْبُ الْاَرْضِ وَبَهَآؤُهَا وَنُوْرُهَا وَمَنَآءُهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ

جو کہ زمین کا دل ہے اور اس کی بہار اور اس کا نور اور زینت ہے ۔ اے اللہ درود بھیج

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ رَفَعَ جِبْرَآءِیْلُ

اور سلامتی نازل فرما ہمارے مخدوم محمد اور آپ کی آل پر کہ جس (مخدوم کائنات) کے خمیر کو اٹھایا جبرئیل علیہ السلام

طِیْنَتَهٗ مِنْ اَکْرَمِ بُقْعَةٍ بِاَشْرَفِ رُتْبَةٍ وَّرِفْعَةٍ ثُمَّ وَضَعَ جِبْرَآءِیْلُ

نے انتہائی عزت و کرامت والے قطعہ سے بلند ترین رتبہ اور رفعت سے ہمکنار کرکے اور ودیعت کیا جبرئیل علیہ السلام نے

طِیْنَتَهٗ بِمَوْضِعِ الْقَبْرِ الشَّرِیْفِ وَالْمِنْبَرِ الْعَالِی الْمُنِیْفِ وَوَضَعَ جِبْرَآءِیْلُ

اس مقدس خمیر کو قبر شریف والی جگہ میں اور بلند مرتبت منبر کے مقام پر اور رکھا جبرئیل علیہ السلام نے

طِیْنَتَهٗ بِاَشْرَفِ بِقَاعِ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ بَعْدَ اَنْ طَافَ بِهَا عَلٰی جَمِیْعِ

آپ کی طینت خمیر کو آسمانوں اور زمین کے قطعات میں سے افضل ترین قطعہ میں بعد اس کے کہ اسے طواف کرایا تمام

الْمَخْلُوْقَاتِ وَقَبَضَ جِبْرَآءِیْلُ تِلْكَ الطِّیْنَةَ الشَّهِیْرَةَ وَهِیَ بَیْضَآءُ مُنِیْرَةٌ

مخلوقات پر اور جبرئیل علیہ السلام نے اپنی مٹھی میں لیا اس معروف و مشہور طینت کو جبکہ وہ سفید نورانی تھی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ طَافَتِ

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کے خمیر

الْمَلٰٓئِکَةُ بِطِیْنَتِهٖ حَوْلَ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ وَالْکُرْسِیِّ الْکَرِیْمِ وَطَافَتِ الْمَلٰٓئِکَةُ

کو سیر کرائی ملائکہ نے عرش اعظم اور کرسی اکرم کے گرد۔ اور سیر کرائی ملائکہ نے

بِطِیْنَتِهٖ فِیْ کُلِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِیْنَ وَفِیْ مَعَاقِلِ الْعِزِّ وَالتَّمْکِیْنِ وَعُجِنَتْ

آپ کے (لباس بشری کے) جوہر کو تمام آسمانوں اور زمینوں میں اور عزت و تمکنت کے مقامات قرار اور خزائن میں اور گوندھی گئی

طِیْنَتُهٗ بِمَآءِ التَّسْنِیْمِ وَغُمِسَتْ فِیْ مَعِیْنِ جَنَّاتِ النَّعِیْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

آپ کی طینت بشری تسنیم کے پانیوں کے ساتھ۔ اور اسے غوطے دیئے گئے جنات نعیم کے صاف ستھرے پانیوں میں۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ بَدَءَ اللّٰهُ بِخَلْقِ

و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جس (آقا) کے نور کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے آغاز و افتتاح فرمایا

نُوْرِهٖ وَخَتَمَ قَبْلَ خُرُوْجِ الْخَلْقِ مِنَ الْعَدَمِ ۘ وَلَمَّآ اَرَادَ اللّٰهُ خَلْقَ الْاَنَامِ

مخلوق کے عدم سے نکلنے سے قبل اور آپ کے ساتھ ہی ختم فرمایا (سلسلۂ نبوت کو) اور جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا

بَدَءَ بِخَلْقِ نُوْرِهٖ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَلَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرَهٗ وَسَوَّاهُ اَعْلَنَ

تو ابتداء کی آپ کے نور کی تخلیق سے (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو پیدا کیا اور اس کی تکمیل صورت فرمائی

بِالسُّجُوْدِ لِمَوْلَاهُ وَاَکْثَرَ تَسْبِیْحَهٗ وَدُعَاهُ وَلَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ الْمَبْرُوْرَ

تو آپ نے علانیہ سجدہ کیا اپنے مولیٰ کے لیے اور اس کی بہت زیادہ تسبیح کی اور اس سے دعا کی اور جب اللہ تعالیٰ نے مقبول بندے

اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ذٰلِكَ النُّوْرَ وَمِنْ اَجْلِ اَنْوَارِهِ الْمُتَدَارِکَةِ سَجَدَ لِاٰدَمَ

آدم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ان پر اس نور کے (عکس کو) بطور لباس و خلعت کے اور آپ ہی کے محیط انوار کی وجہ سے سجدہ کیا

الْمَلٰٓئِکَةُ وَکَانَ نُوْرُهٗ یَتَلَاْلَاُ فِیْ ظَهْرِ اٰدَمَ وَعَرَّفَ اللّٰهُ الْمَلٰٓئِکَةَ

ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو۔ اور آپ کا نور ان کی پشت انور سے جھلکتا (چمکتا) تھا اور جتلایا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو

فَضْلَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّعْرَفَ اٰدَمُ وَنَسْلُهٗ وَكَانَ اٰدَمُ يَتَعَجَّبُ مِنْ كَثْرَةِ

آپ کا فضل وشرف قبل اس کے کہ پہچانے جاتے آدم علیہ السلام اوران کی نسل اور آدم علیہ السلام تعجب کرتے تھے بکثرت

نَظَرِ الْمَلٰٓئِكَةِ اِلَيْهِ بِالْعُيُوْنِ مُنْذُ اَوْدَعَهُ اللّٰهُ نُوْرَهُ الْمَكْنُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

ملائکہ کے ان کی طرف آنکھیں اٹھاکر دیکھنے سے جب سے کہ اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیا آپکے نور مکنون ومستور کو ان میں۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصُّوْرَةِ الْمُقَدَّسَةِ

وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر جو آقا مالک ہیں ایسی صورت مقدسہ کے

الْمُنَزَّلَةِ مِنْ سَمَآءِ قُدْسِ غَيْبِ الْهُوِيَّةِ الْبَاطِنَةِ الْفَاتِحَةِ بِمِفْتَاحِهَا

جو نازل کی گئی ہے ہویت باطنہ کے مخفی آسمان مقدس سے کہ وہ صورت کھولنے والی ہے خدا داد مفتاح نورانی کے

الْاِلٰهِيِّ لِاَبْوَابِ الْوُجُوْدِ الْقَآئِمِ بِهَا مِنْ مَّطْلَعِ ظُهُوْرِهَا الْقَدِيْمِ اِلَى اسْتِوَآءِ

ساتھ اس وجود کے ابواب کو جو اس صورت کی بدولت قائم وبرقرار ہے اس کے ظہور قدیم کے آغاز سے لے کر اس کے بکثرت

اِظْهَارِهَا لِلْكَلِمٰتِ التَّآمَّاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

کلمات تامہ کو ظاہر کرنے تک ۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِالَّذِىْ سَاَلَ اٰدَمُ رَبَّهٗ عَنْ ذٰلِكَ النُّوْرِ وَالضِّيَآءِ

آپ کی آل اطہار پر کہ جس آقا کا شان یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے آپکے اس نور وضیاء کے متعلق دریافت کیا تو اس

فَنَادَاهُ رَبُّهٗ ذٰلِكَ نُوْرُ خَاتَمِ الرُّسُلِ وَالْاَنْبِيَآءِ وَكَوَّنَهُ اللّٰهُ مِنْ نُّوْرِهِ الْمُبِيْنِ

نے فرمایا کہ وہ خاتم الرسل اور آخری الزمان نبی کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نور مبین کے عکس وپرتو سے پیدا فرمایا

وَاٰدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَالطِّيْنِ وَانْتَقَلَ نُوْرُهٗ اِلٰى وَجْهِ اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّخْلُقَ

جبکہ آدم علیہ السلام ابھی آب وگل میں تھے ۔ اور آپ کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی کی طرف منتقل ہوا قبل اس کے کہ پیدا کرے

اللّٰهُ الْعَوَالِمَ وَانْتَقَلَ نُوْرُهُ الْبَاهِرُ مِنْ كُلِّ صُلْبٍ طَيِّبٍ اِلٰى كُلِّ رَحِمٍ

اللہ تعالیٰ جہانوں کو۔ اور منتقل ہوا آپ کا روشن نور ہر پاکیزہ پشت سے طرف ہر پاک رحم کے۔

طَاهِرٍ وَّانْتَقَلَ نُوْرُهٗ وَاسْتَوٰى مِنْ وَّجْهِ اٰدَمَ اِلٰى وَجْهِ اُمِّنَا حَوَّآءَ وَ

اور منتقل ہوا آپ کا نور اقدس اور سیدھا چلا آدم کی پیشانی سے ہماری ماں حواؑ کی پیشانی کی طرف اور

انْتَقَلَ نُوْرُهٗ اِلَى الْقَنَوَاتِ الطَّاهِرَةِ وَالْاَرْحَامِ الزَّكِيَّةِ الْفَاخِرَةِ وَلَمْ يَزَلْ

منتقل ہوا آپ کا نور انور پاکیزہ اصلاب اور پاکیزہ قابل فخر ارحام کی طرف اور ہمیشہ ظاہر

نُوْرُهٗ يَظْهَرُ فِىْ وُجُوْهِ اٰبَآئِهِ الْاَمَاجِدِ وَيَنْتَقِلُ مِنْ وَّاحِدٍ مِّنْهُمْ اِلٰى

اور نمایاں رہا آپ کا نور انور بزرگ آباء کے چہروں میں اور ان میں یکے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا

وَاحِدٍ وَّلَمْ يَزَلْ نُوْرُهٗ يَنْتَقِلُ بِاَمْرِ اللّٰهِ اِلٰى اَنِ اسْتَقَرَّ بِوَجْهِ اَبِيْهِ

اور ہمیشہ آپ کا نور منتقل ہوتا رہا اللہ تعالیٰ کے امر سے یہانتک کہ اس نے قرار پکڑا آپ کے والدگرامی عبداللہ کے چہرہ میں

عَبْدِ اللّٰهِ وَلَمَّا اسْتَقَرَّ نُوْرُهٗ فِىْ وَجْهِ اَبِيْهِ قَابَلَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ بِالتَّوْحِيْدِ

اور جب آپ کا نور آپ کے والد گرامی کی پیشانی میں قرار پذیر ہوا تو ملائکہ اس کے سامنے نمودار ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور

وَالتَّنْزِيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

اس کی نزاہت بیان کرتے ہوئے ۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

نِالَّذِىْ اَبْرَزَ اللّٰهُ مِنْ ظَهْرِ اَبِيْهِ لِلْوُجُوْدِ سَيِّدَ اَهْلِ الْكَرَمِ وَالْجُوْدِ وَاَبْرَزَ

کہ ظاہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کی پشت سے عالم وجود کی طرف اہل جود وکرم کے سردار کو۔ اور ظاہر فرمایا

اللّٰهُ مِنْ ظَهْرِ اَبِيْهِ لِلْوَرٰى خَيْرَ الْعِبَادِ طُرًّا وَّسَادَ بِهٖ عَبْدُ اللّٰهِ وَسَمَا

اللہ تعالیٰ آپکے والدگرامی کی پشت سے سب مخلوق کے لیے تمام بندوں سے بہترین عبد کو۔ اور ان کا باپ ہونے کی بدولت سیادت پائی عبداللہ نے

وَافْتَخَرَ الْاَرْضُ بِظُهُوْرِهٖ عَلَى السَّمَآءِ وَتَنَاهٰى لِاَبِيْهِ الشَّرَفُ الْاَصِيْلُ

اور بلند مرتبت ہوئے، اور فخر کیا زمین نے آپکے ظہور کی وجہ سے آسمان پر۔ اور انتہا کو پہنچ گیا ان کے والدگرامی کےلیے شرف اصیل اور دائمی

وَالْمَجْدُ الْاَثِيْلُ وَاَصْبَحَتْ قُرَيْشٌ فِىْ نَادِىْ اُمِّهٖ اٰمِنَةَ لَمَّا وَضَعَتْهُ وَهِىَ

مجد اور بزرگی۔ اور ہوگئے قریش امن پانے والے آپ کی والدہ ماجدہ کی مجلس اور سایہ عاطفت میں اور وہ اسم بامسمّٰی آمنہ ہے

اٰمِنَةٌ وَّاسْتَنَارَ بِهٖ بَدْرُ النُّبُوَّةِ وَاكْتَمَلَ وَبَلَغَتْ بِهٖ اُمُّهٗ غَايَةَ الْقَصْدِ وَالْاَمَلِ

اور چمک دمک پاگیا آپکے طفیل ماہتاب نبوت اور کامل ہوگیا۔ اور رسائی پالی آپ کی بدولت آپ کی والدہ نے منتہائے مقصود اور غایت امل وآرزو تک

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِالَّذِىْ عَلَا

اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جس (آقا) کی سرداری کا

نَجْمُ سِيَادَتِهٖ وَسَمَا فِيْ آفَاقِ الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ وَتَمَّ بِهٖ لِاَبَوَيْهِ كُلُّ

ستارا بلندیوں پر پہنچا۔ اور آسمان و زمین کے اطراف و آفاق میں بلند ہوا اور کامل و مکمل ہو گیا بسبب آپکے آپکے والدین کے لیے

فَخْرٍ وَّمَجَادَةٍ بِطُلُوْعِ نَجْمِ السَّعَادَةِ وَاسْتَنَارَتْ بِنُوْرِهِ النَّيِّرَاتُ وَمَا حَوَتْهُ

ہر فخر اور بزرگی بسبب طلوع ہونے اس نجم سعادت کے۔ اور روشن ہو گئے آپ کے نور انور سے اجرام نورانیہ اور ہر وہ شئی جس کو

اَقْطَارُ السَّمٰوٰتِ وَتَزَيَّنَتْ بِظُهُوْرِهِ الدُّنْيَا وَحَلَّ مِنَ الشَّرَفِ اَعْلٰى مَرْتَبَةٍ

آسمانوں کے اطراف و جوانب گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اور مزین و آراستہ ہو گئی آپکے ظہور سے ساری دنیا اور آپ متمکن ہوئے (گھیرے میں لیے ہوئے ہیں) افضل و شرف کے بلند ترین

عُلْيَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ

مقام پر اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل اطہار پر جو (آقا)

هُوَ زَعِيْمُ الْاَرْكَانِ وَوُلِدَ مِنَ الشَّهْرِ التَّاسِعِ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ

قائد ہیں ارکان (ولایت خداوند تعالےٰ) کے۔ اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی نانویں مہینہ میں طوفان

وَسِتِّمِائَةٍ وَّثَلٰثَةِ اٰلَافٍ لِّلطُّوْفَانِ وَوُلِدَ قَبْلَ انْصِدَاعِ الْفَجْرِ فِيْ شَهْرِ

نوح علیہ السلام (کے بعد) تین ہزار چھ سو پچھترویں سال میں اور آپ پیدا ہوئے صبح صادق کے پھوٹنے سے قبل

بُرْجِ الْحَمَلِ بِطَالِعِ الْقَمَرِ وَوُلِدَ فِيْ عِشْرِيْنَ مِنْ اِبْرِيْلَ مِنْ عَامِ اثْنَيْنِ

برج حمل والے مہینہ میں طالع قمر کے دوران۔ اور آپ پیدا ہوئے بیس ماہ ابریل کو تاریخ اسکندر سے

وَثَمَانِيْنَ وَثَمَانِ مِائَةٍ مِّنْ تَارِيْخِ الْاِسْكَنْدَرِ وَوُلِدَ وَالشَّمْسُ بِاَوَّلِ

آٹھ سو بیاسی سال پر۔ اور آپ جس وقت پیدا ہوئے سورج برج ثور کے ابتدائی حصہ میں تھا

الثَّوْرِ وَالزُّهْرَةُ فِيْ وَسْطِهٖ بِالْحَمَلِ وَالْقَمَرُ فِي الْاَسَدِ وَوُلِدَ قَبْلَ

اور زہرہ برج ثور کے اندر تھا مگر برج حمل کے قریب تر تھا اور قمر برج اسد میں تھا۔ اور پیدا ہوئے

الْهِجْرَةِ بِثَلَاثٍ وَّخَمْسِيْنَ سَنَةً هِلَالِيَّةَ الْعَدَدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آنحضرت ہجرت سے ترپن سال قبل قمری اعداد و شمار کے اعتبار سے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ وُلِدَ فِي السَّاعَةِ

ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر وہ آقا جو پیدا ہوئے سوموار کی رات دسویں

الْعَاشِرَةِ مِنْ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ وَاعْتَدَلَ لِاثْنَيْ عَشَرَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ

(اور اعتدال پذیر ہوئے) جب کہ گزر چکی تھیں بارہ راتیں

شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ وَوُلِدَ لِثَلَاثٍ وَّسِتِّيْنَ وَاَرْبَعِ مِائَةٍ وَّاَرْبَعَةِ

ماہ ربیع الاوّل سے اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی چار سو تریسٹھ اور چار

اٰلَافِ سَنَةٍ مِّنْ مَّهْبَطِ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْجَنَّةِ وَوُلِدَ بِاَوَّلِ

ہزار سال سال گزرنے پر آدم علیہ السلام کے جنت سے اترنے کے بعد۔ اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی

الْحُوْتِ فِي السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ مِنْ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ وَوُلِدَ بِتِلْكَ الطَّوَالِعِ

اول حوت میں سوموار کی رات کی دسویں ساعت میں۔ اور آپ ان سیارگان کے ان مواقع پر موجود ہونے کے دوران پیدا ہوئے

وَهِيَ طَوَالِعُ النَّبِيِّيْنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهٗ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ

اور یہی طوالع اور ستارے ہیں انبیاء کے صلوات اللہ و سلام علیہ و علیہم

اَجْمَعِيْنَ ۝ وَوُلِدَ فِيْ عَامِ الْفِيْلِ وَالشَّمْسُ عَلٰى اَطْرَافِ النَّخِيْلِ

اجمعین۔ اور پیدا ہوئے آپ عام فیل میں (جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی) جبکہ سورج (اہل کفر کا) کھجوروں کے سروں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ

پر تھا غروب ہونے کو تھا)۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا

لَمَّا اسْتَقَرَّ فِيْ بَطْنِ اُمِّهٖ وَاسْتَوٰى اَمَرَ اللّٰهُ الرِّضْوَانَ اَنْ يُّزَيِّنَ جَنَّةَ

قرار پذیر ہوئے والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں اور آپ کی جسمانی ساخت مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے رضوان جنت کو جنت الماویٰ سجانے

الْمَاْوٰى وَقِيْلَ لِاُمِّهٖ فِي الْمَنَامِ حَمَلْتِ بِخَيْرِ الْاَنَامِ وَنُوْدِيَتْ اُمُّهٗ

کا حکم دیا اور آپ کی والدہ ماجدہ کو خواب میں کہا گیا کہ تم خیر الانام کے ساتھ حاملہ ہو چکی ہو اور آپ کی والدہ کو نداء دی گئی

بِصَوْتٍ تَسْمَعُهٗ طُوْبٰى لِثَدْيٍ يُّرْضِعُهٗ وَقَالَ الْاَنْبِيَآءُ فِي الْمَنَامِ لِاُمِّهٖ

ایسی آواز کے ساتھ جسے وہ سن رہی تھیں۔ مبارک باد دی ہے اس پستان کیلئے جو اس محبوب کو دودھ پلائے گا۔ اور انبیاء علیہم السلام نے کہا خواب میں

حَمَلْتِ بِشَمْسِ الْفَلَاحِ وَنَجْمِهٖ وَلَمَّا وَضَعَتْهُ اُمُّهٗ عَزِيْزًا مُّكَرَّمًا اَوْمٰى

آپ کی والدہ ماجدہ کو تم حاملہ ہو گئی ہو فلاح و کامیابی کے آفتاب اور نجم کے ساتھ اور جب جنم دیا انہیں ان کی امی جان نے دراں حالیکہ وہ معزز اور

باصبعه الى السّماء ولمّا اشرق نوره فى الوجود اعلن لله بالسّجود وملأ

مکرم تھے تو اشارہ فرمایا آپنے اپنی انگلی کے ساتھ آسمان کی طرف اور جب ضو فگن ہوا آپ کا نور عالم وجود میں اللہ کیلئے اعلان کیا ساتھ سجدہ کے اور معمور کر

الحرم عند مولده نورا وّرقص البيت الحرام عند وضعه فرحا

دیا گیا حرم کعبہ آپ کے وقت ولادت میں نور کے ساتھ۔ اور وجد و رقص کیا بیت حرام نے آپ کی پیدائش کے وقت فرحت و سرور

وّسرورا وجعل الله دينه مستعليا لا مستعلى وقالت له الكائنات

کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالےٰ نے آپکے دین کو بلند اور غالب فرمایا اور پست و مغلوب نہ بنایا۔ اور سب کائنات نے آپ کو وقت

عند ولادته اهلا بالحبيب وسهلا وولد ساجدا الى الارض رافعا

ولادت عرض کیا۔ حبیب مکرم کے لیے مرحبا اور خوش آمدید ہو۔ اور آپ پیدا ہو کر زمین پر سجدہ ریز ہوئے (پھر)

راسه الى السّماء وولد فى خوارق عاداته وايات بيّناته اللّٰهمّ

آسمان کی طرف سر ناز کو بلند کرنے والے تھے۔ اور پیدا ہوئے طرح طرح کے خرق عادات معجزات اور آیات بینہ کے ساتھ۔ اے اللہ

صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وّعلى ال سيّدنا محمّد الّذى سمّاه

صلوٰۃ اور سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کو اللہ تعالےٰ نے موسوم فرمایا

الله ذكرا رّسولا وولد مختونا مّكحولا وولد نظيفا مّقطوع السّرّة

ذکر اور رسول "کے ساتھ۔ اور آپ پیدا ہوئے ختنہ شدہ اور سرمہ لگائے ہوئے تھے۔ صاف ستھرے تھے اور ناف بریدہ تھے

ونزل عليه جبرائيل اربعة وّعشرين الف مرّة وّتطاولت

اور آپ پر جبرئیل علیہ السلام چوبیس ہزار مرتبہ نازل ہوئے اور گردنیں اٹھائیں (دیدار کے لیے)

لمولده الجبال والاكنان ومال عند مولده البيت والاركان

آپ کی ولادت کے وقت پہاڑوں نے اور بستیوں میں رہنے والوں نے۔ اور جھک گئے وقت ولادت میں بیت اللہ شریف اور اسکے ارکان

وبيمن طلعته المباركة وسعادته وضع الفلك لولادته واهتزّ

اور آپکے رخ زیبا کی طلعت مبارک کی برکت و سعادت کے طفیل آسمان (زمین کی طرف) جھک گیا وقت ولادت میں اور لرز گیا

لمولده ايوان كسرٰى وعاينت امّه عند وضعه اعلام بصرٰى و

آپکے وقت ولادت میں ایوان کسریٰ اور مشاہدہ کیا آپکے وقت ولادت میں آپ کی والدہ ماجدہ نے بصریٰ کے محلات اور بلند مقامات کا اور

مسح بطن امّه بجناح طائر ابيض فزال عنها الرّوع ونهض

مس کیا گیا آپ کی امی جان کا بطن اقدس سفید پرندے کے پر کے ساتھ پس ان سے زائل اور کافور ہو گیا خوف اور اندیشہ

وردّ لامّه من طبقات السّمٰوت بعد ان ابدته الملٰئكة لجميع

اور آپ لوٹائے گئے والدہ ماجدہ کی طرف افلاک کے طبقات پر سے بعد اس کے کہ ظاہر کیا آپ کو ملائکہ نے تمام

المخلوقات ورات امّه عند وضعه ثلاثة اعلام علما بالمشرق

مخلوقات پر اور دیکھے آپ کی امی جان نے آپ کے وقت ولادت میں تین جھنڈے جن میں ایک علم مشرق میں نصب تھا

وعلما بالمغرب وعلما بالبيت الحرام اللّٰهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا

دوسرا مغرب میں اور تیسرا بیت حرام پر نصب تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ہمارے آقا

محمّد وّعلى ال سيّدنا محمّد الّذى رات امّه حين وضعته وظهر

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کی امی جان نے آپ کو جنم دیتے وقت دیکھا کہ نمودار ہوا ہے

قطعة مّن الطّير تظلّه مناقيرها من الزّمرّد واجنحتها من الياقوت

پرندوں کا ایک جھنڈ ان پر سایہ فگن ہوتے ہوئے جن کی چونچیں زمرد سے تھیں اور ان کے پر یاقوت سرخ

الاحمر ولمّا وضعته امّه وبدا قبض على مفتاح النّبوّة والنّصر

سے تھے اور جب جنا آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور آپ (عالم اجسام میں) ظاہر ہوئے تو آپنے قبضے میں لے لیا نبوت و نصرت

والهدٰى ووضعته امّه كالغصن الرّطب اضاء لها بين المشرق

اور ہدایت کی چابیوں کو اور جنم دیا آپ کو والدہ ماجدہ نے مانند شاخ تر کے جبکہ روشن کر دیا آپ نے ان کے لیے

والمغرب وغسّل بطشت مّن الفردوس واصبحت اصنام

مشرق سے مغرب تک کو اور آپ کو غسل دیا گیا جنت الفردوس کے طشت میں ہو گئے۔

الدّنيا عند ولادته منكّسة الرّءوس ورفعته عند وضعه

دنیا بھر کے بت آپ کی ولادت باسعادت کے وقت سرنگوں۔ اور اٹھا لیا ولادت کے بعد آپ کو

السّحابة واخفته عن الاهل والقرابة ولمّا ظهرت نسمته

بادل نے اور آپ کو غائب کر دیا آپ کے اہل اور قرابتداروں سے۔ اور جب نمودار ہوا آپ کا شخص مکرم

الْكَرِيْمَةُ اُلْقِيَتْ عَلَيْهِ تَمِيْمَةٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

تو ڈالے گئے آپ کو تعویذات ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل ہو ہمارے آقا محمد پر

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ لَمَّا وَضَعَتْهُ اُمُّهٗ عَلَى الثَّرٰى لَفَّهٗ

اور آپ کی آل پر کہ جنہیں امی جان نے جب جنم دیا زمین پر لپیٹ لیا انہیں

جِبْرَآئِيْلُ فِىْ حَرِيْرَةٍ خَضْرَآءَ وَطِيْفَ بِطِيْنَتِهٖ جَنَّاتُ النَّعِيْمِ

جبرئیل علیہ السلام نے سبز ریشم کے لباس میں۔ اور پھرایا گیا آپ کے خمیر بدنی کو جنات النعیم میں

وَغُمِسَتْ طِيْنَتُهٗ فِىْ اَنْهَارِ التَّسْنِيْمِ ط وَطِيْفَ بِطِيْنَتِهٖ وَلَهَا عَرَقٌ

اور نہلایا گیا آپکے خمیر مقدس کو تسنیم کی نہروں میں۔ اور آپ کی طینت کو طواف کرایا گیا اس حال میں کہ

يَّسِيْلُ فَخُلِقَ مِنْهَا كُلُّ نَبِىٍّ جَلِيْلٍ ط وَحَفَّتْ بِهِ الْمَلٰٓئِكَةُ الْاَبْرَارُ

اس سے پسینہ ٹپک رہا تھا تو اس کے ہر قطرے سے عظیم وجلیل نبی کو پیدا کیا گیا اور ڈھانپ لیا انہیں ملائکہ ابرار نے

يَحْجُبُوْنَهٗ عَنِ الْاَغْيَارِ وَرَنَّ اِبْلِيْسُ اللَّعِيْنُ عِنْدَ مَوْلِدِهٖ رَنَّةً سَمِعَهَا

جو انھیں حجاب میں رکھے ہوئے تھے اغیار (کی نگاہوں) سے۔ اور رویا ابلیس لعین آپ کی ولادت کے وقت ایسی آواز کے ساتھ

مِنْهُ الْخَلَآئِقُ كُلُّهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ وَالْجِنَّةِ وَبَشَّرَتْ لِاُمِّهِ الْحُوْرُ بِظُهُوْرِ

جسے سنا تمام مخلوقات یعنی انسانوں اور جنات نے۔ اور بشارتیں دیں آپ کی والدہ کو حوروں نے ساتھ ظاہر ہوتے

غُرَّةِ الْيُمْنِ وَالنُّوْرِ وَوُلِدَ مَدْهُوْنًا مُّعَطَّرًا طَاهِرًا مُّطَهَّرًا وَوُلِدَ وَ

یمن وبرکت اور نور وضیاء کی واضح علامت کے۔ اور پیدا کئے گئے اس شان کے ساتھ کہ تیل اور عطر لگا ہوا تھا اور طاہر ومطہر تھے اور آپ اس انداز

نُوْرُ وَجْهِهٖ يَتَوَقَّدُ وَمَا وُلِدَ قَطُّ مِثْلُهٗ فِى الْوُجُوْدِ وَلَا يُوْلَدُ اَللّٰهُمَّ

میں پیدا ہوئے کہ چہرہ انور کا نور چمک رہا تھا۔ اور نہ کوئی پیدا ہوا کبھی ان کی مانند عالم وجود میں اور نہ ہی پیدا ہوگا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ حَمَلَتْ

صلوٰۃ وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کے ساتھ حاملہ ہوئیں

بِهٖ اُمُّهٗ بِلَا نَصَبٍ وَّلَا تَعَبٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ وَّخَفَقَتْ

آپ کی والدہ ماجدہ بغیر کسی مشقت اور کلفت کے ماہ رجب کی شب جمعہ میں ۔ اور لہرائے

فِى الْاَكْوَانِ اَعْلَامُ عُلُوْمِهٖ مُبَشِّرَاتٍ بِظُهُوْرِهٖ وَقُدُوْمِهٖ وَنَادَى الْبَشِيْرُ

تمام جہانوں میں آپکے علوم کے اعلام درآنحالیکہ وہ بشارت دے رہے تھے آپکے ظہور اور تشریف آوری کی اور ندا دی آپ کی آمد کا مژدہ

بِهٖ فِى الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ ط وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ وَنَادٰى

سنانے والے نے سب مخلوقات میں۔ اور نہیں مبعوث فرمایا ہم نے آپ کو مگر سراسر رحمت واسطے عالمین کے۔ اور نداء دی آپ کی والدہ

اُمَّهٗ كُلُّ نَبِىٍّ اِهْتَدٰى اِذَا وَضَعْتِ شَمْسَ الْفَلَاحِ وَالْهُدٰى فَسَمِّيْهِ

کو ہر نبی صاحب ہدایت نے "جب اس آفتاب فلاح و ہدیٰ کو جنم دینا تو اس کا نام

مُحَمَّدًا ط وَجَآءَ لِاُمِّهٖ اٰدَمُ فِى الْمَنَامِ وَهَنَّاَهَا وَسَلَّمَ عَلٰٓى اُمِّهِ الْكَلِيْمُ

محمد رکھنا۔ اور آئے آپ کی والدہ کے پاس آدم علیہ السلام خواب میں اور انھیں مبارکباد دی اور سلام کیا کلیم اللہ نے آپ کی

فِى الْمَنَامِ وَحَيَّاهَا وَقِيْلَ لِاُمِّهٖ حِيْنَ كَمَّلَ اللّٰهُ حَمْلَهَا وَاَتَمَّهٗ

امی جان کو خواب میں اور ہدیۂ تبریک پیش کیا۔ اور کہا گیا آپ کی والدہ سے جب امر خداوندتعالیٰ سے ان کا حمل کامل اور مکمل ہوگیا۔ تو حاملہ

حَمَلْتِ بِنَبِىِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَهُوَ الْهَادِىْ بِطُرُقِ

ہوئی ہے نبی رحمت کے ساتھ اور اس امت کے آقا و مولیٰ کے ساتھ اور وہی رہنمائی فرمانے والے ہیں

الْبَيَانِ ط وَحَضَرَتْ لِمَوْلِدِهٖ اٰسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ وَّمَرْيَمُ ابْنَتُ

بیان و اظہار کے طریقوں کی طرف۔ اور حاضر ہوئیں آپ کے وقت ولادت میں آسیہ بنت مزاحم۔ اور مریم بنت

عِمْرَانَ وَطَافَتْ بِهِ الْمَلٰٓئِكَةُ جَمِيْعَ الْاَقْطَارِ وَعَرَّفَتْ بِهِ الْمَلَآئِكَةُ اَهْلَ

عمران۔ اور طواف کرایا انھیں ملائکہ نے تمام اطراف میں۔ اور پہچان کرائی ان کی ملائکہ نے تمام ساکنین سموات

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْبِحَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى

و ارض اور ساکنین بحر کو۔ اے اللہ درود اور سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ طَافَتْ بِهِ الْمَلٰٓئِكَةُ عَلَى الْكَوْنَيْنِ وَرَدَّتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ

کی آل امجاد پر جس مخدوم کو طواف کرایا ملائکہ نے کونین پر اور لوٹایا انھیں ان کی مادر محترمہ کی طرف

لِاُمِّهٖ فِىْ اَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ الْعَيْنِ ط وَسَادَ فِى الْمَهْدِ عَلَى الْغِلْمَانِ وَحَضَرَتْ

پلک جھپکنے سے بھی پہلے اور جلدی۔ اور عالم طفولیت میں سیادت حاصل کرلی تمام اطفال وغلمان پر اور حاضر ہوئی آپ کی

لِاُمِّهٖ عِنْدَ وَضْعِهٖ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْحُوْرِ الْحِسَانِ ط وَكَمُلَ بِهِ السُّعُوْدُ وَتَشَرَّفَ

والدہ کے پاس وقت ولادت میں حسین ترین حوروں کی ایک جماعت اور کمال پذیر ہوئی بسبب آپکے نیک بختی اور ارباب شرافت وفضیلت بن

بِهِ الْاٰبَآءُ وَالْجُدُوْدُ وَنَادَتْهُ الْكَآئِنَاتُ شَرْقًا وَّغَرْبًا اَهْلًا بِالْحَبِيْبِ وَمَرْحَبًا وَ

گئے آپ کی بدولت آپ کے آباؤ اجداد۔ اور کائنات کے ہر فرد نے آپ کو شرق وغرب سے پکار کر اور باآواز بلند کہا "حبیب کا تشریف لانا مبارک ہو"

كَانَ طَيِّبَ الْاَرْدَانِ وَيَشِبُّ شَبَابًا لَّا يَشْبَهُ بِهِ الْغِلْمَانُ وَكَانَ يَشِبُّ فِي الْيَوْمِ

اور آپ پاکیزہ آستینوں والے تھے اور آپ ایسے انداز سے نشوونما پارہے تھے کہ جو عام بچوں کے مماثل نہیں تھی۔ اور آپ نمو

شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي الشَّهْرِ وَيَشِبُّ فِي الشَّهْرِ شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي السَّنَةِ وَكَانَ لَهٗ

پاتے تھے ایک دن میں جتنی نمو پاتے تھے دوسرے بچے ایک ماہ میں اور مہینہ میں اسقدر بڑھتے تھے جس قدر دوسرے بچے سال میں

الشَّانُ الْجَسِيْمُ وَالنَّبَاُ الْعَظِيْمُ وَخُلِعَتْ عَلَيْهِ مَلَابِسُ الْاِجْلَالِ وَالتَّعْظِيْمِ ط

بڑھتے تھے اور آپ کی شان بلند وبالا تھی اور آپ کا عرفان عظیم تھا۔ اور آپ کو نوازا گیا تھا اجلال وتعظیم کی خلعتوں کے ساتھ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَتِ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمدؐ پر اور ان کی آل پر جس (محبوب کریم) کو کواکب سماویہ

الْكَوَاكِبُ تُؤْنِسُهٗ فِي الظَّلَامِ ط وَكَانَ عَيْنُ اللّٰهِ تَحْرُسُهٗ فِي الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ وَكَانَتِ

انس مہیا کرتے تھے تاریکیوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ان کی حفاظت فرماتی تھی ان کی بیداری اور نیند کی حالت میں اور

الْمَلٰٓئِكَةُ تَقِفُ صُفُوْفًا تَنْظُرُ فِي نُوْرِهٖ وَهُوَ فِي ظَهْرِ اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُخْلَقَ

ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوتے تھے ان کے نور کا نظارہ کرتے ہوئے جبکہ وہ آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے قبل اس کے کہ پیدا کئے

الْعَوَالِمُ وَاَنْشَاَهُ اللّٰهُ فِيْٓ اَشْرَفِ بِلَادِهٖ مِنْ اَكْرَمِ عِبَادِهٖ وَلَمَّا حَمَلَتْ اُمُّهٗ

جائیں سبھی عالم اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا شرف وفضل میں سب سے اعلیٰ بلد اور شہر میں اور سب سے کرامت وعزت والے بندوں سے اور جب

عَلَيْهِ السَّلَامُ نَطَقَتْ كُلُّ دَآبَّةٍ لِّقُرَيْشٍ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَغَرَسَهُ اللّٰهُ

آنحضرت کی والدہ ماجدہ آپ کے ساتھ حاملہ ہوئیں تو گویا اور ناطق ہوا قریش کا ہر جانور بیت حرام (اور مکہ شریف) میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپکے شجرِ وجود کو اگایا

مِنْ اَطْيَبِ الْمَنَاصِبِ وَانْتَخَبَهُ اللّٰهُ مِنْ ظُهُوْرِ النُّجَبَآءِ وَبُطُوْنِ النَّجَآئِبِ

پاکیزہ تر مقام اور جنت سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا عمدہ لوگوں کی اصلاب سے اور عمدہ بیبیوں کے ارحام سے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ هُوَ طَلْعَةُ

اے اللہ رحمت اور سلامتی نازل فرما سیدنا محمد اور ان کی آل پر جو کہ جھلک ہیں

قَمَرِ الْوُجُوْدِ دَآئِرَةُ فَلَكِ السُّعُوْدِ وَاَشْرَقَتْ بِظُهُوْرِهِ الْغَيَاهِبُ وَالْحَنَادِسُ وَ

قمر وجود کی اور دائرہ ہیں سعادت مندوں کے فلک کا کر جگمگا اٹھے ان کے ظہور سے ظلمات اور تاریکیاں اور سرنگوں

تَسَاقَطَتْ بِبِعْثَتِهِ الْاَصْنَامُ مِنْ اَعْلَى الْمَجَالِسِ وَاَشْرَقَتْ بِظُهُوْرِهِ الْاَرْضُ وَ

ہو گئے آپ کی بعثت کی وجہ سے اصنام واوثان اپنے بلند مقامات سے۔ اور چمک اٹھی زمین اور اس کی گہرائی آپکے ظہور سے

ثَرَاهَا وَتَهَدَّمَتْ بِبِعْثَتِهِ صَوَامِعُ الْكُهَّانِ وَزَالَ بِنَآئُهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور منہدم ہو گئیں آپ کی بعثت کی وجہ سے کاہنوں کی عبادت گاہیں اور نابود ہو گئیں ان کی بنائیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَخَذَ اللّٰهُ عَلٰٓى اٰدَمَ الْمَوَاثِيْقَ وَالْعُهُوْدَ اَنْ

سیدنا محمدؐ اور آپ کی آل پر جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عہد ومیثاق لیے آدم علیہ السلام سے کہ نہ

لَّا يَدَعَ نُوْرَهٗ اِلَّا فِيْٓ اَهْلِ الْكَرَمِ وَالْجُوْدِ وَلَمْ يَزَلْ نُوْرُهٗ يَنْتَقِلُ مِنْ ظُهُوْرِ

سپرد کریں ان کا نور مگر اہل کرم اور اہل سخا میں اور ہمیشہ ان کا نور منتقل ہوتا رہا بزرگ مردوں کی پشتوں سے

الْاَخْيَارِ اِلٰى بُطُوْنِ الْخَيِّرَاتِ وَالْاَحْرَارِ وَاَوْصَلَ نُوْرَهٗ يَدُ الشَّرَفِ وَالْمَكَارِمِ

بزرگ اور عظمت والی عورتوں کے ارحام کی طرف اور پہنچایا آپکے نور کو (اللہ تعالیٰ کے) شرف اور کرامت والے دست قدرت نے

اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ وَلَبِسَ بِهٖ عَبْدُ اللّٰهِ ثَوْبَ الْبَهَآءِ وَ

طرف عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم کے۔ اور پہنا بسبب اس نور کے عبد اللہ نے حسن وملاحت کا لباس

الْمَلَاحَةِ فَنَطَقَ بِالْبَيَانِ وَالْفَصَاحَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

پس وہ ناطق ہوئے واضح بیان اور فصیح کلام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نُوْدِيَ عَبْدُ اللّٰهِ فِيْهِ اَدِّ مَا حَمَلْتَ مِنَ الْوَدِيْعَةِ اِلٰٓى اَحْشَآءِ

جن کے متعلق حضرت عبداللہ کو پکار کر کہا گیا کہ ادا کر وہ امانت جو تو نے اٹھا رکھی ہے اور پہنچا اس (نور) کو بلند

اٰمِنَةَ الْمَنِيْعَةِ مِنْ اٰدَمَ وَحَوَّآءَ اِلٰهًا لِلّٰهِ بِالْوُدُوْدِ وِدَادِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اَللّٰهُمَّ

مرتبت آمنہ کے بطن اور رحم کی طرف (جو پہنچی تھے) آدم وحوا کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر اللہ ودود کی مودت ومحبت کے ساتھ۔ اے اللہ

عَلِّمْنِي عِلْمًا كَامِلًا نَافِعًا بِعُلُومِ اللَّدُنِّيَّةِ بِوِرَاثَةِ الْأَحْذَانِ مِنَ الْأَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ

مجھے عطا فرما علم کامل اور نافع علوم لدنیہ میں سے بطور وراثت اس ذات کے جو بے مثل ہے اس تمام نسل سے جو پاکیزہ اصلاب

وَالْأَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ لِجُودِ الْبُجُودِ فِي مَنَصَّةِ الْعُلٰى بِالْمَنَصَّةِ الْأَعْلٰى بِسِتْرِ بُرْدِ

اور پاکیزہ ارحام سے پیدا ہونے والی ہے۔ بسبب رحمت فرمانے قیام کے مراتب عالیہ والے بلند مقامات میں پردہ پوشی کرتے ہوئے ساتھ

الْمُلْحَفَةِ الْبِجَادِ الْيَمَانِيَّةِ الْإِيمَانِيَّةِ لِظُهُورِ الْأَنْوَارِ النُّورِ وَمَسْتُورِ الْمَسْرُورِ

ایسی وسیع چادر کے جو منقش یمانی اور ایمانی ہے۔ بسبب ظاہر ہونے انوار نورانیہ کے۔ اور پوشیدہ مسرتوں کے

الْمَوْفُورِ كُلُّ مَاسِوَى اللهِ بِحُكْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ أَعْطِنِي غَرَقًا فِي بَحْرِ عِرْفَانِ

جو محیط ہے تمام ماسوا اللہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اے اللہ مجھے عطا فرما توفیق مستغرق ہونے کی عرفان حق کے سمندر میں

الْحَقِّيِّ وَحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيِّ بِنُورِ ظُهُورِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور بحر حقیقت محمدیہ میں بطفیل ظاہر ہونے والے نور کے ان کے یوم ولادت میں اور رحمتیں نازل فرما سیدنا محمد پر

مُحَمَّدِنِ الَّذِي اسْتَنَارَ بِهِ الْكَوْنَيْنِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي بَادَرَتْ أُمُّهُ

جن کی بدولت دونوں جہان روشن ہو گئے۔ اور صلواۃ بھیج ہمارے آقا محمد پر کہ سبقت لے گئیں ان کی والدہ ماجدہ

عِنْدَ وِلَادَتِهِ بِوَادِ السَّعَادَةِ فِي الدَّارَيْنِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي

ان کی ولادت کے وقت دارین کی سعادتوں کی وادیوں کی طرف۔ اور رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد پر کہ جن کی

حَفَّتْ أُمَّهُ عِنْدَ وَضْعِهِ كُلُّ زُمَرِ الْمَلٰئِكَةِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي

والدہ کو ڈھانپ لیا انھیں جنم دیتے وقت ملائکہ کی تمام جماعتوں نے اور صلواۃ بھیج ہمارے آقا محمد پر کہ جب

لَمَّا اشْتَدَّ بِأُمِّهِ عِنْدَ وَضْعِهِ الظَّمَأُ سَقَاهَا اللهُ شَرْبَةً وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

آپ کی والدہ کو سخت پیاس لگی وقت ولادت کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو (عالم غیب سے) شربت پلایا۔ اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

الَّذِي أَنَسَ اللهُ أُمَّهُ عِنْدَ وَضْعِهِ بِنِسَاءٍ أَشْرَافٍ يُشْبِهْنَ نِسَاءَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ

کہ انس اور سکون مہیا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ کو انھیں جنم دیتے وقت ایسی بلند مرتبت عورتوں کے ساتھ جو بنی عبدمناف کی

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي مُدَّ لِأُمِّهِ دِيبَاجٌ وَأَنَارَتْ بِهِ الْآفَاقُ كَالزُّجَجِ

عورتوں کی مانند تھیں۔ اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جن کی والدہ ماجدہ کے لیے ریشمی چادر تانی گئی اور اس کے ذریعے آفاق روشن ہو گئے مثل

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي كَانَتِ الْمَلٰئِكَةُ عِنْدَ وَضْعِهِ وُقُوفًا يَنْظُرُونَ إِلٰى

چھٹ جانے بادلوں کے (رخ آفتاب سے)۔ اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر کہ ملائکہ ان کی ولادت کے وقت پرے جمائے کھڑے تھے دیکھتے تھے طرف

أُمِّهِ صُفُوفًا صُفُوفًا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي ظَهَرَ لِأُمِّهِ عِنْدَ وَضْعِهِ

ان کی والدہ ماجدہ کے صف بستہ۔ اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر کہ جن کی والدہ طاہرہ کے لیے ظاہر ہوئے آپ کی ولادت کے وقت

أُمُورٌ كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ كَامِنَةً فَتَرَوَّعَتْ مِنْهَا وَهِيَ مِنْهُ آمِنَةٌ وَصَلِّ عَلٰى

ایسے امور جو قبل ازیں ان سے مخفی تھے پس وہ خوفزدہ ہو گئیں۔ جبکہ وہ آپ کی برکت سے امن پانے والی تھیں۔ اور صلواۃ بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي فَتَحَ السَّعْدُ لِأُمِّهِ مُدْهِشَ بَابِهِ وَجَلَاهَا الْعِزُّ بِنُورِ

ہمارے سردار محمد علیہ السلام پر کہ جن کی والدہ کی سعادت مندی نے ان کے دروازے سے دہشتوں کو دور کر دیا اور انھیں عز و شرف نے جلا بخشی آپ کے

شِهَابِهِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي أَصْبَحَ قَدْرُ أُمِّهِ بِوِلَادَتِهِ مُعَظَّمًا وَدُرُّ

شہاب نور کے صدقے میں۔ اور صلواۃ بھیج ہمارے مولیٰ محمد پر کہ جن کی ولادت باسعادت کے باعث ان کی امی جان کی قدر و منزلت عظیم ہو گئی

الشَّرَفِ بِحُلِيِّهَا مُنَظَّمًا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي أَدْخَلَهُ رِضْوَانُ تَحْتَ

اور شرف و فضیلت کا موتی ان کے زیورات کی سلک میں پرو دیا گیا۔ اور رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد پر جنہیں رضوان جنت نے داخل کیا اپنے

جَنَاحِهِ فَأَلْهَمَهُ بِأَمْرِ اللهِ إِلٰى رُشْدِهِ وَصَلَاحِهِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي

پروں کے نیچے اور اللہ تعالیٰ کے امر سے آپ کی رہنمائی کی رشد اور بھلائی کی طرف اور درود بھیج ہمارے سردار محمد پر جو کہ

عَادَ إِلٰى أُمِّهِ وَالْأَنْوَارُ تَحُفُّهُ وَالْمَلٰئِكَةُ تَلْحَظُهُ وَتَكْنُفُهُ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

لوٹے اپنی والدہ ماجدہ کی طرف اس شان سے کہ انوار انھیں محیط تھے۔ ملائکہ ان کی طرف نظریں لگائے ہوئے تھے اور ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ اور درود بھیج ہمارے

الَّذِي عَادَ لِأُمِّهِ وَالْمِسْكُ يَعْبَقُ وَالْكَرَمُ حَشْوُ إِهَابِهِ وَرُدَّ إِلٰى أُمِّهِ وَقَدْ تَعَطَّرَتْ

محمد پر جو کہ لوٹے والدہ کی طرف درآنحالیکہ ان سے بوئے مشک مہک رہی تھی اور آپ سراپا جود و کرم بنے ہوئے تھے۔ اور آپ والدہ ماجدہ کی طرف لوٹائے گئے

أَرْدَانُهُ وَقَدْ شُدَّتْ أَرْكَانُهُ وَمُهِّدَ مِهَادُهُ وَمَكَانُهُ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

درآنحالیکہ آپ کی آستینیں عطر بیز تھیں۔ آپ کے اعضائے مبارکہ ریشمی کپڑے سے باندھے تھے۔ اور آپ کا بچھونا اور مسند استراحت تیار کی جا چکی تھی۔ اور درود بھیج ہمارے آقا

الَّذِي رُدَّ إِلٰى أُمِّهِ وَقَدْ لُفَّ فِي حَرِيرَةٍ خَضْرَاءَ يَنْبَعُ مِنْهَا الْمَاءُ الْعَذْبُ وَرُدَّ

محمد پر جو کہ والدہ ماجدہ کی طرف لوٹائے گئے اس حال میں کہ انہیں سبز ریشم میں لپیٹا گیا تھا جس سے آب شیریں ٹپک رہا تھا اور جو کہ امی جان کی طرف

اِلٰی اُمِّہٖ وَقَدْ قَبَضَ عَلٰی ثَلٰثِ مَفَاتِیْحَ مِنَ اللُّؤْلُؤِ الرَّطْبِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا

اس شان سے لوٹائے گئے کہ آپ لولوئے آبدار کی تین چابیوں کو ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے اور دُرود بھیج سیدنا

مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ وَقَفَ جِبْرَآئِیْلُ بَیْنَ یَدَیْہِ وَاَعْلَنَ رِضْوَانُ بِالسَّلَامِ عَلَیْہِ وَ

محمد پر کہ کھڑے ہوئے جبرئیل امین ان کے سامنے (تعظیم کے لیے) اور رضوان جنت نے ان کو علانیہ سلام پیش کیا اور

قَبَّلَہٗ بَیْنَ عَیْنَیْہِ وَبَادَرَ مِیْکَآئِیْلُ اِلٰی خِدْمَتِہٖ وَتَشَرَّفَ اِسْرَافِیْلُ بِزِیَارَتِہٖ

آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور جلدی سے پہنچے میکائیل ان کی بارگاہ میں، اور شرفیاب ہوئے اسرافیل آپ کی زیارت سے

وَقَدْ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِاَنْوَارِہٖ وَتَزَیَّنَ الْکَوْنُ بِطَالِعِ اَقْمَارِہٖ وَرُدَّ اِلٰٓی اُمِّہٖ مَحْفُوْفًا

اور جگمگا اٹھی زمین آپ کے انوار سے اور کائنات ان کے ماہتاب رخ کی طلعت سے مزین ہوئی۔ اور آپکو حضرت آمنہ کی طرف سے لوٹایا گیا جبکہ

بِالْیُمْنِ وَالْاِقْبَالِ وَتَحْرُسُہٗ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَعَرَجَتِ الْمَلٰٓئِکَۃُ بِاَعْلَامِہٖ

آپ یمن و برکت اور سعادت مندی سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اور (ملائکہ) آپ کی حفاظت و نگہبانی کرتے تھے ہر صبح اور شام اور بلندیوں کی طرف گئے

مُبَشِّرَاتٍ بِاَقْدَامِہٖ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ سُمِّیَ عَامُ وِلَادَتِہٖ عَامَ

ملائکہ ان کی اطلاعات کے ساتھ درآنحالیکہ بشارت دینے والے تھے ان کی تشریف آوری کے ساتھ۔ اور درود بھیج ہمارے سردار محمد پر کہ جنکی ولادت باسعادت کے سال کو

الْخَیْرِ وَالْبَرَکَۃِ وَالزَّیْنِ وَتَزَخْرَفَتْ بِنُوْرِ ظُہُوْرِہٖ وَتَزَیَّنَتْ بِسَاطِعِ نُوْرِہٖ وَ

خیر و برکت اور رونق و بہار کا سال کہا گیا۔ اور مزین ہوئے ان کے نور ظہور سے اور منور ہوئے ان کے غالب و کامل نور سے اور

اَضَآءَتْ لِمَوْلِدِہٖ بِقَاعُ تِہَامَۃَ وَنَشَرَ اللّٰہُ عَلَیْہِ فَضْلَہٗ وَاَدَامَہٗ وَصَلِّ عَلٰی

چمک اٹھے ان کی ولادت سے تہامہ کے تمام علاقہ جات۔ اور اللہ تعالےٰ نے پھیلایا آپ پر اپنے فضل و کرم کے سایہ کو اور اسے ہمیشہ برقرار اور قائم رکھا۔

سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ تَجَلّٰی عَلَیْہِ الْمَنَاقِبُ الرَّفِیْعَۃُ وَالْمَکَارِمُ وَکَمَّلَ اللّٰہُ بِہٖ

اور درود بھیج ہمارے سردار محمد پر کہ جن پر مناقب عالیہ روشن ہوئے اور بزرگیاں منکشف ہوئیں۔ اور آپ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے

الشَّرَفَ الدَّآئِمَ لِعَبْدِ اللّٰہِ وَعَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَہَاشِمٍ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ

ابدی شرف و فضیلت کو کامل و مکمل فرمایا حضرت عبد اللہ اور عبد المطلب و ہاشم کے لیے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

نِ الَّذِیْ لَمْ یَزَلْ یَنْتَقِلُ نُوْرُہٗ مِنَ الْاَرْحَامِ الزَّکِیَّۃِ الْفَاخِرَۃِ وَالْاَرُوْمَاتِ

کہ جن کا نور مقدس ہمیشہ منتقل ہوتا رہا پاکیزہ اور قابل فخر ارحام سے اور اصول شریفہ سے جن کی شرافت ظاہر تھی اور پاکیزہ

الشَّرِیْفَۃِ الطَّاہِرَۃِ وَالْعَنَاصِرِ الطَّاہِرَۃِ حَتّٰی اسْتَخْرَجَہُ اللّٰہُ رَحْمَۃً وَّاِظْہَارًا

عناصر سے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو (ان اصلاب وارحام سے) نکالا اس شان سے کہ وہ سراپا رحمت تھے اور آپ کی

لِقَدْرِ نَبِیِّہٖ وَبَیَّنَ مَجْدَہٗ وَمَا کَانَ اللّٰہُ لِیُعَذِّبَہُمْ وَاَنْتَ فِیْہِمْ وَصَلِّ عَلٰی

قدر و منزلت ظاہر کرنے اور مجد و مرتبت اجاگر کرنے کیلئے (فرمایا) اور نہیں ہے زیبا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ عذاب دے انھیں جبکہ آپ ان میں موجود ہو اور

سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ لَمْ تَرَ اُمُّہٗ فِیْ حَالِ وَضْعِہٖ مَا رَاَتْہُ النُّفَسَآءُ وَلَمْ تَجِدْ اُمُّہٗ

درود بھیج ہمارے آقا محمد پر کہ جن کی والدہ ماجدہ نے آپ کو جنم دیتے وقت نہ دیکھی وہ آلائش جو بچوں کو جنم دینے والی عورتوں نے دیکھی۔ اور نہ محسوس کیا آپکی والدہ

مِنْ ثِقَلِ الْحَمْلِ مَا وَجَدَتْہُ النِّسَآءُ وَلَمَّا وَلَدَتْہُ اُمُّہٗ وَضَعَتْہُ فِی الْاَرْضِ قَبَضَ

ماجدہ نے حمل کا ثقل اور گرانی جو عام عورتیں محسوس کرتی ہیں۔ اور جب ان کو جنم دیا ان کی والدہ ماجدہ نے تو آپ کو زمین پر رکھا تو آپ نے قبضہ فرمایا

عَلٰی ثَلٰثِ مَفَاتِیْحَ مِنَ اللُّؤْلُؤِ الْاَبْیَضِ وَاَعْلَمَہُ اللّٰہُ بِعُلُوِّ دَرَجَتِہٖ وَرَغِبَتِ

سفید موتی سے بنی تین چابیوں پر اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی آپ کی بلندئ درجات کی اور ملائکہ نے آپ کی تربیت میں

الْمَلٰٓئِکَۃُ فِیْ تَرْبِیَتِہٖ وَخَمِدَتْ نِیْرَانُ فَارِسَ عِنْدَ وِلَادَتِہٖ وَغَاصَ مَآءُ

رغبت ظاہر کی اور آتش کدہائے ایران کی آگ آپ کی ولادت کے وقت بجھ گئی اور ساوہ کا پانی آپ کی

سَاوَۃَ عِنْدَ ظُہُوْرِ عَلَامَتِہٖ وَغَاصَ نَہْرُ الْاُرْدُنِّ لِمَوْرِدِہٖ وَاَضَآءَتْ لِمَوْلِدِہٖ

علامات ظاہر ہونے پر خشک ہو گیا اور دریائے اُردن جاری ہو گیا آپکے ورود مسعود کی وجہ سے اور آپ کی ولادت کی وجہ سے

الْاٰفَاقُ وَاتَّصَلَتْ بِہٖ بُشْرَی الْہَوَاتِفِ فِی الْعَشِیِّ وَالْاِشْرَاقِ وَصَلِّ عَلٰی

آفاق روشن ہوگئے اور سروش غیبی کی بشارتیں آپ (کی تشریف آوری) کے متعلق صبح و شام ملنے لگیں۔ اور درود بھیج اے اللہ ہمارے

سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ رَغِبَ الطَّیْرُ وَالسَّحَابُ وَالرِّیْحُ فِیْ اِرْضَاعِہٖ وَاَنْ یَّکُوْنُوْا

آقا محمد پر کہ رغبت ظاہر کی پرندوں۔ بادلوں اور ہواؤں نے ان کے راضی کرنے میں اور ان کے گروہ اور تابعین میں شامل

مِنْ اَشْیَاعِہٖ وَاَتْبَاعِہٖ وَلَمَّا اَرْضَعَتْہُ حَلِیْمَۃُ دَرَّ لَبَنُہَا وَانْہَمَرَ فَکَانَتْ

ہونے میں اور جب انھیں حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے کا قصد کیا تو وہ پوری قوت سے اور کثرت سے جاری ہوا چنانچہ

تُرْضِعُ مَعَہٗ عَشَرَۃً اَوْ اَکْثَرَ وَعَلِمَ اَنَّ لَہٗ شَرِیْکًا فِی الرِّضَاعِ مَعَہٗ فَتَرَکَ لَہٗ

وہ آپکے ساتھ دس بچوں یا ان سے بھی زیادہ کو دودھ پلاتی تھی اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ میرے ساتھ دودھ پینے میں حصہ دار ہے تو آپنے اس کے لیے دوسرا

الّذی الاٰخر ولم یرضعه وقیل فیه لحلیمة فی النّوم الهاجع ابشری

پستان چھوڑ دیا اور اس سے دودھ نہ پیا۔ اور آپ کے متعلق حلیمہ کو گہری نیند میں کہا گیا تجھے بشارت ہو دودھ

بارضاعك للضّیاء وهی الشّفیقة ولم یزد علی القوت دقیقة وکان ثدیها

پلانے کی، واسطے ضیاء (رأمت و کائنات) کے جبکہ وہ آپ کے لیے شفیق تھی اور اپنے مقدار کفایت سے ذرہ بھی زیادہ نہ پیا حالانکہ ان کے پستان

له یفور وبطون النّساء سواها لاصقة بالظّهور وترکته امّه وهو ابن

آپ کے لیے اُبلتے چشمہ کی مانند تھے اور اس کے علاوہ دوسری عورتوں کے شکم (دبوجہ بھوک) ان کی پشتوں کے ساتھ چپٹے ہوئے تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو

اربعة اعوام وخرج الی الشّام وهو ابن اثنی عشر عاما وشهرین وعشرة

داغ مفارقت دیا جبکہ آپ چار سال کے تھے۔ اور آپ شام کی طرف (تجارت کے لیے) تشریف لے گئے جبکہ آپ کی عمر شریف بارہ سال دو ماہ اور دس دن تھی

ایّام وترکه جدّه عبد المطّلب هو ابن ثمانیة اعوام وشهرین وعشرة

اور آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب نے داغ مفارقت دیا جب کہ آپ آٹھ سال دو ماہ اور دس دن کے تھے

ایّام وکان نوره یظهر علی وجه ابیه وجدّه قبل حمل امّه ومولده اللّٰهمّ

اور آپ کا نور ظاہر ہوتا تھا آپ کے والد ماجد اور دادا جان کے چہرہ پر آپ کی والدہ ماجدہ کے حاملہ ہونے اور جنم دینے سے پہلے سے

صلّ وسلّم علی سیّدنا محمّد وعلی اٰل سیّدنا محمّد الّذی اُلقی فی طینته

اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر کہ ملایا گیا ان کی طینت اور خمیر میں وہ نور

النّور الّذی سبق فخره وتقادم اللّٰهمّ صلّ وسلّم علی سیّدنا محمّد و

کہ سبقت لے گیا فخر اس کا اور (سب سے) مقدم ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور

علی اٰل سیّدنا محمّد الّذی اُودعت طینته فی ظهر ابیه اٰدم اللّٰهمّ

آپ کی آل پر کہ اس آقا کی طینت نوریہ ودیعت کی گئی ان کے باپ آدم کی پشت میں۔ اے اللہ

صلّ وسلّم علی سیّدنا محمّد وعلی اٰل سیّدنا محمّد الّذی ترائته

صلوٰۃ وسلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور ان کی آل پر کہ زیارت کی ملائکہ

الملٰئکة عند الولادة اللّٰهمّ صلّ وسلّم علی سیّدنا محمّد وعلی اٰل سیّدنا

نے ان کی وقت ولادت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر

محمّد الّذی جاءت الوحوش والطّیور لبابه منقادة اللّٰهمّ صلّ وسلّم

کہ جنگلی جانور اور پرندے حاضر ہوئے ان کے در پر تابعدار بن کر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

علی سیّدنا محمّد وعلی اٰل سیّدنا محمّد الّذی تنزّلت النّجوم عند ولادته

ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر کہ اترے ستارے ان کی ولادت کے وقت

علی السّقوف ورفعته الملٰئکة تدور به علی الخلائق وتطوف

مکانوں کی چھتوں پر اور اٹھا لیا ان کو ملائکہ نے جبکہ وہ ان کو لے کر خلائق پر گردش اور طواف کرتے تھے

اللّٰهمّ صلّ وسلّم علی سیّدنا محمّد وعلی اٰل سیّدنا محمّد الّذی کان مهده یتحرّك

اے اللہ درود وسلام نازل فرما سیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر کہ جن کا پنگھوڑا (ملائکہ کے ہلانے سے) ہلتا تھا۔

اللّٰهمّ صلّ وسلّم علی سیّدنا محمّد وعلی اٰل سیّدنا محمّد الّذی کانت الملٰئکة

اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جس آقا سے ملائکہ

به تتبرّك اللّٰهمّ صلّ وسلّم علی سیّدنا محمّد وعلی اٰل سیّدنا محمّد الّذی کان

برکات حاصل کرتے تھے۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آل محمد پر جو کہ

اوفی النّاس وصام رمضان وهو فی المهد اللّٰهمّ صلّ وسلّم علی سیّدنا محمّد

سب سے زیادہ وفادار تھے اور جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے عالم مہد میں رکھے۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما سیدنا محمد

وعلی اٰل سیّدنا محمّد الّذی کان القمر یحدّثه فی حالة الصّغر اللّٰهمّ صلّ

اور آپ کی آل پر کہ جن کے ساتھ چاند کلام کرتا تھا عالم صغر میں۔ اے اللہ رحمتیں

وسلّم علی سیّدنا محمّد وعلی اٰل سیّدنا محمّد الّذی کان القمر تلهیه عن الاشفاء

اور سلامتی نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جنہیں چاند بہلاتا تھا بیماری سے

والسّهر اللّٰهمّ صلّ وسلّم علی سیّدنا محمّد وعلی اٰل سیّدنا محمّد الّذی کان یسمع

اور بیداری سے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جو سنا کرتے تھے

وجبة القمر من الفرش حین یسجد تحت العرش اللّٰهمّ صلّ وسلّم علی سیّدنا

چاند کی ٹھوکر (کی آواز) کو فرش زمین پر جبکہ وہ سجدہ ریز ہوتا تھا عرش خداوندتعالیٰ کے نیچے۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ قَرَأَ رِضْوَانٌ فِیْ اُذُنَیْهِ وَقَبَّلَهٗ بَیْنَ عَیْنَیْهِ
محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کے کانوں میں رضوان جنّت نے قراءت کی اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الْمَعْنِیِّ بِقَوْلِ الْعَلِیْمِ
اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اوران کی آل پر جو مراد ومقصود ہیں اللہ علیم و حکیم کے اس قول سے

الْحَکِیْمِ اَنّٰی لَهُمُ الذِّکْرٰی وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ کَرِیْمٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا
دوسری کس جگہ سے ہے ان کیلئے نصیحت حاصل کرنے کی گنجائش حالانکہ آچکے ہیں اُن کے پاس رسول کریم۔ اے اللہ درود وسلام ہو سیدنا محمد اور آپکی

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْٓ اَشْرَقَ نُوْرُهٗ فِیْ وَجْهِ اٰدَمَ وَجَبْهَتِهٖ وَزَیَّنَ
آل پر کہ جن کا نور چمکا آدم علیہ السلام کے چہرہ اور ان کی جبین میں اور مزین فرمایا

اللّٰهُ اَسَارِیْرَ وَجْهِ اٰدَمَ بِاَشِعَّتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ
اللہ تعالیٰ نے آدم کی جبین کی سلوٹوں کو آپ کے نور کی شعاعوں سے۔ اے اللہ درود وسلام ہو ہمارے سردار محمد اور آپ کی آل پر

سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ تَلَاْلَاَ نُوْرُهٗ فِیْ وَجْهِ اٰدَمَ وَلَاحَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا
کہ جگمگایا نوران کا آدم علیہ السلام کے چہرہ میں اور نمودار ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ تَعَطَّرَ عَبِیْرُ الْعَنْبَرِ مِنْ شَمَائِلِهٖ وَفَاحَ اَللّٰهُمَّ
محمد اور آپ کی آل پر کہ معطر ہوئیں عنبری خوشبوئیں ان کے شمائل سے اور مہک اُٹھیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ کَانَ نُوْرُهٗ فِیْ وَجْهِ
درود وسلام نازل فرما محمد کریم اور آپ کی آل پر کہ جن کا نور آدم علیہ السلام کے چہرہ سے

اٰدَمَ مُشْرِقًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ
ضوفشاں تھا۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر کہ جن کی

کَانَ طَآئِرُ سَعْدِهٖ حَوْلَ کَمَالِهٖ مُحَدِّقًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی
سعادت مندی کا نقش ازل ان کے کمالات کے گرد احاطہ کئے ہوئے تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِی افْتَخَرَ بِهٖ اٰدَمُ وَحَوَّآءُ فِی السَّمَآءِ بِظُهُوْرِ نُوْرِهٖ فِیْهِمَا عَلَمًا
آل پر کہ جن سے فخر حاصل ہوا آدم و حواء کو آسمانوں میں بسبب ظاہر ہونے آپ کے نور کے ان دونوں میں واضح طور پر۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْٓ اَشْرَقَ نُوْرُهٗ فِیْ
اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر کہ روشن ہوا ان کا نور

وَجْهِ حَوَّآءَ الطَّاهِرَةِ وَسَمَا قَدْرُهَا بِهٖ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی
پاک حواء کے چہرہ میں اور بلند ہوئی اس کی قدرومنزلت بسبب اس نور کے دنیا وآخرت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ کَانَ نُوْرُهٗ فِیْ غُرَّةِ اٰدَمَ الطَّاهِرَةِ وَاُمِّنَا
نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کا نور آدم کی روشن پیشانی میں تھا اور ہماری قابلِ فخر ماں

حَوَّآءَ الْفَاخِرَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ
حوار کی جبیں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ

لَمْ یَزَلْ فِیْ وَجْهِ اٰدَمَ سَاطِعًا وَّفِیْ جَبِیْنِهَا لَامِعًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا
ہمیشہ رہا (ان کا نور) آدم علیہ السلام کے چہرہ میں روشن اور ان کی جبین سے جھلکنے والا۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ کَمُلَ بِهٖ لِاٰدَمَ وَحَوَّآءَ بُلُوْغُ الْمُنٰی وَتَمَّ لَهُمَا بِهٖ
محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت کامل ہوئی آدم و حواء کے لیے رسائی مطالب کی اور مکمل ہوئی ان دونوں کیلئے بسبب

الْقَبُوْلُ وَالْهَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ
آپکے قبولیت اور شادی وخوشی۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل ہو سیدنا محمد اور آل سیدنا محمد پر کہ

نِ الَّذِی افْتَخَرَ بِهٖ اٰدَمُ لِحَوَّآءَ لِخُرُوْجِهٖ مِنْ صُلْبِهٖ وَتَوَسَّلَ بِهٖٓ اِلٰی رَبِّهٖ
جن کے ساتھ فخر ظاہر کیا آدم نے حواء پر بسبب ظاہر ہونے آپکے ان کی پشت سے اور توسل کیا انہوں نے ساتھ آپ کے بارگاہ خداوند تعالیٰ میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِی اشْتَاقَ اٰدَمُ لِرُؤْیَتِهٖ
اے اللہ درود وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اوران کی آل پر کہ مشتاق ہوئے آدم علیہ السلام آپ کے دیدار کے

وَتَمَنّٰٓی اٰدَمُ وَحَوَّآءُ مُشَاهَدَةَ طَلْعَتِهٖ وَغُرَّتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اور دل وجان سے) آرزو کی آدم و حواء نے آپ کی طلعت زیبا اور جبین اقدس کے مشاہدہ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل ہو ہمارے آقا

وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ لَمَّا اشْتَاقَ اٰدَمُ اِلٰی جَلَالَتِهٖ جَعَلَ اللّٰهُ نُوْرَهٗ فِیْ
محمد اور آپ کی آل پر کہ جب مشتاق ہوئے آدم آپ کی شان جلالت کے تو ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا نور ان کی شہادت

سَبَّابَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ جَعَلَ

کی انگلی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل ہو محمد کریم اور آپ کی آل پر کہ جن کے

اللّٰهُ نُوْرَ اَصْحَابِهِ الْكِرَامِ فِیْ بَقِيَّةِ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اصحاب کے نور کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بقیہ جسم (جبین اور چہرہ کے علاوہ حصہ) میں پیدا فرمایا۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ تَلَأْلَأَتْ اَصَابِعُ اٰدَمَ بِنُوْرِهٖ نُوْرًا وَّازْدَادَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ آپ کے نور کی بدولت چمک اٹھیں آدم علیہ السلام کی انگلیاں اور ان کی رونق بڑھ گئی

بِهٖ بَهْجَةً وَّسُرُوْرًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ

اور ان کے سرور میں اضافہ ہوا۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما محمد کریم اور آپ کی آل پر کہ

لَمْ تَزَلْ اَنْوَارُ اَصْحَابِهٖ فِیْ اَصَابِعِ اٰدَمَ تَتَلَأْلَأُ وَتَزْدَادُ فِیْ كُلِّ وَقْتٍ حُسْنًا وَّجَمَالًا

ہمیشہ آپ کے اصحاب کے انوار آدم علیہ السلام کی انگلیوں سے جھلکتے رہتے اور ہر لحظہ ان کے حسن وجمال میں اضافہ ہوتا رہا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ كَانَ بِهٖ نُوْرُ اَبِیْ بَكْرٍ

اے اللہ درود وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ آپ کی بدولت ابوبکر صدیق کا نور

فِی الْوُسْطٰى مِنْ اَصَابِعِ اٰدَمَ يَظْهَرُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ

آدم علیہ السلام کی درمیانی انگلی میں ظہور پذیر تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیدنا محمد اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ كَانَ بِهٖ نُوْرُ عُمَرَ فِی الْبِنْصَرِ مِنْ اَصَابِعِ اٰدَمَ يَزْهَرُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر کہ آپ کے طفیل عمر فاروق کا نور آدم علیہ السلام کی انگشت شہادت کے ساتھ والی چھوٹی انگلی میں ظاہر ہوتا تھا۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ كَانَ بِهٖ نُوْرُ عُثْمَانَ فِی الْخِنْصَرِ

وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آل محمد پر کہ آپ کی بدولت عثمان ذی النورین کا نور آدم علیہ السلام کی چھنگلی

مِنْ اَصَابِعِ اٰدَمَ يَلُوْحُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

میں سے چمکتا تھا۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما محمد کریم اور ان کی آل پر

الَّذِیْ كَانَ بِهٖ نُوْرُ عَلِیٍّ فِی الْاِبْهَامِ مِنْ اَصَابِعِ اٰدَمَ اَوْضَحَ الْوُضُوْحِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

کہ جن کی بدولت علی مرتضٰے کا نور آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں کامل نورانیت کے ساتھ نمایاں تھا۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ وَضَعَ اللّٰهُ فِیْ ظَهْرِ اٰدَمَ

وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر کہ اللہ تعالیٰ نے رکھے آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں

اَنْوَارَهُ الْمُبَارَكَةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

آپ کے انوار مبارک۔ اے اللہ درود وسلام بھیج سیدنا محمد اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِیْ بِسَبَبِ نُوْرِهٖ سَجَدَتْ لِاٰدَمَ الْمَلٰٓئِكَةُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بطفیل آپ کے نور کے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام ہو محمد کریم

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ ظَهَرَتْ بِهٖ شَرَفُ اٰدَمَ فِی السَّمَآءِ وَبِبَرَكَتِهٖ عَلَّمَهُ

اور آپ کی آل پر کہ بطفیل آپ کے ظاہر ہوا آدم علیہ السلام کا شرف وفضل آسمان میں اور آپ کی برکت سے ہی

اللّٰهُ الْاَسْمَآءَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

اللہ تعالیٰ نے انھیں اسماء کی تعلیم دی۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر

الَّذِیْ اَقْبَلَ عَلَيْهِ اٰدَمُ وَضَمَّهٗ اِلَيْهِ وَقَبَّلَهٗ ثَلٰثًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ پوری طرح متوجہ ہوتے آدم آپ پر اور آپ کو سینہ سے لگایا اور تین مرتبہ آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اے اللہ درود وسلام

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ ظَهَرَتْ بِمَوْلِدِهِ الْعَجَآئِبُ

نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر کہ آپ کی ولادت کی وجہ سے عجائبات ظاہر ہوئے

وَبَدَتْ بِظُهُوْرِهِ الْغَرَآئِبُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ

اور آپ کے ظہور کی وجہ سے انوکھے امور دیکھنے میں آئے۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ تَفَاخَرَتِ الْاَرْضُ بِمَوْلِدِهٖ عَلَى السَّمَآءِ وَتَبَاشَرَتْ بِهِ

کہ فخر کا اظہار کیا زمین نے آسمان پر آپ کی ولادت کی وجہ سے اور باہم خوشخبریاں دیں

الْمَلٰٓئِكَةُ الْعُظْمٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

عظیم ملائکہ نے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر

الَّذِیْ تَبَاشَرَتِ الْاَكْوَانُ يَوْمَ وِلَادَتِهٖ بِطَلْعَةِ السَّعْدِ فِیْ عِبَادِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ کائنات کو مسرتیں حاصل ہوئیں آپ کی ولادت کے دن بسبب طلوع فرمانے نجم سعادت کے بندگان خداوند تعالیٰ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ بَدَا بَدْرُ نُبُوَّتِهٖ مُشْرِقًا وَّحُسْنُ

نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی نبوت کا ماہ تمام چمک دمک کے ساتھ نمودار ہوا اور ان کا سرو ناز حسین

نَبَاتِهٖ مُوْرِقًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ

برگ وبار لایا۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر جن کے

غَيَّبَ اللّٰهُ نُوْرَهٗ فِىْ عِلْمِهٖ حَتّٰٓى اَظْهَرَ فِىْ وَجْهِ اَبِيْهِ وَاُمِّهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

نورِ حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے پردہ میں غائب کیے رکھا حتی کہ اسے ظاہر فرمایا آپکے والدین کے چہروں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ لَمَّا انْقَضَى الشَّهْرُ التَّاسِعُ مِنْ حَمْلِهٖ

ہمارے آقا محمد پر اور ان کی آل پر کہ جن کے شکم مادر میں آنے کے بعد جب گزرا نواں مہینہ

ظَهَرَ لِاُمِّهٖ كَمَالُ فَضْلِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

تو آپ کی والدہ ماجدہ پر آپ کا کمال فضل ظاہر ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

نِ الَّذِىْ اَشْرَقَتِ الدُّنْيَا بِبَهْجَتِهٖ وَاَضَآءَتِ الْاَرْضُ بِاَنْوَارِ طَلْعَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

کہ روشن ہوگئی ساری دنیا آپ کے (نور) اور بہار ولادت سے۔ اور جگمگ ہوئی تمام زمین آپکے (رخ زیبا کے) انوار طلعت سے

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَتْ لَهٗ كُلَّ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ تھا ان کے لیے ہر روز

يَوْمٍ مُّعْجِزَةٌ خَارِقَةٌ وَّاٰيَةٌ ظَاهِرَةٌ صَادِقَةٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

معجزہ اور کمال امتیازی۔ اور علامت صدق اور حقانیت ظاہر وباہر۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ تَظَاهَرَتِ الْاٰيَاتُ عِنْدَ وِلَادَتِهٖ وَ

محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی ولادت باسعادت کے وقت آیاتِ قدرت یکے بعد دیگرے نمودار ہوئیں اور

تَبَيَّنَتْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ

نمایاں ہوئیں اے اللہ درود وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ زمین نے

اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا عِنْدَ وِلَادَتِهٖ وَتَزَيَّنَتْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

آرائش وزیبائش حاصل کی آپ کی ولادت کے وقت اور مزین اور آراستہ ہوگئی۔ اے اللہ درود وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ نَظَرَتْ لِاُمِّهٖ عِنْدَ وِلَادَتِهٖ عُيُوْنُ

ہمارے سردار محمد اور آپ کی آل پر کہ متوجہ ہوئیں ان کی والدہ کی طرف سعادت مندی کی

السَّعَادَةِ وَقُلِّدَتْ بِهٖ اَحْسَنَ قِلَادَةٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

نگاہیں آپ کی ولادت کے وقت اور ان کے گلے کا حسین قلادہ اور ہار بن گئیں۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور

عَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ فَازَتْ اُمُّهٗ بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَّا وَضَعَتْ

آپ کی آل پر کہ جن کی والدہ ماجدہ کامیاب اور فائز ہوئیں دنیا وآخرت کے شرف وفضل کے ساتھ جب اُس نے

هٰذِهِ النَّسَمَةَ الْمُبَارَكَةَ الطَّاهِرَةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى

اس مبارک اور پاکیزہ شخصیت کو جنم دیا۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَصْبَحَتْ اَغْصَانُ السَّعْدِ فِىْ حُجْرَةِ اُمِّهٖ مَآئِلَةً وَّ

آل پر کہ جن کی بدولت ہوگئیں سعادت مندی کی شاخیں جھکنے والیں ان کی والدہ کے حجرہ کی طرف اور

وَقَعَتْ فِىْ رِيَاضِ عِزِّهَا وَاَمْنِهَا قَابِلَةً اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہوگئیں ان کی عزت وامن کے باغات میں قبولیت پانے والیں۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ تَبَادَرَتْ لِاُمِّهٖ يَوْمَ وِلَادَتِهِ الْبَشَآئِرُ وَرُفِعَتْ

اور ان کی آل پر کہ آپ کی وجہ سے سبقت لے جانے لگیں آپ کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف بشارتیں اور بلند کیے

عَنْ حُجْرَتِهَا اَعْلَامُ الْاِشَآئِرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

گئے ان کے حجرہ مبارکہ سے اشارات کے علم۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ سَمِعَتْ اُمُّهٗ عِنْدَ وَضْعِهٖ نِدَآءً مِّنَ الْاَرْضِ وَنِدَآءً

پر کہ جن کی والدہ ماجدہ نے ان کو جنم دیتے وقت زمین سے ندا سنی اور

مِّنَ السَّمَآءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

آسمان سے بھی۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

نِ الَّذِىْ لَمْ تَجِدْ اُمُّهٗ بِحَمْلِهٖ حُمًّا وَّلَا وَحْمًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

کہ جن کی والدہ ماجدہ نے نہ محسوس کیا آپ کے حمل کے دوران تپ اور نہ مشقت وشدت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما ہمارے

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ اخْضَرَّتِ الدُّنْيَا يَوْمَ وِلَادَتِهٖ وَ

آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ سرسبز اور شاداب ہو گئی دنیا ان کی ولادت کے دن اور

اسْتَنَارَ بِهِ الْكَوْنُ مِنْ جَمِيْعِ جِهَاتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

منور و روشن ہو گیا جہان تمام اطراف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ بَادَرَتْ اُمُّهٗ عِنْدَ وِلَادَتِهٖ بِوَادِ السَّعَادَةِ

اور ان کی آل پر کہ جن کی بدولت سبقت لے گئی۔ ان کی والدہ سعادت اور نیک بختی کی وادیوں میں ان کے ولادت کے وقت

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ قِيْلَ

اے اللہ درود وسلام ہو ہمارے سردار محمد اور آپ کی آل پر جن کی امی جان کو

لِاُمِّهٖ عِنْدَ وَضْعِهٖ تَلِدُ مَوْلُوْدًا يَسُوْدُ اَهْلَ السِّيَادَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

وضع کے وقت کہا گیا کہ وہ ایسے بچے کو جنم دیں گی کہ وہ اہل سیادت کے بھی سردار اور قائد ہوں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ حَفَّتْ اُمَّهٗ عِنْدَ وَضْعِهٖ زُمَرُ

فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی والدہ ماجدہ کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا آپ کی ولادت کے وقت

الْمَلٰٓئِكَةِ الْكِرَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

بزرگ ملائکہ کی جماعتوں نے۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما محمد کریم اور آپ کی آل پر کہ

ۣالَّذِىْ تَوَاضَعَ لِمَوْلِدِهٖ رُءُوْسُ الْمُقَرَّبِيْنَ الْعِظَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

جن کی ولادت باسعادت کے وقت جھک گئے (ادب و نیاز سے) مقربین عظام کے سر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ لَمَّا اشْتَدَّ بِاُمِّهٖ عِنْدَ وَضْعِهٖ

نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی والدہ طاہرہ کو آپ کی ولادت کے وقت سخت پیاس لگی

الظَّمَاُ سَقَاهَا اللّٰهُ شَرْبَةً اَنْزَلَهَا مِنَ السَّمَآءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شربت پلایا جسے آسمان سے نازل فرمایا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ اٰنَسَ اللّٰهُ اُمَّهٗ عِنْدَ وَضْعِهٖ

سیدنا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو اطمینان وسکون عطا کیا آپ کو جنم دیتے وقت

بِنِسَآءٍ اَشْرَافٍ يُّشْبِهْنَ نِسَآءَ بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

ان شرافت مآب عورتوں کے ساتھ جو بنی عبد مناف کی عورتوں کے مشابہ تھیں۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالْمُنْزَلِ عَلَيْهِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ تَنْبِيْهًا

محمد اور آپ کی آل پر کہ جن پر نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ حکم آپ کی اُمت کو خبردار کرنے

لِاُمَّتِهٖ وَتَعْلِيْمًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ

اور انھیں تعلیم دینے کے لیے کہ اگر پہنچیں تیرے پاس (ماں باپ میں سے) بڑھاپے کو ایک یا دونوں تو نہ کہہ انہیں

اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اُف اور نہ جھڑک انہیں اور کہہ انہیں عزت وتکریم والی بات۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ مُدَّ لِاُمِّهٖ دِيْبَاجٌ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَ

اور آپ کی آل پر کہ جن کی والدہ ماجدہ کے لیے ریشمی چادر آسمان وزمین کے درمیان پھیلائی گئی اور

اَنَارَتْ بِهِ الْاٰفَاقُ فِى الطُّوْلِ وَالْعَرْضِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

روشن ہو گئے بسبب اس کے تمام آفاق طول وعرض میں۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے سردار

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ اَحَاطَتْ اُمَّهٗ اَجْنِحَةُ السَّعْدِ وَالْفَلَاحِ

محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی والدہ ماجدہ کا احاطہ کیا نیک بختی اور فلاح کے بازوؤں نے

وَخَفَضَتْ لَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ الْجَنَاحَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

اور جھکا دیے (ان کی تعظیم کے لیے) ملائکہ نے اپنے نورانی پر۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے سردار محمد پر

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ كَانَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ عِنْدَ وَضْعِهٖ وُقُوْفًا يَّنْظُرُوْنَ اِلٰى

اور آپ کی آل پر کہ جن کی ولادت باسعادت کے وقت ملائکہ پرے جمائے کھڑے تھے اور ان کی والدہ ماجدہ کی طرف

اُمِّهٖ صُفُوْفًا صُفُوْفًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

دیکھ رہے تھے صفیں باندھ کر۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ ظَهَرَ لِاُمِّهٖ عِنْدَ وَضْعِهٖ اُمُوْرٌ كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ كَامِنَةً فَتَرَوَّعَتْ

کہ جن کی ولادت سراپا سعادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ پر وہ امور ظاہر ہوئے جو اس سے قبل ان پر مخفی تھے تو وہ ان سے خوف زدہ

منها وهي منه آمنة اللّٰهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّدٍ وّعلىٰ اٰل سيّدنا

ہو گئیں اور وہ آپ کی بدولت امن والی ہو گئیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

محمّدِ ن الّذی فتح السّعد به لامّه مدهش بابه وجلاها العزّ بنور شهابه

کہ جن کی بدولت دور کر دیا نیک بختی نے ان کی والدہ ماجدہ کے در سے ان کی دہشتوں کو اور ان کو عز و شرف نے جلا بخشی آپ کے نور شہاب کے

اللّٰهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّدٍ وّعلىٰ اٰل سيّدنا محمّدِ ن الّذی اصبح

ساتھ۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی ولادت با سعادت کی

قدر امّه بولادته معظّمًا وّدرّ الشّرف بحليّها منظّمًا اللّٰهم صلّ وسلّم

وجہ سے ان کی والدہ ماجدہ کی قدر و منزلت عظیم ہو گئی۔ اور دُرِّ شرف ان کے زیور میں پرو دیا گیا۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما

على سيّدنا محمّدٍ وّعلىٰ اٰل سيّدنا محمّدِ ن الّذی الحف الفخر امّه بردائه

ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی امی جان کو فخر و ناز نے اپنی چادر پہنائی

وتوّجها العزّ ببهائه اللّٰهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّدٍ وّعلىٰ اٰل سيّدنا

اور عز و فخر نے اپنی بہار اور رونق کا تاج پہنایا۔ اے اللہ دُرود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی

محمّدِ ن الّذی اكتمل فی وجه امّه نور النّبوّة ولاح وانتقل الى حجرتها

آل پر کہ کمال پذیر ہوا ان کی والدہ ماجدہ کے چہرہ میں نور نبوت اور چمکا اور منتقل ہوا ان کے حجرہ کی طرف

كوكب الفلاح والنّجاح اللّٰهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّدٍ وّعلىٰ اٰل

کامیابی اور کامرانی کا ستارہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل

سيّدنا محمّدِ ن الّذی ادخله رضوان تحت جناحه والهمه بامر الله الى

پر کہ جس آقا کو رضوان جنت نے اپنے پروں کے نیچے داخل کیا اور اللہ کے امر سے آپ کو

رشده وصلاحه اللّٰهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّدٍ وّعلىٰ اٰل سيّدنا

رشد اور بھلائی کا الہام کیا۔ اے اللہ درود اور سلام بھیج ہمارے سردار محمد اور آپ کی آل پر

محمّدِ ن الّذی قبض على مفاتيح الدّنيا كلّها واذعن له بالطّاعة جميع

جس (سید کائنات) نے قبضہ میں لے لیا ساری دنیا (کے خزائن) کی چابیوں کو اور جن کی اطاعت کو تسلیم کیا تمام

اهلها اللّٰهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّدٍ وّعلىٰ اٰل سيّدنا محمّدِ ن

اہل دنیا نے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

الّذی كساه الله حلّة الزّين وشرّفه وفضّله على من سلف اللّٰهم

جنہیں اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کی خلعت پہنائی۔ اور تمام سابقین پر شرف و فضل عطا فرمایا۔ اے اللہ

صلّ وسلّم على سيّدنا محمّدٍ وّعلىٰ اٰل سيّدنا محمّدِ ن الّذی عاد الى امّه

درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر جو لوٹے اپنی والدہ ماجدہ کی طرف (ملائکہ کے طواف کرانے کے بعد)

والانوار تحفّه والملٰئكة تلحظه وتزفّه اللّٰهم صلّ وسلّم على سيّدنا

اس شان سے کہ انوار انھیں ہر طرف سے ڈھانپے ہوئے تھے اور ملائکہ ان پر نظریں جمائے ہوئے تھے اور انہیں دولہا بنائے ہوئے تھے۔ اے اللہ درود و سلام

محمّدٍ وّعلىٰ اٰل سيّدنا محمّدِ ن الّذی عاد لامّه والمسك يعبق من

نازل فرما ہمارے آقا و مولیٰ محمد اور آپ کی آل پر جو کہ (سیر ملکوت کے بعد) اپنی والدہ کی طرف لوٹے اور بوئے مشک ان کے کپڑوں سے

اثوابه والكرم حشو اهابه اللّٰهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّدٍ

پھوٹ رہی تھی۔ اور ان کے لباس بشری میں سراسر کرم وجود ہی بھرا تھا۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار محمد

وّعلىٰ اٰل سيّدنا محمّدِ ن الّذی ردّ الى امّه وقد تعطّرت اردانه

اور آپ کی آل پر جو اپنی امی جان کی طرف اس شان سے لوٹائے گئے تھے کہ ان کی آستینیں معطر ہو چکیں تھیں

اللّٰهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّدٍ وّعلىٰ اٰل سيّدنا محمّدِ ن

اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

الّذی ردّ لامّه وقد شدّت اركانه ومهّد مهده ومكانه اللّٰهم

جو امی جان کی طرف اس حال میں لوٹائے گئے کہ ان کے اعضاء ریشمی کپڑے کے ساتھ بندھے تھے اور ان کی خوابگاہ اور جائے استراحت تیار کی جا چکی

صلّ وسلّم على سيّدنا محمّدٍ وّعلىٰ اٰل سيّدنا محمّدِ ن الّذی ردّ الى

تھی۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر جو اپنی والدہ ماجدہ کی طرف لوٹائے گئے

امّه وقد لفّ فی حريرة خضراء ينبع منها الماء العذب اللّٰهم

اس شان سے کہ آپ کے گرد لپیٹا گیا تھا سبز ریشمی لباس کہ جس سے آب شیریں ٹپک رہا تھا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ رُدَّ اِلٰى
درود اور سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر جو اس شان سے والدہ ماجدہ کے
اُمِّهٖ وَقَدْ قَبَضَ عَلٰى ثَلٰثِ مَفَاتِيْحَ مِنَ اللُّؤْلُؤِ الرَّطْبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
حوالے کئے گئے کہ اپنی مٹھی میں لیے ہوئے تھے لولوئے آبدار سے بنی ہوئی تین چابیاں۔ اے اللہ صلوٰۃ
وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ خَتَمَ رِضْوَانُ
وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کے دونوں کندھوں کے درمیان رضوان
بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَاَلْحَفَهٗ بِرِدَآءِ الْفُتُوَّةِ وَالْمُرُوَّةِ اَللّٰهُمَّ
جنت نے خاتم نبوت کے ساتھ مہر لگائی اور انہیں اوڑھائی فتوت اور مروت کی چادر۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ وَقَفَ
صلوٰۃ وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی (تعظیم کے لیے) کھڑے ہوئے
جِبْرَآئِيْلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَضَمَّهٗ اِلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
جبرئیل علیہ السلام ان کے سامنے اور انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ اَعْلَنَ الرِّضْوَانُ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ
محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کو رضوان جنت نے علانیہ سلام پیش کیا
وَقَبَّلَهٗ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ
اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی
سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ بَادَرَ مِيْكَآئِيْلُ اِلٰى خِدْمَتِهٖ وَتَشَرَّفَ اِسْرَافِيْلُ
آل پر کہ جلدی کی میکائیل علیہ السلام نے ان کی خدمت کے لیے اور مشرف ہوئے اسرافیل علیہ السلام
بِزِيَارَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ
ان کی زیارت کے ساتھ۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر
الَّذِىْ رُدَّ لِاُمِّهٖ وَقَدْ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِاَنْوَارِهٖ وَتَزَيَّنَ الْكَوْنُ
جن کو اپنی والدہ ماجدہ کی طرف اس شان سے لوٹایا گیا کہ زمین روشن ہو چکی تھی ان کے انوار کیساتھ اور سارا جہان ان کے

بِطَالِعِ اَقْمَارِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا
رخ زیبا کے ماہتاب کی طلعت سے (منورو) مزین ہو چکا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل
مُحَمَّدِ الَّذِىْ رُدَّ لِاُمِّهٖ مَحْفُوْفًا بِالْيُمْنِ وَالْاِقْبَالِ وَعَيْنُ الْعِنَايَةِ
پر جو اپنی والدہ ماجدہ کی طرف لوٹائے گئے اس شان سے کہ یمن و برکت اور بخت و اقبال سے ڈھکے ہوئے تھے اور عنایت
الرَّبَّانِيَّةِ تَحْرُسُهٗ فِى الْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
ربانیہ کی آنکھ آپ کی نگرانی کر رہی تھی صبح اور شام۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ عَرَجَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ بِاَعْلَامِهٖ
محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے علم اٹھائے ہوئے ملائکہ
مُبَشِّرَاتٍ لِّاَهْلِ السَّبْعِ السَّمٰوٰتِ بِاَقْدَامِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ
بلندیوں کی طرف متوجہ ہوئے جبکہ وہ بشارات دے رہے تھے ساتوں آسمانوں کے مکینوں کو ان کی تشریف آوری کی۔ اے اللہ درود اور
سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ اَصْلَحَ
سلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر کہ جن کی بدولت اللہ تعالےٰ نے اصلاح فرمائی
اللّٰهُ بِهِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
دنیا اور دین کی۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے آقا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ سُمِّىَ عَامُ وِلَادَتِهٖ
محمد اور آل محمد پر کہ جس (آقا) کی ولادت باسعادت کے سال کو موسوم کیا گیا
عَامَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالزَّيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
خیر و برکت اور زیب و زینت کے سال کے ساتھ۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ تَزَخْرَفَتِ الدُّنْيَا
محمد اور آپ کی آل پر کہ آراستہ ہو گئی ساری دنیا
بِنُوْرِ ظُهُوْرِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
ان کے ظہور کے نور کے ساتھ۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ تَزَيَّنَتِ الدُّنْيَا بِسَاطِعِ نُوْرِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
کہ مزین اور آراستہ ہوگئی دنیا ان کے بلند مرتبت اور غالب نور کے ساتھ ۔ اے اللہ صلواۃ اور

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَضَاءَتْ بِمَوْلِدِهٖ
سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ روشن ہو گئے ان کی ولادت سے

بِقَاعُ تِهَامَةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا
تہامہ کے قطعات اور علاقے ۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی

مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ نَشَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَضْلَهُ الْعَظِيْمَ وَاَدَامَهٗ
آل پر جن پر اللہ تعالےٰ نے اپنے فضل عظیم کو پھیلا اور اسے برقرار رکھا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ
اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

ِالَّذِىْ تَجَلّٰى بِحِلْيَتِهِ الْمَنَاقِبُ الرَّفِيْعَةُ وَالْمَكَارِمُ الْعَلِيَّةُ اَللّٰهُمَّ
کہ جن کی زینت اور زیور سے مناقب رفیعہ اور مکارم عالیہ نے جلا پائی ۔ اے اللہ درود

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ كَمَّلَ
وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت کامل فرمایا

اللّٰهُ بِهِ الشَّرَفَ الدَّآئِمَ لِعَبْدِ اللّٰهِ وَعَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهَاشِمٍ
اللہ تعالےٰ نے دائمی شرف حضرت عبداللہ ، عبد المطلب اور ہاشم کے لیے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ
اے اللہ درود وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

ِالَّذِىْ لَمْ يَزَلْ يَنْتَقِلُ نُوْرُهٗ مِنَ الْاَرْحَامِ الزَّكِيَّةِ
کہ جن کا نور ہمیشہ ہمیشہ منتقل ہوتا رہا پاکیزہ اور قابل فخر

الْفَاخِرَةِ وَالْاَرُوْمَاتِ الشَّرِيْفَةِ الطَّاهِرَةِ وَالْعَنَاصِرِ
ارحام میں اور شرافت پناہ اصول و آباء میں اور ایسے عناصر میں

الطَّيِّبَةِ الطَّاهِرَةِ اِسْتَخْرَجَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِّاَهْلِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ
جو طیب و طاہر ہیں ۔ اللہ تعالےٰ نے آپ کو ظاہر فرمایا ۔ دُنیا و آخرت والوں پر رحمت فرمانے کے لیے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ
اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر (جو آقا)

ِالْمَعْنِيِّ بِقَوْلِهٖ عَزَّ وَجَلَّ اِظْهَارًا لِّقَدْرِ نَبِيِّهٖ بَيْنَ
کہ مقصود و مراد ہیں اللہ تعالےٰ کے اس قول سے جو کہ (نازل کیا گیا) نبی اللہ علیہ السلام کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے

اُمَّتِهٖ وَبَيَانَ مَجْدِهٖ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ
اور ان کی بزرگی کو امّت میں ظاہر کرنے کے لیے "یعنی نہیں زیبا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ انھیں عذاب دے در آنحالیکہ تم

فِيْهِمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا
ان میں موجود ہو ۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ لَمْ تَرَ اُمُّهٗ فِىْ حَالِ وَضْعِهٖ مَا رَاَتْهُ النُّفَسَآءُ
جو ظہور فرما ہوئے اس شان سے) کہ نہ دیکھی آپ کی والدہ طاہرہ نے وہ آلائش جو دیکھتی ہیں نفاس والی عورتیں

وَلَمْ تَجِدْ مِنْ ثِقْلِ الْحَمْلِ مَا وَجَدَتْهُ النِّسَآءُ اَللّٰهُمَّ
اور نہ محسوس کیا انہوں نے حمل کی گرانی کو جس طرح کہ محسوس کرتی ہیں حاملہ عورتیں ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ
صلواۃ وسلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل امجاد پر کہ

لَمَّا وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ وَضَعَتْهُ اِلَى الْاَرْضِ قَبَضَ عَلٰى ثَلَاثِ مَفَاتِيْحَ
جب جنم دیا انہیں والدہ ماجدہ نے تو رکھا انہیں زمین پر اس شان سے کہ قبضہ کر رکھا تھا آپ نے سفید موتی

مِنَ اللُّؤْلُؤِ الْاَبْيَضِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
سے بنی تین چابیوں پر ۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا اور مولی محمد اور آپ

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْٓ اَعْلَمَهُ اللّٰهُ بِعُلُوِّ دَرَجَاتِهٖ
کی آل اطہار پر جس ہمارے آقا کو اللہ تعالےٰ نے علم بخشا ہے اپنے درجات کی بلندی و رفعت کا ۔

وَرَغِبَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ فِیْ تَرْبِيَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا
اور ملائکہ نے ان کی تربیت اور پرورش میں دلی رغبت ظاہر کی۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ خَمِدَتْ نِيْرَانُ فَارِسَ
محمّد اور آپ کی آل پر کہ آتشکدہائے فارس بجھ گئے۔

عِنْدَ وِلَادَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی
ان کی ولادت کے وقت۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ غَاضَ مَآءُ سَاوَةَ عِنْدَ ظُهُوْرِ
کی آل پر کہ زمین کی گہرائی میں چلا گیا پانی ساوہ ان کے علامات ظاہر

عَلَامَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ
ہونے پر۔ اے اللہ درود وسلام نازل فرما ہمارے آقا محمّد اور ان کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ بَطَلَتِ الْكَهَانَةُ لِمَوْلِدِهٖ وَغَاضَ
کہ باطل ہو گئی کہانت کاہنوں کی ان کی ولادت پر اور خشک ہوا

نَهْرُ الْاُرْدُنِّ لِمَوْرِدِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا
دریائے اردن ان کے چشمۂ فیض سے۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَضَآءَتْ لِمَوْلِدِهٖ
محمّد اور آپ کی آل پر کہ جن کی ولادت کے وقت روشن ہو گئے

الْاٰفَاقُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ
سب آفاق اور اطراف جہاں۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمّد اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اتَّصَلَتْ بِهٖ بُشْرَى الْهَوَاتِفِ فِی الْعَشِیِّ
کہ ملے ان کے متعلق سروش غیب کے بشارات شام

وَالْاِشْرَاقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی
اور صبح۔ اے اللہ درود اور سلام بھیج ہمارے آقا اور مولیٰ محمّد اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ رَغِبَ الطَّيْرُ وَالسَّحَابُ وَالرِّيْحُ
آپ کی آل پر کہ رغبت کی طیور اور بادلوں اور ہواؤں نے

فِیْ اِرْضَاعِهٖ وَاَنْ يَّكُوْنُوْا مِنْ اَشْيَاعِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ
ان کے راضی کرنے میں اور ان کی جماعت اور متبعین میں سے ہونے کی۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ
اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمّد اور آپ کی آل پر۔

الَّذِیْ لَمَّا اَرْضَعَتْهُ حَلِيْمَةُ دَرَّ لَبَنُهَا وَانْهَمَرَ فَكَانَتْ تُرْضِعُ
کہ جب انھیں حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تو (خشک ہوچکنے کے باوجود) ان کا دودھ اُتر آیا اور بہت زیادہ ہوگیا تو وہ پلاتی تھی

مَعَهٗ عَشَرَةً اَوْ اَكْثَرَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ
آپ کے ساتھ دس بچوں کو بلکہ ان سے بھی زیادہ کو۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمّد اور

عَلٰٓی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ عَلِمَ اَنَّ لَهٗ شَرِيْكًا فِی الرِّضَاعِ فَتَرَكَ
آپ کی آل پر جس آقائے کریم نے جان لیا کہ ان کے ساتھ دوسرا بچہ بھی دودھ میں حصہ دار ہے تو آپنے اس کیلئے چھوڑ دیا

لَهُ الثَّدْیَ الْاٰخَرَ وَلَمْ يَرْضَعْهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
دوسرے پستان کو اور اس سے بالکل دودھ نہ پیا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج ہمارے آقا محمّد

وَّعَلٰٓی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ قِيْلَ فِيْهِ لِحَلِيْمَةَ فِی النَّوْمِ الْهَاجِعِ
اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے متعلق کہا گیا حلیمہ سعدیہ کو گہری نیند میں

اَبْشِرِیْ بِاِرْضَاعِكِ لِلضِّيَآءِ اللَّامِعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا
بشارت قبول کر اپنے دودھ پلانے کی اس مولود مسعود کو جو مجسم ضیاء اور روشنی ہے۔ اے اللہ درود اور سلام بھیج ہمارے

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ حِيْنَ تُرْضِعُهٗ حَلِيْمَةُ
سردار محمد اور آپ کی آل پر کہ اس حبیب کو حلیمہ مشفقہ دودھ پلاتی تھی

الشَّفِيْقَةُ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْقُوْتِ دَقِيْقَةً اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی
تو وہ مقدارِ کفایت سے ایک ذرہ بھی زائد نہیں پیتے تھے۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ کَانَ ثَدْیُ حَلِیْمَۃَ لَہٗ
کی آل پر کہ ان کے لیے حلیمہ سعدیہ کے پستان دودھ کے ساتھ اُبلتے تھے

یَفُوْرُ وَبُطُوْنُ النِّسَآءِ سِوَاھَا لَاصِقَۃٌ بِالظُّھُوْرِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ
جبکہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں کے شکم بھی (بھوک کی وجہ سے) پشتوں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اے اللہ درود

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ رَفَعَتْہُ
وسلام بھیج ہمارے آقا محمّد اور آپ کی آل پر کہ جس حبیب کو حلیمہ نے اٹھایا تو

حَلِیْمَۃُ وَھِیَ فِیْ اَضْیَقِ وَقْتٍ وَّحَالٍ فَثَرٰی لَھَا الْمَتَاعُ وَالْمَالُ
وہ انتہائی تنگدستی کی حالت میں تھی پس بڑھ گیا آپ کی برکت سے اس کا سازوسامان اور مال و منال۔

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ
اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمّد اور آپ کی آل پر کہ جس

الَّذِیْ تَرَکَتْہُ اُمُّہٗ وَھُوَ ابْنُ اَرْبَعَۃِ اَعْوَامٍ اَوْ سِتَّۃِ اَعْوَامٍ اَللّٰھُمَّ
کو داغ جدائی دیا ان کی مادر مشفقہ نے جبکہ چار سال یا چھ سال کے تھے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ خَرَجَ
درود اور سلام بھیج ہمارے آقا محمّد اور آپ کی آل پر جو کہ نکلے طرف

اِلَی الشَّامِ وَھُوَ ابْنُ اِثْنَیْ عَشَرَ عَامًا وَّشَھْرَیْنِ وَعَشْرَۃِ اَیَّامٍ اَللّٰھُمَّ
شام کے جبکہ وہ بارہ سال، دو ماہ اور دس دن کے تھے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ
درود و سلام بھیج ہمارے آقا محمّد اور آپ کی آل پر کہ جنہیں

تَرَکَہٗ جَدُّہٗ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَھُوَ ابْنُ ثَمَانِیَۃِ اَعْوَامٍ وَّشَھْرَیْنِ وَ
داغ مفارقت دیا ان کے جد امجد جناب عبدالمطلب نے جبکہ وہ آٹھ سال۔ دو ماہ اور

عَشْرَۃِ اَیَّامٍ بِلَا کِذْبٍ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
دس دن کے تھے جس میں ذرہ بھر خلاف حقیقت وواقع نہیں ہے۔ اے اللہ درود و اسلام نازل فرما ہمارے آقا محمد

وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ کَانَ نُوْرُہٗ یَظْھَرُ عَلٰی وَجْہِ اَبِیْہِ
پر اور آپ کی آل پر کہ جس حبیب کا نور نمایاں ہوتا تھا اپنے والد اور دادا

وَجَدِّہٖ قَبْلَ حَمْلِ اُمِّہٖ بِہٖ وَمَوْلِدِہٖ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی
کے چہرے سے ان کی والدہ ماجدہ کے ان کے ساتھ حاملہ ہونے اور انھیں جنم دینے سے پہلے۔ اے اللہ درود و سلام بھیج

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ تَشَرَّفَ بِہٖ شَھْرُ
ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ مشرف ہوا ساتھ اس (محبوب کی ولادت) کے

رَبِیْعِ الْاَوَّلِ وَبِسِرِّ الْمَصُوْنِ الْاَکْمَلِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
ماہ ربیع الاول اور ساتھ اس سرِّ وحدت کے جو محفوظ بھی تھا اور کامل ترین بھی۔ اے اللہ درود وسلام بھیج

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ نَشَاَ فِی الْحُرُمَاتِ
ہمارے سردار محمد اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے نشوو نما پائی عظیم عزتوں میں

الْعِظَامِ بَیْنَ زَمْزَمَ وَالْمَقَامِ وَعَرَّفَتِ الْمَلٰٓئِکَۃُ فَضْلَہُ الْعَالَمَ
زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان اور پہچان کرادی ملائکہ نے ان کے فضل وکمال کی تمام جہان کو

مِنْ قَبْلِ اَنْ یُّخْلَقَ اٰدَمُ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
قبل اس کے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے سردار محمد

وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ حَضَّ عَلَی النِّکَاحِ وَلَمْ یَکُنْ فِیْ
اور آپ کی آل پر کہ انھوں نے نکاح کی (اُمّت کو) ترغیب دی۔ اور نہیں تھا

اٰبَآئِہٖ مِنْ لَّدُنْ اٰدَمَ سِفَاحٌ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا
آپ کے آباء و اجداد میں آدم علیہ السلام کے دور سے زنا اور بدکاری۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ طَیَّبَ اللّٰہُ مَعَادِنَہُ
محمد اور آپ کی آل پر کہ پاک اور منزہ فرمایا اللہ تعالٰے نے آپ کے معاون اور

الشَّرِیْفَۃَ وَعَنَاصِرَہُ الْکَرِیْمَۃَ وَانْتَقَلَ مِنَ الْاَصْلَابِ الْکَرِیْمَۃِ
اصول شریفہ کو اور آپ کے عناصر کریمہ کو اور آپ منتقل ہوئے پاکیزہ پشتوں سے

اِلَی الْاَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ

طاہر ارحام کی طرف ۔ اے اللہ درود وسلام بھیج ہمارے آقا محمد پر کہ

طَافَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ عَلَى الْخَلَآئِقِ بِطِيْنَتِهٖ لِيَهْتَدُوْا اِلٰى مَعْرِفَتِهٖ وَ

طواف کرایا ملائکہ نے تمام مخلوق پر ان کی طینت طیبہ کو تاکہ انھیں آپ کا عرفان اور آپ کی شریعت کی طرف

شَرِيْعَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الشَّجَرَةِ الطَّيِّبَةِ

رہنمائی حاصل ہو جائے ۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو کہ پاکیزہ اور مبارک

الْمُبَارَكَةِ وَعُرِضَ عَلٰى كُلِّ رُوْحَانِيٍّ مِّنَ الْاِنْسِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ

درخت ہیں اور آپ کو پیش کیا گیا تمام روحانی مخلوق پر یعنی انسانوں ، ملائکہ

وَالْجِنِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَحْيَا بِهِ اللّٰهُ لَهٗ

اور جنوں پر ۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے مخدوم محمد پر کہ جن کے طفیل اللہ تعالٰے نے آپکے والدین

اَبَوَيْهِ فَاٰمَنَا بِهٖ وَسَلَّمَا عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

کو زندہ فرمایا پس وہ دونوں آپکے ساتھ ایمان لائے اور آپ پر سلام بھیجا ۔ اے اللہ میں بار بار تیری بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں تیرا کوئی

لَبَّيْكَ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ يَتَّخِذْ

شریک نہیں ہے میں بار بار حاضر خدمت ہوں وہی اللہ واحد احد یکتا اور بے نیاز ہے جس نے نہ بیوی

صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝

اختیار کی اور نہ کوئی لڑکا ۔ کہہ دیجیے وہ اللہ یکتا ہے

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

اللہ بے نیاز ہے ۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ

يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ

وہ جنا گیا اور نہ تھا اس کے لیے

كُفُوًا اَحَدٌ ۝

کوئی مثیل

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

اللّٰھم صل علٰی سیدنا محمد و علٰی آل سیدنا محمد و بارک و سلم

الحمد للہ المنعم

کہ دریں زمان بعثت اقران بفضل

ایزد منان تحفۂ عجائب و ہدیۂ غرائب الی اللہ

مقبول بارگاہ شاہ کونین حضرت محمد رسول اللہ

مسمّٰی بہ

مجموعۂ صلوات الرسول


الجزء الثانی

فی صلوتہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وسلم

از تصنیف خادم مخلوق الملک السبحان خلیفہ حضرت شاہ جیلانی

حضرت خواجۂ خواجگان خواجہ محمد عبد الرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبۂ سرحد پاکستان



بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنیوالا مہربان ہے

اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡۤ اَسۡئَلُکَ بِمَھۡبَطِ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

اے اللہ تعالیٰ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بسم اللہ الرّحمٰن الرّحیم کے نزول کے تصدق میں۔

وَبِرَھۡبَطِ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝ وَبِمَرۡبَطِ بِسۡمِ اللّٰہِ

اور بطفیل بسم اللہ الرّحمٰن الرّحیم کے خوف و جلال کے۔ اور بسم اللہ الرّحمٰن

الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۝ الرَّحۡمٰنِ

الرّحیم کے مقام ربط و تعلق کے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ (دنیا میں مومن و کافر پر) فضل و احسان

الرَّحِیۡمِ ۝ مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ۝ اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَاِیَّاکَ

کرنیوالا ہے۔ (آخرت میں صرف مومنین پر) فضل و احسان فرمانے والا ہے۔ روز قیامت کا مالک ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی

نَسۡتَعِیۡنُ ۝ اِھۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۝ صِرَاطَ

توفیق اور قدرت طلب کرتے۔ ہمیں چلا سیدھی راہ پر۔ راہ ان

الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡھِمۡ ۝ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡھِمۡ وَلَا

لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ

الضَّآلِّیۡنَ ۝ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۝ حَمۡدًا یَّفُوۡقُ

راہ راست سے بھٹکے ہوؤں کی۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے ایسی تعریف جو فوقیت پانے والی ہو

حَمۡدَ الۡحَامِدِیۡنَ رَبِّ الۡاَوَّلِیۡنَ وَالۡاٰخِرِیۡنَ حَمۡدًا یَّکُوۡنُ

سب حمد کرنے والوں کی حمد پر (حمد اس ذات کی جو) اولین و آخرین کا رب ہے۔ ایسی حمد کہ جو ہو

لِیۡ رِضًا وَّحِفۡظًا عِنۡدَ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۝ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

میرے لیے سراسر رضاء خداوندی اور سراسر حفظ و امان نزدیک رب کائنات کے جو رحمٰن رحیم

مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ۝ اَلَّذِیۡ لَیۡسَ لَہٗ فِی الۡمُلۡکِ مُنَازِعٌ

مالک یوم الدین ہے۔ جس کے لیے ملک (کونین) میں کوئی بھی نزاع و اختلاف کرنے والا نہیں ہے

وَلَا قَرِيْنٌ وَّلَا وَزِيْرٌ وَّلَا مُشِيْرٌ ؕ بَلْ كَانَ قَبْلَ وُجُوْدِ الْعَالَمِ

اور نہ ساتھی اور نہ ہی وزیر اور مشیر بلکہ وہ پہلے موجود تھا جہان کے وجود سے

وَالْعَوَالِمِ اَجْمَعِيْنَ اَنْتَ اِحَاطَتِيْ وَعُدَّتِيْ مِنْ جَمِيْعِ

اور تمام اہل جہان کے وجود سے ۔(اے اللہ) تو ہی (ہر طرف سے میری حفاظت کے لیے) مجھے احاطے کیے ہوئے ہے اور میرا سروسامان (دفاع) ہے

الشَّيَاطِيْنِ وَعَوْنِيْ عَلَى الْاَبْعَدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَوَجْهَتِيْ

تمام شیاطین سے اور میرا معاون ہے بعید تر اور قریب تر لوگوں پر۔ اور میرا مرکز توجہ ہے

عَلَى الْاَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفِيْنَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ بِالْاِقْرَارِ نَخْجَلُ

مختلف اجناس واقسام (کے لوگوں) پر۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں جبکہ زبانی اقرار کرنے والے بھی ہیں شرمندہ ہوتے ہیں

مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنَ الذُّنُوْبِ

اپنے گناہوں اور خطاؤں سے اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں گناہوں سے۔

وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَلَا نِدَّ لَهٗ

اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو کہ یکتا ہے اس کا شریک نہیں ہے اور نہ کوئی مدِمقابل

وَلَا شَبِيْهَ لَهٗ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ

اور نہ اس کے مشابہ کوئی ہے۔ جلالت اور عزت واکرام کا مالک ہے۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سردار اور

نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِيَّاكَ

ہمارے نبی محمد اس کے عبد خاص اور رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور تجھی سے

نَسْتَعِيْنُ عَلٰى كُلِّ حَاجَةٍ وَّاَمْرٍ مِّنْ اُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

توفیق اور قدرت طلب کرتے ہیں ہر حاجت اور ہر معاملہ میں خواہ امورِ دنیا سے ہو یا امورِ آخرت سے

يَا هَادِيَ الْمُضِلِّيْنَ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ

اے گمراہوں کو ہدایت بخشنے والے۔ ہمیں چلا راہ راست پر جو راستہ ہے

الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ مِّنَ الْكٰفِرِيْنَ

ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے نہ کہ جن پر غضب کیا گیا ہے یعنی کفار

وَالْمُنَافِقِيْنَ وَالْفَاسِقِيْنَ وَلَا الضَّآلِّيْنَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَا

منافقین اور فاسق لوگوں کا۔ اور راہ راست سے بھٹک جانے والوں کا۔ اے اللہ اے ہمارے پروردگار نہ بنا

تَجْعَلْنَا مِنَ الْمَغْضُوْبِيْنَ وَالْمَقْهُوْرِيْنَ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ؕ

ہمیں ان لوگوں سے جن پر (تیرا) غضب اور قہر ہے اور نہ گمراہوں میں سے

اٰمِيْنَ ؕ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ

آمین۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان رجیم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام ملائکہ

يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا

درود بھیجتے ہیں نبی مکرم پر۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر صلوٰۃ وسلام بھیجو

تَسْلِيْمًا ؕ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا الذُّنُوْبَ ذُنُوْبَ الْكَبَآئِرِ وَالصَّغَآئِرِ

جیسے کہ حق ہے سلام بھیجنے کا۔ اے اللہ بخش دے ہمارے لیے تمام گناہ کبائر ہوں یا صغائر

بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَنْبِيَآءِ الزَّاهِرِ وَالْاَوْلِيَآءِ الْبَاهِرِ اَلصَّلٰوةُ وَ

بطفیل عزت وکرامت انبیاء کرام کے نورانی آقا اور اولیاء عظام کے نورانی سردار کے۔ درود اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ

سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے رسول۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے

اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ ؕ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

اللہ تعالیٰ کے نبی۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے حبیب۔ صلوٰۃ و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا خَلِيْلَ اللّٰهِ ؕ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اللّٰهِ

آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے خلیل۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے انتخاب

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ ؕ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے اللہ کی ساری مخلوق سے افضل و برتر۔ صلوٰۃ و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ اللّٰهِ ؕ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَارَ اللّٰهِ ؕ

آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے نائب (مطلق) صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا فَاتِحَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مُطَیَّبَ

صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے مخلوقِ اول اور نبی اول ۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے پاک

اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا طَیِّبَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا

کئے ہوئے ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے ہاں پاکیزہ ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے

طَاہِرَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مُطَہِّرَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ

اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک اور منزہ ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی طہارت بیان کرنے والے ۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر

یَا مُبَیِّنَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مُطِیْعَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

اے اللہ تعالیٰ کی ذات معظم کو بیان کرنے والے ۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ۔ صلوٰۃ و سلام ہو

عَلَیْکَ یَا حُجَّۃَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حَامِدَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَ

آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی دلیل وبرہان ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے حمد کرنے والے ۔ صلوٰۃ و

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا کَلِیْمَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا اَمِیْنَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ

سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہونے والے ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے امین اور محرم اسرار ۔ صلوٰۃ

وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا بَیَانَ رَسُوْلِ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نُوْرَ اللّٰہِ ط

و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے رسول اور سراپا بیان ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے نور

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا جَوَّادَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا

صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے مظہر جود وعطاء ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے

شَکُوْرَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مُنِیْرَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

اللہ تعالیٰ کے بہت ہی شکر گزار ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے (بنائے ہوئے) روشن چراغ ۔ صلوٰۃ وسلام ہو

عَلَیْکَ یَا قَرِیْبَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا یَتِیْمَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَ

آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے (چنے ہوئے) گوہر یکتا ۔ صلوٰۃ و

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا بَشِیْرَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نَذِیْرَ اللّٰہِ ط

سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں دینے والے ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والے

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ عَبْدِ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا

صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے عبد اللہ کے لختِ جگر ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے

رَحِیْمَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حَلِیْمَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ

اللہ تعالیٰ کے مظہر رحمت ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے مظہر حلم ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر

یَا مُنِیْبَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا عَزِیْزَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

اے اللہ تعالیٰ کی طرف (دل وجان سے) رجوع کرنے والے ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر ۔ اے اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ومکرم ۔ صلوٰۃ و سلام ہو

عَلَیْکَ یَا فَصِیْحَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَحْمَۃَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَ

آپ پر اے اللہ تعالیٰ سے صاف گوئی کے مالک ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی رحمت مجسم ۔ صلوٰۃ و

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا کَرِیْمَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مُکَرَّمَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ

سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت وکرامت کے مالک ۔ صلوٰۃ و سلام ہو ۔ آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے ہاں کرامت وعزت والے ۔ صلوٰۃ

وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا غَنِیَّ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا صِدِّیْقَ اللّٰہِ ط

و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی صفت غنا کے مظہر ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے مخلص دوست

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مُتَصَدِّقَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا

صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر ۔ اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سراسر حق وصدق کے ترجمان ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے

کَرَامَۃَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَءُوْفَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

اللہ تعالیٰ کی عزت وکرامت کے مظہر اتم ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے مظہر رافت ۔ صلوٰۃ و سلام ہو

عَلَیْکَ یَا شَفِیْعَ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا قُرَشِیَّ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ

آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفیع خلائق ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قریش میں ظاہر کئے جانیوالے ۔ صلوٰۃ

وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَکِّیَّ اللّٰہِ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَدَنِیَّ اللّٰہِ ط

و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ میں بھیجے ہوئے ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے مدینہ منورہ میں بھیجے ہوئے

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنِ اخْتَارَہُ اللّٰہُ ط اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ

صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے وہ ذات والا جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر

يَا مَنْ عَظَّمَهُ اللّٰهُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَضْرَتَ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَ
اے وہ ذات مکرم جن کی اللہ تعالیٰ نے عظمت بیان فرمائی، صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے وہ ذات کہ جن کی بارگاہ بارگاہ خدا تعالیٰ ہے۔ صلوٰۃ و
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَامِرَ كَعْبَةِ اللّٰهِ
سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے کعبۃ اللہ کو آباد کرنے والے
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ
صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے نور۔ صلوٰۃ وسلام نازل ہو آپ پر اے محمد
رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ التَّاجِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
رسول اللہ۔ صلوٰۃ وسلام نازل ہو آپ پر اے تاجدار خلائق۔ صلوٰۃ وسلام نازل ہو
عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْمِعْرَاجِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَاكِبَ الْبُرَاقِ
آپ پر اے معراج والے۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے براق کے سوار
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُخْتَرِقَ السَّبْعِ الطِّبَاقِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے ساتوں آسمانوں کو عبور کرنے والے۔ صلوٰۃ اور سلام ہو آپ پر
يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْمِحْرَابِ
اے حوض کوثر اور نہر کوثر کے مالک۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے محراب اور منبر
وَالْمِنْبَرِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ النِّعْمَةِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
کے مالک۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے ہر نعمت کے مالک۔ صلوٰۃ وسلام ہو
عَلَيْكَ يَا دَافِعَ النَّكَارَةِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النُّبُوَّةِ وَ
آپ پر اے برائیوں سے دور کرنے والے۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے (اور) نبوّت و رسالت کے
الرِّسَالَةِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْقُرْاٰنِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
نقش آخرین صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے صاحب قرآن۔ صلوٰۃ وسلام ہو
عَلَيْكَ يَا فَصِيْحَ اللِّسَانِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيُّ الْمَكِّيُّ اَلصَّلٰوةُ
آپ پر اے فصیح اللسان (صاف گو) صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے مکی نبی۔ صلوٰۃ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيُّ الْمَدَنِيُّ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيُّ الْعَرَبِيُّ
وسلام ہو آپ پر اے مدنی نبی صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے عربی نبی
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيُّ الْحَرَمِيُّ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيُّ
صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے نبیٔ حرم صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے حجازی
الْحِجَازِيُّ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيُّ الْاَبْطَحِيُّ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
نبی۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے ابطحی نبی۔ صلوٰۃ و سلام ہو
عَلَيْكَ يَا نَبِيُّ التِّهَامِيُّ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيُّ الْهَاشِمِيُّ اَلصَّلٰوةُ
آپ پر اے نبی تہامی۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے ہاشمی نبی۔ صلوٰۃ
وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيُّ الْقُرَشِيُّ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيُّ الزَّكِيُّ
وسلام ہو آپ پر اے قریشی نبی۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے پاکیزہ نبی
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيُّ الْاُمِّيُّ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے امی نبی۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے
صَاحِبَ الشَّفَاعَةِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ
شفاعت کے مالک (باذن اللہ)۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے گنہگاروں کو شفاعت سے نوازنے والے
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے سب رسولوں کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر
يَا سَيِّدَ النَّبِيِّيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَ
اے سب انبیاء کے سردار۔ صلوٰۃ اور سلام ہو آپ پر اے سب مومنین کے سردار۔ صلوٰۃ و
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُسْلِمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَّقِيْنَ
سلام ہو آپ پر اے سب اہل اسلام کے آقا۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے سب متقیوں کے آقا۔
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الصَّادِقِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے راست گو لوگوں کے سردار اور پیشواء صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے

سَيِّدَ الْمُصَدِّقِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الصَّابِرِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَ

تصدیق کرنے والوں کے مقتدا۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے صبر کرنے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الشَّاهِدِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمَشْهُوْدِيْنَ

سلام ہو آپ پر اے (حق کی) گواہی دینے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے (حق گوئی کی) شہادت دیئے جانے والوں کے سردار

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُفْلِحِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ

صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے فلاح پانے والوں کے سردار صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے زاہدوں

الزَّاهِدِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ التَّائِبِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

کے آقا۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے توبہ کرنے والوں کے پیشوا۔ صلوٰۃ وسلام ہو

عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْخَائِفِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُحِبِّيْنَ

آپ پر اے خوفِ خدا رکھنے والوں کے آقا۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے (اللہ سے) محبت رکھنے والوں کے سردار

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمَحْبُوْبِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے (اللہ کے) محبوبین کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر

يَاسَيِّدَ الْقَائِمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الرَّاكِعِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَ

اے (نماز میں) قیام کرنے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے رکوع کرنے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ السَّاجِدِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ

سلام ہو آپ پر اے ساجدین کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے (قرآن کی) قراءت کرنے

الْقَارِئِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُصَلِّيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

والوں کے سردار۔ صلوٰۃ اور سلام ہو آپ پر اے نمازیوں کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو

عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الشَّاكِرِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْقَاعِدِيْنَ

آپ پر اے شکر گزاروں کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے قعود (اور تشہد) والوں کے سردار

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْاَزْهَدِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے سراپا زہد حضرات کے آقا۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر

يَاسَيِّدَ الْقَانِعِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْحَافِظِيْنَ اَلصَّلٰوةُ

اے قناعت کرنے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے (قرآن مجید کے) حفاظ کے سردار۔ صلوٰۃ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْحَامِدِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ

وسلام ہو آپ پر اے حمد کرنے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے حمد کیے جانے والے

الْمَحْمُوْدِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُوَحِّدِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَ

لوگوں کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُبَارَكِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ

سلام ہو آپ پر اے بابرکت لوگوں کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے سب محافظوں

النَّاظِرِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ النَّاصِرِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے مددگارانِ خلق کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو

عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمَنْصُوْرِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الظَّاهِرِيْنَ

آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت پانے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے غلبہ پانے والوں کے سردار

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْوَارِثِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے وراثت پانے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے

سَيِّدَ الرَّاشِدِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُرْشِدِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَ

راست رو لوگوں کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے راہِ راست دکھانے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الرَّاغِبِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُشْفِقِيْنَ

سلام ہو آپ پر اے (اللہ کی طرف) راغب لوگوں کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے مشفقینِ خلائق کے سردار

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الظَّافِرِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے اربابِ ظفر کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے

سَيِّدَ الْمُظَفَّرِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الرَّاحِمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ

فتح وظفر دیئے ہوئے لوگوں کے سردار۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے رحم کرنے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ

والسلام علیک یا سید المرحومین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید

و سلام ہو آپ پر اے رحمت دیئے ہوؤں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے مغفرت دیئے

المغفورین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید التوابین الصلوٰۃ والسلام

ہوؤں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو

علیک یا سید المساکین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید الموافقین

آپ پر اے مساکین کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے موافقت کرنے والوں کے سردار

الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید الفائزین الصلوٰۃ والسلام علیک

صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے کامیاب لوگوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے

یا سید الناجین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید المناجین الصلوٰۃ

نجات پانے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے (اللہ سے) سرگوشی کرنے والوں کے سردار۔ صلواۃ

والسلام علیک یا سید الطاہرین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید

و سلام ہو آپ پر اے پاکیزہ لوگوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے پاک کرنے والوں

المطہرین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید المتطہرین الصلوٰۃ و

کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے کامل طہارت والوں کے سردار۔ صلواۃ و

السلام علیک یا سید المطیعین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید

سلام ہو آپ پر اے اطاعت گزاروں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے (حق کی) اتباع

التابعین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید الطالبین الصلوٰۃ والسلام

کرنے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے طالبانِ حق کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو

علیک یا سید المطلوبین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید

آپ پر اے مطلوبانِ خداوند تعالیٰ کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے مشتاقانِ خداوند تعالیٰ

المشتاقین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید العاشقین الصلوٰۃ

کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے عاشقوں کے سردار۔ صلواۃ

والسلام علیک یا سید المعشوقین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید

و سلام ہو آپ پر اے معشوقوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے نصیحت

الواعظین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید الذاکرین الصلوٰۃ والسلام

گروں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے ذکر کرنے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو

علیک یا سید المذکورین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید المنعمین

آپ پر اے ذکر کئے جانے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے انعام یافتہ لوگوں کے سردار

الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید المعظمین الصلوٰۃ والسلام علیک یا

صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے تعظیم کئے جانے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے

سید المفسرین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید المبلغین الصلوٰۃ و

مفسرین کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے پیغام حق پہنچانے والوں کے سردار۔ صلواۃ و

السلام علیک یا سید الواصلین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید

سلام ہو آپ پر اے واصلانِ حق کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے باہم وصل و پیوند

المتواصلین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید المقدسین الصلوٰۃ و

نبھانے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے مقدس لوگوں کے سردار۔ صلواۃ و

السلام علیک یا سید المحاضرین الصلوٰۃ والسلام علیک یا

سلام ہو آپ پر اے (خیر کی طرف) سبقت لے جانے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے

سید المرابطین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید المجتہدین الصلوٰۃ

باہم ربط رکھنے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے مجتہدین کے سردار۔ صلواۃ

والسلام علیک یا سید المجاہدین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید

و سلام ہو آپ پر اے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے رسولوں

المرسلین الصلوٰۃ والسلام علیک یا سید المؤمنین الصلوٰۃ والسلام

کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے مومنین کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُسْلِمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْفَاتِحِيْنَ

آپ پر اے اہل اسلام کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے فتح مندوں کے سردار

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُقْبِلِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے نیک بختوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے

سَيِّدَ الْحَافِظِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْعٰلَمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَ

حافظوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے سب اہل جہان کے سردار۔ صلواۃ و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْقَآئِمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الصَّآئِمِيْنَ

سلام ہو آپ پر اے قیام کرنے والوں (نمازیوں) کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے روزداروں کے سردار

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُشَاهِدِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے دیدار خدا کرنے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر

يَا سَيِّدَ الْمُتَشَاهِدِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُحَجَّلِيْنَ اَلصَّلٰوةُ

اے باہم دیدار حق کرنے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے نورانی اعضاء والوں کے سردار۔ صلواۃ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَّبِعِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَهَلِّلِيْنَ

و سلام ہو آپ پر اے اتباع حق کرنے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے لا الٰہ الا اللہ کہنے والوں کے سردار

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُسَبِّحِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے سبحان اللہ کہنے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے

سَيِّدَ الْمُحَقِّقِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَحَقِّقِيْنَ اَلصَّلٰوةُ

حق کو مدلل انداز میں جاننے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے حقائق کی تہ تک پہنچنے والوں کے سردار۔ صلواۃ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُظْهِرِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

و سلام ہو آپ پر اے حق کا اظہار کرنے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے احرام باندھنے

الْمُحْرِمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُحَلِّقِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَ

والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے (دوران حج) حلق کرانے والوں کے سردار۔ صلواۃ و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُقَصِّرِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

سلام ہو آپ پر اے (دوران حج و عمرہ) قصر کرانے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے معلمین

الْمُعَلِّمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَهَجِّدِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَ

کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے تہجد گزاروں کے سردار۔ صلواۃ و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُمَجِّدِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

سلام ہو آپ پر اے (اللہ تعالیٰ کی) بزرگی بیان کرنے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے استغفار

الْمُسْتَغْفِرِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَشَهِّدِيْنَ اَلصَّلٰوةُ

کرنے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے شہادت توحید دینے والوں کے سردار۔ صلواۃ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُسْتَشْهِدِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

و سلام ہو آپ پر اے گواہ قائم کرنے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے

سَيِّدَ الْمُتَّقِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُصَلِّيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَ

متقین کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے نماز گزاروں کے سردار۔ صلواۃ و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُنْفِقِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

سلام ہو آپ پر اے راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے باہم الفت

الْمُؤَلِّفِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُبَلِّغِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَ

پیدا کرنے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے مبلغین (حق) کے سردار۔ صلواۃ اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُخْلِصِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

سلام ہو آپ پر اے ارباب اخلاص کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے مقدس

الْمُقَدَّسِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُعَظَّمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ

لوگوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے اصحاب عظمت کے سردار۔ صلواۃ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُعَرِّفِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

و سلام ہو آپ پر اے حق کی پہچان کرانے والوں کے سردار۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے مبارک

اَلْمُبَارَكِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرَاقِبِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَ

لوگوں کے سردار۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُعَافِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

سلام ہو آپ پر اے عفو و در گزر کرنے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ

الْمُنَاجِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُنَجِّيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَ

سے مناجات کرنے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے نجات دلانے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُفَرِّحِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

سلام ہو آپ پر اے فرحت کا ساز و سامان کرنے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے

سَيِّدَ الْمُنْعِمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُمَكِّنِيْنَ

انعام بخشنے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے قدرت و قوت دینے والوں کے سردار

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَمَكِّنِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے قدرت پانے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ و سلام آپ پر

يَا سَيِّدَ الْمُؤَثِّلِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُبَيِّنِيْنَ

اے دائمی عزت و عظمت والوں کے سردار۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے حق کو واضح کرنے والوں کے سردار

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَبَيِّنِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے بذات خود واضح (نبوت والوں) کے سردار۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر

يَا سَيِّدَ الْمُمَلِّحِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

اے عمدہ اور ملیح کلام والے۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے متوکلین کے سردار

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُعْتَكِفِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اعتکاف بیٹھنے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر

يَا سَيِّدَ الْمُقَرَّبِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُشَفَّعِيْنَ اَلصَّلٰوةُ

اے مقربین کے سردار صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے ارباب شفاعت کے سردار۔ صلوٰۃ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُكَرَّمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

و سلام ہو آپ پر اے ارباب کرامت کے سردار۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے ارباب

الْمُتَوَاضِعِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمَحْفُوْظِيْنَ اَلصَّلٰوةُ

تواضع کے سردار۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے (اللہ تعالیٰ) کی حفاظت پانیوالوں کے سردار صلوٰۃ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمَرْحُوْمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

و سلام ہو آپ پر اے رحمت پانے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے

سَيِّدَ الْمَغْفُوْرِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمَطْلُوْبِيْنَ

مغفرت پانے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے مطلوبان حق کے سردار

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمَحْبُوْبِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے محبوبان حق کے سردار۔ صلوٰۃ و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمَعْشُوْقِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

آپ پر اے معشوقان حق کے سردار۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے چادر

الْمُزَّمِّلِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُدَّثِّرِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَ

اوڑھنے والوں کے سردار۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے کمبل پوشوں کے سردار۔ صلوٰۃ و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُشْتَاقِيْنَ اِلٰى لِقَآءِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ

سلام ہو آپ پر اے سردار، شوق رکھنے والوں کے۔ طرف رب العالمین کی ملاقات کے۔ صلوٰۃ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الْاٰخِذُ بِالْحُجُرَاتِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

و سلام ہو آپ پر اے حجرات مبارکہ بنانے والے صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر

يَا اٰخِذَ الْهَدَايَا اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الْاٰخِرُ اَلصَّلٰوةُ وَ

اے (صرف) ہدایا کے قبول کرنے والے۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے آخرالزمان پیغمبر۔ صلوٰۃ و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَحْرَايَا اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الْاٰمِرُ

سلام ہو آپ پر اے جائے پناہ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے صاحب امر

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاٰمِنُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا اٰیَۃَ اللّٰہِ اَلصَّلٰوۃُ

صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے صاحب امن و سلامتی۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی آیت (قدرت) صلواۃ

وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَبَرُّ بِاللّٰہِ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَبَآ اِبْرَاھِیْمَ اَلصَّلٰوۃُ

وسلام ہو آپ پر اے بہت زیادہ احسان کرنیوالے اللہ کی توفیق سے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے باپ۔ صلواۃ

وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَبَا الطَّاھِرِ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَبَا الطَّیِّبِ اَلصَّلٰوۃُ وَ

وسلام ہو آپ پر اے ابو الطاہر رضی اللہ عنہ۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے ابو الطیب (رضی اللہ عنہ) صلواۃ و

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَبَا الْقَاسِمِ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَبَا الْاَرَامِلِ اَلصَّلٰوۃُ وَ

سلام ہو آپ پر اے ابو القاسم (رضی اللہ عنہ) صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے بیوگان کے سرپرست۔ صلواۃ و

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَبْطَحِیُّ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَبْلَجُ اَلصَّلٰوۃُ

سلام ہو آپ پر اے ابطحی (وادی بطحا کے مکین) صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے ماہ جبین۔ صلواۃ

وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَبْیَضُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَجَلُّ اَلصَّلٰوۃُ

اور سلام ہو آپ پر اے چمکیلی سفید رنگت والے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے صاحب جلالت عظمیٰ۔ صلواۃ

وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَجْوَدُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَجِیْرُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

و سلام ہو آپ پر اے سب سے زیادہ جود و عطا والے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے اجر عظیم والے۔ صلواۃ و سلام ہو

عَلَیْکَ یَآ اَحَادُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَحْسَنُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ

آپ پر اے یکتائے خلائق۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے احسن خلائق۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر

یَآ اَیُّھَا الْاَحْشَمُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَخْشٰی لِلّٰہِ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

اے بے پایاں حشمت والے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے۔ صلواۃ و سلام ہو

عَلَیْکَ یَآ اَخُوْنَاخُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَدْعَجُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

آپ پر اے اخوناخ۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے عظیم آنکھوں والے۔ صلواۃ و سلام ہو

عَلَیْکَ یَآ اَدْوَمُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَرْجَحُ وَاَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلًا

آپ پر اے دائمی ربوبیت والے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر سب سے وزنی شخصیت اور اکمل ترین عقل والے

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَرْحَمُ وَاَرْحَمُ النَّاسِ بِالْعِبَادِ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے سراپا رحم و کرم اور سب سے زیادہ بندگان خدا پر رحم کرنیوالے۔ صلواۃ و سلام ہو

عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَزَجُّ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَزْکٰی اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

آپ پر اے دراز اور باریک ابروں والے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے سب سے زیادہ پاکیزہ۔ صلواۃ و سلام ہو

عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَسْلَمُ وَاَسْلَمُ النَّاسِ وَاَشْجَعُ النَّاسِ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

آپ پر اے سراپا سلامتی اور سب لوگوں سے زیادہ صاحب سلامت اور صاحب شجاعت۔ صلواۃ و سلام ہو

عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَشَدُّ حَیَآءً مِّنَ الْعَذْرَآءِ فِیْ خُدُوْرِھِنَّ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

آپ پر اے وہ ذات اقدس کہ جو زیادہ شرمیلے ہیں کنواری عورتوں سے جو اپنے پردوں میں ہوں صلواۃ و سلام ہو

عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَصْدَقُ فِی اللّٰہِ وَاَصْدَقُ النَّاسِ قَوْلًا وَّلَھْجَۃً اَلصَّلٰوۃُ وَ

آپ پر اے سب سے زیادہ سچے اللہ تعالیٰ کے حق میں اور سب سے زیادہ راست گو از روئے قول اور لہجہ کے۔ صلواۃ و

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَطْیَبُ وَاَطْیَبُ النَّاسِ رِیْحًا اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

سلام ہو آپ پر اے سراپا طیب و طہارت اور سب سے پاکیزہ تر از روئے خوشبو کے۔ صلواۃ و سلام ہو

عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَعَزُّ وَاَعْظَمُ وَاَعْلٰی اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَعْلَمُ

آپ پر اے عزیز ترین۔ عظیم ترین اور بزرگ ترین ہستی۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ علم رکھنے

بِاللّٰہِ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَعَزُّ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَفْصَحَ

والے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے عزیز تر۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے فصیح ترین

الْعَرَبِ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَکْرَمُ وَیَآ اَکْرَمَ النَّاسِ اَلصَّلٰوۃُ

عرب۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے مجسمۂ کرامت اور سب سے زیادہ کرامت والے۔ صلواۃ

وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاِکْلِیْلُ وَیَآ اَکْرَمَ وُلْدِ اٰدَمَ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

و سلام ہو آپ پر اے سرتاج اور اے تمام اولاد آدم سے زیادہ باکرامت۔ صلواۃ و سلام ہو

عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاَلْمَعِیُّ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآ اَیُّھَا الْاِمَامُ وَیَآ

آپ پر اے حقائق شناس۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے امام مطلق اور اے

إِمَامَ الْخَيْرِ وَيَا إِمَامَ الْمُرْسَلِيْنَ وَيَا إِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَيَا إِمَامَ الْمُتَّقِيْنَ

امام خیر۔ اے امام مرسلین اور اے امام انبیاء۔ اور اے امام متقین

وَيَا إِمَامَ الْعٰلَمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْأَمَانُ وَيَا آمِنَةَ

اور سب اہل جہان کے امام۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے سراپا امان اور (بالخصوص) اپنے صحابہ کرام

أَصْحَابِهٖ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْأَمْجَدُ وَيَا أَيُّهَا الْأُمِّيُّ اَلصَّلٰوةُ

کے لیے سرمایۂ حفظ وامان۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے بزرگ تر اور نبی امی۔ صلواۃ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلَ شَافِعٍ وَيَا أَوَّلَ مُشَفَّعٍ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

اور سلام ہو آپ پر اے اولین شافع اور اولین مقبول شفاعت والے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے

أَوَّلَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ

سب انبیاء و رسل سے مقدم رسول۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے سب ایمان و اسلام لانے والوں سے پہلے

الْمُسْلِمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ

ایمان لانے والے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے اولین ان تمام لوگوں کے جن سے زمین قبر الگ ہوگی

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْبَارُّ وَيَا أَيُّهَا الْبَارْقَلِيْطُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے سراپا بر و احسان اور اے سب سے زیادہ حمد کرنے والے (حامد)۔ صلواۃ و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْبَالِغُ وَيَا أَيُّهَا الْبَالِغُ الْبَيَانِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

آپ پر اے (مقاصد تک) پہنچنے والے اور اے بیان مراد پر کامل قدرت والے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر

يَا أَيُّهَا الْبَاهِيْ وَيَا أَيُّهَا الْبَرْقِيْطِسُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بُشْرٰى وَيَا

اے صاحب فخر۔ اور اے سب سے زیادہ عظمت والے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے بشارتوں والے اور اے

بُشْرٰى عِيْسٰى اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْبُرْهَانُ وَيَا أَيُّهَا الْبَدِيْعُ

بشارت عیسٰی۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے برہان (خداوند تعالیٰ) اور اے انوکھے شاہکار قدرت

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْبَهَاءُ وَيَا أَيُّهَا الْبَهِيُّ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے سراپا بہار اور رونق اور اے رونق وبہار والے۔ صلواۃ و سلام ہو

عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا التَّالِيْ وَيَا أَيُّهَا التَّذْكِرَةُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا التَّقْلِيْطُ

آپ پر اے تلاوت (قرآن) فرمانے والے اور اے سراپا تذکرہ ونصیحت۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے تقلیط

وَيَا حَاطُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْجَدُّ وَيَا أَيُّهَا الْجَوَادُ اَلصَّلٰوةُ

اے حاط۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے مجسمۂ بخت واقبال اور اے صاحب جود ونوال۔ صلواۃ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْحَامِدُ وَيَا حَامِلَ لِوَاءِ الْحَمْدِ اَلصَّلٰوةُ وَ

و سلام ہو آپ پر اے حمد بجانے والے۔ اور اے لواء حمد کے اٹھانے والے۔ صلواۃ اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْحَامِيْ وَيَا أَيُّهَا الْحَرَمِيُّ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

سلام ہو آپ پر اے بہت حمایت کرنے والے اور اے صاحب حرم (کعبہ)۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر

يَا أَيُّهَا الْحَاكِمُ بِمَا أَرَادَ اللهُ وَيَا حَبِيْبَ اللهِ وَيَا حِزْبَ اللهِ اَلصَّلٰوةُ وَ

اے اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے مطابق حکم دینے والے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اللہ تعالیٰ کی جماعت۔ صلواۃ و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْحَرِيْصُ عَلَى الْإِيْمَانِ وَيَا حَرِيْصُ عَلَيْكُمْ وَيَا

سلام ہو آپ پر اے (بذات خود) ایمان پر حرص فرمانے والے اور امت (کے ایمان) پر حرص فرماتے والے اور اے

حَرِيْصُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْحُجَّةُ لِلّٰهِ عَلَى الْخَلَائِقِ وَيَا أَيُّهَا

(ہر خیر اور بھلائی پر) حرص فرمانے والے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اس کی حجت و برہان۔ اور اے سراپا حق

الْحَقُّ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْحَلِيْمُ وَيَا أَيُّهَا الْحَكَمُ وَيَا أَيُّهَا

وصداقت۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے صاحب حلم اور اے حَکَم۔ اور اے صاحب حکمت

الْحَكِيْمُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْخَازِنُ لِمَالِ اللهِ وَيَا خَطِيْبَ

بالغہ۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے مال کے خازن۔ اور اے بارگاہ

الْوَافِدِيْنَ عَلَى اللهِ وَيَا خَلِيْفَةَ اللهِ وَيَا خَلِيْلَ اللهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

خداوندی میں حاضری دینے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے۔ اے خلیفۂ خدا اور اے خلیل خداوند تعالیٰ صلواۃ

عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الْحَنِيْفُ وَيَا ذَا السَّيْفِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا

وسلام ہو آپ پر اے دین حق پر کاربند۔ اور صاحب سیف۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے پیکر

اَلْخَاشِعُ وَيَا اَيُّهَا الْخَاضِعُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الْخَالِصُ وَيَا
خشوع اور اے مجسمۂ خضوع ۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے پیکر خلوص ۔ اور اے
اَيُّهَا الْخَافِضُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الْخَيْرُ وَيَا خَيَّارُ وَيَا خَيْرَ
(اے باطل کو پست کرنے والے) صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے سراسر خیر اور بھلائی ۔ اور اے (خیر کے)
الْاَوَّلِيْنَ وَيَا خَيْرَ الْاٰخِرِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الْخَلْقِ وَخَيْرَ خَلْقِ
اختیار کرنے والے ۔ اور تمام اولین وآخرین سے بہتر و برتر۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے سید خلق ۔ اور اے خلق خدا کے
اللّٰهِ وَيَا خِيَرَةَ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ وَيَا خَيْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ
بہتر۔ اور اے انتخاب خداوند تعالیٰ ۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے خلائق سے بہتر و برتر۔ اور اے اس امت کے سردار
وَيَا خَيْرَ الْعٰلَمِيْنَ طُرًّا اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الرَّافِعُ وَيَا اَيُّهَا الْوَاضِعُ
اور سب جہانوں کے سردار ۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے بلندی بخشنے والے ۔ اور اے (آئین شرع کے)
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الرَّاغِبُ وَيَا رَفِيْعَ الرُّتَبِ وَيَا اَيُّهَا الرَّهَّابُ
وضع کرنے والے ۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے (اللہ تعالیٰ کی) رغبت رکھنے والے ۔ اور بلند مراتب والے ۔ اور اے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے
يَا طَابُ يَا طَابَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الرُّوْحُ وَيَا رُوْحَ الْقِسْطِ وَيَا
اے طاب (طیب) ۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے روح (مجسم) اے روح عدل ۔ اور اے
رُوْحَ الْقُدُسِ وَيَا رُوْحَ الْحَقِّ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الزَّاجِرُ وَيَا
روح عدل ۔ اور اے روح مقدس اور اے روح حق ۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے آہستہ بولنے والے اور اے
اَيُّهَا الظَّاهِرُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الشَّكَّارُ وَيَا اَيُّهَا الشَّكُوْرُ وَيَا شَهِيْرُ
ظاہر ۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے بہت شکر گزار ۔ اے شکور اور اے مشہور جہان
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الشَّذْقَمُ وَيَا اَيُّهَا الشَّهْمُ وَيَا اَيُّهَا الْفَدْعَمُ
صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے دلیر و بہادر ۔ اور اے نافذ حکم والے اور اے رعب دار جسم والے
وَيَا اَيُّهَا الْغُطَمْطَمُ وَيَا سَيْفَ الْاِسْلَامِ وَيَا اَيُّهَا السَّيْفُ الْمُخَذَّمُ اَلصَّلٰوةُ وَ
اور اے بحر ذخار اور اے اسلام کی تلوار ۔ اور اے مزین تلوار ۔ صلواۃ و

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الشَّارِعُ وَيَا اَيُّهَا الشَّافِعُ وَيَا اَيُّهَا الشَّفِيْعُ اَلصَّلٰوةُ وَ
سلام ہو آپ پر اے شریعت کو جاری کرنے والے ۔ اے شفاعت فرمانے والے ۔ اے مقبول الشفاعت صلواۃ و
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الضَّحُوْكُ وَيَا اَيُّهَا الضَّحَّاكُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
سلام ہو آپ پر اے ہنس مکھ ۔ اور اے بہت زیادہ تبسم فرمانے والے ۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر
يَا اَيُّهَا الْقُثُوْمُ وَيَا قُثَمُ وَيَا اَيُّهَا الضَّارِبُ بِالْحُسَامِ الْمَلْثُوْمِ وَيَا اَيُّهَا الضَّيْغَمُ
اے بہت عطا کرنے والے اور اے سخی ۔ اور مارنے والے ساتھ لپٹی اور ڈھکی ہوئی تلوار کے اور اے بہادر و شجاع
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الضَّمِيْنُ وَيَا قَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ وَيَا اَيُّهَا
صلواۃ و سلام ہو آپ پر ۔ اے صاحب ضمانت ۔ اے نورانی صورت اور نورانی اعضاء والوں کے سردار ۔ اور اے
الْفَطِنُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْعَلَامَاتِ الْبَاهِرَاتِ وَيَا صَاحِبَ
صاحب فطنت ۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے ظاہر علامات والے ۔ اور اے بلندی
الْعُلُوِّ وَالدَّرَجَاتِ وَيَا صَاحِبَ الْمِدْرَعَةِ وَيَا صَاحِبَ الْمَدِيْنَةِ وَيَا اَيُّهَا
اور درجات والے ۔ اور اے جبہ والے اور اے مدینہ والے ۔ اور اے
الْعُدَّةُ وَيَا اَيُّهَا الْعُمْدَةُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا السَّرِيْعُ وَيَا صَاحِبَ
سروسامان ۔ اور اے عمدہ ۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے نیکیوں کی طرف) جلدی کرنے
الشَّرْعِ وَيَا اَيُّهَا الضَّارِعُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الْمُسْتَعِيْذُ وَيَا
والے اے صاحب شریعت ۔ اے بارگاہ خداوندی میں زاری کرنے والے ۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے پناہ کے طلب گار اور اے
مَاذُ وَيَا مَاذُ وَيَا مُوْذُ وَيَا مُوْذُ وَيَا مِيْذُ وَيَا مِيْذُ وَيَا اَيُّهَا النَّابِذُ وَيَا اَيُّهَا
ماذ ۔ اور اے ماذ ، اے موز ، اے موز اور اے میذ ۔ اے میذ اور اے پھینکنے والے ۔ اور کنز
الْكَنْزُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الْمَآءُ الْمَعِيْنُ وَيَا اَيُّهَا الْمَامُوْنُ وَ
(خداوند تعالیٰ) صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے صاف وشفاف پانی اور اے امن دیے ہوئے ۔ اور ناامیدوں
مُبَشِّرَ الْيَآئِسِيْنَ وَيَا اَيُّهَا اللَّسِنُ وَيَا اَيُّهَا اللِّسَانُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
کو بشارت دینے والے ۔ اور اے واضح کلام والے ۔ اور اے ترجمان (حق) صلواۃ و سلام ہو آپ پر

يَا اَيُّهَا الْمُبْتَهِلُ وَيَا اَيُّهَا الْمُؤَمِّلُ وَيَا اَيُّهَا الْمُتَبَتِّلُ وَيَا اَيُّهَا الْمُحَلِّلُ وَيَا اَيُّهَا
اے بارگاہ خداوندی میں زاری کرنے والے۔ اے امید دلانے والے۔ اے غیروں سے رشتہ توڑنے والے اور اے (پاکیزہ اشیاء کو) حلال ٹھہرانے
الْمُرْسَلُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الْمَتْلُوُّ وَيَا اَيُّهَا الْمَتْلُوُّ عَلَيْهِ وَيَا مَدْعُوُّ
والے اور اے مرسل۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے (کتب سماویہ میں) تلاوت کیے جانے والے۔ اور اے وہ ذات کہ جن پر تلاوت (وحی) کی جاتی
وَيَا اَيُّهَا الْعَفُوُّ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الْغَوْثُ وَيَا اَيُّهَا الْغَيْثُ وَيَا اَيُّهَا
ہے۔ اے وہ ذات جو نگاہ التفات کے لیے پکارے ہوئے ہیں اور اے عفو و درگزر والے صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے فریادرس اے باران رحمت۔ اور
الْغِيَاثُ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا الصَّادِعُ بِمَا اَمَرَ اللّٰهُ وَيَا صِرَاطَ
اے مجسم فریادرسی۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے پھٹ پڑنے والے امر خداوندی کے ساتھ۔ اور اے اللہ تعالیٰ کی راہ
اللّٰهِ وَيَا صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَيَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ اَلصَّلٰوةُ وَ
اے راہ ان لوگوں کی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اے صراط مستقیم۔ صلوٰۃ و
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَيَا اِمَامَ الْعٰلَمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
سلام ہو آپ پر اے اولین و آخرین سے بہتر و بزرگتر اور اے سب جہانوں کے امام۔ صلوٰۃ وسلام ہو
عَلَيْكَ يَا مُحِبَّنَا اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَحْبُوْبَنَا اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
آپ پر اے ہمارے محب۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے ہمارے محبوب۔ صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر
يَا مَقْصُوْدَنَا اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَطْلُوْبَنَا اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
اے ہمارے مقصود۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے ہمارے مطلوب۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر
يَا قَلْبِيْ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رُوْحِيْ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِرِّيْ
اے میرے قلب (و جگر) صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر۔ اے میری روح صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے میرے سرّ نہاں
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَنَا اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّنَا اَلصَّلٰوةُ
صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے ہمارے رسول۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے ہمارے نبی۔ صلوٰۃ
وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَافِيْ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا كَافِيْ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
اور سلام ہو آپ پر اے شفا دینے والے (باذن اللہ) صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے (باذن اللہ) کفایت کرنے والے صلوٰۃ وسلام ہو

عَلَيْكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَنْعَمَ الْمُنْعِمِيْنَ اَلصَّلٰوةُ
آپ پر اے سب عزت والوں سے عزیزتر۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے سب انعام کرنے والوں سے زیادہ انعام فرمانے والے
وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَزْيَنَ الْمُزَيِّنِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَشْرَفَ
صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے سب زینت دینے والوں سے زیادہ زینت دینے والے۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے تمام ارباب شرف سے زیادہ
الْمُشَرَّفِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَخْلَصَ الْمُخْلِصِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَ
صاحب شرف۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے تمام مخلصین سے زیادہ مخلص صلوٰۃ و
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَفْضَلَ الْفَاضِلِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَخْشَعَ
سلام ہو آپ پر اے تمام ارباب فضیلت سے افضل۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے تمام ارباب خشوع سے زیادہ خشوع اور
الْخَاشِعِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَخْضَعَ الْخَاضِعِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَ
عاجزی ظاہر کرنے والے۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے تمام ارباب خضوع سے برتر۔ صلوٰۃ و
لسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَحْمَدَ الْحَامِدِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَجْوَدَ الْجَوَّادِيْنَ
سلام ہو آپ پر اے سب سے زیادہ حمد بجالانے والے۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے سب سے زیادہ جود و نوال والے
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَصْبَرَ الصَّابِرِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَقْرَبَ
صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے تمام صابرین سے صبر میں برتر۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے سب سے زیادہ
الْمُقَرَّبِيْنَ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ اللّٰهِ الْوَاسِعَةَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ
مقرب خداوند تعالیٰ۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے اللہ کی رحمت مجسم جو تمام جہانوں کو محیط ہے۔
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُوْرَ اللّٰهِ الْمُنْبَسِطَ فِي الْخَلَآئِقِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
صلوٰۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کے نور جو تمام مخلوق میں پھیلایا ہوا ہے۔ صلوٰۃ وسلام ہو
عَلَيْكَ يَا فَخْرَ اٰدَمَ وَمَنْ بَعْدَهٗ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَرَفَ اِبْرَاهِيْمَ وَ
آپ پر اے حضرت آدم کے فخر اور ان کے بعد والوں کے۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے شرف اور بزرگی حضرت ابراہیم کی اور
مَنْ دُوْنَهٗ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَحْرَ الْوِلَايَةِ الَّذِيْ عِيْسٰى مِنْ جَدَاوِلِهٖ
ان کے علاوہ سب کی۔ صلوٰۃ وسلام ہو آپ پر اے ولایت کے سمندر جس کی ندیوں میں سے حضرت عیسیٰ بھی ایک ندی اور نالی ہے۔

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا طُوْرَ النُّبُوَّۃِ الَّذِیْ مُوْسٰی مِنْ جَوَانِبِهٖ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے نبوت کے کوہ طور کہ حضرت کلیم بھی اس کا ایک کنارہ ہیں۔ صلواۃ و سلام ہو

عَلَیْكَ یَا مَنْ خُلَفَآءُهٗ اَرْكَانُ الدِّیْنِ الْحَنَفِیِّ الْكَمَالِیِّ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

آپ پر اے ذات والا کہ جن کے خلفاء ارکان ہیں دین حق اور شرع کامل کے۔ صلواۃ و سلام ہو

عَلَیْكَ یَا مَنْ اَصْحَابُهٗ نُجُوْمُ فَلَكِ الْهِدَایَۃِ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ

آپ پر اے ذات مقدس کہ جن کے صحابہ آسمانِ ہدایت کے ستارے ہیں۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر

یَا مَنْ اُمَّتُهٗ خَیْرُ الْاُمَمِ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مَنْ شَرِیْعَتُهٗ نَاسِخُ

اے ذات مقدس کہ جن کی اُمّت خیرامم ہے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے ذات معلّی کہ جن کی شریعت ناسخ ہے

الشَّرَآئِعِ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مَنْ طَرِیْقَتُهٗ بَیْنَ الْجَمَالِ وَالْجَلَالِ

پہلی تمام شریعتوں کی۔ صلواۃ و سلام ہو نازل ہو آپ پر اے ذات معلّی کی جن کا طور و طریقہ جمال و جلال کے درمیان ہے نہ

لَا یَغْلِبُ جَمَالُهٗ عَلٰی جَلَالِهٖ وَلَا جَلَالُهٗ عَلٰی جَمَالِهٖ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ

تو ان کا جمال جلال پر غالب آتا ہے اور نہ جلال جمال پر۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر

یَا مَنْ ظَهَرَ فِیْهِ الْاَسْمَآءُ وَالصِّفَاتُ الْاِلٰهِیَّۃُ كُلُّهَا عَلٰی وَجْهِ الْاِعْتِدَالِ

اے اللہ تعالیٰ کے مظہر اسماء وصفات کہ جن میں وہ سب (اسماء وصفات) ظہور پذیر ہیں کامل اعتدال کے ساتھ

التَّآمِّ بِلَا غَالِبِیَّۃٍ وَّمَغْلُوْبِیَّۃٍ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مَنْ جَوَابُ سَلَامِهٖ

بغیر غلبہ اور مغلوبیت کے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے وہ ذات اقدس کہ جن کا جواب

شِفَآءُ الْمَرْضٰی وَسَلَامَۃُ اَصْحَابِ الْاٰفَۃِ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ

سلام مریضوں کے لیے سراسر شفا ہے اور آفت زدگان کے لیے سراسر سلامتی۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر

یَا مَنْ اَتَوَقَّعُ وَاَرْجُوْ اِعْتِمَادًا عَلٰی كَرَمِهِ الْعَامِّ الذَّاتِیِّ وَالصِّفَاتِیِّ جَوَابَ

اے رسول معظم کہ میں توقع اور آرزو رکھتا ہوں اعتماد کرتے ہوئے ان کے کرم عمیم ذاتی اور صفاتی پر سلام کا جواب ملنے

سَلَامٍ حَتّٰی اَسْلَمَ عَنْ جَمِیْعِ الْاٰفَاتِ وَاَتَوَسَّلُ بِكَرَمِهٖ اِلَیْهِ فِیْ هٰذَا الْمَطْلَبِ

کے لیے (اپنے) اسلام پیش کرنے پر تاکہ میں تمام آفات سے سلامت رہوں۔ اور میں وسیلہ پکڑتا ہوں انہیں کے کرم سے طرف ان

الْعَالِیْ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا اَرْكَعَ الرَّاكِعِیْنَ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ

اس بلند مرتبت مقصد میں۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے سب سے زیادہ رکوع کرنے والے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر

یَا اَسْجَدَ السَّاجِدِیْنَ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا اَعْرَفَ الْمُعَرِّفِیْنَ اَلصَّلٰوۃُ

اے سب سے زیادہ سجدے کرنے والے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے سب سے زیادہ جاننے پہچاننے۔ صلواۃ

وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مَنْ زَیَّنَهُ اللّٰهُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مَنْ شَرَّفَهُ اللّٰهُ

و سلام ہو آپ پر اے وہ ذات والا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مزین فرمایا۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے وہ ذات والا جنہیں اللہ تعالیٰ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مَنْ كَرَّمَهُ اللّٰهُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مَنْ غَفَرَ

نے شرف عالی بخشا۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے وہ ذات والا کہ جنہیں اللہ نے مکرم بنایا۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے وہ ذات اقدس

لَهُ اللّٰهُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مَنْ قَرَّبَهُ اللّٰهُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ

کہ مغفرت کا اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر کہ جنہیں اللہ نے مقرب ٹھہرایا۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر کہ

یَا مَنِ اخْتَارَهُ اللّٰهُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مَنْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ

جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے وہ ذات کہ جنہیں اللہ نے محبوب بنایا۔ صلواۃ و سلام ہو

عَلَیْكَ یَا مَنْ طَلَبَهُ اللّٰهُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مَنْ بَشَّرَهُ اللّٰهُ اَلصَّلٰوۃُ

آپ پر اے وہ ذات کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں طلب فرمایا۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے وہ ذات کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دیں۔ صلواۃ

وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مَنْ ذَكَرَهُ اللّٰهُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مَنْ دَنَاهُ اللّٰهُ

و سلام ہو آپ پر اے ذات مقدس کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا۔ صلوۃ و سلام ہو آپ پر اے ذات مقدس کہ اللہ ان کے قریب ہوا

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مَنْ مَنَّ عَلَیْهِ اللّٰهُ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مَنْ

صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے ذات مقدس کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی احسان فرمایا۔ صلواۃ و سلام ہو آپ پر اے ذات معلّی کہ

اَلْطَفَهُ اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَنَبِیِّنَا وَحَبِیْبِنَا وَشَفِیْعِنَا الْمُشَفَّعِ فِیْنَا مُحَمَّدٍ

اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم فرمایا۔ اے اللہ صلواۃ بھیج ہمارے سردار اور نبی اور حبیب و شفیع اور ہمارے حق میں مقبول الشفاعت محمد

خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ وَسَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِیْنَ وَرَسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الشَّاهِدِ

خاتم انبیاء اور سید مرسلین پر۔ امام المتقین اور رسول رب العالمین پر جو امت کے (احوال کا) مشاہدہ کرنے والے ہیں۔

الْبَشِيْرِ الدَّاعِیْ اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

بشارت دینے والے تیری طرف بلانے والے ہیں تیرے امر سے جو روشن چراغ ہیں اور انہیں پر سلام ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلَادِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَصْهَارِهٖ

محمد کریم پر اور آپ کی آل۔ اصحاب اولاد اور ازواج و ذریات پر اور اہل بیت اور آپ کے داما دوں پر

وَاَنْصَارِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ وَمُحِبِّيْهِ وَاُمَّتِهٖ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ وَعَلٰی اُمَّةِ جَمِيْعِ

اور آپ کی نصرت و امداد کرنے والوں اور آپ کی جماعتوں اور جملہ محبوں پر اور تمام اُمت پر اور ہم پر بھی ان سبھی کے ساتھ اور تمام

الْاَنْبِيَآءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ فِی الْاَوَّلِيْنَ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ فِی الْاٰخِرِيْنَ

انبیاء کی امتوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر تمام اولین میں۔ اور صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر تمام آخرین میں

وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ فِی النَّبِيِّيْنَ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ فِی الْمُرْسَلِيْنَ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ

اور صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر تمام انبیاء میں۔ اور صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر تمام مرسلین میں۔ اور صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر

فِی الْمَلَاِ الْاَعْلٰی اِلٰی يَوْمِ الدِّيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ

ملاء اعلیٰ اور ارباب شرف میں قیامت تک کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام اور برکت عطا فرما ہمارے آقا محمد پر جو تیرے

وَرَسُوْلِكَ وَاِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَصَفِيِّكَ وَمُوْسٰی كَلِيْمِكَ وَنَجِيِّكَ وَعِيْسٰی

نبی ورسول ہیں۔ اور ابراہیم پر جو تیرے خلیل ہیں اور موسیٰ پر جو تیرے کلیم ہیں اور سرگوشی کرنے والے اور عیسیٰ پر جو

رُوْحِكَ وَكَلِمَتِكَ وَعَلٰی جَمِيْعِ مَلٰٓئِكَتِكَ وَرُسُلِكَ وَاَنْبِيَآئِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنْ

تیرے پسندیدہ وروح ہیں اور کلمہ کن سے پیدا ہونے والے ہیں۔ اور اپنے تمام ملائکہ اور رسل پر اور تمام انبیاء پر اور اپنے منتخب

خَلْقِكَ وَاَصْفِيَآئِكَ وَخَاصَّتِكَ وَاَوْلِيَآئِكَ مِنْ اَهْلِ اَرْضِكَ وَسَمَآئِكَ وَ

لوگوں پر ساری مخلوق سے۔ اور اپنے مخصوص افراد اور خواص پر۔ اور اپنے تمام دوستوں پر خواہ اہل ارض سے ہوں یا اہل سما سے۔ اور

صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ نُوْرُهٗ مِنْ نُّوْرِ الْاَنْوَارِ وَاَشْرَقَ بِشُعَاعِ سِرِّهٖ

صلوٰۃ وسلام بھیج محمد کریم اور آل محمد پر جن کا نور خالص ترین انوار سے ہے اور ان کی شعاع باطن سے جگمگا اٹھے ہیں تمام اسرار

الْاَسْرَارُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اَهْلِ بَيْتِهِ الْاَبْرَارِ اَجْمَعِيْنَ اَللّٰهُمَّ

مخفی۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج محمد کریم اور آپ کی آل اور تمام اہل بیت پر جو نکوکار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعَرُوْسِ

صلوٰۃ نازل فرما محمد کریم اور آپ کی آل پر جو (محبوب) کہ تیرے انوار کے سمندر ہیں اور تیرے اسرار کی کان اور تیری حجت کے ترجمان

مَمْلَكَتِكَ وَخَلِيْفَةِ مُلْكِكَ وَاِمَامِ حَضْرَتِكَ وَخَاتَمِ اَنْبِيَآئِكَ صَلٰوةً تَدُوْمُ

اور تیری مملکت کے دولہا۔ اور تیرے ملک میں نائب مطلق۔ تیری بارگاہ میں امام (خلائق) اور تیرے انبیاء کے خاتم ہیں ایسی صلوٰۃ

بِدَوَامِكَ وَتَبْقٰی بِبَقَآئِكَ صَلٰوةً تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضٰی بِهَا عَنَّا يَا

جو دائم ہو تیرے دوام کے ساتھ اور باقی رہے تیری بقاء کے طفیل ایسی صلوٰۃ جو تجھے راضی رکھے اور انھیں راضی رکھے اور تو راضی ہو

بَدِيْعُ الرَّاضِیْ الرَّضِیُّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ هُوَ فِی السَّمَآءِ مَحْمُوْدٌ وَّفِی الْاَرْضِ

اس کے صدقے میں ہم سے۔ اے انوکھی تخلیق والے۔ اے رضا مند اور راضی کیے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج اس ذات اقدس پر جو آسمان میں حمد کیے ہوئے ہیں

سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی مَاحِی الضَّيْرِ وَمُظْهِرِ سِرِّ الضَّمِيْرِ وَ

اور زمین میں ہمارے آقا ہیں اور بار بار حمد کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام اور برکت عطا فرما ضرر کو مٹانے والی ذات پر۔ اور دلوں کے مخفی اسرار کے ظاہر کرنے

قَآئِدِ الْخَيْرِ وَفَاتِحِ الْبِرِّ وَنَبِیِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ الْاُمَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا

والے پر خیر اور بھلائی میں قائد۔ نیکی کے آغاز کرنے والے۔ نبی رحمت اور امت کے سردار پر۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْاَنْوَارِ وَسِرِّ الْاَسْرَارِ وَسَيِّدِ الْاَبْرَارِ وَزَيْنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْاَخْيَارِ وَ

محمد پر جو انوار میں سے عظیم نور اور اسرار قدرت میں سے عظیم سر ہیں۔ محسنین کے سردار بزرگ و برتر۔ رسولوں کی زینت اور ان تمام لوگوں سے

اَكْرَمِ مَنْ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ عَدَدَ مَا نَزَلَ مِنْ اَوَّلِ الدُّنْيَا اِلٰی

عزت والے ہیں جن پر رات سایہ فگن ہوئی اور دن ضو فگن ہوا مطابق گنتی ان کے جو نازل ہوئے ابتداء کائنات سے آخر تک

اٰخِرِهَا مِنْ قَطْرِ الْاَمْطَارِ وَعَدَدَ مَا نَبَتَ مِنْ اَوَّلِ الدُّنْيَا اِلٰی اٰخِرِهَا مِنَ النَّبَاتِ

بارشوں کے قطرات سے۔ اور مطابق تعداد ان کے جو پیدا ہوئے ابتداء دنیا سے اس کی انتہا تک نباتات اور پودوں

وَالْاَشْجَارِ صَلٰوةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِكَ

سے۔ ایسی صلوٰۃ جو دائم ہو ساتھ دوام ملک باری تعالیٰ کے جو واحد قہار ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما اپنے رسول

اَبِی الْقَاسِمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی الْمَنْصُوْرِ الْمُؤَيَّدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی الْمُخْتَارِ الْمُمَجَّدِ

ابوالقاسم پر۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج اس ذات پر جو تیری طرف سے نصرت اور قوت دیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج اس ذات اقدس پر جو کہ مخلوق سے چنے ہوئے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ

اور برتری دئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج ہمارے آقا و مولیٰ محمد کریم پر۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جن کے

مَلَأْتَ قَلْبَهٗ مِنْ جَلَالِكَ وَعَيْنَهٗ مِنْ جَمَالِكَ فَاَصْبَحَ فَرِحًا مُّؤَيَّدًا مَّنْصُوْرًا

دل کو تو نے بھر دیا ہے اپنے جلال کے ساتھ اور ان کی آنکھ کو اپنے جمال کے ساتھ پس وہ ہو گئے شاداں "تائید اور نصرت یافتہ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ حَمْدًا كَثِيْرًا اَللّٰهُمَّ

اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر اور سلامتی بخش جیسے کہ حق ہے سلامتی کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے اس پر حمد بے حد۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ خَلْقِكَ وَ

صلوٰۃ وسلام اور برکت نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو (آقا) تیری تمام مخلوق سے اکرم ہیں اور

سِرَاجِ اُفُقِكَ وَاَفْضَلِ قَآئِمٍ بِحَقِّكَ الْمَبْعُوْثِ بِتَيْسِيْرِكَ وَرِفْقِكَ صَلٰوةً

تیرے افق (جہان) کے لیے چراغ ہیں۔ اور تیرے حقوق کو قائم کرنے والوں سے افضل ہیں جو بھیجے گئے تیری طرف سے سہولت اور رفق کے ساتھ ایسی صلوٰۃ

يَّتَوَالٰى تَكْرَارُهَا وَتَلُوْحُ عَلَى الْاَكْوَانِ اَنْوَارُهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى

کہ مسلسل ہو تکرار اس کا۔ اور ظاہر ہوں کائنات پر انوار اس کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام اور برکت عطا فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ مَمْدُوْحٍ بِقَوْلِكَ وَاَشْرَفِ دَاعٍ

سیدنا محمد اور آپ کی آل پر جو (آقا) تمام ممدوحین سے برتر ممدوح ہیں ساتھ تیرے قول کے اور بزرگتر داعی ہیں واسطے تمسک

لِّلْاِعْتِصَامِ بِحَبْلِكَ وَخَاتَمِ اَنْبِيَآئِكَ وَرُسُلِكَ صَلٰوةً تُبَلِّغُنَا فِى الدَّارَيْنِ عَمِيْمَ

کرنے کے ساتھ تیری رسی کے اور جو تیرے انبیاء و رسل سے آخری نبی و رسول ہیں۔ ایسی صلوٰۃ جو پہنچائے ہمیں دونوں جہان میں تیرے فضل عمیم

فَضْلِكَ وَكَرَامَةَ رِضْوَانِكَ وَوَصْلِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

تک اور تیری رضامندی اور وصل کے اعزاز تک۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام اور برکت نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ الْكُرَمَآءِ مِنْ عِبَادِكَ وَاَشْرَفِ الْمُنَادِيْنَ لِطُرُقِ

آپ کی آل پر جو (آقا) تیرے باکرامت بندوں میں سب سے اکرم ہیں اور بزرگتر ہیں ان تمام سے جو ندا دینے والے ہیں تیری بھلائی والے راہوں

رَشَادِكَ وَسِرَاجِ اَقْطَارِكَ وَبِلَادِكَ صَلٰوةً لَّا تَفْنٰى وَلَا تَبِيْدُ تُبَلِّغُنَا بِهَا

کی طرف اور جو چراغ ہیں تیرے (جہان کے) اطراف اور تمام بلاد کے۔ ایسی صلوٰۃ جو فنا پذیر اور زوال آشنا نہ ہو پہنچائے تو ہمیں اس کی

كَرَامَةَ الْمَزِيْدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ

بدولت مزید کرامت تک۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام اور برکات نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالرَّفِيْعِ مَقَامُهٗ الْوَاجِبِ تَعْظِيْمُهٗ وَاِحْتِرَامُهٗ صَلٰوةً لَّا تَنْقَطِعُ

جن کا مقام بلند ہے۔ جن کی تعظیم و تکریم واجب ہے ایسی صلوٰۃ جو کبھی منقطع نہ ہو اور کسی

اَبَدًا وَّلَا تَفْنٰى سَرْمَدًا وَّلَا تَنْحَصِرُ عَدَدًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِ

دور میں فنا پذیر نہ ہو اور اس کا ازروئے عدد حصر نہ ہو سکے۔ اے اللہ صلوٰۃ ہمارے آقا محمد پر

النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ وَعَلٰى اٰلِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ

جو نبی امی ہیں اور طاہر و مطہر ہیں اور آپ کی آل پر۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج اور پہ اس ذات اقدس کے جس کے ساتھ ختم فرمایا تو نے

وَاَيَّدْتَّهٗ بِالنَّصْرِ وَالْكَوْثَرِ وَالشَّفَاعَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا

رسالت کو۔ اور تائید فرمائی ان کی ساتھ اپنی نصرت کے اور کوثر و شفاعت کے۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا و مولیٰ

مُحَمَّدِ ِالنَّبِيِّ الْحَكَمِ وَالْحِكْمَةِ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ الْمَخْصُوْصِ بِالْخُلُقِ

محمد پر جو نبی حاکم ہیں اور سراپا حکمت اور چمکتا چراغ ہیں۔ جو خاص کیے گئے ہیں خلق

الْعَظِيْمِ وَخَتْمِ الرُّسُلِ ذِى الْمِعْرَاجِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهِ السَّالِكِيْنَ

عظیم کے ساتھ اور ختم رسل ہونے اور صاحب معراج ہونے کے ساتھ اور آپ کے اہل و اصحاب اور اتباع پر جو آپ

عَلٰى مَنْهَجِهِ الْقَوِيْمِ فَاَعْظِمْهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ بِهٖ مِنْهَاجُ نُجُوْمِ

شاہراہ شریعت قیمہ پر چلنے والے ہیں پس ان کو عظمت بخش۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج اس ذات اقدس پر جن کی بدولت ہے کشادہ راستہ نجوم

الْاِسْلَامِ وَمَصَابِيْحُ الظَّلَامِ الْمُهْتَدٰى بِهِمْ فِىْ ظُلْمَةِ لَيْلِ الشَّكِّ الدَّاجِ صَلٰوةً

اسلام کا۔ اور ظلمتوں کے چراغوں کا جن کے ذریعے ہدایت حاصل کی جاتی ہے شک و تردد کی سیاہ رات کی تاریکی میں ایسی صلوٰۃ

دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً مَّا تَلَاطَمَتْ فِى الْاَبْحُرِ الْاَمْوَاجُ وَطَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ

جو دائم اور ہمیشہ برقرار ہو جب تک تھپیڑے کھاتی رہیں سمندروں میں موجیں۔ اور طواف کرتے رہیں بیت عتیق (کعبہ) کے

مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ِالْحُجَّاجُ وَاَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْمِ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِهٖ

گرد ہر گہرے راستے سے آنے والے حجاج کرام۔ اور افضل ترین صلوٰۃ وسلام ہو محمد پر جو کہ اس کے رسول

الکریم وصفوتہ من العباد وشفیع الخلائق فی المیعاد صاحب المقام

کریم ہیں اور اس کے بندگان خاص سے چنے ہوئے ہیں اور شفیع ہیں ساری مخلوقات کے قیامت کے دن۔ مالک ہیں مقام محمود

المحمود والحوض المورود الناھض باعباء الرسالۃ والتبلیغ الاعم و

کے اور حوض کے جس پر پیاسے وارد ہونے والے ہیں جو قیام فرمانے والے ہیں رسالت کی اور تبلیغ عام کی عباؤں کے ساتھ اور

المخصوص بشرف السعایۃ فی الصلاح الاعظم صلی اللہ علیہ وعلی الہ

مخصوص کئے گئے ہیں عظیم تر صلاح اور بہتری کے لیے سعی و کوشش کے شرف کے ساتھ۔ صلوٰۃ بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر

صلوۃ دائمۃ مستمرۃ الدوام علی مر اللیالی والایام فھو سید الاولین و

ایسی صلوٰۃ جو دائم اور مستمر ہو تمام گزرتی راتوں اور دنوں میں پس وہ سردار ہیں سب اوّلین و آخرین کے

الاخرین وافضل الاولین والاخرین علیہ افضل صلوۃ المصلین وازکی

اور افضل ہیں اولین و آخرین سے۔ انہیں پر ہو افضل ترین صلوٰۃ سب صلوٰۃ بھیجنے والوں سے اور

سلام المسلمین واطیب ذکر الذاکرین وافضل صلوات اللہ واحسن صلوات

پاکیزہ تر سلام۔ سب سلام بھیجنے والوں سے اور پاکیزہ تر ذکر تمام ذکر کرنے والوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صلوات سے افضل ترین صلوٰۃ اور احسن ترین

اللہ واجل صلوات اللہ واجمل صلوات اللہ واکمل صلوات اللہ واسبغ صلوات

صلوٰۃ اور صلوات الٰہیہ میں سے بزرگ تر صلوٰۃ اور صلوات الٰہیہ میں سے انتہائی جمیل صلوٰۃ اور صلوات الٰہیہ میں سے کامل ترین صلوٰۃ اور صلوات الٰہیہ

اللہ واتم صلوات اللہ واظھر صلوات اللہ واعظم صلوات اللہ وازکی

میں سے وسیع تر صلوٰۃ۔ اور صلوات الٰہیہ میں سے اکمل ترین۔ اور صلوات الٰہیہ میں سے روشن تر۔ اور صلوات الٰہیہ میں سے عظیم تر صلوٰۃ اور صلوات الٰہیہ میں

صلوات اللہ واطیب صلوات اللہ وابرک صلوات اللہ وازکی صلوات اللہ

سے پاکیزہ ترین صلوٰۃ۔ اور تمام صلوات الٰہیہ میں سے زیادہ طیب صلوٰۃ۔ اور تمام صلوات الٰہیہ سے زیادہ بابرکت صلوٰۃ۔ اور تمام صلوات الٰہیہ سے پاکیزہ

وانمی صلوات اللہ واوفی صلوات اللہ واسنی صلوات اللہ واعلی

ترین صلوٰۃ۔ اور سب صلوات الٰہیہ سے زائد صلوٰۃ۔ اور سب صلوٰۃ الٰہیہ سے اکمل صلوٰۃ۔ اور تمام صلوٰۃ صلوات الٰہیہ سے بلند مرتبہ صلوٰۃ۔ اور تمام صلوات

صلوات اللہ واکثر صلوات اللہ واجمع صلوات اللہ واعم صلوات

الٰہیہ سے عالی مرتبت صلوٰۃ۔ اور تمام صلوات الٰہیہ سے کثیر صلوٰۃ۔ اور تمام صلوات الٰہیہ سے جامع تر صلوٰۃ۔ اور تمام صلوات الٰہیہ سے عام تر

اللہ وادوم صلوات اللہ وابقی صلوات اللہ واعز صلوات اللہ وارفع

اور تمام صلوات الٰہیہ سے دوام میں زائد صلوٰۃ۔ اور تمام صلوات الٰہیہ سے بقاء میں زائد صلوٰۃ۔ اور تمام صلوات الٰہیہ سے عزیز تر صلوٰۃ۔ اور سب

صلوات اللہ واعظم صلوات اللہ علی افضل خلق اللہ واحسن خلق اللہ

صلوات الٰہیہ سے بلند تر صلوٰۃ اور تمام صلوات الٰہیہ سے عظیم ترین صلوٰۃ ہو اس ذات اقدس پر جو سب مخلوق خدا سے افضل ترین اور احسن ترین ہیں۔

واجل خلق اللہ واکرم خلق اللہ واجمل خلق اللہ واکمل خلق اللہ واتم

اور سب مخلوق خدا سے جلیل ترین۔ اور سب مخلوق سے اکرم اور خلق خدا سے اجمل۔ اور خلق خداوند تعالیٰ سے اکمل اور تمام مخلوق سے کامل ترین

خلق اللہ واعظم خلق اللہ وعبد اللہ ورسول اللہ ونبی اللہ وحبیب اللہ و

اور تمام مخلوق سے عظیم ترین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے عبد خاص اور اس کے رسول اور نبی اور حبیب اور

صفی اللہ ونجی اللہ وخلیل اللہ وولی اللہ وامین اللہ وخیرۃ اللہ من خلق

صفی ہیں اس کے ہمکلام۔ اور خلیل۔ اللہ تعالیٰ کے دوست اور اللہ کے امین اور اس کے چنے ہوئے ہیں ساری مخلوق سے

اللہ ونخبۃ اللہ من بریۃ اللہ وصفوۃ اللہ من انبیاء اللہ وعروۃ اللہ وعصمۃ

اللہ کے منتخب کئے ہوئے ہیں مخلوق خداوند تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے خالص کئے ہوئے ہیں تمام انبیاء اللہ سے اور اللہ تک رسائی کا مضبوط وسیلہ ہیں

اللہ ونعمۃ اللہ ومفتاح رحمۃ اللہ المختار من رسل اللہ المنتخب من

اور اللہ تعالیٰ کی عصمت ہیں اور اس کی نعمت۔ اور رحمت خداوندی کی چابی جو کہ تمام رسولوں میں سے چنے ہوئے ہیں اور انتخاب کئے ہوئے

خلق اللہ الفائز بالمطلب فی المرھب والمرغب المخلص فی ما وھب اکرم

ہیں خلق خداوند تعالیٰ سے۔ جو کامران ہیں اپنے مطلب کے ساتھ ہر مقام میں خوف کا ہو یا رغبت کا اور ممتاز ٹھہرائے ہوئے ہیں جملہ عطیات

مبعوث اصدق قائل انجح شافع وافضل مشفع الامین فیما استودع

میں انتہائی صاحب کرامت رسول ہیں اور سب سے زیادہ سچے قول والے ہیں۔ کامیاب ترین شفیع ہیں۔ اور حق شفاعت دئے جانے والوں میں سے افضل ہیں امانتدار

الصادق فیما بلغ الصادع بامر ربہ المضطلع بما حمل اقرب رسل اللہ الی

ہیں تمام امانتوں میں جو ان کے سپرد کی گئیں۔ سچے ہیں امور تبلیغیہ میں۔ پوری قوت صرف کرنے والے ہیں اپنے رب کے امر میں مضبوطی و ثابت قدمی سے کام لینے والے ہیں اس

اللہ وسیلۃ واعظمھم غدا عند اللہ منزلۃ وفضیلۃ واکرم الانبیاء الکرام

بوجھ میں جو ان پر ڈالا گیا تمام رسل سے قریب تر ہیں طرف اللہ تعالیٰ کے از روئے وسیلہ کے۔ اور ان تمام سے عظیم تر ہیں روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں از روئے منزلت اور فضیلت کے

الصَّفْوَةِ عَلَى اللهِ وَاَحَبِّهِمْ اِلَى اللهِ وَاَقْرَبِهِمْ زُلْفٰى لَدَى اللهِ وَاَكْرَمِ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ وَ

اور چنے ہوئے انبیاء کرام میں سے انتہائی بزرگ ہیں اللہ کے ہاں اور سب سے محبوب تر ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور ان سے قریب تر ہیں باعتبار قرب کے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔

اَحْظَاهُمْ وَاَرْضَاهُمْ لَدَى اللهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ

اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اکرم ہیں اس کے نزدیک اور عظیم تر حصے والے ان تمام سے۔ اور ان سب سے پسندیدہ اللہ کے نزدیک۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج ہمارے آقا محمد پر جو تیرے

اَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَاِمَامِ حَضْرَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَ

انوار کا سمندر اور تیرے اسرار کی معدن و کان ہیں تیری حجت کے ترجمان۔ تیری مملکت کے دولہا تیری بارگاہ کے امام۔ تیرے ملک کا نقش و نگار۔

خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِيْدِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ

تیری رحمت کے خزانے ہیں اور تیری شریعت کا راستہ۔ ذوق حاصل کرنے والے ہیں تیری توحید کے ساتھ۔ چشم وجود کا نور ہیں

وَالسَّبَبِ فِيْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُّوْرِ ضِيَائِكَ صَلٰوةً

اور تمام موجودات کا سبب ایجاد تیری مخلوق کے ارکان واصول کی اصل اور بنیاد ہیں، سب مخلوق سے مقدم ہیں تیرے نور ضیاء سے۔ ایسی صلوٰۃ

تَدُوْمُ بِدَوَامِكَ وَتَبْقٰى بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلٰوةً تُرْضِيْكَ

جو دائم ہو تیرے دوام کے سبب اور باقی رہے تیری بقا کی بدولت جس کی انتہاء نہ ہو سوا تیرے علم کے۔ ایسی صلوٰۃ جو تجھے راضی کرے

وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضٰى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُشَمِّرِ عَنْ سَاعِدِ

اور انہیں راضی کرے اور تو بسبب اس کے راضی ہو جائے ہم سے۔ اے رب العالمین۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما جد و جہد کے دست وبازو سے آستینیں

الْجِدِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُسْتَعْمِلِ فِيْ مَرْضَاتِكَ غَايَةَ الْجُهْدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

چڑھانے والے پر۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج اس ذات اقدس پر جو کام میں لاتے والے ہیں تیری رضامندی میں اپنی پوری قوت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

النَّبِيِّ الْخَاتِمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّسُوْلِ الْخَاتِمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُصْطَفَى الْقَائِمِ

نبی آخر الزمان پر۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج رسول آخر الزمان پر۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج مصطفیٰ پر جو تیرے حقوق کے ساتھ قائم ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءِ الرَّحْمَةِ وَمِيْمِ الْمُلْكِ وَدَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ

اے اللہ صلوٰۃ بھیج ہمارے آقا محمد پر جو رحمت کی حا ہیں۔ اور ملک کا میم۔ دوام کی دال ہیں۔ سردار ہیں

الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِكَ كَائِنٌ اَوْ قَدْ كَانَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ

صاحب کمال ہیں۔ اول نبی ہیں۔ اور آخری نبی بھی مطابق اعداد ان اشیاء کے جو تیرے علم میں ہیں موجود ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں جب بھی ذکر کرا

الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ صَلٰوةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ

تیرا اور ان کا ذکر کرنے والے اور جب کبھی غافل ہوں تیرے ذکر سے اور ان کے ذکر سے غفلت والے ایسی صلوٰۃ جو دائم ہو تیرے دوام تک

بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهٰى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ

اور باقی ہو تیری بقاء تک جس کی انتہاء نہ ہو بغیر تیرے علم کے بیشک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ الَّذِيْ هُوَ اَبْهٰى شُمُوْسِ

صلوٰۃ بھیج ہمارے آقا محمد پر جو نبی امی ہیں اور آپ کی آل پر جو (آقا) سب آفتاب ہائے ہدایت سے زیادہ

الْهُدٰى نُوْرًا وَاَبْهَرُهَا وَاَسْيَرُ الْاَنْبِيَاءِ فَخْرًا وَاَشْهَرُهَا وَنُوْرُهُ اَزْهَرُ اَنْوَارِ الْاَنْبِيَاءِ

ہی روشن ہے باعتبار نورانیت کے اور سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ اور سب انبیاء سے اعلیٰ سیرت والے ہیں از روئے فخر کے اور سب سے مشہور ترین اور آپ کا نور سب

وَاَشْرَفُهَا وَاَوْضَحُهَا وَاَزْكَى الْخَلِيْقَةِ اَخْلَاقًا وَّاَطْهَرُهَا وَاَكْرَمُهَا وَ

انبیاء کے انوار سے زیادہ ظاہر ہے اور شرف میں زائد۔ اور واضح ترین۔ اور ساری مخلوق سے پاکیزہ تر ہیں از روئے اخلاق کے اور زیادہ طاہر اور کرامت والے اور

اَعْدَلُهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ هُوَ اَبْهٰى مِنَ الْقَمَرِ التَّامِّ

سب سے عادل ترین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج ہمارے آقا محمد پر جو کہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہیں

وَاَكْرَمُ مِنَ السَّحَابِ الْمُرْسَلَةِ وَالْبَحْرِ الْخِضَمِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

اور بارش کے ساتھ بھیجے ہوئے بادلوں سے اور ٹھاٹھیں مارتے سمندروں سے بھی زیادہ صاحب جود و کرم ہیں۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدِ الَّذِيْ قُرِنَتِ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ وَمُحَيَّاهُ

جو کہ نبی امی ہیں اور آپ کی آل پر جس (آقا) کی ذات کے ساتھ برکت کو متصل کر دیا گیا ہے اور ان کے چہرۂ اقدس کے ساتھ

وَتَعَطَّرَتِ الْعَوَالِمُ بِطِيْبِ ذِكْرِهِ وَرَيَّاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نَبِيِّكَ الْمُصْطَفٰى

اور معطر ہو گئے ہیں تمام جہان ان کے ذکر کی خوشبو سے اور ان کے حسین منظر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج اپنے نبی مصطفیٰ

وَرَسُوْلِكَ الْمُرْتَضٰى وَوَلِيِّكَ الْمُجْتَبٰى وَاَمِيْنِكَ عَلٰى وَحْيِ السَّمَاءِ

اور رسول مرتضیٰ پر اور اپنے ولی مجتبیٰ پر اور آسمانی وحی میں اپنے امین پر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ الْاَسْلَافِ الْقَائِمِ بِالْعَدْلِ وَالْاِنْصَافِ

اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد پر جو تمام اسلاف سے عزت والے ہیں اور عدل وانصاف کے قائم کرنے والے ہیں

الْمَنْعُوْتِ فِیْ سُوْرَةِ الْاَعْرَافِ الْمُنْتَخَبِ مِنْ اَصْلَابِ الْاَشْرَافِ وَالْبُطُوْنِ

جن کی نعت وثنا سورۂ اعراف میں کی گئی ہے۔ جو منتخب اور خلاصہ ہیں بزرگ اصلاب اور عمدہ ارحام سے (ظاہر ہونے والوں کا)

الطِّرَافِ الْمُصَفّٰی مِنْ مُّصَاصِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ نِ الَّذِیْ

صاف اور منزہ ہیں عبد المطلب بن عبد مناف کی نسل سے جن کی بدولت

هَدَیْتَ بِهٖ مِنَ الْخِلَافِ وَبَیَّنْتَ بِهٖ سَبِیْلَ الْعَفَافِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

تو نے ہدایت اور رہنمائی فرمائی اخلاقی امور میں۔ اور ان کے ذریعے واضح کیا پاکدامنی کا راستہ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْهُدٰی وَالْقَآئِدِ اِلَی الْخَیْرِ وَالدَّاعِیْ اِلَی الرُّشْدِ نَبِیِّ

محمد کریم پر جو نور ہدایت ہیں۔ اور خیر کی طرف قیادت کرنے والے اور بھلائی کی دعوت دینے والے ہیں۔ نبی

الرَّحْمَةِ وَاِمَامِ الْمُتَّقِیْنَ وَرَسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا نَبِیَّ بَعْدَهٗ كَمَا بَلَّغَ

رحمت ہیں۔ متقیوں کے امام اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کے بعد نبی نہیں بنایا جائے گا (ایسی صلوٰۃ بھیج) جیسے کہ

رِسَالَتَكَ وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ وَتَلَا اٰیَاتِكَ وَاَقَامَ حُدُوْدَكَ وَوَفٰی بِعَهْدِكَ وَاَنْفَذَ

انہوں نے تیرے احکام پہنچائے۔ اور غمخواری فرمائی تیرے بندوں کے لیے، تیری آیات کی تلاوت کی۔ تیرے حدود کو قائم کیا تیرے عہد کو پورا کیا

حُكْمَكَ وَاَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَوَالٰی وَلِیَّكَ الَّذِیْ تُحِبُّ اَنْ تُوَالِیَهٗ وَعَادٰی

اور نافذ کیا تیرے حکم کو، اور تیری اطاعت کا حکم دیا۔ اور دوست رکھا تیرے ان دوستوں کو جن سے دوستی تجھے پسند تھی۔ اور عداوت رکھی

عَدُوَّكَ الَّذِیْ تُحِبُّ اَنْ تُعَادِیَهٗ وَصَلَّی اللّٰهُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

تیرے ان اعداء سے جن کے ساتھ عداوت تجھے پسند تھی۔ اور صلوٰۃ بھیجے اللہ تعالیٰ ہمارے آقا محمد پر۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

عَلَی النَّبِیِّ الْهَاشِمِیِّ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِیْمًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

نبی ہاشمی محمد پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور سلام بھیج جیسے کہ سلام کا حق ہے۔ اے اللہ درود بھیج

مُحَمَّدٍ خَیْرِ الْبَرِیَّةِ صَلٰوةً تُرْضِیْكَ وَتُرْضِیْهِ وَتَرْضٰی بِهَا عَنَّا یَا اَرْحَمَ

محمد کریم پر جو ساری مخلوق کے سردار ہیں۔ ایسا درود جو تجھے پسند ہو اور اس محبوب کا پسندیدہ ہو اور راضی ہو جائے تو بسبب اس کے ہم سے

الرَّاحِمِیْنَ ؕ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِیْمًا كَثِیْرًا طَیِّبًا

اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد پر اور ان کے آل واصحاب پر اور سلام بھیج کثیر تعداد میں جو طیب اور

مُبَارَكًا فِیْهِ جَزِیْلًا جَمِیْلًا دَآئِمًا اَبَدًا وَّاِمْ مُّلْكِ اللّٰهِ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ شَابًّا زَكِیًّا

بابرکت ہو عظیم وجمیل ہو اور دائمی ہو ساتھ دوام ملک باری تعالیٰ کے اور صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جبکہ وہ جوان و پاکیزہ ہیں

وَّصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كَهْلًا مَّرْضِیًّا وَّصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ مُّنْذُ كَانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا وَّ

اور صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جبکہ وہ پختہ عمر اور پسندیدہ (اخلاق) ہیں اور درود بھیج محمد کریم پر جب سے کہ وہ بچے تھے پنگھوڑے میں اور

صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا یَبْقٰی مِنَ الصَّلٰوةِ شَیْءٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر حتی کہ نہ باقی رہے صلوات سے کوئی شئے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد پر

الْمَبْعُوْثِ مِنْ تِهَامَةَ وَالْاٰمِرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالْاِسْتِقَامَةِ وَالشَّفِیْعِ لِاَهْلِ الذُّنُوْبِ

جو بھیجے گئے ہیں تہامہ سے اور نیکی اور راست روی کا حکم دینے والے ہیں۔ اور شفیع ہیں گنہگاروں کے لیے

فِیْ عَرَصَاتِ الْقِیٰمَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ اَنْبِیَآئِكَ وَاَكْرَمِ اَصْفِیَآئِكَ

اوقات قیامت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد پر جو تیرے تمام انبیاء سے افضل اور اصفیاء سے اکرم ہیں

وَاِمَامِ اَوْلِیَآئِكَ وَخَاتَمِ اَنْبِیَآئِكَ وَحَبِیْبِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَشَهِیْدِ الْمُرْسَلِیْنَ

اور تیرے تمام اولیاء کے امام اور تیرے سب انبیاء کے خاتم ہیں اور حبیب ہیں رب العالمین کے اور گواہ ہیں تمام رسولوں کے

وَشَفِیْعِ الْمُذْنِبِیْنَ وَسَیِّدِ وُلْدِ اٰدَمَ اَجْمَعِیْنَ الْمَرْفُوْعِ الذِّكْرِ فِی الْمَلٰٓئِكَةِ

اور شفیع عاصیاں ہیں اور سردار ہیں تمام اولاد آدم کے جن کا ذکر ملائکہ مقربین میں

الْمُقَرَّبِیْنَ الْبَشِیْرِ النَّذِیْرِ السِّرَاجِ الْمُنِیْرِ الصَّادِقِ الْاَمِیْنِ الْحَقِّ الْمُبِیْنِ الرَّءُوْفِ

بلند کیا ہوا ہے جو (اہل طاعت) کو بشارت دینے والے اور (اہل عصیان) کو ڈرانے والے ہیں۔ روشن چراغ ہیں۔ صادق وامین ہیں

الرَّحِیْمِ الْهَادِیْ اِلَی الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ الَّذِیْ اٰتَیْتَهٗ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِیْ وَالْقُرْاٰنَ

واضح حق ہیں اور بہت مہربان رحم فرمانے والے ہیں۔ رہنمائی فرمانے والے ہیں صراط مستقیم کی جن کو عطا کیں تو نے سات آیات تکرار کی جانیوالیں (فاتحہ)

الْعَظِیْمَ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ وَهَادِی الْاُمَّةِ اَوَّلِ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ وَیَدْخُلُ

اور قرآن عظیم جو رحمت والے نبی ہیں اور امت کے ہادی۔ پہلے فرد جن سے حجاب قبر پھٹ کر الگ ہوگا اور (پہلے شخص جو) داخل ہوں گے

الْجَنَّةَ وَالْمُؤَیَّدِ بِجِبْرِیْلَ وَمِیْكَآئِیْلَ الْمُبَشَّرِ بِهٖ فِی التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِیْلِ الْمُصْطَفٰی

جنت میں۔ جن کو تائید وتقویت دی گئی ہے جبرئیل اور میکائیل کے ساتھ۔ جن کی بشارت دی گئی ہے تورات وانجیل میں جو مصطفےٰ

الْمُجْتَبٰى الْمُنْتَخَبِ اَبِى الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ

مجتبٰے اور منتخب ہیں ابو القاسم محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاَوَّابِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ الْمَنْعُوْتِ فِى الْكِتَابِ

اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد پر جو (تیری طرف) بہت رغبت رکھنے والے نبی اور حق کے ساتھ کلام کرنے والے ہیں جو نعت کئے گئے ہیں (اللہ) کی

اَلنَّبِىِّ عَبْدِ اللّٰهِ اَلنَّبِىِّ كَنْزِ اللّٰهِ اَلنَّبِىِّ حُجَّةِ اللّٰهِ اَلنَّبِىِّ مَنْ اَطَاعَهٗ فَقَدْ

کتابوں میں۔ ایسے نبی جو اللہ کے عبد خاص ہیں۔ ایسے نبی جو اللہ کا خزانہ ہیں۔ ایسے نبی جو اللہ کی برہان ہیں۔ ایسے نبی کہ جو ان کی اطاعت کرے

اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ اَلنَّبِىِّ الْعَرَبِىِّ الْقُرَشِىِّ الزَّمْزَمِىِّ

اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ایسے نبی جو عربی، قریشی ہیں اور زمزمی،

الْمَكِّىِّ التِّهَامِىِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ قَاهِرِ الْمُضَادِّيْنَ مُبِيْدِ الْكٰفِرِيْنَ

مکہ اور تہامہ والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد پر جو مخالفین پر قہر فرمانے والے ہیں، کفار کو ہلاک کرنے والے ہیں

وَقَاتِلِ الْمُشْرِكِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ اِلٰى جَنّٰتِ النَّعِيْمِ وَجِوَارِ الْكَرِيْمِ

مشرکین کو قتل کرنے والے اور نورانی چہروں اور روشن اعضاء والوں کے قائد ہیں جنات نعیم کی طرف اور اللہ کریم کے قرب کی طرف

صَاحِبِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَشَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ وَ

جو جبرئیل کے ساتھی ہیں۔ رب العالمین کے رسول۔ شفیع عاصیاں ہیں اور

غَايَةِ الْغَمَامِ وَمِصْبَاحِ الظَّلَامِ وَقَمَرِ التَّمَامِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ

بادلوں کی غایت ہیں اور تاریکیوں میں روشن چراغ ہیں اور ماہ تمام ہیں۔ درود بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر

الْمُصْطَفَيْنَ مِنْ اَطْهَرِ جِبِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَرْسَلَهٗ مِنْ

جو چنے ہوئے ہیں پاکیزہ ترین جبلت اور خمیر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد پر جنہیں ارسال فرمایا اللہ تعالیٰ نے

اَرْجَحِ الْعَرَبِ مِيْزَانًا وَّاَوْضَحِهَا بَيَانًا وَّاَفْصَحِهَا لِسَانًا وَّاَشْمَخِهَا اِيْمَانًا وَّ

اس شان سے کہ وہ سب عرب پر وزنی ہیں از روئے میزان کے اور سب سے واضح تر ہیں باعتبار کلام کے اور فصیح تر ہیں باعتبار زبان کے اور بلند تر ہیں

اَعْلَاهَا مَقَامًا وَّاَحْلَاهَا كَلَامًا وَّاَوْفَاهَا ذِمَامًا وَّاَصْفَاهَا رَغَامًا وَّاَعْلٰى

از روئے ایمان کے۔ بلند تر ہیں از روئے مقام کے اور شیریں تر ہیں باعتبار کلام کے اور سب سے زیادہ نبھانے والے ذمہ داریوں کے اور بہت صافی ہیں از روئے جوہر و طینت

النَّاسِ قَدْرًا وَّاَعْظَمِهِمْ مَّحَلًّا وَّاَكْمَلِهِمْ مَحَاسِنًا وَّفَضْلًا وَّاَفْضَلِ الْاَنْبِيَآءِ

کے اور بلند ترین ہیں تمام لوگوں سے از روئے قدر کے اور عظیم تر ہیں از روئے مقام کے اور کامل تر ہیں از روئے محاسن اور فضائل کے اور افضل ہیں تمام

دَرَجَةً وَّاَكْمَلِهِمْ شَرِيْعَةً وَّاَشْرَفِ الْاَنْبِيَآءِ نِصَابًا وَّاَبْيَنِهِمْ بَيَانًا وَّخِطَابًا

انبیاء سے از روئے درجات کے اور کامل تر ہیں باعتبار شریعت کے اور بزرگتر ہیں تمام انبیاء سے از روئے اصل کے اور ان سے واضح تر ہیں

وَّاَفْضَلِهِمْ مَّوْلِدًا وَّمُهَاجَرًا وَّعِتْرَةً وَّاَصْحَابًا وَّاَكْرَمِ النَّاسِ اُرُوْمَةً وَّ

از روئے بیان اور خطاب کے۔ اور ان سے افضل ہیں باعتبار دار ولادت اور دار ہجرت کے اور از روئے اولاد و اصحاب کے۔ اور تمام لوگوں سے اکرم ہیں باعتبار خمیر

اَشْرَفِهِمْ جُرْثُوْمَةً وَّخَيْرِهِمْ نَفْسًا وَّاَطْهَرِهِمْ قَلْبًا وَّاَصْدَقِهِمْ قَوْلًا

اور بزرگتر ہیں باعتبار اصل کے اور بہتر ہیں از روئے نفس کے اور پاکیزہ تر ہیں از روئے قلب کے اور سب سے زیادہ سچے ہیں اقوال میں۔

وَّاَزْكَاهُمْ فِعْلًا وَّاَثْبَتِهِمْ اَصْلًا وَّاَوْفٰهُمْ عَهْدًا وَّاَمْكَنِهِمْ مَّجْدًا وَّ

اور سب سے پاکیزہ تر ہیں افعال میں اور مضبوط ترین ہیں از روئے اصل کے اور بہت پورا کرنے والے ہیں عہد کے اور راسخ تر ہیں از روئے مجد کے اور

اَكْرَمِهِمْ طَبْعًا وَّاَحْسَنِهِمْ صُنْعًا وَّاَطْيَبِهِمْ فَرْعًا وَّاَكْثَرِهِمْ طَاعَةً وَّ

ان سے مکرم ہیں از روئے طبع کے۔ اور خوب تر ہیں از روئے صنعت کے اور پاکیزہ تر ہیں از روئے فرع کے اور اکثر ہیں باعتبار طاعت کے اور

سَمْعًا وَّاَعْلَاهُمْ مَّقَامًا وَّاَحْلَاهُمْ كَلَامًا وَّاَزْكٰهُمْ سَلَامًا وَّاَجَلِّهِمْ

سمیع کے اور بلند تر ہیں باعتبار مقام کے اور شیریں تر ہیں از روئے کلام کے اور پاکیزہ تر ہیں از روئے سلام کے اور بزرگتر ہیں

قَدْرًا وَّاَعْظَمِهِمْ نَسَبًا وَّاَسْنَاهُمْ فَخْرًا وَّاَرْفَعِهِمْ فِى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى

ان تمام سے از روئے منزلت کے۔ اور بلند تر ہیں از روئے نسب کے اور روشن تر از روئے فخر کے اور ان سے بلند تر ہیں ملاء اعلیٰ میں

ذِكْرًا وَّاَوْفٰهُمْ عَهْدًا وَّاَصْدَقِهِمْ وَعْدًا وَّاَكْثَرِهِمْ شُكْرًا وَّاَعْلَاهُمْ

باعتبار ذکر کے اور زیادہ وفا کرنے والے ہیں ان تمام سے عہد کی اور سب سے زیادہ سچے ہیں وعدہ میں اور سب سے زیادہ شکرگزار ہیں اور بلند تر ہیں

اَمْرًا وَّاَجْمَلِهِمْ صَبْرًا وَّاَحْسَنِهِمْ خَيْرًا وَّاَقْرَبِهِمْ يُسْرًا وَّاَبْعَدِهِمْ

از روئے امر کے اور جمیل ترین ہیں از روئے صبر کے۔ اور حسین تر ہیں از روئے خیر کے۔ اور قریب تر ہیں از روئے یسر کے اور بلند ترین ہیں

مَّكَانًا وَّاَعْظَمِهِمْ شَانًا وَّاَثْبَتِهِمْ بُرْهَانًا وَّاَرْجَحِهِمْ مِيْزَانًا وَّاَوَّلِهِمْ

باعتبار منزلت کے۔ اور عظیم ترین شان والے ہیں اور مضبوط تر برہان والے۔ اور انتہائی وزنی میزان والے۔ اور سب سے اول ہیں۔

اِيْمَانًا وَّاَوْضَحِهِمْ بَيَانًا وَّاَفْصَحِهِمْ لِسَانًا وَّاَظْهَرِهِمْ سُلْطَانًا فَاَوْضَحَ

ازروئے ایمان کے۔اور واضح تر ہیں ازروئے بیان کے۔ اور فصیح تر ہیں ازروئے زبان کے اور غالب تر ہیں ازروئے حکومت کے،

الطَّرِيْقَةَ وَنَصَحَ الْخَلِيْقَةَ وَشَهَّرَ الْاِسْلَامَ وَكَسَّرَ الْاَصْنَامَ وَ

پس آپ نے واضح کر دیا طریقت کو اور نصیحت فرمائی مخلوق کو اور ظاہر کیا اسلام کو اور ٹکڑے ٹکڑے کیا اصنام کو اور

اَظْهَرَ الْاَحْكَامَ وَحَظَرَ الْحَرَامَ وَعَمَّ بِالْاِنْعَامِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى اَفْضَلِ

ظاہر کیا احکام اسلام کو۔ اور ممنوع ٹھہرایا حرام کو اور سب کا احاطہ کیا ساتھ انعام کے۔صلوٰۃ بھیجے اللہ تعالیٰ افضل ترین ذات

مَنْ طَابَ مِنْهُ النِّجَارُ وَسَمَا بِهِ الْفَخَارُ وَاسْتَنَارَتْ بِنُوْرِ جَبِيْنِهِ

پرجن کی بدولت پاکیزہ ہوئے حسب اور نسب۔ اور بلند ہوئے سامان فخر اور روشن ہوئے ان کے نور جبین سے

الْاَقْمَارُ وَتَضَآءَلَتْ عِنْدَ جُوْدِ يَمِيْنِهِ الْغَمَآئِمُ وَالْبِحَارُ سَيِّدِنَا وَ

ماہتاب۔ اور حقیر معلوم ہونے لگے۔ ان کے دستِ جود و نوال کے آگے بادل اور سمندر ہمارے آقا اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ بِبَاهِرِ اٰيَاتِهٖ اَضَآءَتِ الْاَنْجَادُ وَالْاَغْوَارُ وَ

نبی محمد جن کی روشن آیات کے ساتھ نورانی ہو گئے فراز اور نشیب۔ اور

بِمُعْجِزَاتِ اٰيَاتِهٖ نَطَقَ الْكُتُبُ وَتَوَاتَرَتِ الْاَخْبَارُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ

ان کے معجزات آیات کے ساتھ نطق کیا کتب الٰہیہ نے اور متواتر ہوئیں ان کی خبریں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد پر

الَّذِيْ هُوَ قُطْبُ الْجَلَالَةِ وَشَمْسُ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَالْهَادِيْ عَنِ

جو قطب جلالت ہیں اور شمس نبوّت ورسالت ہیں۔ اور ہدایت دینے والے ہیں۔

الضَّلَالَةِ وَالْمُنْقِذُ مِنَ الْجَهَالَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

گمراہی سے۔ اور بچانے والے ہیں جہالت سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاَسِيْلِ السَّيِّدِ النَّبِيْلِ الَّذِيْ جَآءَ بِالْوَحْيِ وَالتَّنْزِيْلِ

محمد پر جو نرم خو نبی ہیں اور بلند مرتبت سردار ہیں جو وحی اور کلام منزل لائے

وَاَوْضَحَ بَيَانَ التَّاْوِيْلِ وَجَآءَهُ الْاَمِيْنُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور واضح کیا حقیقی مراد کے بجم روشن کو۔ اور لائے آپ کے پاس امین (وحی) جبرئیل علیہ السلام

بِالْكَرَامَةِ وَالتَّفْضِيْلِ وَاَسْرٰى بِهِ الْمَلِكُ الْجَلِيْلُ فِي اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ

کرامت وفضیلت کے ساتھ اور سیر کرائی انہیں ملک جلیل نے اس رات میں جو تاریک

الطَّوِيْلِ فَكَشَفَ لَهٗ عَنْ اَعْلَى الْمَلَكُوْتِ وَاَرَاهُ سَنَا الْجَبَرُوْتِ وَنَظَرَ

اور طویل تھی اور ان کے لیے پردے ہٹا دئے ملکوت بالا سے اور انہیں دکھلائی جبروت کی ضیا و چمک اور مشاہدہ کیا انہوں

اِلٰى قُدْرَةِ الْحَيِّ الدَّآئِمِ الْبَاقِي الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ

نے اس ذات اقدس کی قدرت کا جو ہمیشہ کے لیے زندہ، دائم، باقی ہے اور کبھی فوت نہیں ہوگی۔ اے اللہ درود بھیج محمد پر

نَّبِيِّكَ وَاِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَعَلٰى جَمِيْعِ اَنْبِيَآئِكَ وَاَصْفِيَآئِكَ مِنْ

جو تیرے نبی ہیں۔ اور ابراہیم پر جو تیرے خلیل ہیں۔ اور اپنے تمام انبیاء پر اور منتخب مخلصین پر خواہ

اَهْلِ اَرْضِكَ وَسَمَآئِكَ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَآءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ

اہل ارض سے ہوں یا اہل سماء سے مطابق تعداد اپنی مخلوق کے اور اپنی ذات کی رضامندی کے اور مطابق

عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهٰى عِلْمِكَ وَزِنَةَ جَمِيْعِ مَخْلُوْقَاتِكَ

اپنے عرش کے وزن کے اور مطابق اپنے کلمات کی سیاہی کی (مقدار کے) اور اپنے معلومات کی انتہا کے مطابق۔ اور تمام مخلوقات

صَلٰوةً مُّكَرَّرَةً اَبَدًا عَدَدَ مَآ اَحْصٰى عِلْمُكَ وَمِلْاَ مَآ اَحْصٰى

کی مقدار کے مطابق ایسی صلوٰۃ جس میں کثرت تکرار ہو ہمیشہ کے لیے مطابق تعداد ان اشیاء کے جن کا احاطہ کیا تیرے علم نے اور مطابق حجم ان اشیاء

عِلْمُكَ وَاَضْعَافَ مَآ اَحْصٰى عِلْمُكَ صَلٰوةً تَزِيْدُ وَتَفُوْقُ وَ

کے جن کو محیط ہوا علم تیرا اور چند در چند اس سے جس کا احاطہ کیا تیرے علم نے ایسی صلوٰۃ جو زائد اور فائق ہو اور

تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْهِمْ مِّنَ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ كَفَضْلِكَ

برتر ہو ان تمام لوگوں کی صلوات سے جن پر تمام مخلوق کی طرف سے صلوات بھیجی گئی ہوں مانند تیری فضیلت اور

عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ

برتری کے اوپر اپنی تمام مخلوق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج ہمارے آقا محمد پر اور سلام بھیج ان پر اور

اجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ حَبِيْبُكَ (ثلثًا) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

جزا دے انہیں ہماری طرف سے جس کے وہ تیرے حبیب اہل ہیں۔ اس درود کو تین مرتبہ پڑھا جائے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج ہمارے آقا

إِبْرَاهِيْمَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ خَلِيْلُكَ (ثَلٰثًا)

ابراہیم پر اور سلام بھیج اور جزا دے انہیں ہماری طرف سے جس کے وہ تیرے خلیل اہل ہیں اس درود کو بھی تین مرتبہ پڑھا جائے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰدَمَ وَنُوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ

اے اللہ صلواۃ بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آدم و نوح و ابراہیم

وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا بَيْنَهُمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ

اور موسیٰ و عیسیٰ اور ان کے درمیان کے تمام انبیاء و مرسلین پر

صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهٗ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ (ثَلٰثًا) اَللّٰهُمَّ

اللہ تعالیٰ کی صلوات ہوں اور تسلیمات ہوں ان تمام پر اے اللہ اس درود کو تین مرتبہ پڑھا جائے

صَلِّ عَلٰى اَبِيْنَا اٰدَمَ وَاُمِّنَا حَوَّآءَ صَلٰوةَ مَلٰٓئِكَتِكَ وَاَعْطِهِمَا

اے اللہ صلوات بھیج ہمارے باپ آدم۔ ہماری اماں حواء پر مانند صلوات تیرے تمام ملائکہ کے اور عطا فرما ان کو

مِنَ الرِّضْوَانِ حَتّٰى تُرْضِيَهُمَا وَاجْزِهِمَا اَللّٰهُمَّ اَفْضَلَ مَا

اپنی رضامندی سے حتی کہ تو انہیں راضی فرمائے اور انہیں جزاء عطا کرے اللہ افضل ترین جزاء ہو

جَازَيْتَ بِهٖ اَبًا وَّاُمًّا عَنْ وَّلَدَيْهِمَا (ثَلٰثًا) اَللّٰهُمَّ صَلِّ

ان تمام جزاؤں سے جو تو نے دی کسی بھی باپ اور ماں کو ان کی اولاد کی طرف سے۔ اے اللہ صلواۃ

عَلٰى سَيِّدِنَا جِبْرَآئِيْلَ وَمِيْكَآئِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَعِزْرَآئِيْلَ

بھیج ہمارے آقا جبرئیل و میکائیل اور اسرافیل و عزرائیل پر

وَحَمَلَةِ الْعَرْشِ وَعَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ

اور حاملین عرش پر۔ اور تمام مقرب ملائکہ پر۔ اور تمام انبیاء

وَالْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهٗ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ (ثَلٰثًا)

و مرسلین پر۔ اللہ تعالے کی صلوات و تسلیمات ہوں ان تمام پر اسے تین مرتبہ پڑھا جائے

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ الْاُمَّةِ وَعَلٰى اَبِيْنَا

صلواۃ بھیجے اللہ تعالے محمد پر جو نبی رحمت ہیں اور سید اُمّت اور ہمارے باپ

اٰدَمَ وَاُمِّنَا حَوَّآءَ وَمَنْ وَّلَدَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَ

آدم اور ماں حواء پر اور جن کو جنم دیا ان دونوں نے انبیاء و صدیقین اور

الشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَصَلِّ عَلٰى مَلٰٓئِكَتِكَ اَجْمَعِيْنَ مِنْ

شہداء و صالحین ہیں سے۔ اور صلواۃ بھیج اپنے تمام ملائکہ پر

اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرَضِيْنَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ۝

آسمان والے ہوں یا زمین والے۔ اور ہم پر بھی ساتھ ان کے اے ارحم الراحمین۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَلٰٓئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلٰٓى اَنْبِيَآئِكَ الْمُطَهَّرِيْنَ

اے اللہ صلواۃ بھیج اپنے ملائکہ مقربین پر اور انبیاء مطہرین پر

وَعَلٰى رُسُلِكَ الْمُرْسَلِيْنَ وَحَمَلَةِ عَرْشِكَ وَعَلٰى جِبْرِيْلَ وَ

اور اپنے تمام بھیجے ہوئے رسولوں پر اور اپنے حاملین پر (بالخصوص) جبرئیل پر اور

مِيْكَآئِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَمَلَكِ الْمَوْتِ وَرِضْوَانَ خَازِنِ جَنَّتِكَ

میکائیل و اسرافیل اور ملک الموت پر اور جنت کے نگران رضوان پر

وَمَالِكٍ وَصَلِّ عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ وَصَلِّ عَلٰٓى اَهْلِ طَاعَتِكَ

اور (دوزخ کے نگران) مالک پر۔ اور صلواۃ بھیج کراماً کاتبین پر۔ اور صلواۃ بھیج اپنے تمام طاعت گزاروں

اَجْمَعِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرَضِيْنَ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ

پر آسمان والوں سے ہوں یا زمین والوں سے۔ پس صلواۃ بھیج ان پر

صَلٰوةً دَآئِمَةً تَزِيْدُهُمْ بِهَا فَضْلًا وَّتَجْعَلُنَا لِاسْتِغْفَارِهِمْ

ایسی صلواۃ جو دائم ہو بڑھائے تو ان کے لیے بسبب اس کے بزرگی اور کرے تو ہمیں ان کی دعائے مغفرت کا

بِهَا اَهْلًا اَللّٰهُمَّ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اَنْبِيَآئِكَ وَرُسُلِكَ الَّذِيْنَ

بسبب اس صلواۃ کے حقدار۔ اے اللہ صلواۃ بھیج اپنے تمام انبیاء اور رسل پر

شَرَحْتَ صُدُوْرَهُمْ وَاَوْدَعْتَهُمْ حِكْمَتَكَ وَطَوَّقْتَهُمْ

جن کے سینے تو نے کشادہ فرمائے اور ان میں امانت رکھا اپنی حکمت کو اور طاقت بخشی انہیں

نُبُوَّتَكَ وَاَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ كُتُبَكَ وَهَدَيْتَ بِهِمْ خَلْقَكَ وَدَعَوْا اِلٰى

اپنی نبوّت کی اور نازل فرمایا ان پر اپنی کتابوں کو اور ہدایت دی تو نے ان کے ذریعے اپنی مخلوق کو اور دعوت دی انہوں نے

تَوْحِيْدِكَ وَشَوَّقُوْا اِلٰى وَعْدِكَ وَخَوَّفُوْا مِنْ وَّعِيْدِكَ وَاَرْشَدُوْا

تیری توحید کی طرف اور شوق دلایا تیرے وعدۂ (جنت) کی طرف اور خوف زدہ کیا تیری وعید (نار) سے اور رہنمائی کی

اِلٰى سَبِيْلِكَ وَقَامُوْا بِحُجَّتِكَ وَدَلِيْلِكَ وَسَلِّمِ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِمْ تَسْلِيْمًا

تیرے راستہ کی اور قائم کیا تیری حجت و دلیل کو اور سلام بھیج اے اللہ ان پر جیسے سلام کا حق ہے

وَّهَبْ لَنَا بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلٰوةً

اور عطا فرما ہمیں ان پر درود بھیجنے کے بدلے اجر عظیم۔ اے اللہ صلواۃ بھیج ان پر ایسی صلواۃ جو

تَفُوْقُ وَتَفْضُلُ صَلٰوةَ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْهِمْ مِّنَ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ

فوقیت و فضیلت والی ہو ان تمام لوگوں کی صلوات سے جن پر صلوات بھیجی گئیں تمام مخلوق کی طرف سے

كَفَضْلِكَ عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً دَآئِمَةً مُّسْتَمِرَّةً

مانند تیری فضیلت و فوقیت کے اوپر تمام مخلوق کے۔ اے اللہ صلواۃ بھیج ان پر ایسی صلواۃ جو دائم ہو اور ہمیشہ برقرار رہنے

الدَّوَامِ عَلٰى مَرِّ اللَّيَالِيْ وَالْاَيَّامِ مُتَّصِلَةَ الدَّوَامِ لَا انْقِضَآءَ لَهَا وَلَا انْصِرَامَ

والی ہو شب و روز کی گردش میں۔ جس کے دوام میں اتصال و تسلسل ہو اور اختتام و انقطاع کبھی نہ ہو

عَلٰى مَرِّ اللَّيَالِيْ وَالْاَيَّامِ عَدَدَ كُلِّ وَابِلٍ وَّطَلٍّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَلٰٓئِكَتِكَ

تمام گردش لیل و نہار میں مطابق تعداد موسلا دھار بارش اور پھوار کے قطرات کے۔ اے اللہ صلواۃ بھیج اپنے ملائکہ

الْمُقَرَّبِيْنَ الَّذِيْنَ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ وَلَا يَعْصُوْنَ

مقربین پر جو کہ تسبیح کرتے ہیں شب و روز بالکل نہیں تھکتے اور نہ نافرمانبرداری کرتے ہیں

اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ وَكَمَا اصْطَفَيْتَهُمْ سُفَرَآءَ

اللہ تعالیٰ کی اس میں جو انہیں حکم دے۔ اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم دئے جاتے ہیں۔ اے اللہ اور جیسے چن لیا ہے تو نے ان کو بطور

اِلٰى رُسُلِكَ وَاُمَنَآءَ عَلٰى وَحْيِكَ وَشُهَدَآءَ عَلٰى خَلْقِكَ وَخَرَقْتَ لَهُمْ

سفیر کے طرف اپنے رسولوں کے اور امانتداروں کے اپنی وحی پر اور بطور گواہوں کے اپنی مخلوق پر اور پھاڑ دئے تو نے ان کے لیے

كُنُفَ حُجُبِكَ وَاَطْلَعْتَهُمْ عَلٰى مَكْنُوْنِ غَيْبِكَ وَاخْتَرْتَ مِنْهُمْ

اپنے حجابات کے پہلو اور مطلع کیا انہیں اپنے چھپے غیوب پر اور اختیار کیا تو نے ان میں سے

خَزَنَةً لِّجَنَّتِكَ وَحَمَلَةً لِّعَرْشِكَ وَجَعَلْتَهُمْ مِّنْ اَكْثَرِ جُنُوْدِكَ وَ

جنت کے لیے نگرانوں کو۔ اور اپنے عرش کے لیے حاملین کو اور بنایا تو نے انہیں اپنے تمام جنود و عساکر سے زائد اور

فَضَّلْتَهُمْ عَلَى الْوَرٰى وَاَسْكَنْتَهُمُ السَّمٰوٰتِ الْعُلٰى وَنَزَّهْتَهُمْ عَنِ

فضیلت دی انہیں ساری مخلوق پر اور ٹھہرایا انہیں بلند آسمانوں میں اور پاک پیدا کیا انھیں

الْمَعَاصِيْ وَالدَّنَاءَاتِ وَقَدَّسْتَهُمْ عَنِ النَّقَآئِصِ وَالْاٰفَاتِ فَصَلِّ

معاصی اور رذائل سے اور منزہ کیا انہیں نقائص اور آفات سے پس صلواۃ بھیج

عَلَيْهِمْ صَلٰوةً دَآئِمَةً تَزِيْدُهُمْ بِهَا فَضْلًا وَّتَجْعَلُنَا لِاسْتِغْفَارِهِمْ

ان پر ایسی جو دائم ہو بڑھائے تو انہیں بسبب اس کے ازروئے فضیلت و برتری کے اور کرے تو ہمیں ان کی دعائے مغفرت

بِهَا اَهْلًا وَّصَلِّ اللّٰهُمَّ عَلَيْهِمْ صَلٰوةً دَآئِمَةً مُّتَّصِلَةً تَتَوَالٰى وَتَدُوْمُ

کا بسبب اس صلواۃ کے حقدار اور صلوات بھیج اے اللہ ان پر ایسی صلواۃ جو دائم ہو اور مسلسل ہو پے در پے ہو اور ہمیشہ برقرار رہنے والی ہو

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَلٰٓئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلٰٓى اَنْبِيَآئِكَ وَالْمُرْسَلِيْنَ

اے اللہ صلواۃ بھیج اپنے ملائکہ مقربین پر۔ اور اپنے تمام انبیاء و مرسلین پر

وَعَلٰٓى اَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ وَاجْعَلْنَا بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِمْ مِّنَ الْمَرْحُوْمِيْنَ

اور تمام اہل طاعت پر اور بنا ہمیں ان پر صلوات بھیجنے کی برکت سے رحمت کیے ہوئے لوگوں میں سے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى تَرِثَ الْاَرْضَ وَمَنْ

اے اللہ صلوات بھیج ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر حتّٰی کہ تو وارث ہو جائے زمین کا اور جو کچھ

عَلَيْهَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ اَللّٰهُمَّ كَمَا قَامَ بِاَعْبَآءِ الرِّسَالَةِ وَ

اس پر ہے (بقائے عالم تک) اور تو ہی بہتر و برتر ہے تمام وارثوں سے۔ اے اللہ جیسے کہ قائم ہوئے نبی ساتھ رسالت کی مشقت کے اور

اسْتَنْقَذَ الْخَلْقَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَجَاهَدَ اَهْلَ الْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ وَدَعَا

بچایا انہوں نے مخلوق کو جہالت سے۔ اور جہاد کیا کفار اور گمراہوں کے ساتھ اور دعوت دی

اِلٰی تَوْحِیْدِكَ وَقَاسَی الشَّدَآئِدَ فِیْ اِرْشَادِ عَبِیْدِكَ فَاَعْطِهِ اللّٰهُمَّ سُئْلَهٗ

تیری توحید کی طرف اور تکالیف برداشت کیں تیرے بندوں کی ہدایت میں پس عطا فرما انہیں اے اللہ ان کا مطلوب

وَبَلِّغْهُ مَاْمُوْلَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی الْحَقِیْقَةِ الْمُقَدَّسَةِ الْمُحِیْطَةِ بِالْحَقَآئِقِ

اور پہنچا انہیں ان کی آرزوؤں تک۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج اور پر حقیقت مقدسہ کے جو محیط ہے سب حقائق

وَالْاَعْیَانِ وَالنُّقْطَةِ الْبَسِیْطَةِ الْمُتَمِّمَةِ لِمَنَازِلِ الْاِیْمَانِ وَالْاِسْلَامِ وَ

اور موجودات کو اور اس نقطہ (و مرکز) بسیط پر جو کہ تکمیل کرنے والا ہے ایمان و اسلام اور احسان کے منازل و مراتب کی

الْاِحْسَانِ اَللّٰهُمَّ یَا فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الْغَمِّ وَمُجِیْبَ دَعْوَةِ

(یعنی حقیقت محمدیہ پر) اے اللہ اے مشکلات کو دور کرنے والے۔ غم و آلام مٹانے والے۔ مجبوروں کی دعائیں

الْمُضْطَرِّیْنَ رَحْمٰنَ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِیْمَهُمَا اَنْتَ تَرْحَمُنِیْ فَارْحَمْنِیْ

قبول کرنے والے۔ رحمت کرنے والے۔ دنیا اور آخرت میں اور ان میں رحیم (مومنین کیلئے) تو ہی مجھ پر رحم کرتا ہے پس مجھے ایسی رحمت

بِرَحْمَةٍ تُغْنِیْنِیْ بِهَا عَنْ رَّحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ اِلٰهِیْ قَدْ عَجَزَتْ قُدْرَتِیْ

سے نواز کر بے نیاز کر دے بسبب اس کے دوسروں کی رحمت سے۔ اے میرے خدا میری قدرت عاجز آ چکی ہے۔

وَقَلَّتْ حِیْلَتِیْ وَضَعُفَتْ قُوَّتِیْ وَتَاهَتْ فِكْرِیْ وَاَشْكَلَتْ قَضِیَّتِیْ

اور میری چارہ سازی کم ہو چکی ہے۔ اور میری قوت ضعیف ہو چکی ہے۔ اور میری فکر پراگندہ ہو چکی ہے اور مشکل ہو گیا ہے تصفیہ و معاملہ میرا

وَسَآءَتْ حَالَتِیْ وَبَعُدَتْ اُمْنِیَّتِیْ وَعَظُمَتْ حَسْرَتِیْ وَتَصَاعَدَتْ

اور برا ہو گیا ہے حال میرا۔ اور دور ہو گئی ہے آرزو میری (بر آنے سے) اور عظیم ہو گئی ہے حسرت میری اور بلند ہو گئی ہیں

زَفْرَتِیْ وَاتَّضَحَ مَكْنُوْنُ سَرِیْرَتِیْ وَسَالَتْ عَبْرَتِیْ وَاَنْتَ مَلْجَائِیْ

آہیں میری۔ اور کھل چکا ہے باطنی حال میرا۔ اور رواں ہو چکے ہیں آنسو میرے۔ آنسو میرے اور تو ہی میری جائے پناہ ہے

وَوَسِیْلَتِیْ وَاِلَیْكَ اَرْفَعُ بَثِّیْ وَحُزْنِیْ وَشِكَایَتِیْ وَاَرْجُوْكَ لِدَفْعِ

اور وسیلہ ہے اور تیری بارگاہ میں ہی پیش کرتا ہوں اپنا غم و اندوہ اور اپنی شکایت اور تجھی سے امیدوار ہوں اپنی مصیبت کے

مُلِمَّتِیْ یَا مَنْ یَّعْلَمُ سِرِّیْ وَعَلَانِیَتِیْ اِلٰهِیْ بَابُكَ مَفْتُوْحٌ لِّلسَّآئِلِ

دور کرنے میں۔ اے کہ جانتا ہے میرے خفیہ اور علانیہ کو۔ اے بار الٰہ تیرا در اقدس کھلا ہے ہر سائل کے لیے

وَفَضْلُكَ مَبْذُوْلٌ لِّلسَّآئِلِ وَاِلَیْكَ مُنْتَهَی الشَّكْوٰی وَغَایَةُ الْمَسَآئِلِ

اور تیرا فضل و احسان صرف ہونے والا ہے ہر بھکاری کے لیے اور تیری طرف ہی انتہا ہے ہر شکایت کی اور نہایت ہے تمام حاجات کی

اِلٰهِیْ اِرْحَمْ دَمْعِیَ السَّآئِلَ وَجِسْمِیَ النَّآئِلَ وَحَالِیَ الْحَآئِلَ وَشَبَابِیَ

اے بار الٰہ رحم فرما میرے بہتے آنسوؤں پر اور میرے نحیف جسم پر اور میری تاریک حالت پر۔ اور میری ڈھلتی

الْمَآئِلَ یَا مَنْ اِلَیْهِ رَفْعُ شَكْوٰی یَا عَالِمَ السِّرِّ وَالنَّجْوٰی یَا مَنْ یَّسْمَعُ

جوانی پر۔ اے کہ اسی کی طرف ہے میری شکایت کی پہنچ اور اے جاننے والے خفی و آشکار کے۔ اے کہ سنتا ہے

وَیَرٰی یَا مَنْ هُوَ بِالنَّظَرِ الْاَعْلٰی یَا رَبَّ الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ یَا مَنْ لَّهُ

اور دیکھتا ہے۔ اے کہ منظر اعلیٰ پر قائم ہے۔ اے ارض و سماء کے مالک۔ اے کہ اسی کیلئے ہیں

الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی یَا صَاحِبَ الدَّوَامِ وَالْبَقَآءِ یَا رَبِّ عَبْدُكَ قَدْ ضَاقَتْ

حسین ترین نام اور اے دوام و بقاء کے مالک۔ اے میرے رب تیرے بندے کیلئے تحقیق تنگ ہو چکے ہیں

بِهِ الْاَسْبَابُ وَغُلِّقَتْ دُوْنَهُ الْاَبْوَابُ وَتَعَذَّرَ اِلَیْهِ سُلُوْكُ اَهْلِ

اسباب و وسائل۔ اور بند ہو چکے ہیں اس کے آگے دروازے اور مشکل ہو گیا ہے اس پر سلوک اور کردار اہل

الطَّرِیْقِ وَاَهْلِ الصَّوَابِ وَتَزَایَدَ بِهِ الْهَمُّ وَالْغَمُّ وَالْاِكْتِئَابُ وَانْقَضٰی

طریق اور اہل صواب کا۔ اور بڑھ گیا ہے اس کا اندوہ اور غم اور رنجیدگی اور ختم ہونے کو ہے

عُمْرُهٗ وَلَمْ یُفْتَحْ لَهٗ اِلٰی فَسِیْحِ تِلْكَ الْحَضَرَاتِ وَمَنَاهِلِ الصَّفْوِ وَ

عمر اس کی۔ اور نہیں کھلا اس کے لیے ان کشادہ بارگاہوں اور آب صافی کے گھاٹ اور

الدَّرَجَاتِ بَابٌ وَانْصَرَمَتْ اَیَّامُهٗ وَالنَّفْسُ رَاتِعَةٌ فِیْ مَیَادِیْنِ

درجات عالیہ کی طرف کوئی دروازہ۔ اور کٹے ہیں دن اس کے اس حال میں کہ اس کا نفس غفلت کے میدانوں میں

الْغَفْلَةِ وَدَنِیِّ الْاِكْتِسَابِ وَاَنْتَ الْمَرْجُوُّ لِكَشْفِ هٰذَا الْمُصَابِ

اور رذیل کسب و عمل میں منہمک رہا ہے۔ اور تو ہی مرکز امید و آرزو ہے اس مصیبت کے دور کرنے میں

یَا مَنْ اِذَا دُعِیَ اَجَابَ یَا سَرِیْعَ الْحِسَابِ یَا رَبَّ الْاَرْبَابِ یَا عَظِیْمُ

اے کہ جب دعا کیا جائے تو قبول فرماتا ہے۔ اے جلد حساب لینے والے۔ اے رب الارباب اے عظیم

الْجَنَابِ يَا كَرِيْمُ يَا وَهَّابُ رَبِّ لَا تَحْجُبْ دَعْوَتِيْ وَلَا تَرُدَّ مَسْئَلَتِيْ

بارگاہ والے۔ اے کریم اے عطا کرنے والے۔ اے میرے پروردگار نہ حجاب اور دوری میں رکھ میری دعا کو اور نہ رد فرما میرے سوال کو

وَلَا تَدَعْنِيْ بِحَسْرَتِيْ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى حَوْلِيْ وَقُوَّتِيْ وَارْحَمْ عَجْزِيْ

اور نہ چھوڑ مجھے میری حسرتوں میں اور نہ سونپ مجھے میری طاقت و قوت کی طرف اور رحم فرما میری عاجزی

وَفَاقَتِيْ فَقَدْ ضَاقَ صَدْرِيْ وَتَاهَ فِكْرِيْ وَتَحَيَّرْتُ فِيْ اَمْرِيْ وَ

اور محتاجی پر کیونکہ میں تنگ دل ہو چکا ہوں۔ اور میری فکر پراگندہ ہو چکی ہے۔ اور میں سرگرداں ہو چکا ہوں اپنے امور میں۔ اور

اَنْتَ عَالِمٌ بِسِرِّيْ وَجَهْرِيْ اَلْمَالِكُ لِنَفْعِيْ وَضَرِّيْ اَلْقَادِرُ عَلٰى

تو جاننے والا ہے میرے باطن اور ظاہر کو۔ مالک ہے میرے نفع اور نقصان کا۔ صاحب قدرت ہے میری

تَفْرِيْجِ كُرْبِيْ وَتَيْسِيْرِ عُسْرِيْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مشکلات دور کرنے پر اور تنگی کو آسانی میں بدلنے پر۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج اور سلام ہمارے آقا محمد

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِهٖ وَ

اور آپ کی آل پر جو (آقا) اول ہیں ان تمام سے جن کے سروں پر سے پھٹ کر الگ ہوگا حجاب قبر۔ اور

مَنْ يَّظْفَرُ بِعُلُوِّ مَنْزِلَتِهٖ وَمَرْتَبَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

جو کامیاب ہوں گے بلند منزلت اور عالی مرتبت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُّؤْذَنُ لَهٗ بِرَفْعِ رَاْسِهٖ

ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر جو مقدم ہیں ان تمام حضرات سے جنہیں اذن دیا جائے گا سر اٹھانے کے ساتھ

وَمَنْ يَّلْحَقُ بِكَمَالِ قُرْبِهٖ وَاُنْسِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور جو لاحق ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کمال قرب اور انس سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ النَّاسِ قِيَامًا لِّلْمَحْشَرِ وَاَكْثَرِ

محمد پر اور ان کی آل پر جو کہ سب لوگوں سے پہلے اٹھنے والے ہیں محشر کے لیے۔ اور تمام انبیاء سے

الْاَنْبِيَاۗءِ اَتْبَاعًا وَّاَوْقَرِهِمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زیادہ متبعین والے ہیں اور سب سے زیادہ وقار و عزت والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ اور سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَآئِدِ الْاُمَمِ اِذَا احْتُسِبُوْا وَخَطِيْبِ الْخَلْقِ

اور آپ کی آل پر جو (آقا) قائد ہوں گے تمام امتوں کے جب ان سے حساب لیا جائیگا اور سب مخلوق کی طرف سے (اللہ تعالیٰ سے)

اِذَا حُبِسُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کلام کرنے والے ہوں گے جب انہیں محشر میں روک دیا جائے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا

شَفِيْعِ الْعِبَادِ اِذَا يَئِسُوْا وَاَفْضَلِ نِعَمِ اللّٰهِ وَاٰلَاۗئِهٖ وَجَمِيْعُ الْاَنْبِيَاۗءِ

شفیع ہیں تمام بندوں کے جب وہ ناامید ہونے لگیں گے اور اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں سے افضل ترین نعمت ہیں اور تمام

يَوْمَ الْمَعَادِ تَحْتَ لِوَآئِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

انبیاء قیامت کے دن انہیں کے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَوْقِفِ مَنِ اسْتَقَلَّ قَدَمَاهُ

آل پر کہ نہیں ہوگا میدان قیامت میں کوئی بھی کہ جس کے قدم ثابت اور مضبوط رہیں گے سوائے

غَيْرُهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ تُطِيْعُهُ النَّارُ

ان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جس (آقا) کی اطاعت گزار ہوگی نار جہنم

وَتَمْتَثِلُ اَمْرَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اور تعمیل کرے گی ان کے حکم کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ يَرُدُّ النَّارَ بِحُطَامِهَا عَنْ اُمَّتِهٖ وَيَزْدَجِرُهَا عَنْ اَهْلِ

جو دور کریں گے آگ کو اسی کی سوکھی لکڑیوں کے ساتھ اپنی امت سے اور اسے ہانک دیں گے اپنے اہل

مِلَّتِهٖ وَمَحَبَّتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ

ملت اور اہل محبت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کو

يُنَادِيْهِ خَازِنُ النَّارِ مَا تَرَكْتُ فِيْ اُمَّتِكَ مِنْ نِّقْمَةٍ لِّغَضَبِ الْجَبَّارِ

پکار کر کہے گا۔ جہنم کا نگران کہ میں نے نہیں چھوڑا آپ کی امت میں بسبب انتقام کا واسطے غضب جبار کے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨالَّذِيْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کو

يَكْسُوْهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حُلَّةً خَضْرَآءَ يَعْرِفُهٗ بِهِ الْعِبَادُ طُرًّا

پہنائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوشاک کہ جس کے ذریعے انھیں تمام بندے پہچان لیں گے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِىْ لَآ اَحَدَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَاكِبٌ سِوَاهُ وَجَمِيْعُ الْخَلَآئِقِ يَلُوْذُوْنَ

کہ جس (آقا) کے بغیر کوئی بھی قیامت کے دن (سواری پر) سوار نہیں ہوگا۔ اور تمام مخلوق پناہ حاصل کرے گی ان کے

بِحِمَاهُ يُنَادُوْنَهٗ يَا مُحَمَّدَاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سایۂ عاطفت میں پکاریں گے انھیں یا محمداہ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ تَلْتَقِطُ النَّارُ بِلِسَانِهَا مِنَ

اور آپ کی آل پر کہ جس (آقا کی شان یہ ہے کہ) اچک لے گی نار جہنم اپنی زبان سے میدان

الْمَحْشَرِ مَنْ جَحَدَ بِنُبُوَّتِهٖ مِنَ الْبَشَرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

محشر سے ان کی نبوت کے منکرین کو بشروں میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ اِذَا رَاَتِ النَّارُ

آقا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جب نار جہنم دیکھے گی

وَجْهَهُ الْحَسَنَ خَمِدَ لَهِيْبُهَا وَسَكَنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

آپ کے حسین چہرہ کو تو اس کے شعلے بجھ جائیں گے اور ٹھہر جائیں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ يَجْلِسُ عَلَى

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو (آقا) کہ عرش خداوند تعالیٰ پر

الْعَرْشِ بِلَا ارْتِيَابٍ وَّيَهَبُهُ اللّٰهُ مُلْكَهٗ وَيُقْعِدُهٗ مَكَانَ

بیٹھیں گے بلا ریب اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ملک عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بٹھائے گا انتہائی

الْاَشْرَفِ يَوْمَ الْحِسَابِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بزرگ مکان پر حساب کے دن اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ اَحَلَّهُ اللّٰهُ مَحَلًّا اَثِيْرًا وَّجَعَلَ اللّٰهُ

اور ہمارے آقا محمد کی آل پر جس (آقا) کو اللہ تعالیٰ اتارے گا امتیازی محل و مکان میں اور بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے

لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

ان کے لیے آخرت میں نعمتیں اور بہت بڑا ملک اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ يَلُوْحُ نُوْرُهٗ فِىْ عَرَصَاتِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کا نور چمکے گا قیامت کے میدانوں

الْقِيٰمَةِ عَلَى الْخَلْقِ كَمَا يَلُوْحُ الْبَرْقُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

میں تمام مخلوق پر جیسے بجلی چمکتی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ كَانَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ تمام مومنین کے لیے

وَلِيًّا وَّنَصِيْرًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

ہمیشہ کارساز اور مددگار تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ اَوَّلِ مَنْ يُّرْتَدٰى بِرِدَآءِ الْكَرَامَةِ وَمَنْ

کی آل پر وہ آقا کہ سب سے پہلے اوڑھیں گے کرامت کی چادر کو اور جن کی

يُّقْضٰى لِاُمَّتِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اُمت کے لیے سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن۔ اے اللہ صلوٰۃ اور سلام بھیج ہمارے سردار محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ اَوَّلِ مَنْ يُّفِيْقُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ

اور آپ کی آل پر جو کہ سب سے پہلے (جلال خداوندی کے ظہور پر طاری ہونے والی مدہوشی سے) افاقہ حاصل کریں گے بنسبت تمام

الْخَلَآئِقِ يَوْمَ قَطْعِ الْعَلَآئِقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

خلائق کے تمام رشتے اور پیوند منقطع ہونے کے دن۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ اَوَّلِ مَنْ يُّنَادٰى بِاَبِىْ وَاُمِّىْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنھیں سب سے پہلے پکارا جائے گا "فدا ہوں ان پر میرے باپ اور ماں"

اَیْنَ النَّبِیُّ الْاُمِّیُّ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ

کہ کہاں ہیں نبی امی ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے سردار محمد پر اور آپ کی

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ یَّبْدُوْ فِی الْمَعَادِ نُوْرُہٗ وَجَمَالُہٗ وَمَنْ

آل پر کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میں ظہور فرما ہو گا نور ان کا اور جمال ان کا۔ اور جن کے لیے

یَّتَجَلّٰی لَہُ الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُہٗ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تجلی فرمائے گا (خصوصی طور پر) رب جل جلالہ ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما اوپر ہمارے آقا محمد کے

وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوۃً وَّسَلَامًا یَّتَقَدَّسُ فِیْھِمَا عَنْ

اور آپ کی آل اطہار کے ایسی صلوٰۃ اور سلام کہ آپ پاکیزہ تر ہو جائیں ان کی وجہ سے

عَوَارِضِ الْاِمْکَانِ لِوُجُوْدِ اتِّصَافِہٖ بِالْکَمَالَاتِ وَعُمُوْمِ عِصْمَتِہٖ

امکان (و حدوث) کے عوارض سے بسبب متحقق ہونے آپ کے اتصاف کے ساتھ کمالات کے اور عام ہونے ان کی عصمت کے

عَنْ جَمِیْعِ الْخَطَرَاتِ مَا تَنَزَّہَ شَامِخُ عِزِّہٖ عَنِ النَّقْصِ وَالسُّلُوْبِ

تمام خطرات و وساوس سے جب تک منزہ رہے ان کے (رہالہ) عزت کی بلند چوٹی نقص اور عیوب سے

وَثَبَتَ رَاسِخُ مَجْدِہٖ بِالذَّاتِ الْوُجُوْبِ لِاَصْحَابِ اَئِمَّۃِ الْھُدٰی لِمَنِ

اور ثابت کرے ان کی پائیدار بزرگی کے لیے ان کی ذات میں وجوب و لزوم واسطے اصحاب کے جو ائمہ ہدیٰ ہیں واسطے ان کے

اھْتَدٰی وَنُجُوْمِ الْاِقْتِدَاۤءِ لِمَنِ اقْتَدٰی مَا تَعَاقَبَ اَدْوَارُ النُّوْرِ وَ

جو ہدایت پانا چاہیں اور روز روشن ستارے جو قابل اقتداء کے ہیں ان کے لیے جو اقتداء کرنا چاہیں جب تک پیچھے بعد دیگرے نور کے دور آتے

اَشْرَقَتْ اَنْوَارُ الْاَسْرَارِ بِالْاَسْرَارِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ؕ صَلِّ

رہیں اور روشن ہوتے رہیں اسرار کے انوار بسبب اسرار کے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ صلوٰۃ بھیج

اَللّٰھُمَّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوۃً یَّتَّصِلُ بِھَا فَرْعِیْ

اے اللہ ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر ایسی صلوٰۃ کہ واصل ہو جائے بسبب اس کے میری فرع

اِلٰی اَصْلِیْ وَبَعْضِیْ اِلٰی کُلِّیْ لِتَتَّحِدَ ذَاتِیْ بِذَاتِہٖ وَصِفَاتِیْ بِصِفَاتِہٖ

میرے اصل کے ساتھ اور میرا البعض میرے کل کے ساتھ تاکہ متحد ہو جائے میری ذات اس کی ذات کے ساتھ اور میری صفات اس کی صفات سے

وَتَقَرَّ الْعَیْنُ بِالْعَیْنِ وَیَفِرَّ الْبَیْنُ مِنَ الْبَیْنِ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا

اور قرار پکڑے آنکھ ساتھ آنکھ کے اور کافور ہو جائے دوری درمیان سے ۔ اور سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلَامًا اَسْلَمُ بِہٖ فِیْ مُتَابَعَتِہٖ مِنَ

محمد پر اور آپ کی آل پر ایسا سلام کہ سلامت رہوں بسبب اس سلام کے آپ کی اتباع میں

التَّخَلُّفِ وَاَسْلَمُ فِیْ طَرِیْقِ شَرِیْعَتِہٖ مِنَ التَّعَسُّفِ لِاَفْتَحَ بَابَ

پیچھے رہ جانے سے اور محفوظ رہوں ان کے راہ شریعت میں تکلف سے تاکہ کھولوں تیری اس محبت کا دروازہ

مَحَبَّتِکَ اِیَّایَ بِمِفْتَاحِ مُتَابَعَتِہٖ وَاَشْھَدَکَ فِیْ حَوَاسِّیْ وَاَعْضَاۤئِیْ

جو مجھ سے ہے آپ کی متابعت کی چابی کے ذریعے ۔ اور میں تجھے موجود پاؤں اپنے حواس میں اور اعضاء میں

مِنْ مِشْکٰوۃِ شَرْعِہٖ وَطَاعَتِہٖ وَاَدْخُلَ وَرَآءَہٗ اِلٰی حِصْنِ لَآ اِلٰہَ اِلَّا

(بسبب اس نور کے جو) ان کی شریعت اور طاعت کے چراغ دان سے حاصل ہو اور داخل ہو جاؤں اس کے پیچھے لا الٰہ الا اللہ کے قلعے میں

اللّٰہُ وَفِیْ اٰثَرِہٖ اِلٰی خَلْوَۃِ لِیْ مَعَ اللّٰہِ وَقْتٌ اَللّٰھُمَّ یَا رَبِّ لَیْسَ

اور آپ کی اتباع میں پہنچ جاؤں طرف خلوت لی مع اللہ وقت کے (یعنی اس خلوت خاص کے جو سیدنا علیہ السلام کو بارگاہ خداوندی میں حاصل ہے کہ دوسروں کے لیے اس

حِجَابُہٗ اِلَّا النُّوْرُ وَلَا خَفَاۤءُہٗ اِلَّا شِدَّۃُ الظُّھُوْرِ اَسْئَلُکَ بِکَ فِیْ

وقت خصوص میں وہاں رسائی نہیں ہے۔ اے اللہ اے میرے پروردگار جس کا حجاب نہیں ہے مگر نور اور نہیں اس کے خفاء کا سبب مگر اعلیٰ درجہ کا ظہور میں سوال کرتا

مَرْتَبَۃِ اِطْلَاقِکَ عَنْ کُلِّ تَقْیِیْدٍ اَلَّتِیْ تَفْعَلُ فِیْھَا مَا تَشَآءُ وَتُرِیْدُ

ہوں تجھ سے تیری ذات کے وسیلہ سے تیرے ہر تقیید سے اطلاق کے مرتبہ میں کہ جس میں تو کرتا ہے جو چاہتا ہے اور ارادہ کرتا ہے

بِکَشْفِکَ عَنْ ذَاتِکَ بِالْعِلْمِ النُّوْرِیِّ وَتَحَوُّلِکَ فِیْ صُوَرِ اَسْمَآئِکَ

اپنی ذات سے پردے ہٹانے کا بسبب علم نوری کے ۔ اور ظہور فرما ہونے کے اپنے اسماء

وَصِفَاتِکَ بِالْوُجُوْدِ الصُّوْرِیِّ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور صفات کی صورتوں میں ساتھ وجود صورتوں میں ساتھ وجود صوری کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ یَّشْفَعُ لِفَصْلِ الْقَضَاۤءِ بَیْنَ الْعِبَادِ

اور آپ کی آل پر جو آقا سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے بندوں کے درمیان قضاء کے جاری کرنے کی

يَوْمَ التَّنَادِ وَمَنْ يَّقُوْلُ فَيُسْمَعُ وَمَنْ يَّشْفَعُ فَيُشَفَّعُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

قیامت کے دن اور وہ جو کہیں گے پس سنا جائے گا اور جس کی شفاعت فرمائیں گے اس کے حق میں آپ کو شفیع بنایا جائیگا۔ اے اللہ صلوٰۃ اور

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّجُوْزُ

سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور سیدنا محمدؐ کی آل پر جو آقا کہ سب سے پہلے گزریں گے

عَلَى الصِّرَاطِ بِاُمَّتِهٖ وَاَوَّلِ مَنْ يُّدْخِلُ الْجَنَّةَ اُمَّتَهٗ بِشَفَاعَتِهٖ

پل صراط پر سے بمع اپنی اُمت کے۔ اور سب سے پہلے اپنی اُمت کو داخل کریں گے جنت میں شفاعت کے ذریعے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

اَوَّلِ مَنْ يَّسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ اللِّقَآءِ وَمَنْ يَّأْخُذُ

جو آقا سب سے پہلے سجدہ ریز ہوں گے عرش کے نیچے قیامت کے دن اور جو سب سے پہلے پکڑیں گے

بِحَلْقَةِ دَارِ الْبَقَآءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دار بقا (جنت) کی زنجیر کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّقْرَعُ بَابَ الْجِنَانِ وَ

اور آپ کی آل پر جو سب سے پہلے جنت کے دروازے کھٹکھٹائیں گے۔ اور

اَوَّلِ الْخَلْقِ قُدُوْمًا عَلٰى رِضْوَانَ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سب سے پہلے رضوان جنت کے پاس تشریف لائیں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّتَحَلّٰى

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ سب سے پہلے مزین کیے جائیں گے

بِحِلْيَةِ الْاِيْمَانِ وَمَنْ يَّتَلَقَّاهُ حُوْرُ الْجِنَانِ وَالْوِلْدَانِ ط

ایمان کے زیور کے ساتھ اور جن کا استقبال کریں گی جنتوں کی حوریں اور ولدان۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّجْلِسُ عَلٰى سَرِيْرِ الرِّضٰى وَمَنْ يَّرْتَعُ فِيْ رِيَاضِ

جو آقا کہ سب سے پہلے بیٹھیں گے رضا کے تخت پر اور جو کھائیں گے آزادی کے ساتھ

الدُّرَّةِ الْبَيْضَآءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى

سفید موتی کے باغات میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور سیدنا

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّلْقٰى تَحِيَّةً وَّسَلَامًا وَّمَنْ يَّتَمَثَّلُ

محمد کی آل پر جو سب سے پہلے پائیں گے (اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کے) تحفہ اور سلام کو اور جن کے روبرو

لَهُ الْخَلْقُ فِي الْجَنَّةِ قِيَامًا تَعْظِيْمًا لِّقَدْرِهٖ وَاِكْرَامًا اَللّٰهُمَّ

مورتیوں کی مانند تمام مخلوق جنت میں قیام کرے گی ان کی (خداداد) قدر و منزلت کی تعظیم اور اکرام کے لیے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّطَاُ

صلوٰۃ بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ سب سے پہلے پاؤں رکھیں گے

الْفُرُشَ الْمُمَهَّدَةَ وَمَنْ تُفْتَحُ لَهُ الْقُصُوْرُ الْمُشَيَّدَةُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

ان بچھونوں پر جو ان کے لیے بچھے ہوئے ہوں گے اور سب سے پہلے جن کیلئے مضبوط محلات کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ

اور سلام ہمارے آقا محمد پر اور سیدنا محمدؐ کی آل پر جو پہلے شخص ہوں گے

يَّرْتَقِيْ فِي الْغُرُفَاتِ وَالدَّرَجَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

جو چڑھیں گے (جنت کے) بالاخانوں پر اور اس کے درجات پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُّتْحَفُ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو پہلے شخص ہوں گے جنہیں تحفے دیئے جائیں گے

بِالنِّعَمِ وَالْكَرَامَاتِ وَمَنْ يَّتَّكِئُ عَلَى الْاَرَآئِكِ فِي الْجَنَّةِ

نعمتوں اور عزتوں کے۔ اور جو تکیہ اور اوٹ لگا کر بیٹھیں گے آرام دہ کرسیوں پر جنت میں ہوں گی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر

مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّسْمَعُ غِنَآءَ الْحُوْرِ وَمَنْ يَّجْلِسُ عَلٰى كُثْبَانِ

جو پہلے شخص ہوں گے جو کہ سنیں گے حوروں کے ترانے اور جو تشریف فرما ہوں گے کستوری اور

الْمِسْكِ وَالْكَافُوْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کافور کے ٹیلوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّلْبَسُ تَاجَ الْبَهَآءِ وَالْمَحَاسِنِ

کی آل پر جو پہلے شخص ہوں گے جو پہنیں گے تاج رونق اور خوبیوں کا

وَمَنْ يَّشْرَبُ مِنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور جو پئیں گے اس پانی سے جو متغیر نہیں ہوگا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّشْرَبُ

ہمارے آقا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ پہلے شخص ہوں گے جو نوش فرمادیں گے

مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ ط وَمَنْ يَّقُوْمُ بَيْنَ يَدَيِ الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ط

مہر لگے شراب (جنت) سے۔ اور جو قیام کریں گے حی قیوم کے حضور (شفاعت کے لیے)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّشْرَبُ بِكَاْسِ الصَّفَا وَمِنْ اَنْهَارٍ مِّنْ

جو کہ سب سے پہلے نوش فرمائیں گے صاف و شفاف پیالوں سے اور ان نہروں سے

عَسَلٍ مُّصَفًّا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ

جو صاف ستھرے شہد سے (جاری) ہوں گی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّسْاَلُ فَيُعْطٰى وَمَنْ تُفْتَحُ لَهٗ اَبْوَابُ النَّوَالِ

جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے۔ پس آپ کو (منہ مانگا) دیا جائے گا اور جن کے لیے وا کئے جائیں گے دروازے

وَالْعَطَاءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّنْصِتُ بِكَلَامِهٖ

جود اور عطا کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر جو کہ پہلے شخص ہیں جن کے کلام و خطاب کرنے پر عمل خاموشی چھا جائے گی

وَخِطَابِهٖ وَمَنْ يُّحَطُّ بِسَاحَةِ جَاهِهٖ وَجَنَابِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور جن کی جاہ و مرتبت کے صحن اور آنگن اور بارگاہ رحمت میں (طلبگاران شفاعت کی طرف سے) ڈیرے ڈالے جائیں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّنَالُ الْاَجْرَ وَالثَّوَابَ

سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب سے پہلے پائیں گے اجر اور ثواب

وَمَنْ يُّوَفّٰى اَجْرُهٗ بِغَيْرِ حِسَابٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور جنہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّجْنِىْ ثَمْرَةَ التَّوْحِيْدِ وَالْاِسْتِقَامَةِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب سے پہلے چنیں گے توحید اور استقامت کے پھل

وَمَنْ يَّرْوٰى مِنْ مَّنْهَلِ الْاَمْنِ وَالسَّلَامَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور جو سیراب ہوں گے امن و سلامتی کے گھاٹوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّتَزَيَّا بِبَهْجَةِ الْاَمْنِ وَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب سے پہلے مزین ہوں گے امن و سرور کی رونق و

السُّرُوْرِ وَمَنْ يَّتَشَمَّلُ بِرِدَآءِ الْبَرَكَةِ وَالْحُبُوْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بہار کے ساتھ اور جو اوڑھیں گے برکت اور سرور کی چادر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّتَحَلّٰى بِحِلْيَةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب سے پہلے آراستہ ہوں گے صدر نشینی

التَّصْدِيْرِ وَالتَّقْدِيْرِ وَمَنْ تَجْرِىْ فِىْ وَجْهِهٖ نَضْرَةُ النَّعِيْمِ اَللّٰهُمَّ

اور قدرت کے زیور کے ساتھ اور جن کے چہرۂ اقدس میں جاری ہوگی نعمتوں کی تروتازگی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جن کے لیے سب سے پہلے

تَحْتَفِلُ بِهِ الْمَحَافِلُ وَمَنْ تَتَزَيَّنُ لَهُ الْقِبَابُ وَالْمَنَازِلُ اَللّٰهُمَّ

محفلیں سجیں گی اور پیراستہ ہوں گے ان کے لیے قبہ جات اور منازل۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ

صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب سے پہلے

یَتَجَلّٰی عَلٰی قُبَّۃِ الْفِرْدَوْسِ وَقُبَابِہٖ وَمَنْ یَّسْعٰی بَیْنَ اَنْصَارِہٖ وَ

جلوہ فگن ہوں گے فردوس کے قبہ پر اور دوسرے قبہ جات پر اور جو رواں دواں ہوں گے اپنے انصار اور

اَصْحَابِہٖ فِیْ حُلَلِہٖ وَاَثْوَابِہٖ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اصحاب کے درمیان اپنے حلّوں اور پوشاکوں میں۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمدؐ پر

وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ تُوْضَعُ بَیْنَ یَدَیْہِ اَوَانِی الْفِضَّۃِ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ سب سے پہلے جن کے آگے رکھے جائیں گے برتن چاندی اور

وَالذَّھَبِ وَمَنْ یَّدْخُلُ بُیُوْتَ الْقَصَبِ الَّتِیْ لَاصَخَبَ فِیْھَا وَلَا

سونے کے۔ اور جو (سب سے پہلے) داخل ہوں گے موتیوں کے محلات میں جہاں پر نہ شور ہوگا اور نہ

نَصَبَ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ تُقَدُّ عَلَیْہِ

کوفت۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جن پر سب سے پہلے

خِلْعَۃُ الرِّسَالَۃِ وَمَنْ تُوْضَعُ عَلَیْہِ ھَیْبَۃُ الْجَلَالَۃِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

خلعت رسالت چست کی جائے گی اور جن پر ڈالی جائے گی جلالت (الٰہیہ) کی ہیبت۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ یَّنْزِلُ الْمَنْزِلَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب سے پہلے نزول فرمائیں گے

الْمُقَرَّبَ الرَّاقِیَ وَمَنْ یَّطُوْفُ عَلَیْہِ النَّدِیْمُ وَالسَّاقِیْ اَللّٰھُمَّ صَلِّ

قرب والی بلند منزل میں۔ اور جن پر طواف کرتے ہوں گے ہم پیالہ ساقی اور پلانے والے ساقی۔ اے اللہ صلواۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ یُّلْحَظُ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ پہلے شخص ہوں گے جو نظر عنایت کے ساتھ

بِعَیْنِ الْعِنَایَۃِ وَمَنْ یُّحْمَلُ عَلٰی کَاھِلِ الْمَبَرَّۃِ وَالرِّعَایَۃِ اَللّٰھُمَّ

دیکھے جائیں گے اور جو اٹھائے جائیں گے پرہیزی اور نگہداشت کے کاندھوں پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ

صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمدؐ پر اور آپ کی آل پر جنہیں سب سے پہلے

یُّسْلَکُ بِہٖ ذَاتَ الْیَمِیْنِ وَمَنْ یُّحَلّٰی بِحُلَلِ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰہُ

(عرش اعظم کی) دائیں جانب سے جایا جائے گا۔ اور جن کو خلعت پہنائی جائے گی ان لوگوں کی خلعتوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ

عَلَیْھِمْ مِّنَ النَّبِیِّیْنَ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی

نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء علیہم السّلام۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ تُقَادُ لَہٗ اَزِمَّۃُ الْمَفَاخِرِ وَمَنْ یُّسَاقُ

سیدنا محمد کی آل پر جنہیں سب سے پہلے مفاخر کی لگامیں سونپی جائیں گی اور ان کی طرف

لَہٗ جَمِیْعُ النِّعَمِ وَالذَّخَائِرِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

پھیرے جائیں گے سب انعامات اور ذخائر۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ یَّقُوْمُ مَقَامَ الشَّرَفِ الْعَالِیْ وَمَنْ

آپ کی آل پر جو سب سے پہلے قائم ہوں گے شرف اعلیٰ کے مقام میں۔ اور جنہیں

یُطَرَّزُ بِطِرَازِ الْکَمَالِ وَالْمَعَالِیْ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مزین کیا جائے گا کمال اور اعلیٰ صفات کی زینت کے ساتھ۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمدؐ پر

وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ یَّتَقَلَّدُ قَلَائِدَ التَّکْرِیْمِ وَ فَرَائِدَ

اور آپ کی آل پر جو سب سے پہلے تکریم کے ہار گلے میں پہنیں گے اور تعظیم کے

التَّعْظِیْمِ وَمَنْ یُّزَفُّ اِلَی النَّعِیْمِ الْمُقِیْمِ وَالْعِزِّ الْمُسْتَدِیْمِ اَللّٰھُمَّ

درہائے یکتا کے اور جنہیں دولہا بنا کر دائمی نعمتوں اور ابدی عزّت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ

صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمدؐ پر اور آپ کی آل پر جو سب سے پہلے

یَّقْتَعِدُ غَارِبَ السِّیَادَۃِ وَمَنْ یَّمْتَطِیْ مِعْرَاجَ الْخَیْرَاتِ وَالزِّیَادَۃِ

جگہ حاصل کریں گے اور سواری فرمائیں گے سیادت کے کاندھوں پر جو بلند ہوں گے خیرات اور ترقی کی سیڑھی پر

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ

اے اللہ صلوٰۃ اور سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو پہلے

مَنْ یَّجْلِسُ عَلٰی بِسَاطِ الْحَقِّ جَلَّ وَعَلٰی وَمَنْ یَّطَّلِعُ عَلٰی عَجَآئِبِ

شخص ہیں کہ بیٹھیں گے بساط حق جل و علی پر ۔ اور جو مطلع ہوں گے ملکوت اعلے

الْمَلَكُوْتِ الْاَعْلٰی اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ

کے عجائبات پر ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ تَقْفُوْهُ الرُّسُلُ وَالْاَنْبِیَآءُ وَمَنْ یَّطَاُ مَرَاتِبَ

آل پر جو کہ پہلے شخص ہیں کہ ان کے پیچھے چلیں گے تمام رسل اور انبیاء اور جو قدم رکھیں گے بلند مراتب کے

اَمَاكِنِ الْعُلْیَا اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ

مکانات کے درجات پر ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ یُّعْطٰی نُفُوْذُ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ وَمَنْ یَّحْضُرُ

جو آقا پہلے شخص ہیں کہ جنہیں عطا کی گئی ہے (قوت) عمل اور قول کے نافذ کرنے کی اور جو حاضر ہونگے

مَحَاضِرَ الْفَخْرِ وَالطَّوْلِ ط اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فخر اور قوت کے محافل میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ یُّدْعٰی بِاسْمِهِ الْكَرِیْمِ فِیْ جَنّٰتِ

اور آپ کی آل پر جو سب سے پہلے پکارے جائیں گے اپنے اسم کریم کے ساتھ جنات

النَّعِیْمِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا

نعیم میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ جَعَلَ اللّٰهُ صُوْرَةَ حُرُوْفِ اِسْمِهٖ رَحْمَةً ظَاهِرَةً

کہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کے حروف کی صورت کو نمایاں رحمت

فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَا یَبْقٰی عَلٰی صُوْرَتِهٖ فِی الْاٰخِرَةِ مِنَ الْاَنَامِ اِلَّا

دنیا اور آخرت میں اور نہ باقی رہیں گے ان کی صورت پر آخرت میں مخلوق سے مگر

اَهْلُ دَارِ السَّلَامِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا

دار سلام (جنت) والے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ یَّكْشِفُ شَدَآئِدَ الْاَزَمَاتِ وَمَنْ یَّرْفَعُ عَظَآئِمَ

جو سب سے پہلے دور فرمائیں گے تنگیوں کے شدائد کو اور جو اُٹھا دیں گے عظیم

الْغَمَرَاتِ عَنْ اَهْلِ الْغَفَلَاتِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا

مدہوشیوں کو غفلت شعار لوگوں سے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ اِلَیْهِ فِی الْمَعَادِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے انہیں کی طرف قیامت کے دن

یُلْتَجَا وَمَنْ تُمَدُّ اِلَیْهِ اَكُفُّ الْاٰمَالِ وَالرَّجَا اَللّٰھُمَّ صَلِّ

پناہ لی جائے گی اور انہیں کی طرف بڑھائی جائیں گی ہتھیلیاں آرزؤں اور امیدوں کی ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ

اور سلام سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے انہیں کی طرف

یُتَطَاوَلُ اِلَیْهِ بِالْاَعْنَاقِ وَمَنْ تَشْخَصُ اِلَیْهِ الْاَحْدَاقُ یَوْمَ

دراز کیا جائے گا گردنوں کو اور انہیں کی طرف اُٹھیں گی نگاہیں جس دن اللہ تعالیٰ

یُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ط اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی شان جلال ظاہر کی جائے گی ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ یَّرْكَبُ نَجَآئِبَ السُّرُوْرِ

اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے وہی سوار ہوں گے سرور اور نور کی

وَالنُّوْرِ عِنْدَ الْبَعْثِ مِنَ الْقُبُوْرِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

عمدہ سواریوں پر قبور سے اٹھائے جانے پر ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ تَعْنُوْهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں سب سے پہلے عجز و نیاز سے پیش

الْوُجُوْهُ لِدَفْعِ الْكَرْبِ وَالْمَكْرُوْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آئیں گے (پریشان) چہرے واسطے دور کرنے پریشانیوں کے اور شدائد کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّتَمَسَّكُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے جس (آقا) کے دامان رحمت سے چنگل مارے گی

الْخَلَآئِقُ بِاَذْيَالِهٖ خَوْفًا مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ وَنَكَالِهٖ اَللّٰهُمَّ

تمام مخلوقات بسبب خوف کے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزا سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

صلوٰۃ اور سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُّحِيْطُ بِهِ الْعُصَاةُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ

کہ پہلے پہل انہیں کے گرد گھیرا ڈالیں گے گنہگار جس دن کہ زمین کو بدل دیا جائے گا

غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

دوسری حالت میں اور آسمانوں کو بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّتَصَدَّرُ

ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو سب سے پہلے صدر نشین ہونگے

فِىْ مَحَافِلِ التَّصْدِيْرِ وَالتَّمْكِيْنِ لِتَفْرِيْجِ هُمُوْمِ الْمُذْنِبِيْنَ اَللّٰهُمَّ

صدارت اور قدرت و تصرف کی محافل میں واسطے دور کرنے گنہگاروں کی پریشانیوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّلُوْذُ

صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے انہیں کی پناہ لیں گے

بِهِ الْقَرِيْبُ وَالْقَاصِىْ مِنْ اَهْلِ الذُّنُوْبِ وَالْمَعَاصِىْ اَللّٰهُمَّ

قریب اور بعید گنہگار اور عصیاں کار۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّحُفُّ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے انہیں کو جلوہ میں لیے اور ان کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہونگے

بِهٖ اَهْلُ الْجَلَالَةِ يَتَّبِعُوْنَ رَاْيَهٗ وَاَقْوَالَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ارباب جلالت اور بزرگ جو اتباع کریں گے آپ کی رائے اور ارشادات کی۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُّطَافُ بِمَنْزِلِهٖ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے ہیں انہیں کے منزل و کاشانہ کا طواف کرایا جائے گا

وَخِيَامِهٖ تَمَسُّكًا بِعُلُوِّ جَاهِهٖ وَمَقَامِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

واسطے چنگل مارنے کے ان کی بلندی مرتبت اور رفعت مقام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُّهَيَّاُ لَهُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ سب سے پہلے اس آقا کے لیے تیار کیا جائے گا۔

التَّاجُ وَالْمِنْبَرُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِلْمَحْشَرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تاج رفعت اور منبر عظمت قیامت کے دن میدان حشر میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُّخَاطِبُهُ الرَّبُّ

ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر کہ سب سے اسی (محبوب) کے ساتھ کلام فرمائے گا رب

الْغَفُوْرُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ وَاحْفَظْ اَوْلَادِىْ

غفور جس دن کہ صور پھونکا جائے گا۔ اے اللہ مجھے حفظ و امان میں رکھ اور میری اولاد کو محفوظ رکھ

مِمَّا لَا تَرْضَاهُ وَمِنْ غَلَبَةِ الْاَعْدَآءِ وَمِنَ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ

ان تمام امور سے جو تجھے ناپسند ہوں۔ اور دشمنوں کے غلبہ سے اور نفس و شیطان سے

وَالشَّهْوَةِ وَالْحِرْصِ وَالْهَوَآءِ وَالتَّذَلُّلِ فِى الدَّارَيْنِ اَللّٰهُمَّ

اور شہوت و حرص۔ خواہش نفس اور ذلت و بے آبروئی سے دونوں جہان میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں سب سے پہلے

تَطِيْرُ بِهٖ مَلٰٓئِكَةُ الْجِنَانِ بِاَجْنِحَةٍ مُّرَصَّعَةٍ مِّنَ الدُّرِّ وَالْمَرْجَانِ

سیر کرائیں گے جنت کے فرشتے ان پروں پر (بٹھا کر) جو مرصع ہوں گے موتیوں اور مرجان کے ساتھ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُّشْكَرُ عَلٰى جَمِيْعِ اَفْعَالِهٖ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَمْثَالِهٖ

کہ سب سے پہلے شکر ادا کیا جائے گا ان کا ان کے تمام افعال پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف سے اور اپنے مماثل (حضرات انبیاء) کی طرف سے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُّحْمَدُ عَلٰى مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَلْقِ

کہ سب سے پہلے انہیں کی حمد و ثناء کی جائے گی ان کے اعلیٰ اخلاق پر سب مخلوق کی طرف سے

عَلَى الْاِطْلَاقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

بغیر کسی استثناء کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُّثَابُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلٰى تَبْلِيْغِ

کی آل اطہار پر کہ سب سے پہلے اس (آقا) کو ثواب دیا جائے گا تمام رسولوں میں سے اور پہنچانے

الرِّسَالَةِ لِلْعٰلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

احکام رسالت کے واسطے عالمین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُّجَازِيْهِ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ عَلٰى تَبْلِيْغِ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جو اول اور سابق ہیں ان تمام سے جنہیں اللہ سبحانہ جزاء عطا کرے گا اور ادا

الْاَمَانَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

کرنے امانت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُّقَابَلُ بِالرِّضٰى وَالرِّضْوَانِ وَمَنْ يُّعَامَلُ

کہ سب سے پہلے جن کے روبرو لائی جائے گی رضا اور خوشنودی۔ اور جن کے ساتھ معاملہ کیا جائیگا

بِالْجُوْدِ وَالْاِحْسَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

جود و احسان کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ تُرْفَعُ لَهُ الْمَرَاكِبُ الْمَحْثُوْثَةُ

آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے ان کے لیے اٹھائی جائیں گی تیز گام سواریاں

وَمَنْ تُبْسَطُ لَهُ الزَّرَابِيُّ الْمَبْثُوْثَةُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور انہیں کے لیے بچھائے جائیں گے۔ گدے وسیع و عریض۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُّحَثُّ اِلٰى زِيَارَةِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے اسی محبوب کو آمادہ کیا جائے گا واسطے زیارت کرنے

الْمَلِكِ الْمَوْلٰى وَمَنْ تُرْفَعُ لَهُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰى اَللّٰهُمَّ

بادشاہ حقیقی کے۔ اور جن کے لیے بلند کئے جائیں گے درجات عالیہ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ

صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر اور آپ کی آل پر کہ سب سے پہلے انہیں کی

مَنْ يُّرْفَعُ عَنْ اُمَّتِهٖ مَخَاوِفُ الْوَعِيْدِ وَمَنْ يُّسْرَعُ بِهٖ اِلٰى عَرَصَاتِ

اُمّت سے دور کئے جائیں گے خوف و خطرات وعید (نار) کے اور جنہیں جلدی سے لے جایا جائے گا

دَارِ الْمَزِيْدِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

دار مزید (جنت) کے میدانوں کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور

عَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَّنَالُ جَزِيْلَ الْخَيْرَاتِ

آپ کی آل پر کہ جنہیں سب سے پہلے دی جائیں گی عظیم بھلائیاں

وَمَنْ يَّبْتَكِرُ شَوَامِلَ الْبَرَكَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور جو سب سے پہلے وصول کریں گے ایسی برکات جو محیطِ (خلائق) ہوں گی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سب سے پہلے

يَّقُوْمُ بِحَمْلِ الشَّهَادَةِ وَمَنْ يُّوَفِّيْهِ اللّٰهُ قَصْدَهٗ وَ

کھڑے ہوں گے شہادت کے بوجھ کے ساتھ اور جنہیں اللہ تعالیٰ پورا پورا عطا کرے گا ان کا مقصود اور

مُرَادَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ

ان کی مراد۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمدؐ پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُّوَفّٰى لَهٗ بِجَمِيْلِ وَعْدِهٖ وَمَنْ يُّقَامُ لَهٗ بِكَمَالِ

کہ سب سے پہلے جس کے لیے پورا کیا جائے گا حسین وعدہ اور جس کے لیے قائم کیا جائے گا (میزان جزاء) ان

فَضْلِهٖ وَمَجْدِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ

کامل فضل اور مجد کے ساتھ۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُّنَاجِيْهِ الْمَلِكُ الْمَعْبُوْدُ وَمَنْ يُّثْنِيْ عَلَيْهِ

کہ سب سے پہلے جس (محبوب) کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملکِ معبود ہمکلام ہوگا۔ اور جن کی اللہ تعالیٰ ثناء فرمائے گا

اللّٰهُ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ مِنَ الْكَرَمِ وَالْجُوْدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

ساتھ ان اوصاف کمال کے جن کے وہ اہل اور لائق ہیں یعنی ساتھ کرم اور جود کے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ تُصَفُّ لَهُ

ہمارے آقا محمدؐ پر اور آپ کی آل پر کہ جو پہلے شخص ہوں گے کہ ان کے لیے قطاروں میں لگائے جائیں گے

الصِّحَافُ وَالْاَوَانِيْ وَمَنْ تُقَرُّ عَيْنَاهُ بِالْمَقَاصِدِ وَالْاَمَانِيْ

(جنتی) پیالے اور دوسرے برتن اور جن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا جائے گا مقاصد اور آرزوں (کو پورا کرنے) کے ساتھ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمدؐ پر اور آپ کی آل پر

اَوَّلِ مَنْ تَدْخُلُ عَلَيْهِ الْحُوْرُ مِنْ اَهْلِ الْقُصُوْرِ وَالْغُرَفِ

(جو پہلے شخص ہوں گے کہ حاضر ہوں گی ان کی بارگاہ میں حوریں بنسبت تمام محلات اور بالا خانوں کے باسیوں کے

بِالْهَدَايَا وَالتُّحَفِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ساتھ ہدایا اور تحائف کے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ تَهْتَزُّ اِلَيْهِ قُلُوْبُ

اور آپ کی آل پر کہ جو پہلے شخص ہوں گے کہ وجد میں آجائیں گے متوجہ ہوتے ہوئے طرف ان کے اکابرین

الْاَكَابِرِ شَوْقًا لِّنُوْرِهِ الْبَاهِرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

کے قلوب ان کے روشن نور کے شوق (دیدار) میں۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يُّعَانِقُ الْحُوْرَ

محمد پر اور سیدنا محمدؐ کی آل پر کہ جو سب سے پہلے معانقہ فرمائیں گے خوبصورت ترین

الْحِسَانَ فِيْ رَوْضَاتِ الْجِنَانِ ط اَللّٰهُمَّ نَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ

حوروں کے ساتھ جنّات کے باغات میں۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے بطفیل تیرے اس اسم

الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمِ الْكَبِيْرِ الْاَكْبَرِ الَّذِيْ مَنْ اَسْعَدْتَّهٗ

کے جو عظیم و اعظم اور کبیر و اکبر ہے کہ جسے تو نے سعادت مند بنایا اور سزاوار

وَرَحِمْتَهٗ اَلْهَمْتَهٗ اَنْ يَّدْعُوْكَ بِهٖ وَبِمَعَاقِدِ الْعِزِّ

رحمت بنایا اس کو الہام کیا کہ تجھ سے دعا کرے اس کے وسیلہ سے (لہٰذا سوال کرتے ہیں) اور بطفیل عزت

مِنْ عَرْشِكَ وَبِمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ اَنْ تُقْسِمَ

والے منازل کے تیرے عرش سے۔ اور بطفیل منتہائے رحمت کے تیری کتاب سے کہ حصہ بخشے

لَنَا مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ مَا تُصْلِحُ بِهٖ شَاْنَنَا كُلَّهٗ وَاَنْ

ہمیں رحمت اور مغفرت کا اس قدر کہ درست فرمادے ساتھ اس کے ہمارے تمام معاملات اور یہ کہ

تُحْيِيَنَا حَيٰوةً طَيِّبَةً فِيْ اَرْغَدِ عَيْشٍ وَّاَهْنٰى يَا جَامِعُ يَا مَنْ

ہمیں زندہ رکھے پاکیزہ زندگی کے ساتھ فراخ اور خوشگوار گزران میں اے جمع کرنے والے (خلائق کے) اے وہ

لَا يَمْنَعُهٗ عَنِ الْعَطَآءِ مَانِعٌ يَا مُعْطِيَ النَّوَالِ قَبْلَ السُّؤَالِ

ذات کہ جس کے لیے عطاء سے روکنے والا کوئی امر مانع نہیں ہے اے جود و نوال فرمانے والے قبل سوال کے۔

فَتَوَلَّنَا يَا مَوْلٰىنَا فَاَنْتَ بِنَا اَوْلٰى يَا مَوْلَايَ يَا قَادِرُ يَا مَوْلَايَ

پس ہماری کارسازی فرمالے ہمارے مولیٰ کیونکہ تو ہمارے بہت قریب ہے اے میرے آقا۔ اے قدرتوں والے اے میرے مولیٰ

يَا غَافِرُ يَا لَطِيْفُ يَا خَبِيْرُ اِلٰهَنَا فَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُخْلِصِيْنَ

اے بخشنے والے۔ اے صاحب لطف و کرم۔ اے (ظاہر و باطن کی) خبر رکھنے والے۔ اے میرے معبود پس کر ہمیں ارباب اخلاص میں سے

مِمَّنْ سَلَكَ الطَّرِيْقَ مِنْ اَهْلِ الْيَقِيْنِ وَارْعَنَا بِرِعَايَتِكَ وَ

جو کہ سالک ہیں راہ حقیقت کے اہل یقین میں سے ۔ اور ہماری رعایت فرما اپنی رعایت مخصوصہ کے ساتھ اور

احْفَظْنَا بِرَاْفَتِكَ لِنَكُوْنَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ وَارْشُدْنَا اِلٰى سَبِيْلِكَ

ہمیں محفوظ فرما اپنی مہربانی کے ساتھ تاکہ ہم ہوجائیں اطمینان والوں سے ۔ اور ہماری رہنمائی فرما اپنی راہ کی طرف

لِنَكُوْنَ مِنَ الْعٰمِلِيْنَ ؕ اِنَّ وَلِيِّ ۦَ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ

تاکہ ہو جائیں ہم با عمل لوگوں سے ۔ بیشک میرا متولی امور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کتاب کریم کو نازل فرمایا

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ اِلٰهَنَا فَاغْمِسْنَا فِىْ بَحْرٍ مِّنْ نُّوْرِ هَيْبَتِكَ

اور وہی نیک لوگوں کا کارساز ہے ۔ اے ہمارے خدا ہمیں غوطہ دے اپنے نور ہیبت کے سمندر میں ۔

حَتّٰى نَخْرُجَ وَفِىْ اَرْوَاحِنَا شُعَاعَاتُ رَحْمَتِكَ وَقَابِلْنَا بِنُوْرِ اسْمِكَ

حتّٰی کہ جب ہم اس سے باہر نکلیں تو ہماری روحوں میں تیری رحمت کی شعاعیں جلوہ گر ہوں ۔ اور ہماری طرف توجہ فرما اپنے اسم مبین کے

الْمُبِيْنِ وَامْلَاْ وُجُوْدَنَا بِوُجُوْدِ سِرِّكَ الْمَخْزُوْنِ حَتّٰى نَرَى الْكَمَالَ

نور کے ساتھ اور بھرپور فرما ہمارے وجود اپنے راز مخفی کے وجود سے حتّٰی کہ ہم مشاہدہ کریں کمال

الْمُطْلَقَ فِى الْمَكْنُوْنِ الْمُطْلَقِ الْمَصُوْنِ وَاَشْهِدْنَا مَشَاهِدَ

مطلق کا اس (حقیقت) مطلقہ میں جو مخفی بھی ہے (اور عوام کی رسائی سے) محفوظ ہے ۔ اور دکھا ہمیں اپنے مقدس نظارے

قُدْسِكَ مِنْ غَيْرِ تَقَلُّبٍ وَّلَا فُنُوْنٍ وَاجْعَلْنَا مَدَدًا رُوْحَانِيًّا

بغیر کسی تغیر کے اور تنوع کے اور ہمیں عطا فرما روحانی امداد اور ترقی

تَغْسِلُنَا مِنَ الْحَمَاِ الْمَسْنُوْنِ ؕ وَاَدْرِكْنَا بِاللُّطْفِ الْخَفِيِّ

کہ دھو دے ہمیں بسبب اس کے (خمیر والی) سیاہی مائل بدبودار مٹی (کے اثرات) سے ۔ اور احاطہ فرما ہمارا مخفی لطف و کرم کیساتھ

الَّذِىْ هُوَ اَسْرَعُ مِنْ طَبْقِ الْجُفُوْنِ وَاَوْقِفْنَا مَوَاقِفَ الْعِزِّ

جو کہ جلد ہم تک پہنچنے والا ہو پلک جھپکنے سے ۔ اور ہمیں ٹھہرا عزت والے مقامات میں

وَاحْجُبْنَا عَنِ الْعُيُوْنِ وَاَشْهِدْنَا الْحَقَّ الْيَقِيْنَ ؕ يَا قَوِيُّ يَا مَتِيْنُ

اور ہمیں بچا (بری) نظروں سے اور ہمیں مشاہدہ کرا حق الیقین کا ۔ اے قوتوں والے ۔ اے دائم و قائم

يَا نُوْرُ يَا مُبِيْنُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ اِلٰهَنَا فَاَطْلِعْ عَلٰى وُجُوْدِنَا

اے نور ۔ اے روشن کرنے والے ۔ اے رحمٰن ۔ اے رحیم ۔ اے ہمارے معبود طلوع فرما ہمارے وجود پر

شَمْسَ شُهُوْدِنَا فِى الْاَكْوَانِ وَنَوِّرْ وُجُوْدَنَا بِنُوْرِ وُجُوْدِكَ

ہمارے آفتاب شہود کو کائنات میں ۔ اور ہمارے وجود کو منوّر فرما اپنے نور وجود کے ساتھ

فِىْ كُلِّ الْاِحْسَانِ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رِيَاضِ الْعَافِيَةِ وَالْعِيَانِ يَا

احسان کے ہر مرتبہ میں ۔ اور ہمیں داخل فرما عافیت اور مشاہدہ کے باغات میں ۔ اے

حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحْمٰنُ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْبُرْهَانِ

مہربان ۔ اے احسان فرمانے والے ۔ اے رحیم ۔ اے رحمٰن ۔ اے عزت اور برہان و حجت کے مالک

يَا ذَا الرَّحْمَةِ وَالْغُفْرَانِ يَا ذَا الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ يَا ذَا

اے رحمت اور مغفرت کے مالک ۔ اے فضل و احسان کے مالک ۔ اے صاحب

الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا مَوْلَاىَ يَا قَادِرُ يَا مَوْلَاىَ يَا غَافِرُ يَا لَطِيْفُ

جلال و اکرام ۔ اے میرے مولا ۔ اے قدرتوں والے ۔ اے میرے مولا ۔ اے بخشنے والے ۔ اے صاحب لطف و کرم

يَا خَبِيْرُ اِلٰهَنَا اَلْبِسْنَا مَلَابِسَ لُطْفِكَ وَاَقْبِلْ عَلَيْنَا بِجَنَابِكَ

اے ظاہر و باطن کی خبر رکھنے والے ۔ اے ہمارے معبود ہمیں پہنا اپنے لطف و کرم کی پوشاکیں اور توجہ فرما ہم پر اپنی ذات

وَعَطْفِكَ وَاَخْرِجْنَا مِنَ التَّدْبِيْرِ مَعَكَ وَعَلَيْكَ وَاهْدِنَا بِنُوْرِكَ

اور عنایت کے ساتھ اور نکال ہمیں اپنی تدبیر سے جو تیری (تقدیر) کے ساتھ ہو اور تیری (قضا) پر ہو اور ہمیں پہنچا اپنے نور کے ذریعے

اِلَيْكَ وَاَقِمْنَا بِصِدْقِ الْعُبُوْدِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَاَخْرِجْ ظُلُمَاتِ

اپنی ذات تک ۔ اور ہمیں قائم فرما سچی عبودیت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں ۔ اور نکال باہر کر ہماری تدابیر کی تاریکیوں

التَّدْبِيْرِ مِنْ قُلُوْبِنَا وَانْشُرْ نُوْرَ التَّفْوِيْضِ فِىْ اَسْرَارِنَا وَاَشْهِدْنَا

کو ہمارے دلوں سے ۔ اور پھیلا دے تفویض و توکل کا نور ہمارے بواطن اور قلوب میں اور ہمیں مشاہدہ کرا دے

حُسْنَ اخْتِيَارِكَ لَنَا حَتّٰى يَكُوْنَ مَا تَقْتَضِيْهِ فِيْنَا وَمَا تَخْتَارُهُ لَنَا

اپنے حسین اختیار و انتخاب کا جو ہمارے لیے ہے حتّٰی کہ ہو جائے وہ امر جس کی قضاء فرمائے ہم میں اور جو تو اختیار فرمائے ہمارے لیے

أَحَبَّ اِلَيْنَا مِنْ اِخْتِيَارِنَا لِاَنْفُسِنَا وَاهْدِنَا لِلْحَقِّ الْمُبِيْنِ ۚ وَعَلِّمْنَا
زیادہ محبوب طرف ہمارے بنسبت ہمارے اپنے اختیار و انتخاب کے واسطے اپنی ذاتوں کے۔ اور ہمیں پہنچا واضح اور روشن حق تک اور ہمیں علم عطا کر
مِنْ عِلْمِ الْيَقِيْنِ ؕ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ يَا غَنِيُّ يَا كَرِيْمُ يَا غَفُوْرُ يَا
علم یقین سے۔ اے عالی شان والے اے عظیم۔ اے بے نیاز۔ اے کریم اے بخشنے والے۔ اے
حَلِيْمُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا مَوْلَايَ يَا قَادِرُ يَا مَوْلَايَ يَا قَادِرُ
حلم والے۔ اے رحمٰن۔ اے رحیم۔ اے میرے مولیٰ۔ اے قدرتوں والے۔ اے میرے مولیٰ اے قدرتوں کے مالک
يَا غَافِرُ يَا لَطِيْفُ يَا خَبِيْرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ خِلْعَةَ اِجْلَالِ
اے بخشنے والے۔ اے صاحب لطف و کرم۔ اے ظاہر و باطن کی خبر رکھنے والے۔ اے اللہ مجھے عطا فرما خلعتِ اجلال
اِقْبَالِ قُرْبِكَ وَاَشْرِفْنِيْ بِشَرَافَةِ الْحَالِ وَالْخَيَالِ طَلْعَةَ عَيْنِ
اپنے قرب کی سعادت مندی سے۔ اور مجھے دکھلا حال و خیال کی شرافت کی بدولت طلعت اور جھلک اپنے عین وصل کی
وَصْلِكَ وَاَلْحِقْنِيْ بِشُهُوْدِ مَشْهُوْدِ وُجُوْدِ جُوْدِ اَصْلِكَ وَبِرَأْفَةِ رَحْمَةِ
اور لاحق فرما مجھے ساتھ مشاہدہ وجود کے جو مشہود ہے (ہر ذرہ کائنات میں) تیرے فیضان حقیقت سے اور لاحق فرما مجھے (ساتھ رافت و
مَحَبَّةِ مَوَدَّةِ تَوَدُّدِ يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ
رحمت اور محبت و مودت کے جس میں وہ محبت (ظہور فرما) جس کا شان یہ ہے "محبت رکھتے ہیں کفار اپنے معبودات باطلہ سے مثل اللہ تعالیٰ کی محبت کے اور جو ایمان لائے ہیں وہ
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ طُوَيْسُ ن الطَّاؤُسِ اَحْبَبْتُ اِلَى الطَّاؤُسِ الْمُقَدَّسِ الْاَحْوَسِ
بہت زیادہ محبت رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اے اللہ میں معمولی سا عکس و پرتو ہوں حسن حقیقت کے طاؤس کا مجھے محبت ہو گئی ہے اُس طاؤس مقدس کی جو بہادر
الْاَحْمَسِ بِتَشْوِيْشِ الْمَحَبَّةِ وَتَشَوُّسِ الْمَحْبُوْبِ بِتَبْشِيْشِ الْمَرْغُوْبِ
و شجاع ہے بسبب محبت کے پریشان کرنے کے اور محبوب کے ناز و انداز کے ساتھ بشاشت مرغوب کے
وَطَبَاشِ الْمَطْلُوْبِ مِنْ عَرْشِ قُدْسِكَ اِلٰى قُدْسِكَ الْاَقْدَسِ اَللّٰهُمَّ
اور تحریک مطلوب کے تیرے عرش مقدس سے تیری ذات مقدسہ کی طرف اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ن الَّذِيْ شَدَّ عَلٰى
صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے سردار محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس (آقا) نے باندھے اپنے

بَطْنِهِ الْحِجَارَةَ مِنَ الْجُوْعِ وَكَانَتْ لَهُ الْكَائِنَاتُ فِيْ غَايَةِ الْاِمْتِثَالِ
پیٹ مبارک پر پتھر بسبب بھوک کے حالانکہ تھی آپ کے لیے پوری کائنات انتہائی فرماں بردار
وَالطَّوْعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ
اور اطاعت گزار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر
ن الَّذِيْ قَامَ عَلٰى تَمْرِ جَابِرٍ فَتَزَاكَا وَمَا شَبِعَ مِنْ طَعَامٍ قَطُّ
جو (آقا) کھڑے ہوئے حضرت جابر کی کھجوروں پر (برکت دینے کیلئے) پس وہ بہت بڑھ گئیں اور (خود) نہ سیر ہوئے
ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ دِرَاكًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
طعام سے کبھی بھی تین دن لگاتار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر
وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ن الَّذِيْ اَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ الْحَصِيْرُ وَ
اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے پہلو پر نشان لگاتے چٹائی (ننگے بدن اس پر سونے کی وجہ سے) اور
خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا شَبِعَ اِلَّا مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ اَللّٰهُمَّ
آپ تشریف لے گئے دُنیا سے جبکہ نہیں پیٹ بھر کر کھائی تھی مگر صرف جو کی روٹی ہی۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ
صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر
ن الَّذِيْ كَانَ مُتَوَاصِلَ الْاَحْزَانِ وَمَا اَكَلَ قَطُّ عَلٰى
کہ جو (آقا) ہمیشہ حزن و ملال کی حالت میں رہتے تھے اور آپ نے کبھی نہیں کھایا کھانا
خِوَانٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
کھانے کی میز پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ
اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ن الَّذِيْ كَانَ طَعَامُهُ الْاَسْوَدَيْنِ وَ
آل پر کہ جس آقا کا طعام نہیں تھا مگر کھجوریں اور پانی
كَانَ لَا تُوْقَدُ فِيْ اَبْيَاتِهِ نَارُ ن الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ اَللّٰهُمَّ
اور نہیں جلائی جاتی تھی آپ کے گھروں میں (کھانا پکانے کے لیے) آگ مہینہ اور دو مہینے تک۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر
الَّذِیْ لَمْ یَکُنْ فِیْ بَیْتِهٖ سُفَّةٌ مِّنْ دَقِیْقٍ وَّکَانَ لَا
کہ جن کے گھر میں نہیں تھا ٹوکری یا زنبیل کی مقدار آٹا۔ اور نہیں
یُوْجَدُ فِیْ بَیْتِهٖ کَفٌّ مِّنْ سَوِیْقٍ مِّنْ رَّفِیْقِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ
موجود ہوتی تھی آپ کے گھر میں ایک کف دست ستو سے باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کے رفیق ہیں۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر
الَّذِیْ کَانَتْ طُعْمَتُهٗ عِفَافًا وَّکَانَ قُوْتُهٗ کِفَافًا فِیْ
کہ جس آقا کا کھانا سراسر عفاف و قناعت تھا اور آپ کی روزی بقدر کفایت تھی بسبب اللہ تعالیٰ کی محبت
حُبِّ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ
کے (اور دنیا سے بے رغبتی کے) اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل
سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ مَا اَکَلَ قَطُّ فِیْ یَوْمٍ مَّرَّتَیْنِ وَکَانَ
پر کہ جس آقا نے کبھی بھی ایک دن میں دو مرتبہ نہیں کھایا۔ اور تھے آپ ترجیح
یُؤْثِرُ عَلٰی نَفْسِهِ الْفُقَرَآءَ وَالْمَسَاکِیْنَ لِلّٰهِ فِی اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
دیتے اپنی ذات پر فقراء اور مساکین کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی خوشنودی میں۔ اے اللہ صلواۃ
وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ
اور سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے
کَانَ مِنْ حُسْنِ شَمَآئِلِهٖ وَجَمِیْلِ اٰثَرِهٖ مَا اشْتَکٰی قَطُّ جُوْعًا فِیْ
حسین عادات میں سے اور جمیل امتیازات میں سے یہ (عادت و امتیاز بھی) تھا کہ نہیں شکایت فرمائی کبھی بھوک کی
حَالِ صِغَرِهٖ وَلَا فِیْ حَالِ کِبَرِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
بچپن کی حالت میں اور نہ ہی بڑے ہو کر۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ کَانَ اَحَبُّ الْعَمَلِ اِلَیْهِ مَا دُوْوِمَ عَلَیْهِ
اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ تھا جس پر مداومت کی جاتی
وَاِنْ قَلَّ وَمَا مَلَاَ قَطُّ بَطْنَهٗ مِنَ الدَّقَلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
اگرچہ قلیل ہوتا۔ اور کبھی نہیں بھرا آپ نے پیٹ مبارک معمولی کھجوروں سے بھی۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج
عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ کَانَ یُجِیْبُ
ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا قبول فرماتے تھے
دَعْوَةَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَمَا ادَّخَرَ قَطُّ قُوْتَ یَوْمٍ لِّغَدٍ
دعوت آزاد مرد اور غلام کی۔ اور جنہوں نے ذخیرہ نہیں کیا ایک دن کی روزی کو کل کیلئے
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر
الَّذِیْ کَانَ یَبِیْتُ طَاوِیًا جَآئِعًا وَّکَانَ یُصْبِحُ طَاعِمًا قَانِعًا
کہ جو آقا رات گزارتے خالی پیٹ حالت جوع میں اور صبح کرتے تھے اس شان سے کہ سیر ہونے اور قناعت کرنیوالے
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ
اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر
الَّذِیْ مَا شَبِعَ قَطُّ مِنْ عَشَاءٍ وَّلَا غَدَاءٍ وَّلَوْ شَآءَ لَکَانَ عَیْشُهٗ
کہ جس آقا نے کبھی سیر ہو کر نہ کھایا رات کے کھانے سے اور نہ دن کے کھانے سے حالانکہ اگر آپ چاہتے تو آپ کی معیشت
وَاسِعًا رَّغَدًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ
بڑی امیرانہ اور فراخ ہوتی۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی
سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ کَانَ طَلْعَتُهٗ مُبَارَکَةً مَّیْمُوْنَةً وَّمَاتَ
پر کہ جس آقا کی طلعت اور دیدار اقدس مبارک و میمون تھا اور آپ کا وصال ہوا
وَدِرْعُهٗ عِنْدَ یَهُوْدِیٍّ مَّرْهُوْنَةٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی
تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن پڑی تھی۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ ابْنِ بَطْحَآءِ مَکَّۃَ وَمَا
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو بطحاء مکہ میں پیدا ہونے والے ہیں اور نہیں آپ نے

عَابَ طَعَامًا قَطُّ اِنِ اشْتَهَاهُ اَکَلَهٗ وَاِلَّا تَرَکَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عیب لگایا کسی کھانے کو کبھی اس کی خواہش ہوتی تو تناول فرماتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اُخِیْفَ فِی
و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کو خوف زدہ کیا گیا

اللّٰهِ وَاُوْذِیَ فِیْهِ وَمَا رَاٰی قَطُّ شَاةً مَّشْوِیَّةً بِعَیْنَیْهِ اَللّٰهُمَّ
اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اس کی خاطر ایذائیں دی گئیں اور نہ دیکھی آپ نے کبھی بھونی ہوئی بکری (بظاہر) اپنی آنکھوں سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ
صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر کہ جو

کَانَ یَشْرَبُ قَآئِمًا وَّقَاعِدًا وَکَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اِلَیْهِ
محبوب (مشروبات کو) پی لیتے تھے حالت قیام میں بھی اور بیٹھ کر بھی۔ اور تھا محبوب ترین مشروب آپ کا

الْحُلْوَ الْبَارِدَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی
میٹھا اور ٹھنڈا مشروب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ یَتَنَفَّسُ عِنْدَ الشُّرْبِ مَرَّتَیْنِ
آپ کی آل پر کہ جو آقا سانس لیتے تھے پیتے وقت دو مرتبہ

وَکَانَ یَمْسَحُ عَلٰی جَسَدِهٖ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَّالْمُعَوِّذَتَیْنِ اَللّٰهُمَّ
اور آپ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے جسم مبارک پر (اس پر دم کرکے) ساتھ قل ہو اللہ احد کے اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَیْرِ صَفِیٍّ وَّ
صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا سید اصفیاء ہیں اور

مَوْصُوْفٍ وَّلَبِسَ الصُّوْفَ وَکَانَ احْتَذَا الْمَخْصُوْفَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
ارباب اوصاف کے سردار اور آپ نے اونی لباس زیب تن فرمایا اور پیوند والا جوتا پہنا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَبِسَ
و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا نے زیب تن فرمائے

اَحْسَنَ الثِّیَابِ وَکَانَ یَضْطَجِعُ عَلَی الْاِهَابِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ
بہت اچھے کپڑے (بعض اوقات) اور آپ آرام فرماتے تھے بغیر رنگے چمڑے کے بچھونے پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَبِسَ الْخِفَافَ
سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے خفین پہنیں اور

وَرَکِبَ الْحِمَارَ وَعَلَیْهِ اِکَافٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی
دراز گوش کو سواری کا شرف بخشا جبکہ اس پر صرف لکڑی کی زین ہوتی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ حَجَّ عَلٰی قَطِیْفَةٍ فَدَکِیَّةٍ وَّلَبِسَ الْجُبَّةَ
آل سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے حج فرمایا اس حال میں کہ آپ کی اونٹنی کے پالان پر صرف فدک کی بنی چادر تھی اور آپ نے شامی جبہ پہنا

الشَّامِیَّةَ وَالنِّعَالَ السِّبْتِیَّةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا
اور رنگے ہوئے چمڑے کے جوتے پہنے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَبِسَ الْاِزَارَ وَاتَّزَرَ
اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا نے تہمد باندھی اور (کبھی) بطور تہمد استعمال فرمایا

الْمِرْطَ مِنْ شَعْرٍ وَّالرِّدَآءَ الْمُحَبَّرَ وَالْکِسَآءَ الْمُلَبَّدَ وَاَفْضَلِ
بالوں سے بنے ہوئے کمبل کو اور اوڑھا حاشیہ والی یمنی چادر کو اور منجمد اون کے کمبل کو جبکہ وہ افضل ترین ہیں

مَنْ تَعَبَّدَ وَتَهَجَّدَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی
ان تمام لوگوں سے جنہوں نے (کسی طرح کی) عبادت کی اور (بالخصوص) تہجد ادا کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَبِسَ الْخَاتَمَ مِنْ وَّرِقٍ وَّکَانَ یَلْقَی النَّاسَ
محمد کی آل پر کہ جس آقا نے پہنی چاندی کی انگوٹھی اور آپ ملاقات فرماتے تھے لوگوں سے

بِوَجْهٍ طَلْقٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ
خندہ پیشانی کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ يَخْضِبُ شَعْرَهٗ وَكَانَ اَحَبُّ

کی آل پر کہ جو آقا اپنے بالوں کو خضاب لگاتے تھے۔ اور تھے آپ کے نزدیک پسندیدہ ترین

الثِّيَابِ اِلَيْهِ الْقَمِيْصَ وَالْحِبَرَةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

کپڑے قمیص اور یمنی چادر اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَرْدَفَ الرَّدِيْفَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہوں نے (ازراہ تواضع) اپنے پیچھے سواری پر دوسرے آدمی کو سوار کیا

وَكَانَ وِسَادَتُهٗ مِنْ اُدُمٍ وَّحَشْوُهٗ مِنْ لِيْفٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور تھا آپ کا تکیہ سرخ رنگ کے چمڑے سے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ هَدَاهُ اللّٰهُ اِلَى الْفِطْرَةِ

فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی (دین) فطرت کی طرف (روز اول سے)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کی

كَانَ حَدِيْثُهٗ فَصْلًا لَّا فُضُوْلًا وَّكَانَ يُقَاتِلُ عَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَآءِ

گفتگو واضح تھی (اور مطلب کے مطابق) نہ زائد اور غیر ضروری۔ اور آپ اپنے سفید خچر پر سوار ہو کر جہاد فرماتے تھے

وَاسْمُهَا دُلْدُلُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس کا نام دلدل تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَزْكَى الْخَلَآئِقِ اَخْلَاقًا وَّمَا ذَمَّ قَطُّ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا سب مخلوقات سے پاکیزہ تر تھے ازروئے اخلاق کے اور آپ نے (کسی کی) مذمت نہیں فرمائی کبھی بھی

مَذَاقًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

ازروئے مذاق بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ لَا يَضْرِبُ عَبْدَهٗ وَلَا يَمْنَعُ سَآئِلَهٗ رِفْدَهٗ

کہ جو کبھی نہیں مارتے تھے اپنے غلام کو بھی اور نہیں دور رکھتے تھے سائلوں سے اپنی عطا کو

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ غَزَا تِسْعَ عَشَرَةَ غَزْوَةً وَّكَانَ يَحْلِبُ شَاتَهٗ

کہ جس آقا نے سفر فرمایا انیس غزوات کے لیے اور آپ خود دودھ نکالتے تھے اپنی بکری کا۔

وَيَرْفَعُ دَلْوَهٗ وَكَانَ خَاتَمُهٗ اَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ

اور اٹھاتے تھے ڈول (پانی کھینچنے کے لیے) اور آپ کی مہر نبوت کستوری سے زیادہ پاکیزہ خوشبو

رَآئِحَةً وَّكَانَ يَعْقِلُ بَعِيْرَهٗ وَيَعْلِفُ نَاضِحَهٗ اَللّٰهُمَّ

والی تھی۔ اور آپ خود اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتے تھے اور چارا ڈالتے تھے پانی کھینچنے والے اونٹ کو اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

نِ الَّذِیْ مَا اَكَلَ قَطُّ طَعَامًا مُّرَقَّقًا قَبْلَ الْمَوْتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

کہ جنہوں نے نہیں کھائی کبھی میدہ کی روٹی وصال شریف تک۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہیں

طَلَبَتْهُ جِبَالُ تِهَامَةَ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ دُرًّا وَّيَاقُوْتًا اَللّٰهُمَّ

اپنا مطالبہ اور آرزو پیش کی تہامہ کے پہاڑوں نے کہ ہو جائیں آپ کی خاطر موتی اور یاقوت۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہیں راغب کرنے کی کوشش کی

رَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ وَالرُّبَا اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ فِضَّةً وَّذَهَبًا فَاَبٰى اَللّٰهُمَّ

پہاڑوں اور ٹیلوں نے کہ ہو جائیں آپ کے لیے چاندی اور سونا مگر آپ نے انکار فرمایا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اَدْخَلَ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ داخل کیا ہے

اللّٰهُ الْعَوَالِمَ تَحْتَ مِلْكِهٖ وَسِيَادَتِهٖ وَاَجْرَى اللّٰهُ الْكَائِنَاتِ

اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کو ان کی ملکیت اور حکومت میں اور جاری فرمایا اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو

عَلٰى وَفْقِ اِرَادَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

آپ کے ارادہ کے موافق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِالَّذِيْ مَا مَالَتْ قَطُّ نَفْسُهُ الْكَرِيْمَةُ اِلٰى شَيْءٍ مِّنْ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کا نہیں مائل ہوا دل مبارک کبھی بھی طرف کسی چیز کے

مُّرَادِهٖ وَشُئُوْنِهٖ اِلَّا اَدْخَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ الشَّيْءَ تَحْتَ مِلْكِهٖ وَطَاعَتِهٖ

اپنے مطالب اور احوال میں سے مگر اللہ تعالیٰ نے داخل فرمایا اس شیٔ کو آپ کی ملکیت اور اطاعت میں

مِنْ حِيْنِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اسی وقت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدِ نِالَّذِيْ خُيِّرَ بَيْنَ اَنْ يَّكُوْنَ نَبِيًّا مَّلِكًا اَوْ نَبِيًّا عَبْدًا فَاخْتَارَ الْعُبُوْدِيَّةَ

کہ جنہیں اختیار دیا گیا (درمیان اس کے) کہ ہوں بادشاہ نبی یا صاحب فقر نبی مگر آپ نے عبودیت و فقر کو اختیار فرمایا

لِلّٰهِ وَاهْتَدٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اللہ کے حضور تواضع کے لیے اور صحیح راہ کا انتخاب فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدِ نِالَّذِيْ اَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا وَحُطَامِهَا وَاخْتَارَ مُلْكَ الْاٰخِرَةِ وَ

کہ جنہوں نے منہ موڑ لیا دنیا اور اس کے سازو سامان سے اور اختیار فرمایا ملک آخرت کو اور

نَعِيْمِهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اس کی نعمتوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدِ نِالَّذِيْ سَمَّتْهُ الْيَهُوْدِيَّةُ فِيْ شَاتِهَا فَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهَا

کہ جنہیں یہودی عورت نے زہر کھلایا اپنی (بھنی ہوئی) بکری میں مگر آپ نے درگزر فرمایا اس کی برائیوں سے

اِلٰهِيْ مَنِ الَّذِيْ دَعَاكَ فَلَمْ تُجِبْهُ وَمَنِ الَّذِيْ سَئَلَكَ فَلَمْ

اے میرے خدا کون ہے جس نے تجھ سے دعا کی پس تو نے قبول نہ کی۔ اور کون ہے جس نے تجھ سے سوال کیا مگر تو نے

تُعْطِهٖ وَمَنِ الَّذِي اسْتَجَارَكَ فَلَمْ تُجِرْهُ وَمَنِ الَّذِي اسْتَعَانَ

اسے عطا نہ کیا۔ اور کون ہے جس نے تجھ سے پناہ ڈھونڈی مگر تو نے اسے پناہ نہ دی ہو۔ اور کون ہے جس نے مدد طلب

بِكَ فَلَمْ تُغِثْهُ وَاغَوْثَاهُ وَاغَوْثَاهُ وَاغَوْثَاهُ اَغِثْنِيْ يَا غِيَاثَ

کی تجھ سے مگر تو نے اس کی امداد نہ کی ہو۔ اے فریاد رس۔ اے فریاد رس۔ اے فریاد رس میری امداد فرما اے امداد کرنے والے

الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنِيْ يَا اِلٰهَ الْعٰلَمِيْنَ اَغِثْنِيْ يَا خَيْرَ

فریادیوں کی۔ میری امداد فرما اے سب جہانوں کے کارساز میری امداد فرما اے تمام مدد کرنے والوں

النَّاصِرِيْنَ اَغِثْنِيْ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ اَغِثْنِيْ يَا وَهَّابُ يَا رَزَّاقُ

سے بہتر و برتر۔ میری امداد فرما اے مہربان اے صاحب احسان۔ میری امداد فرما اے عطا کرنے والے اے رزق دینے والے

يَا فَتَّاحُ اَغِثْنِيْ يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِيْ يَا مُعْطِيْ اَغِثْنِيْ يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ

اے مشکلات حل کرنے والے۔ میری امداد فرما اے بے نیاز اے بے نیاز کرنے والے اے عطا کرنے والے۔ میری امداد فرما اے انوکھے

بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

عجائبات ظاہر کرنے والے خیر اور بھلائی کے اے انوکھی شان والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِالَّذِيْ لَمَّا كُسِرَتْ رُبَاعِيَتُهٗ وَشُجَّ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جب ان کے (سامنے والے چار دانتوں میں سے) ایک کا کنارہ توڑا گیا اور زخمی کیا گیا

وَجْهُهُ الْمَيْمُوْنُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

ان کا چہرہ مبارک تو (پھر بھی) یہ دعا کی۔ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ انہیں (میری حقیقت کا) علم نہیں ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

نِالَّذِيْ لَمَّا اَخَذَ زَيْدٌ بِمَجَامِعِ ثِيَابِهٖ لَمْ يَاْمُرْ بِعِقَابِهٖ

کہ جب پکڑا زید نے آپ کے گریبان کو (پھر بھی) آپ نے انہیں سزا دینے کا حکم نہ دیا

وَلَمَّا جَذَبَهُ الْاَعْرَابِيُّ بِرِدَائِهٖ لَمْ يَاْمُرْ بِخِزَائِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ

اور جب (پیچھے سے کھینچا آپ کی چادر پکڑ کر اعرابی نے تو آپ نے اس کی تذلیل کا حکم نہ دیا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

الثَّبَاتَ فِی الْاَمْرِ وَالْعَزِیْمَةَ عَلَی الرُّشْدِ وَالشُّکْرَ عَلٰی نِعَمِكَ وَثَبِّتْ

ثابت قدمی کا تمام امور، میں اور پختہ ارادہ کا رشد وخیر پر۔ اور شکر کا تیرے انعامات پر اور ثابت رکھ

اَللّٰهُمَّ یَا قَآئِمُ یَا دَآئِمُ قَدَمِیْ کَمَا ثَبَّتَّ الْقَآئِلَ وَکَیْفَ اَخَافُ مَا

اے اللہ اے قائم۔ اے دائم میرے قدموں کو جیسے تو نے ثابت قدم رکھا اس قول والے کو" اور کیسے خوفزدہ ہو سکتا ہوں میں ان سے جنہیں

اَشْرَکْتُمْ بِاللّٰهِ وَانْصُرْنِیْ یَا نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْرُ عَلٰی اَعْدَآئِیْ

تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے اور میری نصرت فرما اے بہترین کارساز اور بہترین مددگار اوپر میرے اعداء کے

کَنَصْرِ الَّذِیْ قِیْلَ لَهٗ اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَاَیِّدْنِیْ یَا

مانند مدد فرمانے اس نبی کے جنہیں کہا گیا تھا "کیا تو نے ہمیں مذاق کی جگہ بنا لیا ہے تو انہوں نے کہا میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی" اور میری

طَالِبُ یَا غَالِبُ بِتَائِیْدِ نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَیَّدِ

امداد فرما اے طالب اے غالب اپنے نبی محمد کی امداد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تائید وتقویت فرمائی گئی ہے

بِتَعْزِیْزٍ تَوْقِیْرٍ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِیْرًا لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ

(اس) تعظیم وتوقیر کے ساتھ کہ بے شک ہم نے تمہیں مبعوث فرمایا اس شان سے کہ تم احوالِ اُمت پر مطلع ہو اور بشارت دینے والے ہو طاعت گزاروں کو اور

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ مَا لَا یَسَعُهٗ اِلَّا مَغْفِرَتُكَ وَلَا یَمْحَقُهٗ اِلَّا عَفْوُكَ وَ

ڈرانے والے ہو نافرمانبرداروں کو تاکہ تم ایمان لاؤ اے لوگو اللہ تعالیٰ کے ساتھ)۔ اے اللہ بخش دے میرے لیے (وہ تمام گناہ) کہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر تیری ہی مغفرت

لَا یُکَفِّرُهٗ اِلَّا تَجَاوُزُكَ وَفَضْلُكَ وَهَبْ لِیْ فِیْ یَوْمِیْ هٰذَا وَفِیْ لَیْلَتِیْ

اور انہیں نہیں مٹا سکتی مگر تیری ہی عفو اور دور نہیں کر سکتا مگر تیرا ہی درگزر اور فضل اور عطا فرما مجھے میرے اس دن اور اس رات

هٰذِهٖ وَفِیْ شَهْرِیْ هٰذَا وَفِیْ سَنَتِیْ هٰذِهٖ یَقِیْنًا صَادِقًا یُّهَوِّنُ عَلَیَّ

میں اور اس مہینے اور اس سال میں خالص یقین جو آسان کر دے مجھ پر

مَصَآئِبَ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَحْزَانَهُمَا وَیُشَوِّقُنِیْ وَیُرَغِّبُنِیْ فِیْمَا عِنْدَكَ

دُنیا و آخرت کے مصائب اور غم واندوہ اور مجھے شائق اور راغب بنا دے ان انعامات میں جو تیرے پاس ہیں

وَاکْتُبْ لِیْ عِنْدَكَ الْمَغْفِرَةَ وَبَلِّغْنِی الْکَرَامَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَاَوْزِعْنِیْ

اور (اپنے کرم پر) لازم فرما میرے لیے اپنے ہاں مغفرت اور مجھے پہنچا اپنی مخصوص کرامت تک۔ اور مجھے توفیق دے ان نعمتوں کے

شُکْرَ مَآ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ فَاِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الرَّبُّ الْوَاحِدُ

شکر کی جن کا تو نے مجھ پر انعام فرمایا پس تو ہی اللہ ہے کہ نہیں معبود برحق مگر تو ہی جو پروردگار ہے۔ یکتا ویگانہ ہے

الْمُبْدِئُ الرَّفِیْعُ الْبَدِیْعُ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ الَّذِیْ لَیْسَ لِاَمْرِكَ مُدْفِعٌ وَّلَا عَنْ

آغاز فرمانے والا ہے۔ بلند مرتبت ہے۔ انوکھی صنعت والا ہے۔ ہمیشہ سننے جاننے والا ہے تیرے امر وحکم کو کوئی روکنے والا نہیں اور نہ

قَضَآئِكَ مُمْتَنِعٌ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ رَبِّیْ وَرَبُّ

تیری قضاء سے کوئی باز رہنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے کہ تیرے بغیر کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو میرا رب ہے اور ہر شئی

کُلِّ شَیْءٍ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَلِیُّ

کا رب ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ غیب وظاہر کا جاننے والا ہے۔ بلند شان والا

الْکَبِیْرُ الْمُتَعَالُ ط وَامْنُنْ عَلَیَّ یَا وَهَّابُ یَا رَزَّاقُ بِحُصُوْلِ فُصُوْلِ

اور عظیم المرتبت ہے بلند وبالا ہے۔ اور احسان فرما مجھ پر اے وہاب اے رزاق ساتھ حاصل ہونے انواع واقسام کے رزق اور انعامات کے

وُصُوْلِ قُبُوْلِ تَدْبِیْرِ تَیْسِیْرِ تَسْمِیْرِ کُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ

اور بارگاہ قبولیت" تک رسائی کے اور سہولیات کی تدبیر کے اس اعلان میں" کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے

اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رزق سے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مَّنْ لَّهٗ لِلصَّلَوَاتِ قَبْلَ کُلِّ اَحَدٍ وَّبَعْدَ کُلِّ اَحَدٍ وَّمَعَ کُلِّ اَحَدٍ

جن کو حاصل ہے صلوات کے لیے ہر ایک سے پہلے اور ہر ایک کے بعد اور ہر ایک کے ساتھ

اَهْلِیَّةٌ کَامِلَةٌ تَامَّةٌ بِجِسْمِهٖ وَبِرُوْحِهٖ وَبِقَلْبِهٖ وَجَمِیْعِ

کامل واکمل اہلیت واستعداد ساتھ جسم و روح اور قلب و جگر کے اور تمام

لَطَآئِفِهٖ وَحَقَآئِقِهٖ اِلٰهِیْ اَنْتَ الْمُتَوَحِّدُ فِیْ ذَاتِكَ

لطائف و حقائق کے اے اللہ تو ہی یکتا ہے مرتبۂ ذات میں

بِاُلُوْهِیَّتِكَ وَفِیْ صِفَاتِ اِلٰهِیَّتِكَ بِالتَّوْحِیْدِ کَمَآ اَلْزَمْتَ

اپنی الوہیت کے ساتھ۔ اور صفاتِ الوہیت میں وحدانیت کے ساتھ جیسے تو نے لازم فرمایا

حَبِيْبِكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قُلْتَ وَقَوْلُكَ

اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبکہ تو نے فرمایا اور تیرا قول

الْحَقُّ فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَتَوَلَّنِيْ يَا وَلِيُّ يَا عَلِيُّ

برحق ہے (پس یقین رکھئے اس امر کا کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ) اور میری امداد فرما اے مددگار اے بلند شان

بِالْوِلَايَةِ وَالرِّعَايَةِ وَالسَّلَامَةِ بِمَزِيْدِ اِيْرَادِ اِسْعَادِ اِمْدَادِكَ

ساتھ کارسازی کے اور نگہداشت اور سلامتی بخشنے کے اپنی مزید امداد کی سعادت مندی سے بہرہ ور کر کے

ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَكْرِمْنِيْ يَا كَرِيْمُ يَا غَنِيُّ بِالسَّعَادَةِ

وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہے۔ اور مجھے عزت عطا فرما اے کریم اے غنی ساتھ سعادت

وَالسِّيَادَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْمَغْفِرَةِ كَمَآ اَكْرَمْتَ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ

و سیادت کے اور کرامت و مغفرت کے جیسے تو نے عزت بخشی ان (حضرات صحابہ) کو جو پست کرتے تھے

اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَاخْتِمْ لِيْ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ

اپنی آوازوں کو بارگاہ رسالت مآب میں۔ اور میرا خاتمہ فرما اے رحمٰن اے رحیم

بِخَيْرِ خَاتِمِ النَّاجِيْنَ وَالرَّاجِيْنَ الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ يَا عِبَادِيَ

سب سے بہترین نجات پانے والوں اور تجھ سے امید رکھنے والوں کے خاتمہ کی مانند جنہیں کہا گیا ہے "اے میرے بندو

الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ

جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ یقیناً

اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا وَاَسْكِنِّيْ فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ اُعِدَّتْ

اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمام گناہ" اور مجھے جگہ عطا فرما جنت عدن میں جو تیار کی گئی ہیں

لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ

متقیوں کے لیے جن کی پکار وہاں پر یہ ہو گی۔ پاک ہے تو اے اللہ اور ان کے باہمی تحفے

فِيْهَا سَلٰمٌ وَّاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ان جنات میں سلام والے ہوں گے اور آخری اعلان ان کا یہ ہو گا کہ سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو مالک ہے تمام جہانوں کا

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِنُوْرِ سُرُوْرِ وَجْهِكَ الْعَظِيْمِ الْمُبَرَّةِ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل تیری ذات عظیم کے نور و سرور کے

الْجَامِعَةِ لِلْكَمَالَاتِ مِنْ نُّوْرِ حُضُوْرِ كَمَالِكَ سَيِّدِنَا

ایسی نیکی کا جو تمام کمالات کی جامع ہو کر جو صادر ہوں تیرے مظہر کمال کے نور و حضور سے

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْئَلُكَ بِحُرْمَةِ هٰذِهِ الْاَسْمَآءِ

یعنی سیدنا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل عزت و حرمت ان

وَالْاٰيَاتِ وَالْكَلِمَاتِ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا

اسماء۔ آیات اور کلمات کے کہ تو بنائے میرے لیے اپنے پاس سے

نَّصِيْرًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا كَثِيْرًا وَّقَلْبًا قَرِيْرًا وَّعِلْمًا غَزِيْرًا وَّ

صاحب سطوت مددگار اور رزق وسیع و کثیر۔ اور دل شاداں اور علم بہت زیادہ

عَمَلًا بَرِيْرًا وَّقَبْرًا مُّنِيْرًا وَّحِسَابًا يَّسِيْرًا وَّمُلْكًا فِي الْفِرْدَوْسِ

عمل صالح اور قبر نورانی اور حساب آسان اور جنت فردوس میں ملک

كَبِيْرًا وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ

بہت وسیع اور ایسی تجارت جو کبھی بربادی اور خسارہ نہ پائے۔ اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں اور وسیلہ پکڑتا ہوں۔ تیری طرف

بِمَجْمُوْعِ اَسْمَآئِكَ الْحُسْنٰى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ اَللّٰهُمَّ

تیرے تمام اسماءِ حسنیٰ کے ساتھ جو مجھے معلوم ہوئے ان میں سے اور جو معلوم نہیں ہو سکے۔ اے اللہ

دُلَّنِيْ بِكَ اِلَيْكَ وَارْزُقْنِيَ الثُّبَاتَ عِنْدَ وُجُوْدِكَ مَا اَكُوْنُ

میری راہنمائی فرما بطفیل اپنی ذات کے طرف اپنی ذات کے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرما اپنی بارگاہ میں جبتک رہوں میں

مُتَاَدِّبًا بَيْنَ يَدَيْكَ اِلٰهِيْ بِعَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ ارْزُقْنِيْ

با ادب تیری بارگاہ میں۔ اے میرے خدا بطفیل اپنی عظمت و جلال کے عطا فرما مجھے

حُبَّكَ بِرِزْقِ مَحَبَّتِكَ اِلٰهِيْ اجْعَلْ قَلْبَ عَبْدِكَ الضَّعِيْفِ

اپنے ہاں محبوبیت بسبب عطا کرنے اپنی محبت کے۔ اے اللہ بنا اپنے اس عبد ناتواں کے دل کو

مَظْهَرًا لِذَاتِكَ وَمَنْبَعًا لِآيَاتِكَ اِلٰهِيْ بِحُرْمَتِ حَبِيْبِكَ

مظہر اپنی ذات (کی تجلیات) کا۔ اور سرچشمہ اپنی آیات کا۔ اے بار الٰہ بطفیل حرمت و عزت اپنے حبیب

وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ وَمَطْلُوْبِكَ وَمَرْغُوْبِكَ وَمُحِبِّكَ وَ

اور نبی و رسول اور مطلوب و مرغوب کے اور محب و

مَحْبُوْبِكَ الَّذِيْ لَا يُشْرِكُهٗ فِيْ مَقَامِهِ الْخَاصِّ اَحَدٌ

محبوب کے کہ جن کا کوئی بھی شریک نہیں ہے ان کے مقام خاص میں

مِّنَ الْاَزَلِ اِلَى الْاَبَدِ وَالْزِمْنِيْ وَاجْعَلْنِيْ مُوَحِّدًا بِنُوْرِ

ازل سے ابد تک اور میرے اوپر لازم فرما اور بنا مجھے موحد بسبب اپنے نور

وَحْدَانِيَّتِكَ مُؤَيَّدًا بِشُهُوْدِ اِفْرَادِ فَرْدَانِيَّتِكَ

وحدانیت کے، طاقت و توفیق بخشا ہوا ساتھ مشاہدہ کرنے کے تیری یکتائی و بے ہمتائی کا

يَا صَمَدُ يَا فَرْدُ يَا وِتْرُ بِوَحْدَانِيَّةِ وَحْدَةِ

اے بے نیاز۔ اے یکتا۔ اے تنہا ساتھ وحدانیت وحدۃ

وَحْدَتِكَ يَا وَاحِدُ الْوَاحِدُ يَا اَحَدُ

الوحدۃ کے۔ اے واحد کامل۔ اے یکتائے

الْاَحَدُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

مطلق۔ (اے محبوب) فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے

اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

اللہ بے نیاز ہے۔ اس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور

يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ

وہ کسی سے نہیں جنا گیا اور نہیں ہے

كُفُوًا اَحَدٌ

اس کے لیے رشتہ دار کوئی بھی

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

الحمد للّٰه والمنة

کہ دریں زمان نعت اقتران بفضل

ایزد منان تحفہ عجائب وہدیہ غرائب الی

مقبول بارگاہ شاہ کونین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ

مسمّٰی بہ

مجموعہ صلوات الرسول ﷺ

الجزء الثالث

فی بدنہٖ واعضائہٖ صلی اللہ علیہ وسلم

از تصنیف خادم مخلوق الملک السبحان خلیفہ حضرت شاہ جیلانی

حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور

صوبۂ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِهِجَاجِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَبِعَجَاجِ بِسْمِ
اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی سرعتِ تاثیر کے طفیل۔ اور بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَبِفُجَاجِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَلْحَمْدُ
کے اثرات وثمرات کے طفیل اور بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی وسعت وفراخی کے طفیل۔ تمام تعریفیں
لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○
اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے مالک ہے روزِ قیامت کا۔
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ
(اے ان صفات کمال والے) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں۔ چلا ہمیں راہ راست پر۔ راہ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○
اُن لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ گمراہوں کی۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ مُنَوِّرِ بَصَآئِرِ الْعَارِفِيْنَ ○ بِاَنْوَارِ
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا روشن کرنے والا ہے عارفین کی چشمانِ بصیرت کو۔ ساتھ معرفت
الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِيْنِ ○ وَجَاذِبِ سَآئِرِ الْمُحَقِّقِيْنَ ○ بِجَذْبَاتِ
اور یقین کے انوار کے اور کشش کرنے والا ہے تمام اہل تحقیق کو قرب اور
الْقُرْبِ وَالتَّمْكِيْنِ ○ وَفَاتِحِ اَقْفَالِ قُلُوْبِ الْمُوَحِّدِيْنَ بِمَفَاتِيْحِ
تمکین کی کششوں کے ساتھ اور کھولنے والا ہے قفل اہل توحید کے دلوں سے توحید کی چابیوں
التَّوْحِيْدِ وَجَاذِبِهَا بِجَذْبَاتِ الْقُرْبِ وَالْفَتْحِ الْمُبِيْنِ ○ اَلَّذِيْٓ
کے ساتھ۔ اور ان قلوب کو کھینچنے والا ہے قرب اور فتح مبین کے جذبات کے ساتھ۔ جس نے
اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ○ ثُمَّ
موزون ومتناسب بنایا ہر شیٔ کی تخلیق کو اور آغاز کیا انسان کی تخلیق کا گیلی مٹی سے۔ پھر

جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَكِيْمِ

بنایا اس کی نسل کو ایسے جوہر و خلاصہ سے جو حقیر پانی سے ہے (وہ اللہ) بہت مہربان رحم فرمانیوالا ہے۔ صاحب حکمت،

الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ الْاَزَلِيِّ الْقَدِيْمِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ الَّذِيْ كَتَبَ اٰيَاتِ

عالی شان، صاحب عظمت، ازلی، قدیم ہے، ہمیشہ سننے جاننے والا ہے جس نے رقم فرمایا ہے توحید کی آیات

التَّوْحِيْدِ بِاَقْلَامِ الْقُدْرَةِ فِيْ صُدُوْرِ اَهْلِ التَّعْلِيْمِ وَرَقَّ فِيْ سُطُوْرِ

و علامات کو اپنی قدرت کاملہ کی قلموں کے ساتھ اہل علم کے صدور و قلوب میں۔ اور بلند کیا

اَهْلِ الْهِدَايَةِ فِيْ طُرُقِ سِرِّ اَهْلِ الْمَعْرِفَةِ لِاَهْلِ الْوِلَايَةِ نَاهِيْكَ بِاَهْلِ

اہل ہدایت کی قطاروں کو اہل معرفت کے اسرار کی راہوں میں واسطے اہل ولایت کے۔ کافی ہیں تیرے لیے (بطور نمونہ) اہل

الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ خَاطَبَ بِمُوْسَى الْكَلِيْمِ بِكَلَامِ التَّكْرِيْمِ وَشَرَّفَ نَبِيَّهُ

کہف اور اہل رقیم۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ اعزاز و اکرام والے کلام کے ساتھ اور مشرف فرمایا اپنے نبی

الْكَرِيْمَ بِقَوْلِهٖ وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

کریم کو اپنے اس قول کے ساتھ "اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی ہیں آپ کو سات آیات تکرار کی جانے والی (سورۃ فاتحہ کی) اور قرآن عظیم

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ قَاصِمِ الْجَبَابِرَةِ وَالْمُتَمَرِّدِيْنَ وَمُبِيْدِ الطُّغَاةِ

(اللہ) مالک ہے روزِ جزا کا۔ توڑنے والا ہے جابروں اور سرکشوں کا۔ اور تباہ کرنے والا ہے باغیوں

وَالْمُعْتَدِيْنَ وَقَامِعِ رُءُوْسِ الْفَرَاعِنَةِ وَاَهْلِ الْبِدَعِ وَالْمُلْحِدِيْنَ

اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو اور اتارنے والا ہے سر فرعونوں کے۔ اہل بدعت اور ملحدین کے۔

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ يَا مَنْ زَيَّنَ الْكَائِنَاتِ

وہ (عظیم الشان) اللہ ہی تمہارا رب ہے پس بہت بابرکت ہے سب جہانوں کا پالنے والا اے وہ ذاتِ پاک جس نے کائنات کو

مَلَابِسَ التَّكْوِيْنِ وَاَرْسَلَ نَجَائِبَ الْمَلَكُوْتِيَّاتِ تَقُوْدُ جَنَائِبَ

مزین کیا تکوین اور ہستی کی پوشاکوں کے ساتھ۔ اور بھیجا ملکوتی اور سراپا شرافت سواریوں کو جو قیادت کرتی ہیں پائیدار

الْكَرَمِ الْمَتِيْنِ يَا مَنْ نَشَرَ سَحَائِبَ عُقُوْدِ عَفْوِهٖ عَلٰى كَافَّةِ

جود و کرم کے راہواروں کی۔ اے ذات پاک جس نے پھیلایا ہے اپنے عفو و کرم کے عہد و پیمان والے بادلوں کو

الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ يَا مَنْ لَّا شَرِيْكَ لَهٗ فِيْ مُلْكِهٖ وَلَا مُعِيْنَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ

تمام کی تمام مخلوق پر۔ اے وہ ذات بے ہمتا کہ جس کا کوئی شریک نہیں اس کے ملک میں اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں

مُعْتَرِفِيْنَ عَنِ الْقِيَامِ بِحَقِّ عِبَادَتِكَ بِالْعَجْزِ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

درآنحالیکہ معترف ہیں تیرے حق عبادت کی ادائیگی سے عاجزی و بےبسی کے۔ اور تجھ سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں

عَلٰى مَآ اَمَرْتَ مِنَ الْقِيَامِ بِحُقُوْقِكَ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَّحِيْنٍ يَا ذَا

ان امور میں جن کا تو نے حکم دیا یعنی تیرے حقوق کے قائم کرنے میں ہر وقت اور ہر زمان میں۔ اے

الْفَوْزِ الْعَظِيْمِ يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَمِيْمِ يَا مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ

فوز عظیم کے مالک اے فضل عمیم و محیط کے مالک۔ اے وہ ذات پاک کہ زندہ فرمانیوالی ہے ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ اَهْلِ الدِّيْنِ الْقَوِيْمِ صِرَاطَ اَهْلِ الْاِسْتِقَامَةِ وَ

ہمیں چلا راہ راست پر جو راہ ہے مضبوط اور راسخ دین والوں کی۔ راہ اہل استقامت اور راستی والوں کی۔ راہ

التَّقْوِيْمِ صِرَاطَ الَّذِيْنَ نَظَرْتَ بِعَيْنِ عِنَايَتِكَ اِلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِيْنَ هُمْ اَهْلُ

ان لوگوں کی کہ تو نے ان پر نظر فرمائی ہے اپنی نظر عنایت کے ساتھ۔ راہ ان لوگوں کی جو پختہ ارادوں والے

الْعَزْمِ وَالْقَلْبِ السَّلِيْمِ صِرَاطَ اَهْلِ الْاِخْلَاصِ وَالتَّسْلِيْمِ صِرَاطَ الَّذِيْنَ

اور قلب سلیم والے ہیں راہ ان لوگوں کی جو اخلاص اور تسلیم کے پیکر ہیں راہ ان کی جنہوں نے

تَمَسَّكُوْا بِالْهُدٰى وَفَرِحُوْا بِهَا صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِّنَ

تھام رکھا ہے (دامن) ہدایت کو اور اس پر خوش و خرم ہیں۔ راہ ان کی جن پر تو نے انعام فرمایا

النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَاَمْدِدْنَا بِمَلٰٓئِكَةِ

یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین اور امداد فرما ہماری ظفر و تمکین کے

الظَّفَرِ وَالتَّمْكِيْنِ وَصَرِّفْنَا فِي الْكَائِنَاتِ وَالْمُكَوَّنَاتِ وَالتَّكْوِيْنِ

ملائکہ کے ساتھ اور ہمیں صاحب تصرف بنا کائنات اور مخلوقات اور ایجاد میں۔

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۙ لَا تَجْعَلْنَا ضَآلِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ

نہ ان کی راہ جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ گمراہوں کی نہ بنا ہمیں گمراہ اور نہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے

وَلَا عَنْ بَابِكَ مَطْرُوْدِيْنَ وَاحْشُرْنَا فِيْ زُمْرَةِ الْمُتَّقِيْنَ اَللّٰهُمَّ امْلَأْ

اور نہ اپنے در اقدس سے دھتکارے اور راندے ہوئے اور ہمارا حشر فرمانا متقیوں کی جماعت میں۔ اے اللہ بھر دے اور معمور کر دے

جَمِيْعَ اَعْضَآئِيْ وَبَدَنِيْ وَعُرُوْقِيْ وَحَوَاسِّيْ وَقُوَايَ بِكَمَالِ حُبِّكَ وَ

میرے تمام اعضاء کو میرے بدن اور رگوں کو۔ حواس اور تمام قویٰ کو اپنی محبت کاملہ کے ساتھ اور

حُبِّ حَبِيْبِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَوَّلِيْ اِلٰى اٰخِرِيْ اَللّٰهُمَّ

اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ میرے اوّل سے لے کر آخر تک۔ اے اللہ

كَيْفَ اَصْدُرُ عَنْ بَابِكَ خَآئِبًا وَّقَدْ وَرَدْتُّهٗ عَلٰى ثِقَةٍ بِكَ اَجِبْ

میں کیسے لوٹ سکتا ہوں تیرے در اقدس سے ناکام اور بے نیل مرام حالانکہ میں وارد ہوا ہوں اس در پر تیری ذات پر اعتماد و وثوق کیساتھ۔ میری دعا قبول فرما

دُعَآئِيْ بِحُرْمَةِ مَنْ لَّا يُرَدُّ مَنْ تَوَسَّلَ بِهٖ فَاِنِّيْ مُتَوَسِّلٌ بِهٖ اِلَيْكَ

بطفیل حرمت اس محبوب اکرم کے کہ رد نہیں کیا جاتا جو ان کو وسیلہ بنائے۔ کیونکہ میں بھی انہیں کے ساتھ وسیلہ پکڑنے والا ہوں تیری بارگاہ میں

فَبِعِزَّتِهٖ وَشَرَفِهٖ دُلَّنِيْ عَلَى الطَّرِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَعَلٰى طَرِيْقَتِكَ

پس اپنی عزت اور ان کے شرف و فضل کے صدقے میں میری رہنمائی فرما محمدی طریقت اور راستہ کی طرف۔ اور اپنے اس راستہ کی

الْمُوْصِلَةِ اِلَى الْمَقَامِ الْاَحَدِيِّ التَّوْحِيْدِيِّ فَارْحَمْنِيْ وَهَبْ لِيْ سُؤَالِيْ

جو پہنچانے والا ہے مقام احدیت اور توحید خالص کے مقام تک۔ پس مجھ پر رحم فرما اور مجھے عطا فرما میرا مطلوب

وَاغْفِرْ لِيْ وَلِلْمُنْتَسِبِيْنَ اِلَيَّ وَاقْضِ حَاجَتِيْ وَحَاجَةَ كُلِّ مَنِ الْتَجٰى

اور میرے لیے مغفرت فرما اور میرے ارباب نسبت کے لیے بھی اور میری حاجت پوری فرما اور ہر اس شخص کی بھی جو میری طرف التجا کرے

اِلَيَّ بِحُرْمَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بطفیل حرمت حبیب اکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى قَلْبِهٖ فِي الْقُلُوْبِ وَرُوْحِهٖ فِي الْاَرْوَاحِ وَ

کی آل پر اور آپ کے قلب پر قلوب میں۔ اور آپ کی روح پر ارواح میں اور

خَيْلِهٖ فِي الْخَيَالِ وَقَدِّهٖ فِي الْقُدَادِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی جماعت پر جماعات میں اور آپ کی قامت زیبا پر قامتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى رَبْعَةِ قَامَتِهٖ فِي الْمَرْبُوْعِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے درمیانے موزوں قد پر درمیانہ قد لوگوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى بَدَنِهٖ فِي

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے بدن اقدس پر

الْاَبْدَانِ وَعَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَعَلٰى جِسْمِهٖ فِي الْاَجْسَامِ

ابدان میں اور جسد اطہر پر اجساد میں اور جسم مطہر پر اجسام میں

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ وَالْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ اَسْئَلُكَ بِطَاعَةِ

اے اللہ اے مالک فانی ارواح کے اور بوسیدہ اجسام کے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل اطاعت

الْاَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ اِلٰۤى اَجْسَادِهَا الْمُلْتَئِمَةِ بِعُرُوْقِهَا وَبِطَاعَةِ

ان ارواح کے جو لوٹنے والے ہیں اپنے اجساد کی طرف متعلق ہونے والے ہیں ان کی رگوں اور اعصاب کے ساتھ اور بطفیل اطاعت

الْقُبُوْرِ الْمُشَقَّقَةِ عَنْ اَهْلِهَا وَدَعْوَتِكَ الصَّادِقَةِ فِيْهِمْ وَاَخْذِكَ

ان قبور کے جو پھٹنے والی ہیں اپنے مقبورین پر سے۔ اور بوسیلہ تیری دعوت صادقہ کے ان میں اور وصول کرنے تیرے

الْحَقَّ مِنْهُمْ وَقِيَامِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ مِّنْ مَّخَافَتِكَ وَشِدَّةِ سُلْطَانِكَ

اپنے حق کو ان سے۔ اور اُٹھ کھڑے ہونے تمام مخلوق کے بسبب تیرے خوف کے اور مضبوط و قوی غلبہ کے

مُنْتَظِرُوْنَ اِلٰى فَصْلِ قَضَآئِكَ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَكَ اَسْئَلُكَ اَنْ

درآنحالیکہ وہ منتظر ہوں گے تیری قضا حتمی کے اور خوف زدہ ہوں گے تیرے عذاب سے۔ سوال کرتا ہوں میں تجھ سے کر

تَجْعَلَ النُّوْرَ فِيْ بَصَرِيْ وَالْاِخْلَاصَ فِيْ عَمَلِيْ وَالشُّكْرَ فِيْ قَلْبِيْ وَ

پیدا فرمائے نور کو میری آنکھوں میں۔ اور اخلاص کو میرے اعمال میں۔ اور شکر کو میرے دل میں اور

ذِكْرَكَ فِيْ لِسَانِيْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَآ اَبْقَيْتَنِيْ اَللّٰهُمَّ خَفِّفْ

ذکر کو میری زبان پر ہر شب و روز جب تک تو مجھے باقی رکھے۔ اے اللہ ہلکا فرما

عَنَّا ثِقَلَ الْاَوْزَارِ وَارْزُقْنَا مَعِيْشَةَ الْاَبْرَارِ وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ

ہم سے گناہوں کا بوجھ اور ہمیں نصیب فرما نیک لوگوں والی گزران اور دور کر دے ہم سے شر

وَسْوَاسِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ اٰبَآئِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَ
وسوسہ ڈالنے والے (شیطان) کا لیل و نہار میں۔ اور آزاد فرما ہماری گردنوں کو اور ہمارے آباء و امہات کی گردنوں کو اور
اَخَوَاتِنَا وَاِخْوَانِنَا وَاَحْبَابِنَا وَاَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ وَاَعْطِنِيْ بَدَنًا
بہنوں۔ بھائیوں اور ہمارے احباب کی گردنوں کو اور ہمیں پناہ دے آگ سے اے پناہ دینے والے اور عطا کر مجھے بدن
لِلّٰهِ فَالِحًا وَّالْبَدَنَ فِی اللّٰهِ صَالِحًا وَّلَا بَادِنَ لِغَيْرِ اللّٰهِ طَالِحًا اَللّٰهُمَّ
فلاح پانے والا اللہ کے لیے اور بدن اللہ کی ذات میں صلاح و تقویٰ والا۔ نہ فربہ بدن جو غیر اللہ کی طرف راغب ہو اور بدعمل ہو۔ اے اللہ
اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَشْفِيَنِیْ بِحُرْمَتِهٖ وَبِعِزَّتِهٖ وَبِشَرَفِهٖ وَبِقَبُوْلِهٖ
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے شفا عطا کرے بوسیلہ اس (محبوب) کی حرمت و عزت اور شرف و قبول کے
عِنْدَكَ شِفَآءً تَآمًّا كَامِلًا عَاجِلًا بَدَنِيًّا قَلْبِيًّا رُوْحِيًّا ظَاهِرِيًّا بَاطِنِيًّا
اپنی بارگاہ میں ایسی شفا جو تام کامل اور فوری حاصل ہونے والی ہو اور بدن و قلب اور روح کے لحاظ سے بھی ہو، ظاہر و باطن اور
عِلْمِيًّا عَمَلِيًّا حَالِيًّا وَّاَنْ تُخْرِجَ مِنْ جَسَدِیْ وَلَحْمِیْ وَعَظْمِیْ وَدَمِیْ
علم و عمل اور حال تمام کے لحاظ سے ہو۔ اور یہ کہ نکال باہر کرے میرے جسم اور گوشت سے۔ ہڈیوں اور خون سے
وَعَصَبِیْ وَحَوَاسِّیْ وَقُوَائِیْ وَجَمِيْعِ اَعْضَآءِ بَدَنِیْ وَاَجْزَآءِ جِسْمِیْ كُلَّ
اعصاب اور حواس سے، میرے تمام قویٰ اور اعضاء بدن سے اور میرے جسم کے تمام اجزاء سے ہر
مَرَضٍ قَدِيْمٍ اَوْ حَدِيْثٍ دَمَوِيٍّ اَوْ بَلْغَمِيٍّ اَوْ سَوْدَاوِيٍّ اَوْ غَيْرِهَا وَ
مرض کو خواہ پرانا ہو یا نیا۔ دموی ہو یا بلغمی اور سوداوی ہو یا اس کے علاوہ (صفراوی)
تُصَحِّحَنِیْ وَتُقَوِّيَنِیْ وَتَجْعَلَنِیْ طَوِيْلَ الْعُمُرِ وَتُثَبِّتَنِیْ عَلَی الطَّرِيْقَةِ
اور مجھے صحت مند بنا دے۔ اور قوی و توانا بنا دے۔ اور مجھے عمر دراز والا بنا دے اور ثابت قدم رکھے مجھے محمدی طریقہ پر
الْمُحَمَّدِيَّةِ الْاَكْمَلِيَّةِ فِی الشَّرِيْعَةِ وَالطَّرِيْقَةِ وَالْحَقِيْقَةِ وَالْمَعْرِفَةِ
جو انتہائی کامل ہے شریعت و طریقت میں اور حقیقت و معرفت میں
وَتُوْصِلَنِیْ اِلٰی مَا يَطْلُبُهٗ قَلْبِیْ حَتّٰی يَغْلِبَ عَلَيْهِ حَالُ الْاِيْمَانِ وَ
اور اسے واصل فرمائے ان احوال تک جنہیں طلب کرتا ہے میرا دل حتیٰ کہ غالب آجائے اس پر حالت ایمان کی اور

تُقَوِّيَنِیْ فِيْهِ وَصْفَ الْاِحْسَانِ وَالْاِيْقَانِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَنْ
قوی و توانا فرما دے میرے لیے اس میں احسان و ایقان کا وصف۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ
تَشْفِيَنِیْ بِصَدَقَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاَوْلَادِهٖ وَتُصَحِّحَنِیْ ظَاهِرًا وَّبَاطِنًا
تو مجھے شفاء عطا فرمائے صدقے میں سیدنا محمدؐ اور آپ کی اولاد امجاد کے اور مجھے صحت مند بنا دے ظاہر اور باطن کے لحاظ
وَّتُقَوِّيَنِیْ خَيَالًا وَّحَالًا وَّتَجْعَلَنِیْ طَوِيْلَ الْعُمُرِ لِلْاَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ
سے اور مجھے قوی و توانا بنا دے خیال اور حال کے لحاظ سے۔ اور مجھے طویل عمر عطا کرے اعمال صالحہ کے لیے
فِیْ مُتَابَعَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا
اتباع محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل
مُحَمَّدٍ الَّذِیْ هُوَ زَعِيْمُ الْاَرْكَانِ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ وُلِدَ
پر جو آقا کہ سردار ہیں ارکان (سلطنت خداوندی) کے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جو پیدا کئے گئے
مِنَ الشَّهْرِ التَّاسِعِ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ وَسِتِّمِائَةٍ وَّثَلَاثَةِ الْاٰفٍ
نانویں مہینہ میں چھ سو پچھترویں سال کے بعد تین ہزار سال کے
لِلطُّوْفَانِ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ وُلِدَ قَبْلَ انْصِدَاعِ الْفَجْرِ
طوفان نوح علیہ السلام سے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ پیدا ہوئے فجر صادق کے پھوٹنے سے قبل
فِیْ شَهْرِ بُرْجِ الْحَمَلِ بِطَالِعِ الْقَمَرِ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ
برج حمل کے مہینہ میں، طالع قمر کے وقت۔ اور درود بھیج سیدنا محمد پر جو کہ
وُلِدَ فِیْ عِشْرِيْنَ مِنْ اِبْرِيْلَ مِنْ عَامِ اثْنَيْنِ وَثَمَانِيْنَ وَثَمَانِ مِائَةٍ
پیدا کئے گئے بیس اپریل کو سن آٹھ سو بیاسی میں
مِّنْ تَارِيْخِ الْاِسْكَنْدَرِ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ وُلِدَ وَالشَّمْسُ
تاریخ اسکندر سے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ پیدا کئے گئے جبکہ آفتاب
بِاَوَّلِ الثَّوْرِ وَالزُّهْرَةُ فِیْ وَسْطِهٖ بِالْحَمَلِ وَالْقَمَرُ فِی الْاَسَدِ وَصَلِّ
برج ثور کے ابتداء میں تھا۔ اور زہرہ اس کے وسط میں حمل کے ساتھ (متصل تھا) اور قمر برج اسد میں تھا۔ اور صلوٰۃ بھیج

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ وُلِدَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثٍ وَّخَمْسِیْنَ سَنَةً هِلَالِیَّةً
سیدنا محمد پر جو کہ پیدا کئے گئے ہجرت سے قبل ترپن سال قمری مہ و سال کی
الْعَدَدِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ وُلِدَ فِی السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ مِنْ
گنتی وشمار کے لحاظ سے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ پیدا کئے گئے دسویں ساعت میں
لَیْلَةِ الْاِثْنَیْنِ وَاعْتَدَلَ لِاثْنَتَیْ عَشَرَ لَیْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِیْعِ الْاَوَّلِ
سوموار کی رات سے۔ اور اعتدال پذیر ہوئے بارہ راتیں گزرنے پر ماہ ربیع الاوّل سے ۔
وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ وُلِدَ سَنَةَ ثَلٰثٍ وَّسِتِّیْنَ وَاَرْبَعِ مِائَةٍ
اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جو پیدا ہوئے سن چار ہزار- چار سو تریسٹھ میں
وَّاَرْبَعَةِ اٰلَافِ سَنَةٍ مِّنْ مَّهْبَطِ اٰدَمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ مِنَ الْجَنَّةِ وَصَلِّ
(۴۴۶۳ھ) آدم علیہ السلام کے جنت سے اترنے کے بعد اور صلوٰۃ بھیج
عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ وُلِدَ بِاَوَّلِ الْحُوْتِ فِی السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ
سیدنا محمد پر کہ جو پیدا ہوئے اوّل حوت میں دسویں ساعت میں
مِنْ لَیْلَةِ الْاِثْنَیْنِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ وُلِدَ بِتِلْكَ
سوموار کی رات سے اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو ان ستاروں کے دوران پیدا ہوئے
الطَّوَالِعِ وَهِیَ طَوَالِعُ النَّبِیِّیْنَ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ
اور یہی ستارے ہیں تمام انبیاء علیہم اسلام کے ۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو
وُلِدَ عَامَ الْفِیْلِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ وُلِدَ وَالشَّمْسُ
عام الفیل میں پیدا ہوئے اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو پیدا کئے گئے جبکہ سورج
عَلٰی اَطْرَافِ النَّخِیْلِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ لَمَّا اسْتَقَرَّ
کھجوروں کے سروں پر تھا ۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جو اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں

عہ اقول مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا محمل یہ ہو سکتا ہے کہ جتنا وقت غروب آفتاب میں باقی تھا اتنا قدر وقت قیام قیامت میں باقی تھا اور جتنا وقت دن کا گزر چکا تھا اتنا قدر زمانہ آپ کی ولادت باسعادت سے قبل گزر چکا تھا گویا آپ کی ولادت اور قرب قیامت کی تمثیل مقصود ہے ورنہ قول سابق کی سے مخالفت لازم آتی ہے اور تمام کتب سیر کی جن میں آپ کی ولادت باسعادت کا وقت صبح صادق بیان کیا گیا ہے ھذا۔ محمد اشرف

فِیْ بَطْنِ اُمِّهٖ وَاسْتَوٰی اَمَرَ اللّٰهُ الرِّضْوَانَ اَنْ یُّزَیِّنَ جَنَّةَ الْمَاْوٰی وَ
قرار پذیر ہوئے اور مکمل ہو گئے تو اللہ تعالےٰ نے حکم دیا رضوان جنت کو کہ وہ مزین اور آراستہ کرے جنت الماویٰ کو اور
صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ قِیْلَ لِاُمِّهٖ فِی الْمَنَامِ حَمَلْتِ بِخَیْرِ الْاَنَامِ
صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی والدہ ماجدہ سے کہا گیا نیند کی حالت میں کہ تم حاملہ ہو چکی ہو خیر انام کے ساتھ
وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ نُوْدِیَتْ اُمُّهٗ بِصَوْتٍ تَسْمَعُهٗ طُوْبٰی
اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ ندا دی گئی جن کی والدہ ماجدہ کو ایسی آواز کے ساتھ جسے وہ سنتی تھیں "مبارکبادی ہے
لِثَدْیٍ یُّرْضِعُهٗ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ قَالَ الْاَنْبِیَآءُ فِی
اس پستان کے لیے جو انہیں دودھ پلائے گا" اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ کہا انبیاء علیہم السلام نے ان
الْمَنَامِ لِاُمِّهٖ حَمَلْتِ بِشَمْسِ الْفَلَاحِ وَنَجْمِهٖ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ
کی امی جان کو خواب میں تو حاملہ ہو گئی ہے آفتاب فلاح اور اس کے نجم کے ساتھ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر
الَّذِیْ لَمَّا وَضَعَتْهُ اُمُّهٗ عَزِیْزًا مُّکَرَّمًا اَوْمٰی بِاِصْبَعِهٖ اِلَی السَّمَآءِ
کہ جب انھیں جنم دیا ان کی والدہ ماجدہ نے جبکہ وہ معزز و مکرم تھے تو اشارہ کیا اپنی انگلی مبارک کے ساتھ آسمان کی طرف
وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ لَمَّآ اَشْرَقَ نُوْرُهٗ فِی الْوُجُوْدِ اَعْلَنَ
اور صلوٰۃ بھیج ہمارے آقا محمد پر کہ جب چمکا ان کا نور عالم وجود میں تو اعلانیہ کیا
لِلّٰهِ بِالسُّجُوْدِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ مُلِاَ الْحَرَمُ عِنْدَ
اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ معمور کر دیا گیا حرم کعبہ کو ان کی
مَوْلِدِهٖ نُوْرًا وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ رَقَصَ الْبَیْتُ الْحَرَامُ
ولادت کے وقت نور سے ۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ رقص کیا بیت حرام نے
عِنْدَ وَضْعِهٖ فَرَحًا بِهٖ وَسُرُوْرًا وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ جَعَلَ
آپ کی ولادت کے وقت آپ کے طفیل حاصل شدہ فرحت وسرور کی وجہ سے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کے
اللّٰهُ دِیْنَهٗ مُسْتَعْلِیًا لَّا مُسْتَعْلًی وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ قَالَتْ
دین کو اللہ تعالیٰ نے سربلند اور غالب کیا نہ کہ پست اور مغلوب۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں عرض کیا

لہ الکائنات عند ولادتہ اھلاً بالحبیب وسھلاً وصلّ علی سیّدنا

سب مخلوقات نے ان کے وقت ولادت میں "حبیب خدا کے لیے خوش آمدید اور مرحبا ہے" اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا

محمّدن الّذی کان القمر یحدّثہ فی حالۃ الصّغر وصلّ علی سیّدنا

محمد پر کہ چاند جن کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا ان کی حالت صغر اور بچپن میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا

محمّدن الّذی کان القمر تلھیہ عن البکآء والسّھر وصلّ علی سیّدنا

محمد پر کہ جنھیں چاند مشغول رکھتا تھا رونے سے اور بیداری سے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا

محمّدن الّذی یسمع وجبۃ القمر من الفرش حین یسجد تحت

محمد پر کہ جو سنتے تھے چاند کے گرنے کی آواز کو فرش زمین پر ہوتے ہوئے جبکہ وہ سجدہ کرتا تھا

العرش وصلّ علی سیّدنا محمّدن الّذی قرء رضوان فی اذنیہ

عرش اعظم کے نیچے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ رضوان جنت نے جن کے کانوں میں تلاوت کی

وقبّلہ بین عینیہ وصلّ علی سیّدنا محمّدن الّذی اشرق نورہ

اور بوسہ دیا ان کی پیشانی پر۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جن کا نور چمکا

فی وجہ ادم وجبھتہ وصلّ علی سیّدنا محمّدن الّذی زیّن اللہ

آدم علیہ السلام کے چہرے اور ان کی پیشانی میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ مزین فرمایا اللہ تعالیٰ نے

اسا ریر وجہ ادم باشعّتہ وصلّ علی سیّدنا محمّدن الّذی کان

آدم علیہ السلام کے چہرہ کی سلوٹوں کو ان کے نور کی شعاؤں سے اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جن کی

طائر سعدہ حول کمالہ محدّقا وصلّ علی سیّدنا محمّدن الّذی

سعادتمندی کا نیک شگون اور ستارہ ان کے کمالات کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جن کے ساتھ

افتخر بہ ادم وحوّآء فی السّمآء بظھور نورہ فیھما علما وصلّ

فخر کیا حضرت آدم و حوا نے آسمان میں بسبب ظاہر ہونے آپ کے نور کے ان میں نمایاں طور پر۔ اور صلوٰۃ بھیج

علی سیّدنا محمّدن الّذی کان نورہ فی غرّۃ ادم الزّاھرۃ وحوّآء

سیّدنا محمد پر کہ تھا نور آپ کا آدم علیہ السلام کی روشن پیشانی اور حوا کی فخر و عزت والی

الفاخرۃ وصلّ علی سیّدنا محمّدن الّذی لم یزل نورہ فی وجہ ادم

پیشانی میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جن کا نور انور ہمیشہ آدم علیہ السلام کے چہرہ سے بلند ہوتا رہا

ساطعا وفی جبینہ لامعا وصلّ علی سیّدنا محمّدن الّذی کمل بہ

اور ان کی پیشانی سے جھلکتا رہا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جن کی بدولت مکمل ہو گیا

لادم وحوّاء بلوغ المنا وتمّ لھما بہ القبول والھنا وصلّ علی

حضرت آدم و حوا کے لیے پہنچنا آرزوں تک۔ اور مکمل ہو گئی ان کیلئے بسبب آپ کے قبولیت اور خوشگواری۔ اور صلوٰۃ بھیج

سیّدنا محمّدن الّذی افتخر بہ ادم لحوّاء لخروجہ من صلبہ و

سیّدنا محمّد پر کہ جن کی بدولت فخر و ناز ظاہر کیا آدم نے حواء پر بسبب ظاہر ہونے آپ کے ان کی پشت سے اور

توسّل بہ الی ربّہ وصلّ علی سیّدنا محمّدن الّذی اشتاق ادم

وسیلہ بنایا آپ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ مشتاق ہوئے حضرت آدم علیہ السلام

لرؤیتہ وصلّ علی سیّدنا محمّدن الّذی تمنّی ادم وحوّا مشاھدۃ

ان کے دیدار کے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ آرزو کی حضرت آدم و حوا نے ان کے رخ زیبا اور

طلعتہ وغرّتہ وصلّ علی سیّدنا محمّدن الّذی لمّا اشتاق ادم الی

پیشانی مبارک کے مشاہدہ کی۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمّد پر کہ جب آدم علیہ السلام مشتاق ہوئے ان کی

جلالتہ جعل اللہ نورہ فی سبّابتہ وصلّ علی سیّدنا محمّدن الّذی

جلالت شان (کے نظارہ) کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نور ان کی انگشت شہادت میں پیدا فرمایا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمّد پر کہ جن کے

جعل اللہ نور اصحابہ فی بقیّۃ اصابع ادم وصلّ علی سیّدنا

صحابہ کرام کا نور اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری انگلیوں میں پیدا فرمایا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا

محمّدن الّذی تلألأت اصابع ادم بنورہ نورا وازداد بہ بھجۃ و

محمّد پر کہ چمک اٹھیں ان کے نور سے آدم علیہ السلام کی انگلیاں از روئے نور کے۔ اور زیادہ ہو گئی آپ کی بدولت ان کی مسرت

سرورا وصلّ علی سیّدنا محمّدن الّذی لم تزل انوار اصحابہ فی اصابع

اور رونق۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمّد پر کہ جن کے صحابہ کرام کے انوار ہمیشہ آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں

ادم تلألأت وتزداد فی کل وقت حسنًا وجمالًا وصل علی سیدنا محمد

چمکتے رہے۔ اور وہ ہر لحظہ ترقی کرتی رہیں از روئے حسن و جمال کے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر

الذی کان بہ نور ابی بکر فی الوسطی من اصابع ادم یظهر وصل علی

کہ جن کی بدولت حضرت ابوبکر کا نور آدم علیہ السلام کی درمیانی انگلی میں ظاہر ہوتا تھا۔ اور صلوٰۃ بھیج

سیدنا محمد الذی کان بہ نور عمر فی البنصر من اصابع ادم یزهر

سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت حضرت عمر کا نور آدم علیہ السلام کی بنصر (چھنگلی کے ساتھ والی انگلی) میں چمکتا تھا

وصل علی سیدنا محمد الذی کان بہ نور عثمان فی الخنصر من

اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت حضرت عثمان کا نور آدم علیہ السلام کی چھنگلی میں

اصابع ادم یلوح وصل علی سیدنا محمد الذی کان بہ نور علی

نمایاں ہوتا تھا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت حضرت علی کا نور

فی الابهام من اصابع ادم اوضح الوضوح وصل علی سیدنا محمد

حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں پوری چمک و دمک پر تھا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر

الذی وضع اللہ فی ظهر ادم انوارہ المبارکۃ وصل علی سیدنا

کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں ودیعت فرمایا آپ کے انوار مبارکہ کو۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد

محمد الذی بسبب نورہ سجدت لادم الملٰئکۃ وصل علی

پر کہ جن کے نور کے طفیل سجدہ کیا ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو۔ اور صلوٰۃ بھیج

سیدنا محمد الذی ظهر بہ شرف ادم وعلمہ اللہ الاسماء وصل

سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت ظاہر ہوا شرف حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماء کی تعلیم دی۔ اور صلوٰۃ بھیج

علی سیدنا محمد الذی اقبل الیہ ادم وضمہ الیہ وقبلہ بین

سیدنا محمد پر کہ جن کی طرف حضرت آدم متوجہ ہوئے اور انھیں سینہ سے لگایا اور ان کی پیشانی پر

عینیہ وصل علی سیدنا محمد الذی ظهرت بظهورہ العجائب

بوسہ دیا اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ ظاہر ہوئے جن کے ظہور سے عجائب

والغرائب وصل علی سیدنا محمد الذی غیب اللہ نورہ حتی

و غرائب اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ اللہ تعالیٰ نے غائب فرمایا ان کے جوہر نورانی کو (آدم علیہ السلام کی پشت میں) حتیٰ کہ

اظهر فی وجہ ابیہ وامہ وصل علی سیدنا محمد الذی لما انقضی

ظاہر کیا اسے آپ کے والدین کے چہروں میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جب آپ کے حمل پر

الشهر التاسع من حملہ ظهر لامہ کمال فضلہ وصل علی سیدنا

نواں مہینہ گزرا تو ظاہر ہوا آپ کی والدہ ماجدہ پر آپ کا فضل کامل۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

محمد الذی حدثت کل یوم ایات ظاهرۃ صادقۃ عند ولادتہ

محمد پر کہ پیدا ہوئیں ہر دن آیات ظاہرہ اور سچی نشانیاں آپ کی ولادت کے قریب

وتبینت وصل علی سیدنا محمد الذی اخذت الارض زخرفها

اور پوری طرح نمایاں ہوئیں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ حاصل کی زمین نے اپنی زیبائش

عند ولادتہ وتزینت وصل علی سیدنا محمد الذی نظرت لامہ

آپ کی ولادت باسعادت کے قریب اور پوری طرح آراستہ ہوگئی۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت نظر کی آپ کی والدہ ماجدہ کی

عند ولادتہ عیون السعادۃ وقلدت بہ احسن القلادۃ وصل

طرف آپ کے وقت ولادت میں سعادتمندی کی آنکھوں نے اور آپ کی بدولت انہیں خوبصورت زیور پہنائے گئے۔ اور صلوٰۃ بھیج

علی سیدنا محمد الذی فازت امہ لما وضعت هذہ النسمۃ

سیدنا محمد پر کہ کامیاب و سرفراز ہوگئیں آپ کی والدہ جب جنم دیا انہوں نے اس مبارک ہستی کو

وصل علی سیدنا محمد الذی اصبحت اغصان السعد فی حجرۃ

اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت سعادت مندی کی شاخیں آپ کی والدہ ماجدہ کے حجرہ کی طرف

امہ مائلۃ ووقعت فی ریاض عزها وامنها قائلۃ وصل علی

مائل ہوئیں۔ اور ہوگئیں وہ ان کے عزت و امن والے باغات میں قیلولہ کرنے والی اور صلوٰۃ بھیج

سیدنا محمد الذی تبادرت لامہ یوم ولادتہ البشائر ورفعت

سیدنا محمد پر کہ سبقت لے گئیں ان کی والدہ ماجدہ کی طرف ان کی ولادت کے دن بشارتیں اور اٹھا لئے گئے

عَنْ حُجُرَتِهَا اَعْلَامُ الْاَشَائِرِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَمِعَتْ

ان کے حجرہ سے نشانات تکالیف و شدائد کے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ سنی

اُمُّهٗ عِنْدَ وَضْعِهٖ نِدَآءً مِّنَ الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

ان کی والدہ ماجدہ نے آپ کی ولادت باسعادت کے وقت ندا، زمین سے اور آسمان سے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِىْ لَمْ تَجِدْ اُمُّهٗ بِحَمْلِهٖ حُمًّى وَّلَا وَحَمًا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

کہ نہ پائی ان کی والدہ ماجدہ نے آپ کے ساتھ حاملہ ہونے کی وجہ سے حدت اور تپش اور نہ ہی خوراک سے بے رغبتی۔ اور صلوٰۃ بھیج

الَّذِىْ خَمِدَتْ نِيْرَانُ فَارِسَ عِنْدَ وِلَادَتِهٖ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

سیدنا محمد پر کہ جن کی ولادت پر بجھ گئیں فارس کی آتشیں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِىْ وُلِدَ سَاجِدًا اِلَى الْاَرْضِ رَافِعًا رَّاْسَهٗ اِلَى السَّمَآءِ وَصَلِّ عَلٰى

کہ جو پیدا ہوتے ہی سجدہ ریز ہوئے زمین پر (جبکہ بعد ازاں) اٹھائے ہوئے تھے اپنے سرِ ناز کو آسمان کی طرف۔ اور صلوٰۃ بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ اللّٰهُ فِيْهِ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ

سیدنا محمد پر کہ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "اور نہیں مارا آپ نے جبکہ تم نے مارا لیکن اللہ نے

رَمٰى وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ سَمَّاهُ اللّٰهُ ذِكْرًا رَّسُوْلًا وَصَلِّ عَلٰى

مارا"۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے موسوم فرمایا ذکر و رسول کے (اسماء صفات کے) ساتھ اور صلوٰۃ بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ وُلِدَ مَخْتُوْنًا مَّكْحُوْلًا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

سیدنا محمد کہ جو پیدا ہوئے ختنہ شدہ اور سرمہ لگے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِىْ وُلِدَ نَظِيْفًا مَّقْطُوْعَ السُّرَّةِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ

کہ جو پیدا ہوئے صاف ستھرے ناف بریدہ۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن پر

نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرَائِيْلُ اَرْبَعًا وَّعِشْرِيْنَ اَلْفَ مَرَّةٍ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

نازل ہوئے جبرئیل علیہ السلام چوبیس ہزار مرتبہ۔ اور صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَالَ عِنْدَ مَوْلِدِهِ الْبَيْتُ وَالْاَرْكَانُ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

محمد پر کہ جھک گئے ان کی ولادت شریف کے وقت (ان کی طرف سجدہ میں) بیت اللہ شریف اور اس کے ارکان اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ بِيُمْنِ طَلْعَتِهِ الْمُبَارَكَةِ وَسَعَادَتِهٖ وَضَعَ الْفَلَكُ

محمد پر کہ جن کے (رخِ زیبا) کے دیدار پاک کی برکت و سعادت کی وجہ سے جھک گیا آسمان

لِوِلَادَتِهٖ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اهْتَزَّ لِمَوْلِدِهٖ اِيْوَانُ كِسْرٰى

آپ کی ولادت کے وقت اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ لرز اٹھا جن کے وقتِ ولادت میں ایوانِ کسریٰ

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ عَايَنَتْ اُمُّهٗ عِنْدَ وَضْعِهٖ اَعْلَامَ بُصْرٰى

اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ مشاہدہ فرمایا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے وقت ولادت میں بصرہ کے پہاڑوں کا

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مُسِحَ بَطْنُ اُمِّهٖ بِجَنَاحِ طَآئِرٍ اَبْيَضَ

اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس کو ملا گیا سفید پرندے کے پر کے ساتھ

فَزَالَ عَنْهَا الرَّوْعُ وَنَهَضَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ رُدَّ لِاُمِّهٖ

پس اُن سے زائل ہو گیا خوف اور اٹھ گیا اضطراب اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جو لوٹائے گئے اپنی والدہ ماجدہ کی طرف

مِنْ طَبَقَاتِ السَّمٰوٰتِ بَعْدَ اَنْ اَبْدَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ لِجَمِيْعِ الْمَخْلُوْقَاتِ وَ

آسمان کے طبقات سے بعد اس کے کہ ظاہر کیا تھا آپ کو ملائکہ نے (دیدار کے لیے) تمام مخلوقات پر اور

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ رَاَتْ اُمُّهٗ عِنْدَ وَضْعِهٖ ثَلٰثَةَ اَعْلَامٍ

صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی والدہ ماجدہ نے دیکھے آپ کے وقت ولادت میں تین پرچم

عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَصَلِّ عَلٰى

ایک پرچم مشرق میں دوسرا مغرب میں اور تیسرا بیت حرام میں۔ اور صلوٰۃ بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ رَاَتْ اُمُّهٗ حِيْنَ وَضَعَتْهُ وَظَهَرَ قِطْعَةٌ مِّنَ الطَّيْرِ

سیدنا محمد پر کہ جن کی والدہ ماجدہ نے دیکھا آپ کے وقت ولادت میں کہ ظاہر ہوتی ہے پرندوں کی ایک جماعت

تُظِلُّهٗ مَنَاقِيْرُهَا مِنَ الزُّمُرُّدِ وَاَجْنِحَتُهَا مِنَ الْيَاقُوْتِ الْاَحْمَرِ وَصَلِّ

ان پر سایہ کناں کہ جن کی چونچیں زمرد سے ہیں اور ان کے پر سرخ یاقوت سے ہیں۔ اور صلوٰۃ

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ لَمَّا وَضَعَتْهُ اُمُّهٗ كَالْغُصْنِ الرَّطْبِ وَصَلِّ عَلٰى

بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں جس وقت ان کی والدہ ماجدہ نے جنم دیا تھا تو وہ تھے ترو تازہ (نو دمیدہ) شاخ کی مانند۔ اور صلوٰۃ بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي غُسِّلَ بِطَشْتٍ مِّنَ الْفِرْدَوْسِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد پر کہ جنہیں غسل دیا گیا جنت الفردوس کے طشت میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَصْبَحَتْ أَصْنَامُ الدُّنْيَا عِنْدَ وِلَادَتِهٖ مُنَكَّسَةَ الرُّءُوْسِ

محمد پر کہ ہوگئے اصنام و اوثان ساری دُنیا کے آپ کی ولادت کے وقت سرنگوں

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعَتْهُ عِنْدَ وَضْعِهِ السَّحَابَةُ وَاخْتَفَتْهُ

اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں اُٹھا لیا ان کی ولادت کے بعد ایک بدلی نے اور انھیں پوشیدہ کر لیا

عَنِ الْأَهْلِ وَالْقَرَابَةِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا ظَهَرَتْ

گھر والوں سے اور قرابت داروں سے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جب ظاہر ہوا

نَسَمَتُهُ الْكَرِيْمَةُ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ تَمِيْمَةٌ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ان کا جسم مبارک تو پہنائے گئے انہیں تعویذ۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن پر

أَشْرَفَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ وَضْعِهِ الْحُوْرُ يُظْهِرْنَ الْفَرَحَ بِهٖ وَالسُّرُوْرَ وَصَلِّ

جھانکا وقت ولادت میں حوران جنت نے درآنحالیکہ ظاہر کرتی تھیں فرحت اور سرور بسبب ان کے۔ اور صلوٰۃ بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَسَكَ الشَّجَرَةَ الْيَابِسَةَ وَهُوَ يُرْضَعُ فَاخْضَرَّتْ

سیدنا محمد پر کہ جو چھو گئے خشک درخت کے ساتھ شیر خوارگی کے دوران تو سبز ہوگئے

وَرَقُهَا فِي يَدِهٖ وَأَيْنَعَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا وَضَعَتْهُ

پتّے اس کے آپ کے ہاتھ میں اور وہ پھلدار ہوگیا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں جنم دیا

أُمُّهٗ عَلَى الثَّرٰى لَفَّهٗ جِبْرَآئِيْلُ فِي حَرِيْرَةٍ خَضْرَآءَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

والدہ ماجدہ نے گیلی زمین پر تو لپیٹا انہیں جبرئیل علیہ السلام نے سبز ریشم میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي طِيْفَ بِطِيْنَتِهٖ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر کہ جن کی طینت مبارکہ کو طواف کرایا گیا جنات نعیم میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِي غُمِسَتْ طِيْنَتُهٗ بِأَنْهَارِ التَّسْنِيْمِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کہ جن کی مقدس طینت اور خمیر کو غوطے دیئے گئے تسنیم کی نہروں میں اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ

طِيْفَ بِطِيْنَتِهٖ وَلَهَا عَرَقٌ يَّسِيْلُ فَخُلِقَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ جَلِيْلٍ وَصَلِّ

طواف کرایا گیا آپ کی طینت مبارکہ کو درآنحالیکہ اس سے پسینہ بہتا تھا پس پیدا کیا گیا اسی پسینہ سے ہر جلالت و عظمت والی شئی کو۔ اور صلوٰۃ

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَفَّتْ بِهِ الْمَلَآئِكَةُ الْأَبْرَارُ يَحْجُبُوْنَهٗ عَنِ الْأَغْيَارِ

بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کے گرد پرے جمالئے ملائکہ ابرار نے جو ڈھانپتے تھے آپ کو (نگاہ) اغیار سے

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَنَّ إِبْلِيْسُ عِنْدَ مَوْلِدِهٖ رَنَّةً سَمِعَهَا

اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ اس زور سے رویا ابلیس آپ کی ولادت باسعادت کے وقت کہ سُنا

مِنْهُ الْخَلَآئِقُ كُلُّهُمْ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَشَّرَتْ أُمَّهُ الْحُوْرُ

اس کی آواز کو تمام مخلوق نے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی والدہ ماجدہ کو بشارتیں دیں حوران بہشتی نے

بِظُهُوْرِ غُرَّةِ الْيُمْنِ وَالنُّوْرِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ

برکت اور نور والی پیشانی کے ظاہر ہونے کی۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو پیدا ہوئے اس حال میں

مَدْهُوْنًا مُّعَطَّرًا طَاهِرًا مُّطَهَّرًا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وُلِدَ

کہ انہیں تیل اور عطر لگا ہوا تھا اور طاہر و مطہر تھے اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جو پیدا ہوئے اس شان سے

وَنُوْرُ وَجْهِهٖ يَتَوَقَّدُ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا وُلِدَ قَطُّ

کہ ان کے چہرۂ انور کا نور پوری قوت سے چمک رہا تھا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ نہیں پیدا کیا گیا کبھی کوئی

مِثْلُهٗ فِي الْوُجُوْدِ وَلَا يُوْلَدُ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَمَلَتْ

(ان سے قبل) عالم وجود میں مانند ان کی اور نہ (ابدتک) پیدا کیا جائے گا اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ حاملہ ہوئیں

بِهٖ أُمُّهٗ بِلَا نَصَبٍ وَّلَا تَعَبٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ وَصَلِّ

ساتھ ان کے ان کی والدہ ماجدہ بغیر کوفت اور مشقت کے جمعہ کی رات میں ماہ رجب میں[عہ]۔ اور صلوٰۃ بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَفَقَتْ فِي الْأَكْوَانِ أَعْلَامُ عُلُوْمِهٖ مُبَشِّرَاتٍ

سیدنا محمد پر کہ لہرائے موجودات میں ان کے علوم کے پرچم جو کہ بشارت دینے والے تھے

عہ۔ شیخ محقق نے شب علوق ماہ ذوالحج کی ایام تشریق والی شب جمعہ کو قرار دیا ہے اور حضرت مؤلف نے ماہ رجب کو تو وجہ تطبیق یہ ہوگی کہ قریش مکہ کی تقدیم و تاخیر اور مہینوں میں تصرف کی وجہ سے اس کو ذوالحج کا مہینہ کہا جا رہا تھا حالانکہ فی الواقع ترتیب خداوندی کے لحاظ سے وہ ماہ رجب تھا تبھی تو ماہ پورے آپ کا والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں رہنا متصور ہوسکتا ہے جس پر تمام اہل سیر کا اتفاق ہے۔ ہذا واللہ ورسولہ اعلم۔ محمد اشرف سیالوی غفرلہ۔

بِظُهُوْرِهٖ وَقُدُوْمِهٖ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ نَادَى الْبَشِيْرُ بِهٖ
آپ کے ظہور اور تشریف آوری کی۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمدؐ پر کہ یہ منادی کی آپ کی بشارت دینے والے نے

فِى الْخَلَآئِقِ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ
تمام مخلوقات میں (اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت واسطے سب جہانوں کے) اور صلواۃ بھیج سیدنا محمدؐ پر

الَّذِىْ نَادٰى اُمَّهٗ كُلُّ نَبِىٍّ اِهْتَدٰى اِذَا وَضَعْتِ شَمْسَ الْفَلَاحِ وَالْهُدٰى
کہ ندا دی ان کی امی جان کو ہر نبی ہدیٰ نے کہ "جب تو جنم دے کامیابی وسرفرازی اور رشد وہدایت کے آفتاب کو

تُسَمِّيْهِ مُحَمَّدًا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ جَآءَ لِاُمِّهٖ اٰدَمُ فِى الْمَنَامِ
تو اس کا نام محمد رکھنا" اور صلواۃ بھیج سیدنا محمدؐ پر کہ آئے جن کی والدہ ماجدہ کے پاس حضرت آدم خواب میں

وَهَنَّاهَا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ سَلَّمَ عَلٰى اُمِّهِ الْكَلِيْمُ فِى الْمَنَامِ
اور انہیں مبارک باد دی۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمدؐ پر کہ سلام دیا جن کی والدہ ماجدہ کو حضرت کلیم نے خواب میں

وَحَيَّاهَا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ قَبِلَ اللّٰهُ خُشُوْعَهٗ وَخُضُوْعَهٗ
اور مژدہ دیا۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمدؐ پر کہ قبول کیا اللہ تعالےٰ نے جن کے خشوع اور خضوع کو

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ عَطَآءً كَامِلًا مُّكَمَّلًا عَاجِلًا مُّعَجِّلًا لِّطَاعَتِكَ وَاِطَاعَةِ
اے اللہ مجھے عطیہ دے عطیہ کامل و مکمل اور فوری طور پر جو مجھے جلد از جلد آمادہ کرنے والا ہو تیری اطاعت پر

حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اشْفِنِىْ شِفَآءً كَافِيًا وَّافِيًا
اور تیرے حبیب محمدؐ کی اطاعت پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے شفاء عطا فرما ایسی شفاء جو کافی ووافی ہو

لِّدَفْعِ اَمْرَاضِ الدَّارَيْنِ وَالْكَوْنَيْنِ بِحُرْمَةِ ذَاتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
واسطے دور کرنے دارین اور کونین کی امراض کے بطفیل حرمت محمدؐ کریم کی ذات کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

وَبِحُرْمَةِ صِفَاتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ رَاْسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اور بطفیل حرمت محمد کریم کی صفات کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمدؐ کریم کے سر تاج کے صلی

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ وَجْهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ
اللہ علیہ وسلم اور بطفیل حرمت محمدؐ کریم کے چہرہ اقدس کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت

جَبْهَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ حَاجِبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ
محمدؐ کریم کی پیشانی مبارک کے صلی اللہ علیہ وسلم اور بطفیل حرمت محمدؐ کریم کے ابروئے میمون کے صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ عَيْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ اُذُنِ
علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمدؐ کریم کی چشمان منور کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمدؐ کریم کے گوشہائے

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ اَنْفِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
مقدسہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور بطفیل حرمت محمدؐ کریم کی بینیٔ پر نور کے صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ شَفَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ لِسَانِ
وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمدؐ کریم کے لبہائے مقدسہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمدؐ کریم کی زبان حق ترجمان

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ اَسْنَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمدؐ کریم کے دندان مبارکہ کے صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ ذَقَنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ جِيْدِ مُحَمَّدٍ
وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمد کریم کی ٹھوڑی مبارک کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمدؐ کریم کی گردن مبارک کے

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ صَدْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمدؐ کریم کے سینۂ انور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور

بِحُرْمَةِ بَطْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ ظَهْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى
بطفیل حرمت محمدؐ کریم کے شکم مبارک کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمدؐ کریم کی پشت اقدس کے صلی

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ اَيْدِىْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ
اللہ علیہ وسلم اور بطفیل حرمت محمدؐ کریم کے مقدس ہاتھوں کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت

اَرْجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ اَصَابِعِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ
محمدؐ کریم کے مقدس قدموں کے صلی اللہ علیہ وسلم اور بطفیل حرمت محمدؐ کریم کی مبارک انگلیوں کے صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ اَقْدَامِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ
علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت محمدؐ کریم کے مقدس پیروں کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بطفیل حرمت

لِبَاسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ مَاكُوْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ

محمد کریم کے مبارک لباس کے صلی اللہ علیہ وسلم ۔ اور بطفیل حرمت محمد کریم کے طعام مبارک کے صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ مَشْرُوْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ

علیہ وسلم ۔ اور بطفیل حرمت محمد کریم کے مشروب مبارک کے صلی اللہ علیہ وسلم ۔ اور بطفیل حرمت

مَسْكَنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ عُضْوٍ مِّنْ اَعْضَآءِ مُحَمَّدٍ

محمد کریم کے مسکن مبارک کے صلی اللہ علیہ وسلم ۔ اور بطفیل حرمت محمد کریم کے ہر ہر عضو کے اعضاء مبارک سے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَةِ تُرَابِ اَقْدَامِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

صلی اللہ علیہ وسلم اور بطفیل حرمت محمد کریم کے قدم مبارک سے لگنے والی مٹی کے صلی اللہ علیہ

وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْاَلِفُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

وآلہ وسلم ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے الف ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْبَآءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ التَّآءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

محمد کریم پر جب تک باقی رہے باء ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے تاء ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الثَّآءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْجِيْمُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد کریم پر جب تک باقی رہے ثاء ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے جیم ۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْحَآءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْخَآءُ اَللّٰهُمَّ

بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے حاء ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے خاء ۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الدَّالُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الذَّالُ

صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے دال ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے ذال

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الرَّآءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ

اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے راء ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے

الزَّآءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ السِّيْنُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

زاء ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے سین ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر

مَّا دَامَ الشِّيْنُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الصَّادُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

جب تک باقی رہے شین ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے صاد ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الضَّادُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الطَّآءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد کریم پر جب تک باقی رہے ضاد ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے طاء ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الظَّآءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْعَيْنُ اَللّٰهُمَّ

محمد کریم پر جب تک باقی رہے ظاء ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے عین ۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْغَيْنُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْفَآءُ

صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے غین ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے فاء

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْقَافُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا

اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے قاف ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک

دَامَ الْكَافُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ اللَّامُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

باقی رہے کاف ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے لام ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْمِيْمُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ النُّوْنُ اَللّٰهُمَّ

محمد کریم پر جب تک باقی رہے میم ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے نون ۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْوَاوُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْهَآءُ

صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے واؤ ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے ہاء

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ اللَّامُ وَالْاَلِفُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ

اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے لا ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہے

الْيَآءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَ الْحُرُوْفُ مِنْ اَوَّلِهٖ اِلٰى اٰخِرِهٖ

یاء ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک باقی رہیں حروف ہجاء اول سے آخر تک

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّا دَامَتِ الْمُقَطَّعَاتُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جب تک کہ باقی رہیں حروف مقطعات ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر

مَادَامَتِ الْاٰيَاتُ الْمُتَشَابِهَاتُ فِیْ مَخْفِیِّ الْبِشَارَاتِ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِیْ

جب تک باقی رہیں آیات متشابہات مخفی بشارات (اور اسرار و رموز) کی حالت میں۔ اے اللہ مجھے عطا فرما

مَعِيَّتَكَ وَمَعِيَّتَهٗ وَمَعِيَّةَ حَقِيْقَتِكَ وَحَقِّكَ وَحَقِيْقَتِهٖ بِحُرْمَةِ ذَاتِ

اپنی معیت اور اپنے محبوب کی معیت اور اپنی حقیقت اور حق کی معیت اور ان کی حقیقت کی معیت بطفیل ذات

مُحَمَّدٍ وَّصِفَاتِ مُحَمَّدٍ وَّبِحُرْمَةِ حُبِّ مُحَمَّدٍ وَّبِحُرْمَةِ حَالِ مُحَمَّدٍ

محمد کی اور صفاتِ محمد کی حرمت کے اور بطفیل حبِ محمد کی حرمت کے اور بطفیل حال محمد کی حرمت کے

وَّخَيَالِ مُحَمَّدٍ وَّقَالِ مُحَمَّدٍ وَّبِحُرْمَةِ اِنْعَامِ مُحَمَّدٍ وَّاِكْرَامِ مُحَمَّدٍ

اور آپ کے خیال و قال کی حرمت کے۔ اور بطفیل انعام محمد و اکرام محمد

وَاسْمِ مُحَمَّدٍ وَّجِسْمِ مُحَمَّدٍ وَّبِحُرْمَةِ رَاْسِ مُحَمَّدٍ وَّوَجْهِ مُحَمَّدٍ

اور اسم محمد و جسم محمد کی حرمت کے اور بطفیل حرمت محمد کریم کے سرناز وچہرۂ انور کے

وَّشَعْرِ مُحَمَّدٍ وَّجَبْهَةِ مُحَمَّدٍ وَّحَاجِبِ مُحَمَّدٍ وَّعَيْنَیْ مُحَمَّدٍ وَّاُذُنَیْ

اور گیسوئے محمد اور جبین محمد اور ابروئے محمد کے اور چشمانِ محمد اور گوشہائے

مُحَمَّدٍ وَّاَنْفِ مُحَمَّدٍ وَّشَفَةِ مُحَمَّدٍ وَّبِحُرْمَةِ اَسْنَانِ مُحَمَّدٍ وَّ

محمد کے بینیٔ محمد اور لبہائے محمد کے اور بطفیل حرمت دندان محمد کے اور

لِسَانِ مُحَمَّدٍ وَّذَقَنِ مُحَمَّدٍ وَّجِيْدِ مُحَمَّدٍ وَّصَدْرِ مُحَمَّدٍ وَّبَطْنِ

زبان محمد کے اور زنخدان محمد اور گردنِ محمد کے۔ سینۂ محمد اور شکم

مُحَمَّدٍ وَّظَهْرِ مُحَمَّدٍ وَّاَيْدِیْ مُحَمَّدٍ وَّاَرْجُلِ مُحَمَّدٍ وَّاَصَابِعِ مُحَمَّدٍ

محمد کے اور پشت محمد کے دستہائے محمد اور پاہائے محمد کے۔ انگشتان محمد

وَّاَقْدَامِ مُحَمَّدٍ وَّلِبَاسِ مُحَمَّدٍ وَّمَاْكُوْلِ مُحَمَّدٍ وَّمَشْرُوْبِ مُحَمَّدٍ

اور کف پائے محمد کے۔ اور لباس محمد اور ماکول محمد کے اور مشروب محمد کے

وَّمَسْكَنِ مُحَمَّدٍ وَّكُلِّ عُضْوٍ مِّنْ اَعْضَآءِ مُحَمَّدٍ وَّبِحُرْمَةِ تُرَابِ اَقْدَامِ

اور قیام گاہِ محمد کے اور بطفیل ہر ہر عضو کے اعضاء محمد سے اور بطفیل حرمت غبارِ کفِ پائے

مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اقْبَلْ عُذْرِیْ وَتَقَبَّلْ تَوْبَتِیْ وَتُبْ عَلَیَّ بِالْعِنَايَةِ

محمد کے۔ اے اللہ قبول فرما میری معذرت کو اور مقبول ٹھرا میری توبہ کو اور نظر رحمت فرما مجھ پر ساتھ عنایت

الْخَاصَّةِ بِحُرْمَةِ حَبِيْبِكَ الَّذِیْ لَا يُشَارِكُهٗ فِیْ مَقَامِهِ الْخَاصِّ اَحَدٌ

خاصہ کے صدقے میں حرمت اپنے حبیب کے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے ان کے مقام خاص میں

مِّنَ الْاَزَلِ اِلَی الْاَبَدِ فِيْمَا تُحِبُّهٗ وَيُحِبُّهٗ وَتَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ

ازل سے ابد تک اس (مقام خاص میں کہ اسے تو پسند فرماتا ہے اور وہ بھی پسند فرماتے ہیں اور تو اس پر راضی ہے اور وہ بھی اس

بِرَحْمَتِكَ الْعَامَّةِ الْوَاسِعَةِ الرَّافِعَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

پر راضی ہیں بسبب اپنی رحمت کے جو عام ہے اور وسیع و بلند مرتبت ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی هَيْكَلِهٖ فِی الْهَيَاكِلِ

محمد پر اور آل سیّدنا محمد پر اور ان کے سراپائے اقدس پر جملہ مجسموں میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آل سیّدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی جَارِحَتِهٖ فِی الْجَوَارِحِ وَجُثَّتِهٖ فِی الْجُثَّاتِ وَ

محمد پر اور آپ کے اعضاء مبارکہ پر تمام اعضاء میں اور جثہ مبارک پر تمام جثوں میں۔ اور

شَبْحِهٖ فِی الْاَشْبَاحِ وَاِرْبِهٖ فِی الْاٰرَابِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

آپ کے شخص پر اشخاص میں اور ہر عضو پر اعضاء میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی شَخْصِهٖ فِی الْاَشْخَاصِ

سیّدنا محمد پر اور سیّدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے شخص پر اشخاص میں

وَشُدْفِهٖ فِی الشُّدُوْفِ وَعُضْوِهٖ فِی الْاَعْضَآءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور ان کے ڈھلوان رخسارہ پر ڈھلوان رخساروں میں اور آپکے ہر عضو پر اعضاء میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی حَوْبَآئِهٖ فِی الْحَوْبَاوَاتِ

سیّدنا محمد پر اور اقدال سیّدنا محمد پر اور آپ کے نفس پر نفوس میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے
طَلَلِهٖ فِى الْاَطْلَالِ وَعَلٰى جَانِبِهِ الْوَحْشِيِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
ٹیلے یا چبوترے پر ٹیلوں یا چبوتروں میں اور آپ کی اس جانب اور پہلو پر جو مخلوق کیلئے معلوم اور مانوس نہیں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى خَالِهٖ فِى الْخِيْلَانِ وَعَلٰى جَانِبِهِ
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے خال پر خالوں میں اور آپ کی اس جانب اور پہلو پر جو
الْاِنْسِيِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
معلوم اور مانوس ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر
وَّعَلٰى بَتِيْلَتِهٖ فِى الْبَتَآئِلِ وَشَعْرِهٖ فِى الشُّعُوْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
اور آپ کی باریک کمر پر باریک کمروں میں اور آپ کے (ہر ہر) بال پر بالوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج
عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى فَرْقِهٖ فِى الْفُرُوْقِ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی مانگ پر مانگوں میں
وَسَدْلِهٖ فِى السَّادِلِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اور آپ کے (بغیر مانگ) پیچھے ہٹائے ہوئے بالوں پر ایسے ہی بالوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور
اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى وَفْرَتِهٖ وَلِمَّتِهٖ وَجُمَّتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے کانوں تک پہنچے ہوئے بالوں پر اور کندھوں تک لٹکے بالوں پر اور ان دونوں مقام کے درمیان تک پہنچے بالوں پر۔ اے
عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى ذَوَابَتِهٖ فِى الذَّوَآئِبِ
اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی مینڈھی پر مینڈھیوں میں
وَغَدِيْرَتِهٖ فِى الْغَدَآئِرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اور گوندھی چوٹی پر گوندھی چوٹیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور
اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى ضَفِيْرَتِهٖ فِى الضَّفَآئِرِ وَقَصْرِهٖ فِى الْمُقَصِّرِيْنَ
سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی زلف پر زلفوں میں۔ اور آپ کے کٹے ہوئے بالوں پر قصر کرانے والوں میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے
حَلْقِهٖ فِى الْمُحَلِّقِيْنَ وَفَوْدِهٖ فِى الْاَفْوَادِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
حلق کئے ہوئے بالوں پر حلق کرانے والوں میں۔ اور آپ کے گیسو پر گیسوؤں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى خِفَافِهٖ فِى الْاَخِفَّةِ وَ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے گھنگریالے بالوں پر ایسے بالوں میں اور
شَيْبَتِهٖ فِى الشَّيْبَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى
آپ کے بالوں کی سفیدی پر بالوں کی سفیدیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور
اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى شَمَطِهٖ فِى الشَّمَطَاتِ وَشَعْرِهٖ فِى الْاَشْعَارِ
سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے سیاہ و سفید بالوں کے مجموعہ پر ایسے مجموعات میں اور آپ کے ہر بال پر بالوں میں
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے
حِبَاكِهٖ فِى الْحُبُكِ وَرَاْسِهٖ فِى الرُّءُوْسِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
کمربند پر کمربندوں میں۔ اور سر ناز پر سروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى ذُرْوَتِهٖ فِى الذُّرٰى وَ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی چوٹی پر چوٹیوں میں۔ اور
شُوَاتِهٖ فِى الشَّوٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ
آپ کی کھوپری کے چمڑے پر ان چمڑوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى سِمْحَاقِهٖ وَجَلْجَلَتِهٖ فِى الْجَلَجِ وَعَلٰى جُمْجُمَتِهٖ
سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے سر کی ہڈی پر موجود باریک جھلی پر اور اس کی جنبش و لرزش پر جنبشوں میں
وَقَاعِدَةِ دِمَاغِهٖ وَعَلٰى عَظْمِهِ الْوَتِدِيِّ فِى الْعِظَامِ وَجُدْرَانِ
اور آپ کی کھوپری پر اور آپ کے دماغ کے بنیاد و اساس والے حصہ پر۔ اور آپ کی سیدھی ہڈی پر ہڈیوں میں اور آپ کے سر اقدس کے اطراف والی

رَأْسِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہڈیوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَّعَلٰى عَظْمِ جَبْهَتِهٖ فِي الْجِبَاهِ وَعَظْمِ قَمَحْدُوَتِهٖ فِي الْعِظَامِ وَعَلٰى

اور آپ کی پیشانی والی ہڈی پر ہڈیوں میں۔ اور سر اقدس کی پچھلی جانب والی ہڈی پر ہڈیوں میں اور آپ کے

عَظْمَيْهِ الْحَجْرَئِيَّيْنِ وَقِحْفِهٖ فِي الْاَقْحَافِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

(سر اقدس) اِرد گرد کی دو ہڈیوں پر۔ اور آپ کی کھوپری کے بالائی (پیالہ نما) حصّہ پر بالائی حصوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى دَرْزِهٖ فِي الدُّرُوْزِ الْاِكْلِيْلِيِّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے (دماغ کے) جوڑ اور اتصال پر اتصالات میں۔

وَدَرْزِهِ الْاُدْمِيِّ وَدَرْزِهِ السَّهْمِيِّ وَدَرْزَيْهِ الْقِشْرِيَّيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور تاج کی محیط پٹی جیسے پردے اور وسطی پردے اور جوڑ پر اور تیر جیسے سیدھے پردے پر اور چھال کی مانند محیط دو پردوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى شَأْنِهٖ فِي

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے حال عظیم پر

الشُّؤُوْنِ وَيَافُوْخِهٖ فِي الْيَآفِيْخِ وَمَفْرَقِهٖ فِي الْمَفَارِقِ وَغِشَآءِ فَوْقِ

احوال میں۔ اور آپ کے تالو (اور وسط راس) پر تالوؤں میں اور آپ کی مانگ پر مانگوں میں اور کھوپری کے بالائی حصّہ کے

قِحْفِهٖ فِي الْاَغْشِيَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

اُوپر والے پردہ پر پردوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اُمِّهِ الْغَلِيْظَةِ وَاُمِّ دِمَاغِهٖ وَمُخِّهٖ فِي

سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی موٹی جھلی پر۔ اور دماغ والی جھلی پر (جس میں وہ لپٹا ہوتا ہے) اور آپ کی ہڈیوں کے گودے اور

الْاَمْخَاخِ وَدِمَاغِهٖ فِي الْاَدْمِغَةِ وَغِشَائَيْنِ تَحْتَ دِمَاغِهٖ وَبَطْنِ

بھیجے پر گودوں میں اور آپ کے دماغ پر دماغوں میں اور ان دو پردوں پر جو آپ کے دماغ کے نیچے ہیں۔ اور آپ کے دماغ کے

دِمَاغِهِ الْمُقَدَّمِ وَالْاَوْسَطِ وَالْمُؤَخَّرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

بطن مقدم۔ اوسط اور مؤخر پر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى مَجْمَعِ بَطْنَيْهِ فِي الْمَجَامِعِ وَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے (دماغ کے) دونوں مقامات اتصال پر مقامات اتصال میں اور

شَبَكَتِهٖ فِي الشَّبَكَاتِ وَدُوْدَتِهٖ فِي الدِّيْدَانِ وَحِجَابَيْ دِمَاغِهٖ فِي

دماغ کی جالی پر جالیوں میں۔ اور آپ کے دماغ کے جرثومہ پر جراثیم میں۔ اور آپ کے دماغ کے دونوں پردوں

الْحُجُبِ وَمَعْصَرَتِهٖ فِي الْمَعَاصِرِ وَقِمَّتِهٖ فِي الْقِمَمِ وَحَاقِّ رَأْسِهٖ

پر جملہ پردوں میں۔ اور رس کے نچوڑنے کی جگہ پر نچوڑنے کے مقامات میں اور آپ کے سر اقدس کی انتہائی بلند جگہ پر بلند جگہوں میں۔ اور آپ کے سر اقدس

فِي الرُّءُوْسِ وَفَاسِ رَأْسِهٖ فِي الْاَفْوَاسِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

کے وسط میں تمام سروں میں اور آپ کے سر کے مؤخر میں ابھری ہوئی ہڈی پر ان ہڈیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى مِنْقَارِ قِحْفِهٖ فِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی کھوپری کی اگلی نوک پر

الْاَحْقَافِ وَنُقْرَتِهٖ فِي النُّقَرِ وَمَسَامِهٖ فِي الْمَسَامَاتِ وَمَشِيْمَتِهٖ

کھوپریوں میں۔ اور کھوپری کے گڑھے پر تمام گڑھوں میں۔ اور آپ کے ہر مسام پر تمام مساموں میں اور آپ کے (معدہ کے)

وَجِلْدِهٖ فِي الْجُلُوْدِ وَصُرْمِهٖ فِي الْاَصْرَامِ وَلَحْمِهٖ فِي اللُّحُوْمِ وَ

پردے پر اور جلد پر جلدوں میں اور آپ کی کھال پر کھالوں میں اور گوشت پر گوشتوں میں اور

مُضْغَتِهٖ فِي الْمُضَغِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى

گوشت کے لوتھڑے پر لوتھڑوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى شَحْمِهٖ فِي الشُّحُوْمِ وَسَمِيْنِهٖ فِي السِّمَانِ وَ

سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی چربی پر چربیوں میں۔ اور چربی والے گوشت پر گوشتوں میں اور

شَرْحَتِهٖ فِي الشَّرْحَاتِ وَغِشَائِهٖ فِي الْاَغْشِيَةِ وَعَصَبِهٖ فِي الْاَعْصَابِ

آپ کے گوشت کے ہر ہر ٹکڑے پر ٹکڑوں میں۔ اور ہر ہر پردے پر پردوں میں اور ہر پٹھے پر پٹھوں میں

وَعُضْلَتِهٖ فِي الْعُضْلَاتِ وَوَتَرِهٖ فِي الْاَوْتَارِ وَرِبَاطِهٖ فِي الرِّبَاطَاتِ

اور ہر عضلہ (سخت پٹھے) پر عضلات میں۔ اور ہر وتر (تار) پر اوتار میں اور ہر جوڑ پر (جو ذریعہ ربط ہے) جوڑوں میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى لِيْفِهٖ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی ہر خشک رگ پر

فِی اللِّيْفَاتِ وَعِرْقِهٖ فِی الْعُرُوْقِ وَعُرُوْقِهِ الضَّوَارِبِ وَالسَّوَاكِنِ وَالشَّعْرِيَّةِ

رگوں میں اور ہر خون والی رگ پر رگوں میں ۔ اور آپ کی متحرک رگوں اور ساکن رگوں پر اور بالوں کو

وَوَرِيْدِهٖ فِی الْاَوْرِدَةِ وَشِرْيَانِهٖ فِی الشَّرَائِيْنِ وَشَظِيَّةِ عُرُوْقِهٖ فِی

ان کی غذا پہنچانے والی رگوں پر اور آپ کی گردن والی رگ پر ان رگوں میں ۔ اور آپ کی سرخ خون کے دوران کے ساتھ پھڑکتی رگ پر

الشَّظَايَا وَقِيْفَالِهٖ وَاَكْحَلِهٖ وَبَاسَلِيْقِهٖ وَحَبْلِ ذِرَاعِهٖ وَاُسَيْلِمِهٖ وَ

ان رگوں میں اور رگوں کے مجموعہ پر جملہ مجموعات میں ۔ اور آپ کی کہنی کے قریب والی قابل فصد رگ اور رگ اکحل اور باسلیق پر اور کلائیوں والے پٹھے پر اور جوڑوں

اَبْطِيَّهٖ وَمَابِضِهٖ وَعِرْقِ نِسَائِهٖ سُبْحَانَكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ يَا رَبَّ كُلِّ

والی ہڈیوں پر اور آپ کی دونوں بغلوں والے پٹھوں پر اور آپکے زانوں کے اندرونی حصے پر ۔ اور آپکے ران والی رگ پر ۔ پاک ہے تو نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی اے رب

شَیْءٍ وَّوَارِثَهٗ وَرَازِقَهٗ وَرَاحِمَهٗ يَا اِلٰهَ كُلِّ شَیْءٍ اِنْقَادَتْ رِقَابُ

ہر شئی کے اور ان کے وارث و رازق اور ان پر رحم فرمانے والے ۔ اے ہر چیز کے معبود تابعدار ہو گئی ہیں گردنیں

الْمَوْجُوْدَاتِ لَكَ وَاُهْوِجَتِ الْمَحْسُوْسَاتُ وَالْمُجَرَّدَاتُ بِعِطَافِ رِزْقِكَ

موجودات کی تیرے لیے ۔ اور جلدی و عجلت میں ڈال دیئے گئے ہیں محسوسات اور مجردات بسبب میلان کے طرف تیرے رزق

وَمَنِّكَ وَاُهْوِجَتِ الْعُقُوْلُ فِیْ اِدْرَاكِ حُكْمِكَ فِیْ تَوْرِيْقِكَ وَالْاَوْهَامُ

اور احسان کے ۔ اور جلد باز بنا دیئے گئے ہیں عقول تیرے حکم کے پانے میں تیرے بابرگ و بار کرنے میں (نباتات کو) اور اوہام

رَجِلَةٌ فِیْ طُرُقِ اَحَدِيَّتِكَ وَسُبْحَانِيَّتِكَ وَالْاَجْسَامُ زَيِلَةٌ اِنْ لَّمَحَ قَهْرُكَ وَ

پا پیادہ چلنے والے ہیں تیری احدیت و یکتائی اور تقدس و نزاہت کے راستوں میں ۔ اور اجسام باہم جدا اور پراگندہ ہو جائیں اگر قلیل سا ظاہر ہو قہر

اَنْوَرَتْ اِنْ تَلَاْلَاَتْ رُبُوْبِيَّةُ رَحْمَتِكَ وَالْمَلَكُوْتُ مُرْتَعِشَةٌ مِّنْ هَيْبَتِكَ

تیرا اور وہ چمک اٹھیں گے اگر چمکے تیری رحمت کی ربوبیت ۔ اور عالم بالا و پست لرزہ براندام ہے تیری ہیبت

وَجَلَالِكَ وَالْاَوْلِيَآءُ اَزْرَقَتْ اِلٰى تَرَفُّعِ مُشَاهَدَاتِكَ وَالْاَنْبِيَآءُ عَرَجَتْ

اور جلال سے ۔ اور اولیاء (کی نگاہیں) سفید ہو گئی ہیں تیرے مشاہدے کیلئے بلندی کی طرف اٹھنے کی وجہ سے ۔ اور انبیاء علیہم السلام بلند ہو گئے

اِلٰى اُمُوْرِ رُبُوْبِيَّتِكَ فَاَخَذُوْا مِنْكَ وَرَسُوْلِكَ حَظًّا مِّنْ دَعْوَتِكَ وَطُعْمَةً

تیرے امور ربوبیت کی طرف پس انہوں نے حاصل کر لیا ہے تجھ سے اور تیرے رسول سے حصہ تیری (بارگاہ میں کی گئی) دعاؤں سے اور نصیبہ

وَّلَمْعَةً مِّنْ نُّوْرِكَ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لَنَا الْعُرُوْجَ اِلٰى سَمَآءِ قُدْسِكَ مَرْزُوْقًا

اور چمک (حاصل کر لی ہے) تیرے نور سے ۔ اے اللہ آسان فرما ہمارے لیے رسائی اپنے آسمان قدس تک "آنحالیکہ عطا کئے ہوں ہم (تیری

بِاَنْوَارٍ اِمْتَلَاَتْ حَوَاسِّیْ وَقَلْبِیْ بِغِذَآءٍ نُوْرِیٍّ خَاصٍّ وَّاَزِلِ الْحُجُبَ

طرف سے) انوار کہ بھر جائیں میرے تمام حواس اور میرا دل خاص نورانی غذاء کے ساتھ ۔ اور زائل فرما ظلمانی حجابات جو کہ

الظُّلْمَانِيَّةَ الَّتِیْ هِیَ مَوَانِعُ لِوُصُوْلِكَ وَسُدَّ لِاَعْدَآئِكَ وَاَعْدَآءِ رُسُلِكَ وَ

مانع ہیں تیری طرف وصول سے ۔ اور رکاوٹ ہیں تیرے اعداء اور تیرے رسل کرام کے اعداء کے لیے (وصول حق میں) اور

سَيِّرْنِیْ وَطَيِّرْنِیْ فِیْ صِفَاتِكَ الَّتِیْ هِیَ فُرُوْعُ ذَاتِكَ هٰذَا اَعْظَمُ تَرْبِيَةٍ

مجھے چلا بلکہ پرواز عطا فرما اپنی صفات میں جو کہ فرع (اور اثر و اقتضاء ہیں) تیری ذات کا ۔ یہی عظیم تر تربیت ہے

مِّنْ عِنْدِكَ وَلَا تُلْقِنَا فِیْ شَدَآئِدِ اَمْرِكَ وَحَوَادِثِ دَهْرِكَ فَاَكُوْنَ

تیری طرف سے اور نہ پھینک ہمیں شدائد امر میں اور حوادث دھر میں ۔ ورنہ میں ہو جاؤں گا

مَمْنُوْعًا مِّنْ تَحْصِيْلِ خَيْرَاتِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ وَّعَبْدٍ

محروم تیری خیرات کے حاصل کرنے سے ۔ نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی ۔ جو کہ رب ہے ہر شئی اور ہر عبد کا

وَّوَارِثُ كُلِّ نَفْسٍ وَّمُعِيْدُ كُلِّ شَخْصٍ مِّنْ تَحْتِ جَوَاهِرِ تُرَابٍ هِیَ

اور ہر نفس کا وارث ہے ۔ اور دوبارہ مکمل کر کے لوٹانے والا ہے ہر شخص کا جواہر خاکی کے نیچے سے اور یہ (اعادہ)

مَقْدُوْرُكَ فَلَا يَلْتَصِقُ ذَرَّةٌ اِلٰى غَيْرِ ذَرَّةٍ وَّتُعِيْدُ كُلًّا عَلٰى هَيْئَةِ

تیری ہی قدرت میں ہے پس نہیں متصل ہو گا کوئی ذرہ (اس شخص کا) کسی دوسرے کے ذرہ سے اور لوٹائے گا تو ہر ایک کو اس کی

نَشْاَةٍ اَوَّلِيَّةٍ مِّنْ غَيْرِ قُصُوْرٍ فِیْ مَادَّةٍ وَّلَا عَوَارِضِهَا فِیْ نَشْاَةٍ ثَانِيَةٍ

نشاۃ اولیٰ اور تخلیق اول کی ہیئت پر بغیر کسی کمی کے مادہ میں اور عوارض میں دوسری نشاۃ میں بھی

بِحَقِّ السُّبُوْحِيَّةِ الْقُدُّوْسِيَّةِ الْعَرْشِيَّةِ الْكُرْسِيَّةِ سَخِّرْ لَنَا الْاَرْوَاحَ

صدقے میں نزاہت اور تقدس عرش و کرسی کے مسخر فرما ہمارے لیے ارواح قدسیہ

الْقُدْسِيَّةِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ لِاَتَسَلَّفَ اِلَى اللَّاهُوْتِيِّ وَاَتَسَلَّفَ اِلَى الْجَبَرُوْتِيِّ

اور ملائکہ کو تاکہ میں ان کو وسیلہ بناؤں مقام لاہوت کی طرف اوران سے توسل کروں مقام جبروت کی طرف (رسائی کے لیے)

اَللّٰهُمَّ وَاٰتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا ِالَّذِيْ وَ

اے اللہ اور عطا فرما اپنے محبوب کو مقام وسیلہ اور امتیازی فضیلت اور قائم فرما ان کو مقام محمود میں جس کا

عَدْتَّهٗ وَاٰتِهٖ نِهَايَةَ مَا يَنْبَغِيْ اَنْ يَّسْاَلَهُ السَّآئِلُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْهُ عَنَّا

تونے انہیں وعدہ دے رکھا ہے۔ اور عطا کر آپ کو انتہائی وسیع ذخائر نعمتوں کے جولائق ہے کہ سوال کریں ان کا سوال کرنیوالے۔ اے اللہ پہنچا

السَّلَامَ وَارْدُدْ عَلَيْنَا مِنْهُ السَّلَامَ وَاَتْبِعْهُ مِنْ اُمَّتِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ مَا تَقَرُّ

انہیں ہماری طرف سے سلام اور لوٹا ہم پر ان کی طرف سے سلام اور تابع بنا ان کے اُمّت اور اولاد میں سے اس قدر کہ ٹھنڈی ہو جائیں

بِهٖ عَيْنُهٗ يَا مُدَبِّرُ يَا فَاطِرُ اَللّٰهُمَّ اَنَا الْفَقِيْرُ الْمُحْتَاجُ اِلَيْكَ وَلَوْلَا

اس مقدار کے ساتھ آنکھیں اُن کی۔ اے آغاز میں انجام پر نظر رکھنے والے۔ اے پیدا کرنے والے۔ اے اللہ میں تیری طرف فقیر ومحتاج ہوں اور

هِدَايَتُكَ وَاٰلَآئُكَ لَهَمَّنِيْ كُلُّ شَيْءٍ بِالسُّوْٓءِ وَالضَّرَّآءِ فِيْ قَضَآءِ حُكْمِكَ

اگر نہ ہو تیری ہدایت اور تیرے انعامات تو البتہ ہر چیز غمزدہ کرے گی مجھے ساتھ برائی اور ضرر رسانی کے تیرے حکم کو پورا کرنے میں

اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ اَنْتَ وَمَلٰٓئِكَتُكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَ

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ صلوٰۃ بھیجے تو اور تیرے تمام ملائکہ محمد کریم پر جو تیرے عبد اور رسول و

نَبِيِّكَ اَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ اِنَّكَ رَافِعُ الدَّرَجَاتِ

نبی ہیں ان تمام صلوات سے افضل ترین صلوات جو تونے بھیجی ہوں کسی بھی فرد پر اپنی مخلوق میں سے۔ بیشک تو ہی درجات کو بلند کرنے والا ہے

اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهٗ وَاَكْرِمْ مَّقَامَهٗ وَثَقِّلْ مِيْزَانَهٗ وَاَجْزِلْ ثَوَابَهٗ وَاَفْلِجْ

اے اللہ بلند فرما آپ کے درجہ کو اور عزت والا بنا آپ کے مقام کو۔ بھاری کر آپ کے میزان کو اور عظیم وجزیل بنا آپکے ثواب کو اور روشن فرما

حُجَّتَهٗ وَاَظْهِرْ مِلَّتَهٗ وَاَضِئْ نُوْرَهٗ وَاَدِمْ كَرَامَتَهٗ وَاَلْحِقْ بِهٖ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ

آپ کی حجت کو اور غالب فرما آپ کی ملّت کو اور چمکا دے آپ کے نور کو اور دائمی بنا آپ کی عزت وکرامت کو اور لاحق فرما ساتھ آپکے آپ کی اولاد سے

وَاَهْلِ بَيْتِهٖ مَا تَقَرُّ بِهٖ عَيْنُهٗ وَعَظِّمْهُ فِي النَّبِيِّيْنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا قَبْلَهٗ

اور اہل بیت سے اتنی عظیم مقدار کو کہ ٹھنڈی ہو جائیں بسبب ان کے آنکھیں آپ کی۔ اور عظمت بخش آپ کو ان تمام انبیاء میں جو آپ سے پہلے گزر گئے ہیں

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّدًا اَكْثَرَ النَّبِيِّيْنَ تَبَعًا وَّاَكْثَرَهُمْ اَزْرَآءً وَّاَفْضَلَهُمْ

اے اللہ بنا تو محمد کریم کو تمام انبیاء سے اکثر متبعین والا۔ اور ان تمام سے زیادہ وزراء والا اور افضل ترین ان تمام سے

كَرَامَةً وَّنُوْرًا وَّاَعْلَاهُمْ دَرَجَةً وَّاَفْسَحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا اَللّٰهُمَّ

ازروئے کرامت اور نور کے اور بلند ترین ان سے ازروئے درجات کے اور کشادہ ترین ان سب سے ازروئے جنتی منزل ومسکن کے۔ اے

اجْعَلْ فِي السَّابِقِيْنَ غَايَتَهٗ وَفِي الْمُنْتَخَبِيْنَ مَنْزِلَهٗ وَفِي الْمُقَرَّبِيْنَ

اللہ بنا تو سبقت لے جانے والوں میں اطرف اپنی ذات کے انتہا ان کے لیے۔ اور انتخاب کیے ہوئے برگزیدگان میں منزل ان کی اور مقربین

دَارَهٗ وَفِي الْمُصْطَفَيْنَ مَنْزِلَهٗ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ عِنْدَكَ

میں مکان ان کا اور چنے ہوئے لوگوں میں منزل ان کی۔ اے اللہ بنا انھیں سب عزت والوں سے زیادہ عزت والے نزدیک اپنے

مَنْزِلًا وَّاَفْضَلَهُمْ ثَوَابًا وَّاَقْرَبَهُمْ مَّجْلِسًا وَّاَثْبَتَهُمْ مَّقَامًا وَّاَصْوَبَهُمْ

ازروئے منزل کے۔ اور سب سے افضل ازروئے ثواب کے۔ اور سب سے قریب تر ازروئے نشست کے اور مضبوط تر ازروئے مقام کے اور صواب ترین

كَلَامًا وَّاَنْجَحَهُمْ مَّسْاَلَةً وَّاَفْضَلَهُمْ لَدَيْكَ نَصِيْبًا وَّاَعْظَمَهُمْ فِيْمَا

ازروئے کلام کے اور کامیاب ترین ازروئے سوال کے اور افضل ترین نزدیک اپنے ازروئے نصیب کے اور عظیم تر ازروئے رغبت کے

عِنْدَكَ رَغْبَةً وَّاَنْزِلْهُ فِيْ غُرُفَاتِ الْفِرْدَوْسِ مِنَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى

(ان نعمتوں) میں جو تیرے پاس ہیں۔ اور منزل عطا کر انھیں جنت الفردوس کے بالاخانوں میں بلند ترین درجات سے

الَّتِيْ لَا دَرَجَةَ فَوْقَهَا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّدًا اَصْدَقَ قَآئِلٍ وَّاَنْجَحَ

کہ نہیں ہے کوئی درجہ ان سے بلند۔ اے اللہ بنا محمد کریم کو سب سے سچا کلام کرنے والا۔ اور سب سے کامیاب وسرفراز

سَآئِلٍ وَّاَوَّلَ شَافِعٍ وَّاَفْضَلَ مُشَفَّعٍ وَّشَفِّعْهُ فِيْ اُمَّتِهٖ بِشَفَاعَةٍ

سوال والتجاء کرنے والا۔ سب سے پہلا شفاعت کرنے والا اور سب سے پہلا شفاعت قبول کیا جانے والا۔ اور انھیں اپنی اُمّت میں شفیع بنا

يَّغْبِطُهٗ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ وَاِذَا مَيَّزْتَ عِبَادَكَ بِفَصْلِ

ایسی شفاعت کے ذریعے کہ رشک کریں آپکے ساتھ بسبب اس کے تمام پہلے اور پچھلے اور جب تو ممتاز ٹھہرائے اپنے بندوں کو

قَضَآئِكَ فَاجْعَلْ مُحَمَّدًا فِي الْاَصْدَقِيْنَ قِيْلًا وَّالْاَحْسَنِيْنَ عَمَلًا وَّ

اپنی حتمی قضاء کے ساتھ تو کرنا محمد کریم کو ان لوگوں میں جو سب سے سچے ہیں ازروئے قول کے۔ اور خوب تر ہیں ازروئے اعمال کے۔ اور

فِی الْمُهْتَدِیْنَ سَبِیْلًا اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْهُ عَنَّا السَّلَامَ كَمَا ذُكِرَ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ

ہدایت یافتہ ہیں راہ حق کے۔ اے اللہ پہنچا آپ کو ہماری طرف سے سلام جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے سلام کا "اور سلام ہو

عَلَى النَّبِیِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِیْلَةَ

نبی مکرم پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں"۔ اے اللہ عطا فرما محمد کریم کو مقام وسیلہ

وَالْفَضْلَ وَالْفَضِیْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِیْعَةَ اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ شَانَهٗ وَ

اور فضل اور فضیلت اور درجہ عالیہ۔ اے اللہ عظیم بنا شان ان کی اور

بَیِّنْ بُرْهَانَهٗ وَاَبْلِجْ حُجَّتَهٗ وَاَبْلِغْ مَاْمُوْلَهٗ فِیْ اَهْلِ بَیْتِهٖ وَ

واضح کر برہان ان کی۔ اور روشن کر حجت ان کی۔ اور پہنچا (انہیں) ان کی آرزو تک ان کے اہل بیت میں اور

اُمَّتِهٖ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا تُزْلِفُ بِهٖ قُرْبَهٗ وَتُقِرُّ بِهٖ

امت میں۔ اے اللہ پہنچا انہیں مقام محمود تک کر نزدیک کرے بسبب اس کے قربت ان کی اور ٹھنڈی کرے بسبب اس مقام کے

عَیْنَهٗ یَغْبِطُهٗ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اٰتِ اَهْلَ بَیْتِ

آنکھیں ان کی جبکہ رشک کریں ان کے ساتھ بسبب اس کے تمام اولین و آخرین۔ اے اللہ عطا فرما اپنے نبی مکرم کے اہل

نَبِیِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلَ مَا اٰتَیْتَ اَحَدًا مِّنْ اَهْلِ

بیت کو صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین جزاء اس سے جو دی ہے تو نے کسی کو مرسلین کے

بُیُوْتِ الْمُرْسَلِیْنَ وَاجْزِ اَصْحَابَ نَبِیِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

اہل بیت میں سے۔ اور بدلہ دے اپنے نبی مکرم کے اصحاب کو صلی اللہ علیہ وعلیہم وسلم

اَفْضَلَ مَا جَازَیْتَ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِ الْمُرْسَلِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

افضل ترین بدلہ اس سے جو دیا ہے تو نے کسی کو بھی مرسلین کے اصحاب میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی مَفْصِلِهٖ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے اعضاء کے جوڑوں پر جو مضبوط ہیں

الْمُوْثَقِ وَمَفْصِلِهِ السَّلِیْسِ وَمَفْصِلِهِ الْعُسْرِ وَمَفْصِلِهٖ فِی الْمَفَاصِلِ

اور آپ کے (اعضاء کے) نرم جوڑوں پر اور آپ کے سخت جوڑ پر اور آپ کے ہر جوڑ پر جوڑوں میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر اور آپ کے

اِصَافِنِهٖ وَوَصْلِهٖ فِی الْاَوْصَالِ وَسُلَامِیِهٖ فِی السُّلَامِیَّاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ٹخنے کے پیچھے والی رگ پر اور پیوند پر تمام پیوندوں میں۔ اور آپ کے ٹھوس ہڈیوں والے حصوں پر ایسے حصوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی عَظْمِهٖ فِی الْعِظَامِ وَمُشَاشَتِهٖ

بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی (ہر) ہڈی پر ہڈیوں میں اور آپ کی ہر نرم ہڈی کے سرے پر

فِی الْمُشَاشِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نرم ہڈیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور

وَّعَلٰی غُضْرُوْفِهٖ فِی الْغَضَارِیْفِ وَنَقْیِهٖ فِی الْاَنْقَاءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کے کندھے کی ہڈی پر ان ہڈیوں میں اور آپ کی ہڈیوں کے گودے اور بھیجے پر گودوں اور بھیجوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی جَبْهَتِهٖ وَجَبِیْنِهٖ فِی

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی پیشانی پر پیشانیوں میں اور آپ کی جبین پر

الْاَجْبَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جبینوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَّعَلٰی نَاصِیَتِهٖ فِی النَّوَاصِیْ وَقُصَّتِهٖ فِی الْقُصَصِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

اور آپ کی پیشانی کے بالوں پر ان بالوں میں اور آپ کے بالوں کے مجموعہ پر ایسے مجموعات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی سِرَارِهٖ فِی الْاَسَارِیْرِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے (ہاتھوں اور ماتھے کی) لکیروں اور خطوط پر ان خطوط میں

وَلُطَاتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی

اور سر کی ہڈی اور چمڑے کے درمیانی پردے پر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے

حَاجِبِهٖ فِی الْحَوَاجِبِ وَصَدْمَتَیْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

(ہر دو) ابرو پر ابروؤں میں۔ اور آپ کی پیشانی کی دونوں جانبوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

وَعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى حَاجِبَيْهِ وَاُسْكُفَّيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیّدنا محمد کی آل پر اور آپ کے دونوں ابروؤں پر اور آنکھوں کے نچلے ہر پپوٹے پر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى جَفْنِهٖ فِى الْاَجْفَانِ وَ

سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی ہر پلک پر پلکوں میں اور

حِمْلَاقِ عَيْنِهٖ فِى الْحَمَالِيْقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی ہر آنکھ کے پپوٹے کے اندرونی حصے پر ان کے اندرونی حصوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیّدنا محمد پر

وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى هُدْبِهٖ فِى الْاَهْدَابِ وَمَنْبَتِ

اور سیّدنا محمد کی آل پر اور آپ کی گھنی پلکوں پر ان لمبی پلکوں میں اور ان کے اگنے کے مقام پر

هُدْبِهٖ فِى الْمَنَابِتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

ایسے منابت و مقامات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیّدنا محمد پر اور

عَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى شُفْرِهٖ فِى الْاَشْفَارِ وَبَصَرِهٖ فِى

سیّدنا محمد کی آل پر اور آپ کی مژگان پر جملہ مژگان میں اور بصر پر

الْاَبْصَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا

تمام ابصار میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیّدنا محمد پر اور سیّدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى عَيْنِهٖ فِى الْعُيُوْنِ وَطَبَقَاتِ عَيْنِهٖ فِى الْاَعْيُنِ

محمد کی آل پر اور آپ کی ہر آنکھ پر آنکھوں میں اور ہر آنکھ کے طبقات پر آنکھوں میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیّدنا محمد پر اور سیّدنا محمد کی آل پر اور آپ کی آنکھ کے

طَبَقَتِهِ الْمُلْتَحِمَةِ فِى الطَّبَقَاتِ وَقَرْنِيَّتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

طبقۂ ملتحمہ پر اور طبقۂ قرنیہ پر طبقات چشم میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیّدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى طَبَقَتِهِ الْعِنَبِيَّةِ وَطَبَقَتِهِ الْعَنْكَبُوْتِيَّةِ

محمد پر اور سیّدنا محمد کی آل پر اور آپ کی آنکھ کے طبقۂ عنبیہ اور طبقۂ عنکبوتیہ پر

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْۤ اَسْئَلُكَ شِفَآءً بَدَنِيًّا وَّقَلْبِيًّا وَّقُوَّةً ظَاهِرِيَّةً وَّبَاطِنِيَّةً وَ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بدن اور قلب کی شفاء کا۔ اور ظاہری و باطنی قوت کا۔ اور (یہ کہ) کہ

ثَبِّتْنِىْ عَلَى الطَّرِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِلَا مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَيْرِهٖ اَحْدِثْ لَنَا

مجھے ثابت قدم رکھے محمدی طریقہ پر ساتھ ایسی ثابت قدمی کے جس کی پہلے مثال موجود نہ ہو دوسرے کسی شخص میں پیدا فرما ہمارے

الْعَجَآئِبَ وَالْبَدَآئِعَ الَّتِىْ لَمْ تَكُنْ فِيْنَا مُكَوَّنَةً وَّلَمْ تَكُنْ نَفْسِىْ

ہمارے لیے عجائب اور انوکھے امور جو کہ پہلے ہم میں موجود نہیں کئے گئے تھے۔ اور میرا نفس ان کے ساتھ

مَوْصُوْفَةً بِهَا اِمَّا لِعَدَمِ الْقَابِلِيَّةِ اَوِ السَّبَبِ الْحَآئِلِ اَوِ الْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ

موصوف نہیں تھا۔ خواہ اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی سبب مانع کی وجہ سے یا بسبب اس علت کے جو مقتضی ہے

الصِّبَائِيَّةِ غَيْرِ الْحَامِلَةِ لِاَسْرَارِ الْعَظَمَةِ الْبَارِيَةِ السَّارِيَةِ الْمُحِيْطَةِ اٰثَارُهَا

اس عدم اتصاف کی جو کہ بچپنے والی علت ہے جو نہیں برداشت کر سکنے والی عظمت الٰہیہ کے اسرار کو جو سرایت کئے ہوئے (ہر ہر موجود میں) اور احاطہ کئے ہوئے

بِالنُّفُوْسِ الْمَقْدُوْرَةِ الْمَقْهُوْرَةِ الْمُذَلَّلَةِ تَحْتَ الْاِطَاعَةِ وَسَخِّرْ لِىَ

ہیں آثار اس کے ان نفوس کا جو (اللہ تعالیٰ) کی قدرت اور قہر کے نیچے مغلوب و مقہور ہیں اور اطاعت کے لیے کمربستہ ہیں۔ اور مسخر فرما میرے لیے

النُّفُوْسَ السَّمَاوِيَّةَ وَالْاَرْضِيَّةَ مُبَلِّغَةً لِّنَفْسِنَا اِلٰى دَرَجَاتِهَا الدَّانِيَةِ

آسمانی اور ارضی نفوس (مدبرہ) کو جو پہنچانے والے ہوں ہمارے نفوس کو ان کے درجات تک جو قریب ہیں

بِالْعُقُوْلِ ثُمَّ اَقْدِرْنِىْ عَلٰى جَعْلِ نَفْسِىْ لَطِيْفَةً بِحَيْثُ تَرٰى رُوْحِىْ وَ

عقول کے درجات کے۔ پھر قدرت بخش مجھے نفس کو اس طرح لطیف بنانے پر کہ وہ مشاہدہ کرے میری روح کا۔ اور

تَتَبَلَّغَ نَفْسِىْ بِغِذَآءِ اَلْوَانِ النِّعَمِ النُّوْرِيَّةِ غَيْرِ الْمُفْضِيَةِ اِلَى الْغَآئِطِ وَّ

زادِ راہ اور اسباب وصول حاصل کرے میرا نفس نوری نعمتوں کے انواع و اقسام کی غذاء سے جو نہیں پہنچانے والی طرف بول و براز کے اور

نُطْفَةٍ بَلِ الْمُطَهَّرَةِ عَنِ الْاَدْنَاسِ وَالْفُضُوْلِ وَالْهَادِيَةِ لِلْعَجَآئِبِ

نطفہ و جنابت کے بلکہ مطہر اور صاف ستھری ہے ایسی آلائشوں اور فضلات سے اور واصل کرنے والی ہے نئے عجائبات تک

الْحَادِثَةِ وَالْمُتَقَرِّرَةِ فِىْ مَقَارِّهَا فَلَا تَسْتَغْنِيْنِىْ عَنْهُمَا بَلِ اجْعَلْنِىْ

اور ان کی طرف جو ثابت و برقرار ہیں ہمیشہ کے لیے اپنے اپنے مقامات قرار میں پس مجھے مستغنی نہ فرما ان دونوں سے بلکہ بنا مجھے

جَائِعًا لِوُصُوْلِ الْعَجَائِبِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لِلنُّفُوْسِ وَ

بھوکا اور مشتاق، ان جدید و قدیم عجائبات تک رسائی حاصل کرنے کا۔ اے اللہ تو پیدا کرنے والا اور صورتگری کرنے والا ہے نفوس کا اور

الْمُعَلِّمُ لِمَا فِيْهِمْ لِعَبْدٍ مُّتَوَجِّهٍ اِلَيْكَ بِحُسْنِ الصِّدْقِ وَالْاِطَاعَةِ

تعلیم دینے والا ہے ان کے لیے جس کی اہلیت ان میں ہے واسطے ان بندوں کے جو متوجہ ہیں طرف تیری حسن صدق اور حسن اطاعت کیساتھ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا الدَّاعِيْ مِنْ اَرَاذِلِ عِبَادِكَ لَا يَسْتَطِيْعُ تَحَمُّلَ اَسْرَارِكَ

اے اللہ تیرا یہ بندہ سائل تیرے رذیل ترین بندوں میں سے ہے نہیں طاقت رکھتا تیرے اسرار کے برداشت کرنے کی

وَلَا يَفْهَمُ مَا فِيْ حُكْمِكَ اِلَّا بِكَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَنْزَلْتَ الْخِطَابَاتِ

اور نہ صلاحیت رکھتا ہے ان اسرار کے سمجھنے کی جو تیرے حکموں میں ہے مگر ساتھ تیری توفیق و اعانت کے۔ اے اللہ تو نے نازل فرمائے خطابات اور احکامات

عَلَيْنَا مُشَرِّفًا بِهَا حَبِيْبَكَ وَرَسُوْلَكَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

ہم پر درآنحالیکہ مشرف کئے ہوئے ہیں ان کی وساطت و رزجیت کے ساتھ تیرے حبیب و رسول محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام

وَاَمَرْتَهٗ بِالتَّبْلِيْغِ اِلَيْنَا وَلَيْسَ لَنَا ذَاتٌ مُّسْتَعِدَّةٌ فِيْ صُدُوْرِ الْاَفْعَالِ وَفَهْمِ

اور تو نے انھیں حکم دیا وہ احکام و خطابات ہم تک پہنچانے کا۔ اور نہیں ہماری ذات استعداد و صلاحیت رکھنے والی افعال کے صادر کرنے کی

مَفْهُوْمَاتِ الْخِطَابَاتِ اِلَّا لِخَلْقِكَ لَهَا فِيْنَا فَيَبْقٰى عِرْضِيْ وَجَاهِيْ عِنْدَ

اور خطابات کے مفہومات کو سمجھنے کی مگر بسبب پیدا کرنے تیرے اس استعداد کو ہم میں تب باقی رہ سکے گی عزت و مرتبت میری نزدیک

خَلَائِقِكَ وَاِلَّا انْتَشَرَ عِنْدَهُمُ الْعِصْيَانُ فَيَلْحَقُ بِيَ الْفَضْحُ وَالذِّلَّةُ

تیری مخلوق کے۔ ورنہ معروف و مشہور ہو جائے گا نزدیک ان کے، ہمارا عصیان تب لاحق ہوگی مجھے رسوائی اور ذلت

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمُكْرِمُ الْمُشَرِّفُ وَقَدْ اَوْجَدْتَنَا مِنْ مَّآءٍ هَيِّنٍ ثُمَّ صَوَّرْتَنَا

اے اللہ تو ہی عزت و شرف بخشنے والا ہے اور تو نے ہمیں تخلیق فرمایا حقیر پانی سے۔ پھر تصویر کشی فرمائی

بِصُوْرَةٍ بَدِيْعَةٍ عَجِيْبَةٍ مَّوْضُوْعَةٍ كُلُّ عُضْوٍ فِيْ مَحَلِّهٖ وَمَرْكَزِهٖ عَلٰى

ساتھ انوکھی اور عجیب صورت و نقش کے جس کا ہر عضو اپنے موزون مقام پر رکھا گیا ہے اور مرکز پر

مَا يَلِيْقُ بِحِكْمَتِكَ ثُمَّ بَلَّغْتَنِيْ اِلٰى مَبْلَغٍ وَّجَدْتُّ بِهِ النَّشْمَ وَالنَّعْشَ

جیسے کہ لائق ہے ساتھ تیری حکمت کے پھر پہنچایا تو نے مجھے اس مقام عالی تک کہ جس کی بدولت پا لیا ہے میں نے شہرت اور بلندی ذکر کو

وَالنِّعْمَةَ وَالْهُمُوْمَ وَالنِّعْمَةَ الْبَرَّاقَةَ الْبَصَّارَةَ وَالْبَصِيْرَةَ

اور نعمت کو اور بلند عزائم کو اور بصارت اور بصیرت والی روشن نعمت کو

لِمُعَايَنَةِ النُّفُوْسِ الْمُوْصِلَةِ اِلٰى رَبِّهَا بِمُشَاهَدَةِ الصُّنْعِ اَللّٰهُمَّ

واسطے مشاہدہ کرنے نفوس کے جو بصارت و بصیرت کہ پہنچانے والی ہے رب تعالیٰ کی طرف اس کی صنعت کے مشاہدہ کے ذریعے۔ اے اللہ

اِنِّيْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِحَبِيْبِكَ الْمُصْطَفٰى عِنْدَكَ يَا حَبِيْبَنَا

بیشک میں سوال کرتا ہوں اور متوجہ ہوتا ہوں طرف تیری ساتھ وسیلے تیرے حبیب مصطفےٰ کے۔ اے ہمارے حبیب

يَا سَيِّدَنَا يَا مُحَمَّدُ اِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْمَوْلَى

اے ہمارے آقا و مولیٰ (ہر زمان ہر زبان اور ہر صفت کمال کے ساتھ) ستائش کئے ہوئے ہم توسل کرتے آپ کے ساتھ تمہارے رب کی طرف پس شفاعت کیجئے ہمارے

الْعَظِيْمِ يَا نِعْمَ الرَّسُوْلُ الطَّاهِرُ اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيْنَا بِجَاهِهٖ

لیے اپنے عظیم مولیٰ کے پاس۔ اے بہتر و مہتر رسول طاہر۔ اے اللہ انھیں شفیع بنا ہم میں بطفیل ان کے عز و جاہ کے جو

عِنْدَكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ خَيْرِ الْمُصَلِّيْنَ وَالْمُسَلِّمِيْنَ عَلَيْهِ وَمِنْ

نزدیک تیرے ہے۔ اور بنا ہمیں بہترین صلوٰۃ و سلام بھیجنے والوں سے آپ پر۔ اور افضل ترین

خَيْرِ الْمُقَرَّبِيْنَ مِنْهُ وَالْوَارِدِيْنَ عَلَيْهِ وَمِنْ اَخْيَارِ الْمُحِبِّيْنَ فِيْهِ

مقربین میں سے نزدیک ان کے۔ اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں میں سے۔ اور آپ کے افضل ترین محبوں میں سے

وَالْمَحْبُوْبِيْنَ لَدَيْهِ وَفَرِّحْنَا بِهٖ فِيْ عَرَصَاتِ الْقِيٰمَةِ وَ

اور بہترین محبوبوں سے نزدیک آپ کے۔ اور فرحت و مسرت عطا فرما ان کے طفیل قیامت کے عرصات اور میدانوں میں

اجْعَلْهُ لَنَا دَلِيْلًا اِلٰى جَنّٰتِ النَّعِيْمِ بِلَا مُؤْنَةٍ وَّلَا مَشَقَّةٍ

اور بنا آپ کو ہمارا رہبر و رہنما طرف جنات النعیم کے بغیر کسی محنت و مشقت کے

وَّلَا مُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ وَاجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا وَلَا تَجْعَلْهُ

اور حساب میں تفتیش و تنقیح کے اور بنا تو آپ کو توجہ فرمانے والے ہم پر۔ اور نہ بنا آپ کو

غَاضِبًا عَلَيْنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ

غضب اور ناراضگی فرمانے والے ہم پر۔ اور ہمیں بخش اور ہمارے والدین کو اور تمام اہل اسلام کو

الْاَحْيَاۤءِ وَالْمَيِّتِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ؕ

زندہ ہوں یا فوت شدہ۔ اور ہماری آخری ندا و پکار یہی ہے کہ بیشک سبھی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سب

اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ اَنْ تَرْزُقَنِيْ وَمَنْ اَحَبَّهٗ وَ

جہانوں کا۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ۔ اے اللہ۔ اے اللہ کہ عطا فرمائے مجھے اور آپ کے تمام محبین اور

اتَّبَعَهٗ شَفَاعَتَهٗ وَمُرَافَقَتَهٗ يَوْمَ الْحِسَابِ مِنْ غَيْرِ مُنَاقَشَةٍ

متبعین کو آپ کی شفاعت اور آپ کی رفاقت حساب کے دن بغیر حساب میں مناقشہ کرنے کے

وَّلَا عَذَابٍ وَّلَا تَوْبِيْخٍ وَّلَا عِتَابٍ وَّاَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَ

اور عذاب کے اور بغیر زجر و عتاب کے۔ اور یہ کہ میرے لیے تمام گناہ بخش دے اور

تَسْتُرَ عُيُوْبِيْ يَا وَهَّابُ يَا غَفَّارُ وَاَنْ تُنْعِمَنِيْ بِالنَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ

میرے تمام عیبوں پر پردہ ڈالے اے ہبہ کرنے والے۔ اے بخشنے والے اور مجھے منعم ٹھہرائے اپنی ذات

الْكَرِيْمِ فِيْ جُمْلَةِ الْاَحْبَابِ يَوْمَ الْمَزِيْدِ وَالثَّوَابِ وَاَنْ تَتَقَبَّلَ

کریمہ کے دیدار کے ساتھ تمام احباب میں یوم مزید اور یوم ثواب میں۔ اور قبول کرے مجھ سے

مِنِّيْ عَمَلِيْ وَاَنْ تَعْفُوَ عَمَّا اَحَاطَ عِلْمُكَ بِهٖ مِنْ خَطِيْئَتِيْ وَ

میرے عمل کو اور یہ کہ عفو و درگزر فرمائے ان امور سے جنہیں احاطہ کئے ہوئے ہے علم تیرا یعنی میری خطاؤں اور

نِسْيَانِيْ وَزَلَلِيْ وَاَنْ تُبَلِّغَنِيْ مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِهٖ وَالتَّسْلِيْمِ عَلَيْهِ

نسیان اور لغزشوں سے اور یہ کہ پہنچائے مجھے آپ کی قبر انور کی زیارت میں اور آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے میں

وَعَلٰى صَاحِبَيْهِ غَايَةَ اَمَلِيْ بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ وَجُوْدِكَ وَكَرَمِكَ

اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی خدمت میں سلام پیش کرنے میں میری غایت امل تک ساتھ اپنے احسان و فضل اور جود و کرم کے

يَا رَءُوْفُ يَا رَحِيْمُ يَا وَلِيُّ وَاَنْ تُجَازِيَهٗ عَنِّيْ وَعَنْ كُلِّ مَنْ

اے رؤف اے رحیم۔ اے کارساز۔ اور یہ (سوال کرتا ہوں) کہ جزا دے آپ کو میری طرف سے اور آپ پر تمام ایمان لانے والے غلاموں

اٰمَنَ بِهٖ وَاتَّبَعَهٗ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاۤءِ مِنْهُمْ

کی طرف سے اور تمام اتباع کرنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں کی طرف سے جو زندہ ہوں ان میں سے

وَالْاَمْوَاتِ اَفْضَلَ وَاَتَمَّ وَاَعَمَّ مَا جَازَيْتَ بِهٖ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ

یا وفات پاچکے ہوں بہت ہی افضل اور کامل اور عام و محیط جزا۔ ان تمام جزاؤں سے جو عطا کی ہے تو نے کسی کو بھی اپنی مخلوق سے

يَا قَوِيُّ يَا عَزِيْزُ يَا وَلِيُّ اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ بِاَفْضَلِ مَسْئَلَتِكَ

اے قوی۔ اے غالب۔ اے کارساز۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے افضل ترین سوال کے ساتھ

وَبِاَحَبِّ اَسْمَآئِكَ اِلَيْكَ وَاَكْرَمِهَا عَلَيْكَ وَبِمَا مَنَنْتَ

اور بطفیل تیرے محبوب ترین اور انتہائی مکرم نام کے نزدیک تیرے۔ اور بطفیل اس انعام و احسان کے جو تو نے کیا ہے

عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ نَّبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنْقَذْتَنَا

ہم پر ساتھ نبی ہمارے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس بچا لیا تو نے ہمیں

بِهٖ مِنَ الضَّلَالَةِ وَاَمَرْتَنَا بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ وَجَعَلْتَ صَلَاتَنَا

بسبب ان کے گمراہی سے۔ اور تو نے ہمیں حکم دیا ہے ان پر صلوٰۃ بھیجنے کا۔ تو نے بنا دیا ہے ہمارے صلوٰۃ

عَلَيْهِ دَرَجَةً وَّكَفَّارَةً وَّلُطْفًا وَّمَنًّا مِّنْ اِعْطَآئِكَ فَاَدْعُوْكَ

بھیجنے کو (موجب) ہمارے درجات (کی ترقی) کا اور (گناہوں کے) کفارہ کا۔ اور سبب لطف و کرم کا اپنی عطا کیلئے پس میں دعا کرتا ہوں تجھ

تَعْظِيْمًا لِّاَمْرِكَ وَاتِّبَاعًا لِّوَصِيَّتِكَ وَمُنْتَجِزًا لِّمَوْعُوْدِكَ لِمَا

سے تیرے امر کی تعظیم کے لیے اور تیری وصیت کی اتباع کے لیے اور تیرے وعدے کو پورا کرتے ہوئے واسطے اس کے

يَجِبُ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اَدَاۤءِ حَقِّهٖ

جو واجب ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے اس حق کے ادا کرنے میں جو

قِبَلَنَا اِذْ اٰمَنَّا بِهٖ وَصَدَّقْنَاهُ وَاتَّبَعْنَا النُّوْرَ الَّذِيْۤ

ہم پر ہے۔ جب کہ ہم ان پر ایمان لائے اور تصدیق کی۔ اور اتباع کی اس نور کی جو

اُنْزِلَ مَعَهٗ وَقُلْتَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ

نازل کیا گیا ساتھ آپ کے۔ اور فرمایا تو نے "بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے صلوٰۃ بھیجتے ہیں نبی مکرم پر۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝ وَاَمَرْتَ الْعِبَادَ

اے ایمان لانے والو صلوٰۃ بھیجو ان پر اور سلام بھیجو جیسے کہ حق ہے سلام بھیجنے کا۔ اور تو نے حکم دیا ہے بندوں کو

بِالصَّلٰوةِ عَلٰى نَبِيِّهِمْ فَرِيْضَةً افْتَرَضْتَهَا وَاَمَرْتَهُمْ بِهَا فَنَسْئَلُكَ

صلواۃ بھیجنے کا اپنے نبی پر بطور فریضہ کے جو تونے عائد کیا ہے ان پر اور امر کیا انہیں ساتھ اس کے پس ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے

بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَنُوْرِ عَظْمَتِكَ وَبِمَا اَوْجَبْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

تیرے جلال ذات کے طفیل اور نور عظمت کے صدقے میں اور بوسیلہ اس حق کے جو لازم کیا ہے تونے اپنی ذات پر

لِلْمُحْسِنِيْنَ اَنْ تُصَلِّيَ اَنْتَ وَمَلٰٓئِكَتُكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ

واسطے محسنین کے کہ صلواۃ بھیجے تو اور تیرے تمام ملائکہ محمد کریم پر افضل ترین صلواۃ ان تمام صلوات سے جو بھیجی تونے

عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کسی بھی فرد پر اپنی مخلوق سے بے شک تو ہی ہمیشہ کے لیے سزاوار حمد اور مجد ہے۔ اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ شِدْقِهٖ فِي الْاَشْدَاقِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی باچھ پر باچھوں میں اور اس سے

وَصِمَاغَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

لگے ہوئے لعاب پر۔ اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى مَلْغَمِهٖ فِي الْمَلَاغِمِ وَسَامِغَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر اور آپ کے منہ مبارک اور بینی پاک کے اردگرد پر اور آپ کے منہ کی دونوں نچلی جانبوں پر۔ اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى لَحْيِهٖ فِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی نچلے جبڑے والی ہڈی پر (جہاں ڈاڑھی اگتی ہے) ایسی ہڈیوں

اللُّحٰى وَفَكِّهٖ فِي الْفُكُوْكِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

میں اور آپ کے جبڑے پر جبڑوں میں۔ اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى فَكِّهِ الْاَعْلٰى وَفَكِّهِ الْاَسْفَلِ

اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے اوپر والے جبڑے پر اور نچلے جبڑے پر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى لِحْيَتِهٖ فِي اللُّحٰى وَذَقَنِهٖ فِي الْاَذْقَانِ اَللّٰهُمَّ

اور آپ کی ڈاڑھی مبارک پر ڈاڑھیوں میں اور ٹھوڑی مبارک پر ٹھوڑیوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَّعَلٰى عُثْنُوْنِهٖ فِي الْعَثَانِيْنِ وَشَجَرِهٖ فِي الْاَشْجَارِ اَللّٰهُمَّ

اور آپ کی ڈاڑھی پر ڈاڑھیوں میں اور جبڑوں کی درمیانی جگہ پر ان جگہوں اور مقامات میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَّعَلٰٓى اِرَادَتِهٖ وَصَبِيْبِهٖ وَغَبْغَبِهٖ وَنُوْنَتِهٖ اَللّٰهُمَّ

اور آپ کے ارادہ پر۔ آپ کے پسینہ پر۔ آپ کی ٹھوڑی کے نیچے لٹکے ہوئے گوشت پر اور ٹھوڑی پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

صلواۃ وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى سِنِّهٖ فِي الْاَسْنَانِ وَثَنِيَّتِهٖ فِي الثَّنَايَا

آل پر۔ اور آپ کے ہر دانت پر دانتوں میں اور سامنے والے دو دانتوں پر ثنایا میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى نَابِهٖ فِي الْاَنْيَابِ وَرُبَاعِيَتِهٖ فِي الرُّبَاعِيَاتِ اَللّٰهُمَّ

اگلی ڈاڑھ پر ڈاڑھوں میں۔ اور سامنے کے چاروں دانتوں پر ان (رباعی) دانتوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی

ضِرْسِهٖ فِي الْاَضْرَاسِ وَطَاحِنِهٖ فِي الطَّوَاحِنِ وَنَاجِذِهٖ فِي النَّوَاجِذِ

ہر ڈاڑھ پر ڈاڑھوں میں۔ اور چبانے والی ڈاڑھوں پر ان ڈاڑھوں میں۔ اور آپ کی آخری ڈاڑھوں پر آخری ڈاڑھوں میں

وَبَيَاضِ سِنَّتِهٖ فِي الْاَسِنَّةِ وَلَمَعَانِ اَسْنَانِهٖ فِي الْاَسِنِّ وَسِنْخِهٖ

اور آپ کی ڈاڑھوں کی سفیدی پر تیز اور کاٹنے والی ڈاڑھوں میں اور آپکے دانتوں کی چمک پر دانتوں میں اور آپکے دانت اگنے کی جگہ

فِي الْاَسْنَاخِ وَدُرْدُرِهٖ فِي الدَّرَادِرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

پر ان کی جگہوں میں۔ اور آپ کے بچپن میں دانت اُگنے کی جگہ پر ان جگہوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى عُمُرِهٖ فِي الْعُمُوْرِ وَلِثَّتِهٖ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپکے دانتوں کے درمیانی گوشت پر ان گوشتوں میں۔ اور آپکے مسوڑے پر

فِي اللِّثَّاتِ وَلِسَانِهٖ فِي الْاَلْسُنِ وَذَبْذَبِهٖ فِي الذَّبَاذِبِ وَ

مسوڑوں میں۔ اور آپ کی زبان پر زبانوں میں اور آپ کی زبان پر زبانوں میں۔ اور

مِسْرَدِهٖ فِي الْمَسَارِدِ وَعَذَبَتِهٖ فِي الْعَذَبَاتِ وَثَمَرِهٖ فِي

آپ کی زبان پر زبانوں میں اور آپ کی زبان کی نوک پر نوکوں میں اور آپ کی زبان کے سرے پر

الْاَثْمَارِ وَحَنَكِهٖ فِي الْاَحْنَاكِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

ان کے سروں میں اور آپ کے تالو پر تالوؤں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى عُنْدُوْبِهٖ وَسَاكِبِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے حلق کے اردگرد کے سخت گوشت پر اور آپ کے لعاب

لُعَابِهٖ وَعُمْرَتَيْهِ وَضَرْدَيْهِ وَنَغْنَغَتَيْهِ وَتُرْسِيِّهٖ وَ

کو پلٹنے والی دونوں گلٹیوں پر۔ اور آپکے دونوں مسوڑھوں پر اور زبان کی دونوں رگوں پر اور حلق کے اندر کی دو گلٹیوں پر۔ اور گلے کے اندر کی

عَكَبَيْهِ وَلَوْزَتَيْهِ وَغَلْصَمَتَيْهِ وَقُرْدُوْحَتِهٖ وَلِيْتَيْهِ وَعَظْمِهٖ

سخت جگہ پر اور آپکے جبڑے کو دو موٹے حصوں پر اور آپکے گلے کی دونوں گلٹیوں پر۔ اور آپکے سر اور گردن کی دونوں جانب کے گوشت پر اور حلق کی گانٹھ پر

الْاُدْمِيِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اور گردن کے دونوں پہلوؤں پر اور دماغ والی ہڈی پر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى نَطْعِهٖ فِي النُّطُوْعِ وَلَهَاتِهٖ فِي اللَّهَوَاتِ وَلُغْدُوْدِهٖ

آل پر اور آپکے تالو کے اگلے حصے پر اگلے حصوں میں۔ اور حلق کے کوے پر حلق کے کووں میں۔ اور حلق کے گوشت پر ان

فِي اللَّغَادِيْدِ وَحَنْجَرِهٖ فِي الْحَنَاجِرِ وَاَعْلِهٖ وَغَارِ اَسْفَلِهٖ

گوشتوں میں۔ اور آپ کے نرخرہ پر نرخروں میں اور نرخرہ کے بالائی حصہ پر اور اس کے نچلے گہرے حصے پر

وَحُلْقُوْمِهٖ فِي الْحَلَاقِيْمِ وَحَلْقِهٖ فِي الْحُلُوْقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور آپ کے حلقوم پر حلقوموں میں اور حلق پر گلوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى كَظْمِهٖ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے سانس کی نالی پر

فِي الْاَكْظَامِ وَنَغْنَغِهٖ فِي النَّغَانِغِ وَمَرِيِّهٖ فِي الْمَرِيَّاتِ وَبُلْعُوْمِهٖ

ان نالیوں میں۔ اور اس کے پھیلے ہوئے حصے پر ایسے حصوں میں اور آپ کی مری پر مریوں میں اور آپکے حلقوم پر

فِي الْبَلَاعِيْمِ وَعُنُقِهٖ فِي الْاَعْنَاقِ وَرَقَبَتِهٖ فِي الرِّقَابَاتِ وَجِيْدِهٖ

حلقوموں میں۔ اور آپ کی گردن پر گردنوں میں۔ اور رقبہ پر رقاب میں اور آپ کی گردن پر

فِي الْاَجْيَادِ وَقَفَآئِهٖ فِي الْاَقْفَآءِ وَقَافِيَتِهٖ فِي الْقَوَافِيْ وَحَقِّ

گردنوں میں۔ اور آپ کی گدی پر گدیوں میں۔ سر کی پچھلی جانب پر ایسی جانبوں میں۔ اور آپ کی گدی

قَفَآئِهٖ فِي الْحِقَاقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

کی گہری جگہ پر ایسی گہری جگہوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى صَلِيْفِهٖ فِي الصُّلُفِ وَدَلِيَّتِهٖ فِي الدَّلِيَّاتِ

سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی گردن کے پہلو پر پہلوؤں میں۔ اور آپ کے نشان پر نشانوں میں

وَدَاجِهٖ فِي الْاَدْوَاجِ وَفَهْقَتِهٖ فِي الْفَهَاقِ وَوَرِيْدِهٖ فِي الْاَوْرِدَةِ

اور آپ کی دونوں خون والی رگوں پر ان رگوں میں۔ اور آپ کی گردن کی جڑ والی ہڈی پر ان ہڈیوں میں اور شہ رگ پر

وَعِلْبَآئِهٖ فِي الْعَلَابِيْ وَعَاتِقِهٖ فِي الْعَوَاتِقِ اَللّٰهُمَّ

شہ رگوں میں۔ اور آپ کی گردن کے پہلو والے پٹھے پر ان پٹھوں میں۔ اور آپکے کندھے پر کندھوں میں اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَّعَلٰى عُرُوْقِهِ السُّبَاتِيَّةِ وَتَرْقُوَتِهٖ فِى التَّرَاقِىْ وَقَذَالِهٖ فِىْ
اور آپ کی دراز۔ یا نیند اور اونگھ لانے والی رگوں پر۔ اور آپ کی ہر ہنسلی پر ہنسلیوں میں۔ اور آپ کی گدی پر
الْقَذَالِ وَكُظْرِهٖ فِى الْاَكْظَارِ وَحَاقِنَتِهٖ فِى الْحَوَاقِنِ وَمُلْتَقٰى
گدیوں میں اور آپ کی ہنسلی کی ہڈی کی درمیانی جگہ پر ایسی جگہوں میں۔ اور آپ کی ہنسلی کی درمیانی جگہ پر ان جگہوں میں اور آپ کی
تَرْقُوَتَيْهِ وَنَضِيْهٖ فِى الْاَنْضِيَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
دو ہنسلیوں کے مقام اتصال پر۔ اور آپ کے کاندھے اور کان کے درمیانی حصے پر ان حصوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى فِقْرَتِهٖ فِى الْفِقَارِ وَ
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ (کی پیٹھ کے) ہر مہرہ پر ان مہروں میں اور
نُخَاعِهٖ فِى النُّخَعِ وَجَنَاحَيْهِ فِى الْاَجْنِحَةِ وَشَوْكِهٖ وَشَاخِصِهٖ
ریڑھ کی ہڈی کے مغز پر ان مغزوں میں۔ اور آپ کے دونوں بازوؤں پر بازوؤں میں اور آپ کے بازو کی قوت اور اس سے
فِى الشَّوَاخِصِ وَمَنْكِبِهٖ فِى الْمَنَاكِبِ وَاَسْرَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
ابھار پر ابھاروں اور اٹھانوں میں۔ اور آپ کے کندھے پر کندھوں میں۔ اور آپ کے دونوں شانوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ
وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى عِطْفِهٖ
وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے پہلو پر
فِى الْاَعْطَافِ وَكَتِفِهٖ فِى الْاَكْتَافِ وَحَقِّ كَتِفِهٖ فِى الْحِقَاقِ وَ
پہلوؤں میں۔ اور کندھے پر کندھوں میں۔ اور آپ کے بازو اور شانے کے درمیانی بلند حصے پر ان بلند حصوں میں اور
نُغْضِ كَتِفِهٖ وَقُلَّةِ كَتِفِهٖ فِى الْقُلَّاتِ وَمِنْقَارِ غُرَابِهٖ وَ
شانے کی باریک ہڈی پر اور آپ کے شانے کی ہڈیوں اور کھال پر ان ہڈیوں اور کھالوں میں۔ اور آپ کے سر کے پچھلے حصے کی نوکیلی ہڈی
كَاهِلِهٖ فِى الْكَوَاهِلِ وَكَاثِبَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
پر آپ کی گردن کے قریبی بالائی پٹھے پر ان پٹھوں میں اور آپ کی پیٹھ کے بالائی حصہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى بَادِرَتِهٖ فِى الْبَوَادِرِ وَمَنْسِجِهٖ فِىْ
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے مونڈھے اور گردن کے درمیانی گوشت پر ان گوشتوں میں اور آپ کے رگوں پٹھوں کے باہمی

الْمَنَاسِجِ وَاِبْطِهٖ فِى الْاٰبَاطِ وَبَادِلَتِهٖ فِى الْبَآدِلِ وَسَحْرِهٖ فِى الْاَسْحَارِ
ربط و ضبط والے مقام پر ایسے مقامات میں۔ اور آپ کی ہر بغل پر بغلوں میں اور آپ کی بغل اور پستان کے درمیانی گوشت پر ان گوشتوں میں اور آپ کے پھیپھڑے پر پھیپھڑوں
وَحِضْنِهٖ فِى الْاَحْضَانِ وَعَضُدِهٖ وَقَبِيْحِهٖ فِى الْقَبَآئِحِ وَوَابِلَتِهٖ
میں۔ اور آپ کے پہلو پر پہلوؤں میں اور آپ کے بازو پر۔ اور بازوؤں کی ہڈی کے کنارے پر ان کناروں میں۔ اور بازو کے اوپر والے حصے پر
فِى الْاَوَابِلِ وَمِرْفَقِهٖ فِى الْمَرَافِقِ وَسَاعِدِهٖ فِى السَّوَاعِدِ وَزَنْدِ
ان حصوں میں اور آپ کی کہنی پر کہنیوں میں۔ اور آپ کی کلائی پر کلائیوں میں اور آپ کے ہاتھ
اَعْلٰهٖ وَاَسْفَلِهٖ وَرُسْغِهٖ فِى الْاَرْسَاغِ وَيَدِهٖ فِى الْاَيَادِىْ يَآ اِلٰهَ
کے بالائی گٹے اور زیریں گٹے پر اور آپ کے پہنچے پر پہنچوں میں اور ہر ہاتھ پر ہاتھوں میں اے معبود
الْاٰلِهَةِ الرَّفِيْعُ جَلَالُهٗ اَنْتَ اِلٰهُ الْاَنْوَارِ الْمُشْرِقَةِ فِىْ اَطْبَاقِ
برحق معبودانِ مشرکین کے بھی کہ بلند ہے جلال اس کا۔ تو ہی الٰہ ہے ان انوار کا جو روشن ہیں آسمانوں کے
السَّمٰوٰتِ الْمُتَجَلِّيَةِ بِالْاَنْوَارِ الْجَلِيَّةِ الْبَرَّاقَةِ الْمُسْتَجِنَّةِ مِنْهُ
تمام طبقات میں جو منور ہیں ایسے واضح انوار کے ساتھ جو برق کی مانند چمکنے والے ہیں کہ پوشیدہ ہو جانے والے ہیں ان کی تجلی سے
الْاَنْوَارُ الظُّلْمَانِيَّةُ الْكَدِرَةُ الْجَهَنَّمِيَّةُ الْمُخْلِقَةُ الْمُمْحِلَةُ وَيَا رَبَّ
ظلمانی اور گدلے انوار جہنم والے جو بوسیدہ اور ویران کرنے والے ہیں۔ اور اے رب
الْفَلَكِ الْكُلِّىِّ الْاَطْلَسِ وَمَا فِيْهِ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِىْ رَكَدَتْ
فلک کلی کے جو ستاروں سے خالی ہے اور رب ان کے جو اس میں ہیں یعنی وہ آٹھ ملائکہ کہ قرار پکڑے ہوئے ہیں
اَرْجُلُهُمْ اِلٰى تَحْتِ الثَّرٰى وَرُءُوْسُهُمْ تَحْتَ قَوَآئِمِ الْعَرْشِ حَبِّبْنِىْ
پاؤں ان کے زمین کے گیلے حصے سے بھی نیچے اور ان کے سر عرش کے پایوں کے نیچے ہیں مجھے محبوب بنا
فِى الْمَلَكُوْتِ بِالرِّفْعَةِ وَاَشْغِلْنِىْ عَنِ النَّاسُوْتِ بِالْجَبَرُوْتِ مَعَ
عالم بالا میں ساتھ رفعتِ درجات کے۔ اور مشغول کر مجھے عالم اجسام سے ساتھ جبروت کے مع
الْجَلَالَةِ وَسَلِّطْنِىْ عَلٰى مُشَافَهَةِ الْعُلْوِيَّاتِ فِىْ مُشَاهَدَةِ الْحَقَآئِقِ
جلالت کے اور مسلط فرما مجھے علویات کے روبرو ہو کر حقائق کا مشاہدہ کرنے پر

وَالْمُغَيَّبَاتِ الْجَلَالِيَّاتِ وَالْجَمَالِيَّاتِ وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِالْحَتْفِ

اور غیبی امور کے مشاہدہ کرنے پر جلالی ہوں یا جمالی۔ اور نہ مؤاخذہ فرما مجھ سے ساتھ موت طاری کر کے

عَنْ تَحْصِيلِ الْكَمَالَاتِ وَلَا أُخْلِفُ مِنْ وَّعْدِكَ وَلَا أُخْلَفُ مِنَ

کمالات کے حصول سے (محروم کرنے) کے بس نہیں خلاف کروں گا میں تیرے وعدے کا۔ اور نہ محروم رکھا جاؤں گا

الْأَسْرَارِ الْخَفِيَّةِ مِنْ فَوَائِدِ حُجُبِكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَصْحَابِ

اسرار خفیہ سے جو تیرے حجابات کے فوائد و ثمرات ہیں۔ اور بنا مجھے دائیں جانب والوں سے

الْيَمِيْنِ وَلَا تُزْهِقْ دَعَوَاتِي وَكَلَامَاتِي يَا صَادِقَ الْوَعْدِ وَالْقَوْلِ

اور نہ دور کر میری دعاؤں کو اور کلاموں کو اے اس سچے وعدے اور قول والے کر

مِنْ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أَزْلِفْنِي عِنْدَ الْبَرَرَةِ السَّجَّادَةِ

(قبول کرتا ہوں میں ہر دعا کرنے والے کی دعا جبکہ دعا کرے مجھ سے) قریب کر مجھے اپنے نکوکاروں کے جو سجدہ کرنے والے

وَالرَّكَّاعَةِ مَعَ الْمَلَأِ الْأَعْلَى الَّتِي حَوْلَ السِّدْرَةِ الْمَرْفُوعَةِ الْمَنْزُوعَةِ

اور رکوع کرنے والے ہیں ساتھ ملاء اعلیٰ کے جو بلند مقام سدرہ کے گرد ہیں۔ جن سے سلب کر لی گئی ہیں

عَنْهَا الشَّهَوَاتُ النَّفْسِيَّةُ وَاللَّذَّاتُ الرُّوْحِيَّةُ آخِذًا لِلْفَيْضِ الرَّبَّانِيِّ

خواہشات نفسانیہ اور لذات روحانیہ درآنحالیکہ میں حاصل کرنے والا ہوں فیض ربانی

النُّوْرِيِّ وَبِهِ الْحَيٰوةُ وَالْهِدَايَةُ كَائِنًا فِي عَالَمِ الْأَمْرِ سَائِرًا إِلَى

نورانی کا جبکہ ساتھ اسی کے حیات اور ہدایت ہے درآنحالیکہ موجود ہونے والا ہوں عالم امر میں۔ سیر کرنیوالا ہوں پیچھے

وَرَآءِ الْفَلَكِ الْكُلِّيِّ الْأَطْلَسِ فِي الْخَلَاءِ الْأَبْعَدِ مُنْقَلِبَةً وَّهُمَا تِي

فلک کلی اطلس کے اس خلاء میں جس کا بعد بعید ہے درآنحالیکہ پھرنے والے ہوں میرے اوہام

إِلَى الْحَقِّ اللّٰهُمَّ لَا تُبْقِنِي فِي الْأَسْجَافِ الظُّلْمَانِيَّةِ أَنْتَ الْمُخْرِجُ

طرف حق کے۔ اے اللہ نہ باقی رکھ مجھے ظلمانی پردوں میں۔ تو ہی نکالنے والا ہے

الْجَرَّارُ مِنْهَا إِلَى النُّوْرِ اللَّامِعِ الْهَادِي الْكَشَّافِ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ

کھینچنے والا ہے ان سے طرف نور کے جو چمکنے والا اور رہنمائی کرنے والا ہے اور کھولنے والا ہے (حقائق کا) اللہ تعالیٰ مددگار ہے ان لوگوں کا

اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الرَّفِيْعُ الْغَنِيُّ

جو ایمان لائے نکالتا ہے انھیں ظلمتوں سے نور کی طرف۔ اے اللہ تو ہی بلند مرتبت، بے نیاز

الْوَهَّابُ وَأَنَا الْفَقِيْرُ الذَّلِيْلُ الْمُحْتَاجُ لَا إِلٰهَ سِوَاكَ اجْعَلْنِي فَارِغَ

اور ہبہ کرنے والا ہے جبکہ میں فقیر محتاج اور ذلیل ہوں۔ نہیں کوئی معبود برحق سوا تیرے بنا مجھے خالی دل والا

الْقَلْبِ مَجْمُوْعَ الْهَمِّ وَوَارِثًا فِي الْأَعْمَالِ وَالْخَيْرَاتِ الْعِلْمِيَّةِ اللَّوْحِيَّةِ

(اپنے غیر سے) اور مجتمع عزم وارادہ والا۔ اور وارث تمام اعمال اور خیرات علمیہ کا جو لوح (محفوظ) میں ہیں اور

الْمُنْتَقِشَةِ فِي الصُّوَرِ الْكُلِّيَّةِ مِنَ الْمَظَاهِرِ الرَّفِيْعَةِ فِي مَقَامِ الْجَمْعِ وَ

نقش ہونے والے ہیں مظاہر رفیعہ کے صور کلیہ میں مقام جمع اور

الْكُلِّ وَارْفَعْنِي مَرْتَبَةً بِإِعْطَاءِ طُعْمَةٍ وَّلُقْمَةٍ نُوْرِيَّةٍ جَمَالِيَّةٍ لِرُوْحِي

کل میں۔ اور بلند فرما میرے مرتبہ کو بسبب عطا کرنے ایسے طعام اور لقمہ کے میرے روح کو جو کہ نوری اور جمالی ہے

أَخْذَةً مِّنْ نَّصِيْبِ نَفْسِي فَنَسْتَغْرِقُ فِي الْمُطَالَعَاتِ الْجَلَالِيَّةِ

شروع ہونے والا ہے میرے نفس کے نصیب اور حصہ سے پس ہم (روح اور نفس کے ساتھ) مستغرق ہو جائیں (تیرے) جلال کے مطالعات میں

وَالْمُلَاحَظَاتِ الْجَمَالِيَّةِ بِإِشْرَاقِ سِرَاجِ الْكَائِنَاتِ الْمُحِيْطَةِ

اور (تیرے شان) جمال کے ملاحظات میں بسبب روشن ہو جانے کائنات کو منور کرنے والے چراغ کے کہ احاطہ کرنے والی ہیں

أَضْوَاءُهَا بِأَرْكَانِ الْعَالَمِ وَأَطْرَافِهِ مِنْ غَيْرِ إِطْفَاءٍ يَا مُدَبِّرَ

اس کی ضیائیں تمام عالم کے ارکان و اطراف کا بغیر کسی لمحہ بجھنے اور بے نور ہونے کے۔ اے تدبیر اور انتظام فرمانے والے

الدَّوَّارِ الْأَعْظَمِ الْمُحِيْطِ بِكُلِّ الْأَدْوَارِ اجْعَلْنِي قَعِيْدًا مَّعَ جُلَسَاءِ

عظیم ترین فلک دائرے کے جو احاطہ کئے ہوئے ہے تمام ادوار کا بنا مجھے ہمنشین حق اور

الْحَقِّ مَعَ الصِّدْقِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الْحَرَّانِ إِلَى مُشَاهَدَتِكَ مِنْ

صدق والے جلساء کا یعنی ان اولیاء کرام کا جو پرواز کرنے والے ہیں تیرے مشاہدہ ذات کی طرف

غَيْرِ الْحِرْمَانِ يَا ذَا الْإِحْسَانِ ارْفَعْ دَرَجَاتِي إِلَى اللَّاهُوْتِيِّ مِنَ

بغیر حرمان اور محرومی کے۔ اے مالک احسان کے۔ بلند فرما میرے درجات کو لاہوتی بلندیوں

الرِّفْعَاتِ الْمَشْمُوْلَةِ الْاَنْوَاعِ تَحْتَ هٰذَا الْاِسْمِ الرَّفِيْعِ

تک جو تمام اقسام کی بلندیوں کا احاطہ کرنے والی ہیں نیچے اس اسم رفیع و

الْجَلِيْلِ حَتّٰى اَكُوْنَ مُسَامِرًا فِىْ بِسَطْوَاتٍ وَّمُتَصَرِّفًا بِعَوَارِضِ

جلیل کے حتی کہ ہو جاؤں میں اپنے ساتھ ہمکلام ساتھ سطوات اور غلبہ کے اور متصرف ہو جاؤں ملائکہ والے

الْمَلٰٓئِكَةِ فِىْ عَيْنِ نُعُوْتِ الْكَمَالِ ثُمَّ عَرِّجْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرُّوْحِ

عوارض وصفات (حاصل کرنے کے) ذریعے صفاتِ کمال میں۔ پھر مجھے بلندی پر چڑھا اور لاحق فرما اس روح اقدس کیساتھ

الَّذِىْ هُوَ اَبُو الْاَرْوَاحِ الْمُحَمَّدِىِّ بِالطَّاعَةِ وَالْاِنْقِيَادِ وَحُصُوْلِ

جو کہ تمام ارواح کی اصل ہے یعنی روح محمدی کے ساتھ بسبب اطاعت گزاری اور تابعداری کے اور حاصل ہونے

الصِّفَاتِ فِى الْمَرَاتِبِ الْاِضَافِيَّاتِ وَالْكَثْرَاتِ مُتَوَجِّهًا

صفات کے مراتب اضافیہ اور مراتب کثرت میں درآنحالیکہ توجہ کرنے والا ہو جاؤں

اِلٰى عَالَمِ الْقُدُسِ فِىْ اقْتِنَاۤءِ الْعَجَائِبِ وَاِسْعَافِ الْحَاجَاتِ

طرف عالم قدس کے عجائبات کے حاصل کرنے میں اور حاجات کے پورا کرنے میں۔

مَعَ اِشْرَافِ الْخَوَاصِّ الْاِلٰهِيَّاتِ بِضِمْنِ الْبَدَنِ وَالرُّوْحِ اَللّٰهُمَّ

بمع منعکس ہونے اور پرتو فگن ہونے خواص الٰہیہ کے میرے بدن اور روح کے اندر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى ذِرَاعِهٖ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی ہر دو کلائیوں پر

فِى الْاَذْرُعِ وَنَاشِرَتِهٖ فِى النَّوَاشِرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

کلائیوں میں اور آپ کے ہاتھوں کے رگوں پٹھوں پر تمام ایسے پٹھوں اور رگوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى رَاحَتِهٖ فِى الرَّاحِ وَكَفِّهٖ فِى

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی ہتھیلی کے اندرونی حصہ پر ایسے تمام حصوں میں اور ہتھیلی پر ہتھیلیوں میں

الْكُفُوْفِ وَبَطْنِ كَفِّهٖ فِى الْبُطُوْنِ وَظَهْرِ كَفِّهٖ فِى الْاَكُفِّ اَللّٰهُمَّ

اور آپ کی ہتھیلی کے اندرون پر ہتھیلیوں کے اندرونی حصوں میں اور اس کی پشت پر ہتھیلیوں کی پشتوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى عُقَمِهٖ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی پیٹھ کے مہروں پر

وَرَاسِلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

اور آپکے کندھوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اِصْبَعِهٖ فِى الْاَصَابِعِ وَرَاجِبَتِهٖ فِى الرَّوَاجِبِ اَللّٰهُمَّ

محمد کی آل پر اور آپ کی ہر انگلی پر انگلیوں میں۔ اور آپ کی ہر انگلی کے ہر جوڑ پر ان کے جوڑوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى شُنْتُرِهٖ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی ہر دو انگلیوں کے

فِى الشَّنَاتِرِ وَخِنْصَرِهٖ فِى الْخَنَاصِرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

درمیانی حصے پر۔ اور آپ کی ہر ہر چھنگلی پر چھنگلیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى بِنْصَرِهٖ فِى الْبَنَاصِرِ وَوُسْطَيَيْهِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی چھنگلی کے ساتھ والی انگلی پر ان انگلیوں میں اور آپ کی ہر دو درمیانی انگلیوں پر

فِى الْوُسْطَيَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

درمیانی انگلیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى مُسَبِّحَتَيْهِ فِى الْمُسَبِّحَاتِ وَاِبْهَامَيْهِ فِى الْاَبَاهِيْمِ

محمد کی آل پر۔ اور آپ کی دونوں شہادت والی انگلیوں پر شہادت والی انگلیوں میں۔ اور آپکے دونوں انگوٹھوں پر انگوٹھوں میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور

عَلٰى كُوْعِهٖ وَبَنَانَتِهٖ فِى الْبَنَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

آپ کی کلائی کے جوڑ پر اور آپکے ہر پورے پر انگلیوں کے پوروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اَنْسَانِهٖ فِى الْاُنَاسِ وَكَعْسِهٖ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی آنکھ کی پتلی پر آنکھوں کی پتلیوں میں اور آپ کے جوڑوں کی ہڈی پر

فِی الْکِعَاسِ وَبَصْمِهٖ وَعَتَبِهٖ وَعَسَنِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

ان ہڈیوں میں اور آپ کی چھنگلی اور اس کے ساتھ والی کے درمیانی فاصلے پر، اور ان دونوں کے درمیانی حصے پر اور آپ کی چربی پر یا رعنائی پر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی رَتَبِهٖ وَفَتْرِهٖ وَفَوْتِهٖ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر۔ اور آپ کی خنصر و بنصر کے درمیانی فاصلے پر، اور آپ کی انگشتِ شہادت اور انگوٹھے کی کشادگی کی حالت میں درمیانی فاصلے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

پر، اور کوئی سی دو انگلیوں کے درمیانی فاصلہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور

عَلٰٓی اٰرَبِهٖ فِی الْاٰرَابِ وَفُرْجَتِهٖ فِی الْفُرَجِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

آپ کے ہر ہر عضو پر اعضاؤں میں۔ اور آپکے (اعضاء کی) درمیانی کشادگی پر کشادگیوں میں اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اَشْجَعِهٖ فِی الْاَشَاجِعِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی ہر انگلی کی جڑ پر ان کی جڑوں میں

وَبُرْجُمَتِهٖ فِی الْبَرَاجِمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

اور جوڑوں کے خطوط اور لکیروں پر ان لکیروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اَنْمُلَتِهٖ فِی الْاَنَامِلِ وَشُبْرِهٖ فِی

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی ہر انگلی کے سرے پر انگلیوں کے سروں میں اور آپ کی بالشت پر

الْاَشْبَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بالشتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَّعَلٰی یُمْنِیِّهٖ فِی الْیُمْنِیَّاتِ وَیُسْرِیِّهٖ فِی الْیُسْرِیَّاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور آپ کے دائیں انگلیوں پر دائیں انگلیوں میں اور بائیں انگلیوں پر بائیں انگلیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی ظُفْرِهٖ فِی

وسلام بھیج سیدنا محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے ہر ناخن پر

الْاَظْفَارِ وَفُوْفِهٖ فِی الْاَفْوَافِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ناخنوں میں۔ اور ہر ناخن کے ابتدائی سفید حصے پر ان سفید حصوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر)

وَّعَلٰی قُلَامَتِهٖ فِی الْقُلَامَاتِ وَوَبْشِهٖ فِی الْاَوْبَاشِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپکے ناخنوں کے ہر تراشہ پر تراشوں میں۔ اور آپکے ناخنوں کے سفید نشانات پر سفید نشانوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اِکْلِیْلِهٖ فِی الْاَکَالِیْلِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے ناخنوں کے اردگرد کے گوشت پر ایسے گوشتوں میں

وَظَهْرِهٖ فِی الْاَظْهُرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا

اور آپ کی پشت اقدس پر پشتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی مَطَآئِهٖ فِی الْاَمْطَآءِ وَحَاذِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا

محمد کی آل پر اور آپ کی پشت اقدس پر پشتوں میں اور آپ کی پیٹھ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعُضْلَتَیْ ظَهْرِهٖ وَکَتَدِهٖ فِی الْاَکْتَادِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی پشت اقدس کے دو مضبوط پٹھوں پر۔ اور آپکے دونوں کندھوں کی درمیانی جگہ پر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی

مَتْنِهٖ فِی الْمُتُوْنِ وَعَظْمِهِ الْعَرِیْضِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

پیٹھ مبارک پر پیٹھوں میں اور آپ کی چوڑی ہڈی مبارک پر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی ضِلْعِهٖ فِی الْاَضْلَاعِ وَاَضْلَاعِ صَدْرِهٖ فِی الضُّلُوْعِ

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی ہر پسلی پر پسلیوں میں۔ اور آپ کے سینے کی پسلیوں پر پسلیوں میں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور

عَلٰی ضِلْعِهِ الْقُصَیْرٰی وَنَافِجِهٖ فِی النَّوَافِجِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

آپ کی چھوٹی پسلی پر اور آپ کی آخری پسلی پر آخری پسلیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی غِشَآءِ الْمُسْتَبْطِنِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے اس لمبی پردے پر

لِاَضْلَاعِهٖ وَغِشَآءِ الْمُسْتَظْهِرِ لِاَضْلَاعِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

جو آپ کی پسلیوں کی اندرونی جانب ہے اور اس پردے پر جو آپ کی پسلیوں کی بیرونی جانب ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى جَنْبِهٖ فِى الْجُنُوْبِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے پہلو پر پہلوؤں میں اور

شُرْسُوْفِهٖ فِى الشَّرَاسِفِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

آپ کی پسلیوں کے پیٹ مبارک کی جانب والے حصّے پر ان پسلیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى سِنْسِنَتِهٖ فِى السَّنَاسِنِ وَفَرْشِيِّهٖ اَللّٰهُمَّ

سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے سینہ کی ہڈیوں کے سرے پر سینوں کی ہڈیوں کے سروں میں اور آپ کی زبان مبارک کے پیچھے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى طَفْطَفَتِهٖ فِى

کی دورگوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی کمر پر

الطَّفَاطِفِ وَصَدْرِهٖ فِى الصُّدُوْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

کمروں میں اور آپ کے سینہ پر سینوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى عَظْمِهِ الزَّوْرَقِيِّ وَجَنْجَنِهٖ فِى

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی کشتی نما (سینہ کی) ہڈی پر اور آپ کے سینہ کی ہڈیوں پر

الْجَنَاجِنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

ان ہڈیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى ثُغْرَتِهٖ فِى الثُّغَرِ وَبُرْقِهٖ فِى الْبُرُوْقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد کی آل پر۔ اور آپ کے سامنے والے مبارک دانتوں پر ان دانتوں میں اور ان کی چمک پر چمکوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى حَيْزُوْمِهٖ فِى الْحَيَازِيْمِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی چھاتی کے درمیانی حصّے پر چھاتیوں کے درمیانی حصوں

وَبَلْدَتِهٖ فِى الْبَلَدَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

میں۔ اور آپ کے سینے پر سینوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى جَانِحَتِهٖ فِى الْجَوَانِحِ وَجُوْشَنِهٖ فِى الْجَوَاشِنِ

سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی جانب پر جوانب میں اور آپ کے سینہ پر سینوں میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے

حِجَابِ صَدْرِهٖ فِى الْحُجُبِ وَزَوْرَتِهٖ فِى الْاَزْوَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

سینہ کے لحمی پردہ پر۔ اور آپ کے سینہ کے بالائی حصّے کی خمیدگی پر سینوں کی خمیدگیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى تَرِيْبَتِهٖ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی چنبر والی ہڈیوں پر ان

فِى التَّرَآئِبِ وَقَصِّهٖ فِى الْقِصَاصِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

ہڈیوں میں اور آپ کے سینہ کی ہڈی پر سینہ کی ہڈیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ اور سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى مَسْرُبَتِهٖ وَشَرْحِ صَدْرِهٖ اِلٰهِىْ كَفٰى عِلْمُكَ عَنِ الْمَقَالِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے سینہ سے شروع ہونے والی بالوں کی باریک لکیر پر اور سینہ کی کشادگی پر۔ اے میرے خدا کافی

وَكَفٰى كَرَمُكَ عَنِ السُّؤَالِ يَآ اِلٰهَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ يَا خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ ۝

ہے علم تیرا قول وکلام سے۔ اور کفایت کرنیوالا ہے جود وکرم تیرا سوال سے۔ اے معبود برحق تمام جہانوں کے۔ اے سب مددگاروں سے بہتر مددگار

بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ سِرِّ هٰذِهِ

تیری رحمت کے ساتھ استغاثہ کرتا ہوں میں اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ اے اللہ بطفیل حق ان اسرار کے

الْاَسْرَارِ وَبِحَقِّ كَرَمِكَ الْخَفِيِّ وَبِحَقِّ الْاِسْمِ الْاَعْظَمِ اَنْ تَقْضِىَ

سِتر کے۔ اور بطفیل تیرے حق کرم کے جو خفی در خفی ہے اور بطفیل حق اسم اعظم کے سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تو پورا فرمادے

حَاجَتِىْ وَتُهْلِكَ عَدُوِّىْ وَتُوْصِلَنِىْ اِلٰى مُرَادِىْ وَتَدْفَعَ عَنِّىْ شَرَّ

میری حاجت کو اور ہلاک کرے میرے دشمن کو اور مجھے واصل کرے میری مراد تک۔ اور دور کرے مجھ سے شر وفساد

جَمِيْعِ عِبَادِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِىْ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ

اپنے تمام بندوں کا۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ مہربان۔ اے اللہ مجھے بچا فتنوں کے شر سے

وَعَافِنِيْ مِنْ جَمِيْعِ الْمِحَنِ وَاَصْلِحْ مِنِّيْ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ وَنَقِّ قَلْبِيْ

اور مجھے عافیت بخش تمام مشقتوں سے اور اصلاح فرما میرے ظاہر کی اور میرے باطن کی اور پاک فرما میرے قلب کو

مِنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ تَبَاعَةً لِّاَحَدٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْۤ اَسْئَلُكَ

کینہ اور حسد سے۔ اور نہ ڈال مجھ پر تاوان کسی کے لیے۔ اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

الْاَخْذَ بِاَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ وَالتَّرْكَ لِسَيِّئِ مَا تَعْلَمُ وَاَسْئَلُكَ التَّكَفُّلَ

قبول کرنے اور لینے کا جو خوب تر ہے ان تمام (اعمال سے) جو تیرے علم میں ہیں اور ترک کرنے کا (میرے اعمال میں سے) بدتر کا جو تیرے علم میں

بِالرِّزْقِ وَالزُّهْدَ فِي الْكَفَافِ وَالْمَخْرَجَ بِالْبَيَانِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَّ

ہیں۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کفیل بننے کا ساتھ رزق کے اور زہد کا گزران میں۔ اور خلاصی پانے کا بیان کے ذریعے ہر قسم کے شبہات سے اور

الْفَلْجَ بِالصَّوَابِ فِيْ كُلِّ حُجَّةٍ وَّالْعَدْلَ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضٰى وَالتَّسْلِيْمَ

کشادگی کا ساتھ صواب کے ہر حجت و دلیل میں۔ اور عدالت کا ناراضگی اور رضا مندی میں

لِمَا يَجْرِيْ بِهِ الْقَضَآءُ وَالْاِقْتِصَادَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَالتَّوَاضُعَ فِي

اور دل وجان سے ماننے کا ہر اس چیز کو کہ جاری ہوتی ہے ساتھ اس کے تیری قضاء اور درمیانہ روی کا فقر اور غنا میں۔ اور تواضع کا

الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالصِّدْقَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ لِيْ ذُنُوْبًا

قول وعمل میں اور سچائی کا ارادی کلام اور سنجیدہ سخن میں اور استہزائی کلام اور غیر سنجیدہ سخن میں۔ اے اللہ میرے کچھ گناہ ایسے ہیں

فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ وَذُنُوْبًا فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَلْقِكَ اَللّٰهُمَّ مَا كَانَ

جو میرے اور تیرے درمیان ہیں اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو میرے اور تیری مخلوق کے درمیان ہیں۔ اے اللہ جو ان میں سے

لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ وَمَا كَانَ مِنْهَا لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّيْ وَاَغْنِنِيْ

تیرے حق میں ہیں وہ معاف فرما اور ان میں سے جو تیری مخلوق کے حق میں ہیں تو انہیں بھی مجھ سے اٹھالے اور مجھے غنی کر دے

بِفَضْلِكَ اِنَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے فضل کے ساتھ (اپنے ماسوا سے) بیشک تو وسیع مغفرت والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى شَقِّ صَدْرِهٖ فِي الصُّدُوْرِ ؕ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے شق صدر پر سینوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى ثُنْدُوَتِهٖ فِي

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے پستان پر

الثَّنَادِيْ وَحَلَمَتِهٖ فِي الْحَلَمَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پستانوں میں اور پستانوں کے سروں پر ان کے سروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى رِئَتِهٖ فِي الرِّئَاتِ وَفُؤَادِهٖ فِي الْاَفْئِدَةِ

اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے پھیپھڑے پر پھیپھڑوں میں اور آپ کے دل پر دلوں میں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے

سُوَيْدَآئِهٖ فِي السُّوَيْدَاتِ وَغِلَافِ قَلْبِهٖ فِي الْغُلُفِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

دل انور کے وسط پر دلوں کے اوساط میں اور آپ کے دل انور کے بیرونی غلاف اور پردہ پر دلوں کے غلافوں میں۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى بَطْنَيْ قَلْبِهٖ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے دل اقدس کے اندرونی دونوں حصوں پر

فِي الْبُطُوْنِ وَدِهْلِيْزِهٖ فِي الدَّهَالِيْزِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

ان اندرونی حصوں میں۔ اور دل منور کی لمبی نالی پر لمبی نالیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى قَاعِدَةِ قَلْبِهٖ فِي الْقَوَاعِدِ وَحِجَابِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے دل انور کے ابتدائی بنیادی حصے پر بنیادی حصوں میں۔ اور دل

قَلْبِهٖ فِي الْحُجُبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

انور کے حجاب پر حجابوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى شِغَافِهٖ وَاَبْهَرَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

محمد کی آل پر اور آپ کے دل مقدس کے وسطی حصہ پر۔ اور آپ کے دل مبارک کی دو بڑی رگوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ اور سلام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اُذُنَيْ قَلْبِهٖ فِي الْاٰذَانِ

بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے دل انور کے دونوں کانوں پر کانوں میں

وَ نُجُفِهٖ فِي الْاَنْجَافِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
اور آپ کے دل اقدس کی وسطی موٹی اور ابھری ہوئی جگہ پر ان جگہوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى حَبَّةِ قَلْبِهٖ فِي حَبَّاتِ الْقُلُوْبِ وَ وَتِيْنِهٖ فِي الْوُتُنِ
پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے دل اقدس کے اندرونی حبہ اور نقطہ پر دلوں کے نقطوں میں اور آپ کے دل اقدس کی بڑی رگ پر ان بڑی رگوں میں (جو
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ
سارے بدن کو خون پہنچاتی ہیں) اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے
عَلٰى كَبِدِهٖ فِي الْاَكْبَادِ وَسَوَادِ بَطْنِهٖ فِي الْبَطْنَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
جگر پر جگروں میں۔ اور آپ کے بطن اقدس کے اندرونی اجزاء پر ان اندرونی اجزاء میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج
عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى مُحَدَّبِ كَبِدِهٖ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے جگر کے بیرونی ڈھلوان حصہ پر
وَمُقَعَّرِ كَبِدِهٖ وَزَوَائِدِ كَبِدِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ
اور آپ کے جگر کی گہرائی پر۔ اور اس کے بڑھے ہوئے حصوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور
عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى بَابِهٖ فِي الْاَبْوَابِ وَاَجْوَفِيْهِ وَمَرَارَتِهٖ
سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے (دل یا جگر) کے باب اور آغاز پر ابواب میں۔ اور آپ کے جگر کے اندرونی دو خالی اجزاء پر اور آپ کے پتے پر
فِي الْمَرَارَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
پتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى طِحَالِهٖ فِي الطُّحُلِ وَفَمِ مِعْدَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی تلی پر تلیوں میں۔ اور آپ کے فم معدہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى مِعْدَتِهٖ فِي الْمِعَدِ وَاُمِّ طَعَامِهٖ فِي
محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے معدے پر معدوں میں۔ اور آپ کے معدے میں طعام والی جھلی پر
اُمَّاتِ الطَّعَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
ان جھلیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى بَطْنِهٖ فِي الْبُطُوْنِ وَعُكْنَتِهٖ فِي الْعُكَنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
محمد کی آل پر۔ اور آپ کے بطن اقدس پر بطون میں اور پیٹ مبارک کی سلوٹوں پر پیٹوں کی سلوٹوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج
عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى لِيْطَتِهٖ وَمَاسَارِيْقَاتِهٖ
سیدنا محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی جلد پر۔ اور آپ کی ماساریقاؤں پر یعنی دل کی باریک رگوں پر
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی
حَشَائِهٖ فِي الْاَحْشَاءِ وَمَرَاقِّهٖ فِي الْمَرَاقِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
انتڑیوں پر انتڑیوں میں اور آپ کے پیٹ کے ناف سے متصل حصے پر ان حصوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى ثُرْبِهٖ فِي الثُّرُوْبِ وَصِفَاقِهٖ اَللّٰهُمَّ
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی اوجھڑی اور انتڑیوں کی چربی پر ان چربیوں میں۔ اور جلد کے اندر والی باریک جھلی پر۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى سُرِّهٖ فِي
صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے بچپن کے دور کی ناف پر
الْاَسِرَّةِ وَسُرَّتِهٖ فِي السُّرَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ
اور بعد والے ادوار میں آپ کی نال اور ناف پر نافوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور
عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى ثُنَّتِهٖ فِي الثُّنَنِ وَرُكْبِهٖ فِي الرِّكَابِ اَللّٰهُمَّ
سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے پاؤں کے بالوں پر ان بالوں میں۔ اور آپ کے زانو پر زانوؤں میں۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى مَانَتِهٖ فِي
صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی ناف اور اس کے
الْمَانَاتِ وَخَثْلَتِهٖ فِي الْخَثَلَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اردگرد کے حصہ پر نافوں میں۔ اور آپ کے پیڑو پر پیڑوؤں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر
وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى قَصَبِهٖ فِي الْاَقْصَابِ وَمَصِيْرِهٖ فِي
اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے حلق سے معدہ تک کی نالی پر ایسی نالیوں میں اور آپ کی آنت پر

اَلْمَصَارِيْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آنتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَّعَلٰى مَعَآئِهٖ فِى الْاَمْعَآءِ وَكَرْشِهٖ فِى الْكُرُوْشِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی انتڑی پر انتڑیوں میں۔ اور آپ کے معدہ پر معدوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اِثْنَىْ عَشَرِيَّتِهٖ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے بارہ طبقات جسم پر یا بارہ اجزاء اور اعضاء ظاہرہ پر یا بارہ اندرونی اجزاء

صَآئِمِهٖ وَدُقَاقِهٖ وَاَعْوَرِهٖ وَقُوْلُوْنِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

پر اور بڑی مضبوط ہڈیوں پر اور باریک ہڈیوں پر اور آپ کے مفرد اجزاء پر اور مرکب اجزاء پر اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى مَعَآئِهِ الْمُسْتَقِيْمِ وَكُلْيَتِهٖ فِى

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی سیدھی آنت پر۔ اور آپ کے گردے پر

الْكُلٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

گردوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَّعَلٰى مَثَانَتِهٖ فِى الْمَثَانَاتِ وَخَاصِرَتِهٖ فِى الْخَوَاصِرِ وَخَصْرِهٖ

اور آپ کے مثانے پر مثانوں میں۔ اور آپ کے پہلو پر پہلوؤں میں اور آپ کی کمر پر

فِى الْخُصُوْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

کمروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى عَظْمِ حَرْقَفَتِهٖ وَكَشْحِهٖ فِى الْكُشُوْحِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد کی آل پر اور سرین والی ہڈی پر۔ اور آپ کے پہلو پر پہلوؤں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى وَرِكِهٖ فِى

و سلام بھیج سیدنا محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی سرین پر

الْاَوْرَاكِ وَحَقِّ وَرِكِهٖ فِى الْحِقَاقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

سرینوں میں۔ اور سرین کے سرے پر سرینوں کے سروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى عُصْعُصِهٖ فِى الْعَصَاعِصِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور سرین کی ہڈی کے سرے پر ایسی ہڈیوں کے سروں میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور

عَلٰى قُرْبِهٖ فِى الْاَقْرَابِ وَفَخِذِهٖ فِى الْاَفْخَاذِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کی کوکھ پر کوکھوں میں۔ اور آپ کے ران پر رانوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى كَاذَتِهٖ فِى الْكَاذَاتِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی ران کے ابھرے ہوئے گوشت پر ان کے ابھرے ہوئے گوشتوں میں

وَمَغْبَنِهٖ فِى الْمَغَابِنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رَغْبَتِىْٓ اِلَيْكَ فَوْقَ رَغْبَةِ

اور آپ کی بغل پر بغلوں میں۔ اے اللہ بنا میری رغبت کو طرف اپنی ذات کے بلند تر تمام رغبت کرنے

الرَّاغِبِيْنَ وَحَمْدِىْٓ اِلَيْكَ فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِيْنَ وَلَا تَخْذُلْنِىْ

والوں کی رغبتوں سے۔ میری حمد و ستائش اپنی بارگاہ میں رکھنا بلند تر سب حمد کرنے والوں کی حمد سے۔ اور مجھے محروم التفات نہ

عِنْدَ فَاقَتِىْ اِلَيْكَ وَلَا تُهْلِكْنِىْ بِمَآ اَسْدَيْتُهٗٓ اِلَيْكَ وَ

رکھنا وقت میری محتاجی کے طرف تیرے اور مجھے نہ ہلاک کرنا بسبب اس کے جو میں نے (تیرے احکام کو ادھورا چھوڑا اور

وَلَا تَجْبَهْنِىْ بِمَا جَبَهْتَ بِهِ الْمُعَانِدِيْنَ لَكَ فَاِنِّىْ لَكَ مُسْلِمٌ

نہ سختی سے پیش آنا مجھے ساتھ اس شدت اور سختی کے جس کے ساتھ تو نے اپنے معاندین کے ساتھ سلوک کیا کیونکہ میں تو یقیناً تیرے لیے اسلام لانے والا

اَعْلَمُ اَنَّ الْحُجَّةَ لَكَ وَاَنَّكَ اَوْلٰى بِالْفَضْلِ وَاَعْوَدُ بِالْاِحْسَانِ

ہوں، میں جانتا ہوں کہ بیشک حجت و برہان تیرے لیے ہے اور (یہ بھی یقین رکھتا ہوں) کہ تو زیادہ لائق ہے ساتھ فضل کے

وَاَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ وَاَنَّكَ بِاَنْ تَعْفُوَ اَوْلٰى

اور بہت عادی ہے ساتھ احسان کے اور سزاوار ہے اس کا کہ ڈرا جائے تجھ سے اور لائق ہے بخشش کے ہم پر۔ اور یہ کہ تجھے عفو و درگزر زیادہ

مِنْكَ بِاَنْ تُعَاقِبَ وَاَنَّكَ بِاَنْ تَسْتُرَ اَقْرَبُ مِنْكَ اِلٰٓى اَنْ تُشَهِّرَ

لائق ہے بنسبت عقاب و عذاب دینے کے اور یہ کہ تیری پردہ داری زیادہ قریب ہے تجھ سے بنسبت ہمارے جرموں کی تشہیر کرنے کے

فَاَحْيِنِىْ حَيٰوةً طَيِّبَةً تَنْتَظِمُ بِهَا مَا اُرِيْدُ وَتَبْلُغُ بِهَا مَا اُحِبُّ مِنْ

پس مجھے زندگی عطا کر انتہائی پاکیزہ زندگی کہ انتظام پذیر ہو بسبب اس کے میری مراد اور رسائی بخشے مجھے بسبب اس کے

وَّصْلِكَ وَلَاۤ اٰتِىْ مَا تَكْرَهُ وَلَاۤ اَرْتَكِبُ مَا نَهَيْتَنِىْ عَنْهُ وَ اَمِتْنِىْ

جو میں محبوب رکھتا ہوں یعنی اپنے وصل تک۔ اور نہ کروں میں جو تجھے ناپسند ہے۔ اور نہ ارتکاب کروں میں ایسے امور کا جن سے تو نے مجھے منع کیا ہے اور

مِيْتَةَ مَنْ يَّسْعٰى نُوْرُهٗ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَّمِيْنِهٖ وَ ذَلِّلْنِىْ بَيْنَ يَدَيْكَ

مجھے وفات دے ان لوگوں جیسی کہ دوڑتا ہوگا نور ان کا ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب اور مجھے متواضع و منکسر بنا اپنے آگے

وَاَعِزَّنِىْ عِنْدَ خَلْقِكَ وَضَعْنِىْ اِذَا خَلَوْتُ بِكَ وَارْفَعْنِىْ بَيْنَ

اور مجھے عزت اور سربلندی بخش نزدیک اپنی مخلوق کے۔ اور مجھے پست بنا جب میں تیرے ساتھ خلوت میں ہوں۔ اور رفعت بخش مجھے اپنے

عِبَادِكَ وَاَغْنِنِىْ عَمَّنْ هُوَ غَنِىٌّ عَنِّىْ وَزِدْنِىْ اِلَيْكَ فَاقَةً وَّفَقْرًا

بندوں کے درمیان۔ اور غنی فرما مجھے ان سے جو مجھ سے بے پروا ہوں۔ زیادہ فرما اپنی طرف میرے فاقہ اور فقر کو

وَّاَعِذْنِىْ مِنْ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاۤءِ وَمِنْ حُلُوْلِ الْبَلَاۤءِ وَمِنَ الذُّلِّ وَ

اور مجھے پناہ دے دشمنوں کی مسرت و شادمانی سے۔ اور بلیات کے نزول سے اور بے سروسامانی اور

الْعَنَاۤءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مشقت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

وَّعَلٰى حَالِبِهٖ وَرَبَلَتِهٖ فِى الرَّبَلَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور ان کے مثانہ تک پہنچنے والی ہر رگ پر اور ان کے ہر ران کی جڑ پر رانوں کی جڑوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى نَوَاجِذِهِ الْعُظْمٰى وَنَوَاجِذِهِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے کچلیوں کے قریب والے بڑے دانت اور چھوٹے

الصُّغْرٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا

دانت پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى رُكْبَتِهٖ فِى الرُّكَبَاتِ وَمَابِضِهٖ فِى الْمَآبِضِ اَللّٰهُمَّ

آل پر۔ اور آپ کے گھٹنے (کے بیرونی حصے پر) گھٹنوں میں اور گھٹنے کے اندرونی حصے پر اندرونی حصوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے

كُرْدُوْسِهٖ فِى الْكَرَادِيْسِ وَرَضْفَتِهٖ فِى الرَّضَفَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

کندھے کی ہڈی پر کندھوں کی ہڈیوں میں۔ اور آپ کے گھٹنے کی ہڈیوں پر گھٹنوں کی ہڈیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى خِنَّابِهٖ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے ناک مبارک کے ہر نتھنے پر

فِى الْاَخْنَابِ وَسَاقِهٖ فِى السُّوْقِ وَطَرْفِهٖ فِى الْاَطْرَافِ اَللّٰهُمَّ

ناکوں کے نتھنوں میں اور آپ کی پنڈلی پر پنڈلیوں میں۔ اور ہر طرف اور عضو کے کنارے پر اطراف میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل امجاد پر۔ اور

عَلٰى قَصَبَتِهِ الْكُبْرٰى وَقَصَبَتِهِ الصُّغْرٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کے سانس کی بڑی نالی اور چھوٹی نالی پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى رِجْلِهٖ فِى الْاَرْجُلِ وَ

بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے ہر ایک پاؤں پر پاؤں میں اور

كَعْبِهٖ فِى الْكُعُوْبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا

آپ کے ہر ایک ٹخنے پر ٹخنوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى عَقِبِهٖ فِى الْاَعْقَابِ وَعُرْقُوْبِهٖ فِى الْعَرَاقِيْبِ اَللّٰهُمَّ

محمد کی آل پر اور آپ کی ہر ایک ایڑی پر ایڑیوں میں۔ اور آپ کے ایڑی سے اوپر والے پٹھے پر ان پٹھوں میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى زَوْرِهٖ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے وسط صدر پر

وَنُرْدِيَةٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا

اور سینہ کے سارے ڈھانچے پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اَخْمَصِهٖ فِی الْاَخَامِصِ وَقَدَمِهٖ فِی الْاَقْدَامِ وَظَهْرِ

محمد کی آل پر۔ اور آپکے قدم کے تلوے کی خمیدگی پر ان کی خمیدگیوں میں۔ اور آپکے ہر قدم پر اقدام میں اور ہر قدم کی پشت پر

قَدَمِهٖ فِی الظُّهْرَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

قدموں کی پشتوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی مُشْطِهٖ فِی الْاَمْشَاطِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

محمد کی آل پر اور آپ کی پشت پا پر یا اس کی باریک ہڈی پر ان ہڈیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اِصْبَعِ رِجْلَيْهِ فِی الْاَصَابِعِ وَكَفِّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے دونوں پاؤں کی ہر انگلی پر انگلیوں میں۔ اور آپ کے پاؤں

رِجْلَيْهِ فِی الْكُفُوْفِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی

کے تلووں پر تلووں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اَعْضَآئِهِ الْاَصْلِيَّةِ وَاَعْضَآئِهِ الْمُفْرَدَةِ

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے اعضاء اصلیہ پر اور آپ کے مفرد اعضاء پر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور

عَلٰی اَعْضَآئِهِ الْمُرَكَّبَةِ وَالرَّئِيْسَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

آپ کے اعضاء مرکبہ پر اور اعضاء رئیسہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اَعْضَآئِهِ الْخَادِمَةِ لِلرَّئِيْسَةِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے ان اعضاء پر جو اعضاء رئیسہ کے خادم ہیں

وَالْمَرْؤُسَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

اور مخدومہ اعضاء پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اَعْضَآئِهِ الْغَيْرِ الْمَرْؤُسَةِ وَلَا الرَّئِيْسَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد کی آل پر اور آپ کے اعضاء غیر مخدومہ اور غیر رئیسہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اَعْضَآئِهِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے اعضاء

الْخَادِمَةِ وَاَعْضَآئِهِ الْمُوَلِّدَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

خادمہ پر اور اعضاء تولید پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی رُطُوْبَتِهِ الْغَرِيْزِيَّةِ وَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی رطوبت غریزیہ پر اور

حَرَارَتِهِ الْغَرِيْزِيَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حرارت غریزیہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اُمُوْرِهِ الطَّبْعِيَّةِ فِی الطَّبَآئِعِ وَ

اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے امور طبیعیہ پر طبائع کے امور میں اور

رُكْنِهِ الشَّبَكِيَّةِ وَطَبَقَتِهِ الْمَشِيْمِيَّةِ وَالصُّلْبِيَّةِ وَرُطُوْبَتِهِ الْبَيْضِيَّةِ

آپ کی آنکھ کے طبقہ شبکیہ پر اور طبقۂ مشیمیہ پر اور طبقۂ صلبیہ پر اور رطوبت بیضیہ پر

وَالْجَلِيْدِيَّةِ وَالزُّجَاجِيَّةِ فِی الرُّطُوْبَاتِ وَعَصَبَتِهِ الْمُجَوَّفَةِ فِی الْاَعْصَابِ

اور رطوبت جلیدیہ پر اور رطوبت زجاجیہ پر رطوبات میں اور آپ (کی آنکھوں سے مجمع النور کی طرف جانیوالے) اندر سے خالی پٹھے پر پٹھوں میں

وَمَجْمَعِ نُوْرِهٖ فِی الْمَجَامِعِ وَمُقْلَتِهٖ فِی الْمُقَلَاتِ وَمَاقِ عَيْنِهٖ فِی الْاَمَاقِ

اور آپ کے مجمع النور پر (جہاں دونوں آنکھوں کی صورتیں پہنچ کر ایک بن جاتی ہیں) اور آپ کی آنکھ کے ڈھیلے پر ڈھیلوں میں اور آپ کی آنکھ کے اندرونی

وَمُقَدَّمِ عَيْنِهٖ فِی الْمَقَادِيْمِ وَمُؤَخَّرِ عَيْنِهٖ فِی الْاٰخِرِ وَنُقْرَةِ عَيْنِهٖ فِی

کنارہ پر ان کناروں میں۔ اور آپ کی آنکھ کے مقدم حصہ پر مقدم حصوں میں۔ اور آپ کی آنکھ کے مؤخر حصے پر مؤخر حصوں میں اور آپ کی آنکھ کے گڑھے پر

النُّقَرِ وَشَحْمَةِ عَيْنِهٖ فِی الشُّحُوْمِ وَاِنْسَانِ عَيْنِهٖ فِی الْعُيُوْنِ وَمَرْمَعِهٖ

گڑھوں میں۔ اور آپ کی آنکھ کے ڈھیلے پر ڈھیلوں میں۔ اور آپ کی آنکھ کی پتلی پر آنکھوں میں اور آنکھ کے سفید کشادہ حصے پر

فِی الْمَرَامِعِ وَحَدَقَتِهٖ فِی الْاَحْدَاقِ وَجُنْدُرِهٖ فِی الْجَنَادِيْرِ وَكُلَيْلِهٖ فِی

کشادہ حصوں میں اور آپ کی آنکھ کے سیاہ پتلی پر سیاہ پتلیوں میں۔ اور آنکھ کے نورانی حصے پر نورانی حصوں میں۔ اور نورانیت سے خالی حصے

الْاَكَالِيْلِ وَشُهْلَتِهٖ فِيْ اَشْهَلِ الْاَعْيَانِ وَاَزْدِرِيْهِ وَلَخْصَتِهٖ

پر نورانیت سے خالی حصوں میں۔ اور آپ کی ہر آنکھ کے سیاہ سرخی مائل حصے پر ایسے حصوں میں۔ اور ہر آنکھ کے گرد کی ہڈیوں پر۔ اور آنکھوں کے پپوٹوں کی

فِي الْخِمَاصِ وَصُدْغِهٖ فِي الْاَصْدَاغِ وَعَظْمِ زَوْجِهٖ وَاَصْدَغَيْهِ

پیدائشی موٹائی اور ابھار پر ان کی موٹائی اور ابھاروں میں۔ اور آپ کی کنپٹی پر کنپٹیوں میں اور دونوں کنپٹیوں کی ہڈی پر اور کنپٹیوں کی دونوں

وَاُذُنِهٖ فِي الْاٰذَانِ وَخِتَارِ اُذُنِهٖ فِي الْخِتْرِ وَشَحْمَةِ اُذُنِهٖ فِي الشُّحُوْمِ

رگوں پر اور آپ کے ہر کان پر کانوں میں۔ اور کانوں کے نرم اور ڈھیلے حصے پر ڈھیلے حصوں میں۔ اور کانوں کے نرموں پر نرموں میں

وَغُضْنِ اُذُنِهٖ فِي الْغُصُوْنِ وَغُفَيْرَتِهٖ فِي الْغَفَائِرِ وَصِمَاخِهٖ فِي

اور آپ کے کان کی شاخ پر ان کی شاخوں میں اور اس کے بڑھے ہوئے حصے پر ان بڑھے ہوئے حصوں میں۔ اور اس کے ہر سوراخ پر

الْاَصْمِخَةِ وَجُوْبَتِهٖ وَوَشِيْجَتِهٖ فِي الْوَشَائِجِ وَذِفْرِيَّتِهٖ فِي الذَّفَارِيّ

سوراخوں میں اور ہر کان کے گڑھے اور گہرائی پر اور کانوں کی ہر رگ پر اور کانوں کے پیچھے والی ہڈیوں پر ان ہڈیوں میں

وَكِفَافِهٖ وَلَهْزَمَتِهٖ وَاللَّهَازِمِ وَمَحَارَتِهٖ فِي الْمَحَارَاتِ وَوَتِدِهٖ

اور ہر کان کے محیط اور گھیرے پر۔ دونوں جبڑوں پر جبڑوں میں اور کانوں کے گڑھے پر گڑھوں میں اور کان کے سامنے والے ابھرے ہوئے

فِي الْاَوْتَادِ وَوَجْهِهٖ فِي الْوُجُوْهِ وَخَدِّهٖ فِي الْخُدُوْدِ وَعَارِضِهٖ فِي الْعَوَارِضِ

حصے پر ان ابھرے حصوں میں۔ اور آپ کے چہرہ پر چہروں میں اور رخسار پر رخساروں میں گالوں پر گالوں میں۔

وَوَجْنَتِهٖ فِي الْوَجَنَاتِ وَعَظْمِ وَجْنَتِهٖ فِي الْعِظَامِ وَوَافِدَيْهِ

اور ہر رخسار پر رخساروں میں۔ اور رخساروں کی ہڈیوں پر ان ہڈیوں میں۔ اور رخساروں کے نرم اور ملائم

دِيْبَاجَتَيْ خَدِّهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

حصوں پر جو طعام چباتے وقت ابھر آئیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْاَدْعَجِ الْاَدْوَمِ الْاَزَجِّ الْاَدْعَجِ وَ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کرسیاہ موٹی اور اپنے مرکز میں گھومنے والی آنکھوں والے ہیں اور باریک لمبے ابروؤں پر جو ملنے

غَبْغَبِ ذَقَنِ الْاَبْلَجِ وَعُبَابِ ذَاقِنِ الْاَبْرَجِ بِحُرْمَةِ

والے اور سیاہ رنگ ہیں اور ٹھوڑی کے نیچے لٹکے روشن اور چمکیلے حصے پر۔ اور ٹھوڑی کے گنبد نما ابھار پر

سَيِّدِ الْاَحْسَنِيْنَ وَعِذَارِهٖ وَشَاكِلَتِهٖ وَعَضَلَتَيْهِ الْعَرِيْضَتَيْنِ

بطفیل حرمت حسینوں کے سردار کے۔ اور آپ کے رخسار پر۔ اور آپ کی شکل اور انداز تخلیق پر۔ اور دونوں مضبوط چوڑے پٹھوں پر

وَاَنْفِهٖ وَاَرْنَبَتِهٖ وَمَارِنِهٖ وَصَفْحَةِ وَجْهِهٖ وَسِمَانِهٖ وَعِرْنِيْنِهٖ

اور آپ کی ناک پر۔ اور آپ کی ناک کے سرے پر اور اس کے نرم و ملائم حصے پر۔ چہرے کے کنارے اور عارض رخ پر اور اس کے ابھار پر اور

وَمَصَافِتِهٖ وَمَنْخَرِهٖ وَنَاظِرَيْهِ وَنُخْرَةِ اَنْفِهٖ وَوَتَرِ اَنْفِهٖ وَ

ناک کی نوک پر اور نوک مبارک کی ڈھلوان اور آپکے ناک مبارک کے ہر نتھنے پر اور آنکھوں کی دونوں رگوں پر جو سر تک پہنچتی ہیں۔ اور آپکے ناک کے اگلے حصے

اَسْهَرَيْهِ وَخُنَابَتَيْهِ وَخَيْشُوْمِهٖ وَتَفْرَتِهٖ وَاَنْفِهٖ فِي الْاٰنَافِ

پر۔ اور ناک کے بانسے اور مونچھوں کی درمیانی جگہ پر۔ اور ناک کی دونوں رگوں پر۔ اور اسکے دونوں نتھنوں پر۔ اور اس کے بانسے پر اور اوپر والے ہونٹ کے گڑھے پر اور

وَحُلْمَتَيْ ثَدْيِهٖ وَشَارِبِهٖ وَسَبَلَتِهٖ وَشَفَتِهٖ وَشَفَتِهِ الْعُلْيَا وَ

آپکی ناک پر ناکوں میں۔ اور پستانوں کے سروں پر۔ اور مونچھوں پر۔ مونچھوں کے بڑھے ہوئے کناروں پر۔ اور آپکے ہر دو ہونٹ پر اور بالائی ہونٹ اور

السُّفْلٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُمْرَةِ شَفَتَيْهِ وَعَنْفَقَتِهٖ وَ

زیریں ہونٹ پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہونٹوں کی گلابی رنگت پر۔ اور لب زیریں اور ٹھوڑی کے درمیانی بالوں پر۔ اور

مَغْفَلِهٖ وَفُوْهِهٖ وَاِطَارِ شَفَتِهٖ اَللّٰهُمَّ اَصْعِدْ رُوْحِيْ اِلٰى

لب زیریں کے بالوں پر اور آپ کے منہ مبارک پر۔ اور ہونٹ کے کنارے پر۔ اے اللہ بلند فرما میری روح کو

سَمَاۗءِ الْقُدْسِ مِنْ غَيْرِ اٰفَةٍ فِي الصُّعُوْدِ وَبَصِّرْنِيْ حَقِيْقَةَ كُلِّ

آسمان قدس تک بغیر کسی آفت اور رکاوٹ کے بلند ہونے میں اور مجھے بصیرت عطا فرما ہر فرشتے کی حقیقت کی

مَلَكٍ ظُلْمَانِيٍّ اَوْ نُوْرَانِيٍّ نَفَّاعٍ اَوْ ضَرَّارٍ وَّخَبِّرْنِيْ عَنْ اِشَارَاتِهٖ

وہ فرشتہ ظلمانی ہو۔ خواہ نورانی۔ نفع دینے والا ہو۔ یا ضرر دینے والا ہو۔ اور مجھے باخبر بنا ان کے اشارات سے

وَلَحَظَاتِهٖ ثُمَّ اجْعَلْنِيْ دَثِيْرًا عِنْدَهُمْ حَتّٰى اَسْكُنَ لَدَيْهِمْ وَاَعْلَمَ

اور آنکھیں پھیرنے سے۔ پھر بنا مجھے انہیں سے لپٹنے اور قریب رہنے والا حتیٰ کہ میں سکون حاصل کروں ان کے پاس اور معلوم کرلوں

بِاَنْوَاعِ تَسْبِيْحَاتِهِمْ وَكَيْفِيَّةِ الْقُوَّةِ وَالضُّعْفِ بَيْنَهُمْ وَاسْتِيْلَاۗءِ

ان کی تسبیحات کے انواع واقسام۔ اور ان میں قوت اور ضعف کی کیفیت کو اور بعض کے بعض پر غلبہ

البعض على البعض وتشبكهم في جملتهم وتموجهم عند وعدهم

پانے کو۔ اور ان کے باہمی اختلاط کو اور اُن کے لہروں کی مانند چلنے کو وعدہ کے وقت میں

فلا اخاف ولا ارهب عند السماع بل اكون قائما

پس میں نہ خوف کھاؤں اور نہ ڈروں (ان کی کیفیاتِ افعال) سُننے پر۔ بلکہ میں قائم رہوں تیری توفیق کے

بك عند حضرتك فكل هول ودهشة وهيبة عرضني

ساتھ تیری بارگاہ میں۔ پس جو ہول و دہشت اور ہیبت مجھے پیش آئے

فادفعه عني من غير ان يسري في الوجل فاقهقر قهقرى

پس اسے مجھ سے دور کر دینا بغیر اس کے کہ سرایت کرے مجھ میں ڈر اور خوف پس میں اُلٹے پاؤں پھروں

ولا الخجل فامنع عن خيرها وبرها اللهم لا تهدني الا

اور باشرمندگی پس میں محروم کر دیا جاؤں اس بارگاہ میں کی خیر اور بھلائی سے۔ اے اللہ میری رہنمائی نہ فرما مگر

على مطالعات خدمتك ومساهرات حضرتك و

اپنی بارگاہ کے مطالعہ و مشاہدہ پر اور اپنی بارگاہ میں بیداریوں پر اور

النفس ان بغت عن اطاعتها واعرضت فلا تجعلها

میرا نفس اگر بغاوت کرے اطاعت سے اور اعراض کرے تو اسے نہ بنانا

باغية ظالمة بل اجعلها طائعة عادلة بحيث تصير روحية

باغی اور ظالم بلکہ (اپنی قدرت کاملہ سے) اس کو بنا دینا طاعت گزار اور عادل اس انداز میں کہ وہ روح کی مانند ہو جائے

فلا يفرق الفاصل بينهما بصفة من صفات فارقة بينهما فمرة

پس نہ جدائی پیدا کرے ان میں کوئی جدائی پیدا کرنے والا ساتھ ایسی صفت کے جو ان میں فرق اور تمیز پیدا کرنے والی ہو پس کبھی

تصير بصفات روحية ومرة بنفسانية ومرة تصير بهما فلا

تو اس کو ڈھالے روحانی صفات میں۔ اور کبھی نفسانی میں اور کبھی دونوں میں۔ پس نہ

يمنع ملك من الملكوت لها بقوله اذهبي ليس لك وصول

روکے عالم بالا کا کوئی فرشتہ اس کو یہ کہہ کر "چلے جاؤ تم مقام وصول کے لائق نہیں

انت نفس باغية ظالمة ابية من ابناء من ظلم اولا ربنا ان

تو تو باغی نفس ہے اور ظالم اور انکار کرنے والا (تعمیل احکام سے) اور اس شخص کی اولاد سے ہے جس نے پہلے پہل ظلم (خلاف اولیٰ) کیا۔ اے رب ہمارے

لم تظهرنا وتهدنا لنكونن ممن لم يهد الى ربنا فننقلب خاسرا

اگر تو ہمیں (اپنے نفس پر) غالب نہ کرے اور ہدایت عطا نہ کرے تو البتہ ضرور ہو جائیں گے ہم ان سے جو نہیں ہدایت دیئے گئے طرف پروردگار کے

غير راشد فارشدنا وارنا ما املنا من كشوف ما غاب عنا

پس ہو جائیں گے رسوا اور بے راہ پس ہمیں راہ دکھلا اور ہمیں ہماری تمنائیں دکھلا یعنی انکشاف فرما ان امور کا جو ہم سے غائب ہیں اپنے

بلطفك الخفي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و

مخفی الخفی لطف و کرم کے ساتھ۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

على ال سيدنا محمد وعلى مزاجه في الامزجة وخلطه في

سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے مزاج مقدس پر مزاجوں میں۔ اور آپ کی ہر خلط پر

الاخلاط وروحه النفسانية في النفوس وروحه الطبيعية في

اخلاط میں۔ اور آپ کے روح نفسانی پر نفوس میں۔ اور آپ کے روح طبعی پر

الطبائع وروحه الحيوانية في الحيوانات اللهم صل وسلم

طبائع میں۔ اور روح حیوانی پر جانداروں میں۔ اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج

على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى فعله في الافعال

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے ہر فعل پر افعال میں

وقوته في القوى وقوته الغاذية والنامية والمولدة والمصورة والجاذبة و

اور آپ کی قوت پر قوتوں میں اور آپ کی قوت غاذیہ پر اور قوۃ نامیہ پر۔ اور قوت مولدہ پر اور قوت مصورہ پر۔ اور خوراک کو جذب کرنیوالی قوت پر

الماسكة والهاضمة والدافعة والمحرقة والشوقية والشهوانية

اور اسے معدے وغیرہ میں روکے رکھنے والی قوت پر اور قوت ہاضمہ پر اور فضلات کے دور کرنے والی قوت پر۔ اور جلانیوالی اور شوق والی قوت پر شہوانی

والغضبية وقوته المدركة وقوة بصره في المبصرات وقوة

اور غضبی قوت پر۔ اور آپ کے علوم و ادراک والی ہر قوت پر۔ اور قوت بصر پر مبصرات میں آپ کے

سَمْعِهٖ فِی الْمَسْمُوْعَاتِ وَشَمِّهٖ فِی الْمَشْمُوْمَاتِ وَذَوْقِهٖ فِی الْمَذُوْقَاتِ
سننے کی قوت پر مسموعات میں۔ اور سونگھنے کی قوت پر سونگھی جانے والی چیزوں میں اور چکھنے کی قوت پر چکھی جانیوالی چیزوں میں

وَلَمْسِهٖ فِی الْمَلْمُوْسَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ
اور چھونے کی قوت پر چھوئی ہوئی چیزوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰٓی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی حَوَاسِّهِ الظَّاهِرَةِ فِی الظَّوَاهِرِ وَالْبَاطِنَةِ
سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے حواس ظاہرہ پر ظاہری حواسوں میں۔ اور حواس باطنہ پر

فِی الْبَوَاطِنِ وَحِسِّهِ الْمُشْتَرَكِ فِی الْحَوَاسِّ وَوَهْمِهٖ فِی الْاَوْهَامِ وَ
باطنی حواسوں میں۔ اور آپ کی حس مشترک پر حواس مشترکہ میں اور حس وہم پر حاسہائے وہم میں۔ اور

حَافِظَتِهٖ فِی الْحَافِظَاتِ وَخَيَالِهٖ فِی الْخَيَالَاتِ وَمُتَصَرِّفَتِهٖ
حاسۂ حفظ پر حواس حفظ میں اور حاسۂ خیال پر حواس خیال میں۔ اور آپ کی قوت متصرفہ پر

فِی الْمُتَصَرِّفَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی
قوائے متصرفہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی لَوْنِهٖ فِی الْاَلْوَانِ وَصُوْرَتِهٖ فِی الصُّوَرِ وَ
محمد کی آل پر۔ اور آپ کی رنگت پر الوان میں اور صورت مبارکہ پر صورتوں میں اور

حِلْيَتِهٖ فِی الْحُلٰی وَهَيْئَتِهٖ فِی الْهَيْئَاتِ وَشَكْلِهٖ فِی الْاَشْكَالِ وَ
آپ کے حلیہ مبارک پر حلیوں میں۔ اور آپ کی ہیئت پر ہیئتوں میں اور شکل مبارک پر شکلوں میں اور

جَمَالِهٖ فِی الْاَجْمَلِيْنَ وَحُسْنِهٖ فِی الْحِسَانِ وَنُوْرِهٖ فِی الْاَنْوَارِ وَ
آپ کے جمال پر ارباب جمال میں۔ اور آپ کے حسن پر ارباب حسن میں۔ اور آپ کے نور پر انوار میں اور

نَاظِرِهٖ فِی النَّوَاظِرِ الْاَنْظَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ
آپ کی نظر پر دیکھنے والی نظروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰٓی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی لَحْظَتِهٖ فِی اللَّحَظَاتِ وَطَرْفَتِهٖ فِی الطَّرَفَاتِ
سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے آنکھ کے کنارے سے دیکھنے پر اور آنکھ جھپکنے پر آنکھیں جھپکنے میں۔

وَلَمْحَتِهٖ فِی اللَّمَحَاتِ وَبَصِيْرَتِهٖ فِی الْبَصَآئِرِ وَرَآئِحَتِهٖ فِی الرَّوَآئِحِ
اور آپ کے نظر اٹھا کر دیکھنے پر اور آپ کی بصیرت پر بصیرتوں میں اور آپ کی خوشبو پر خوشبوؤں میں

وَعَطْسَتِهٖ فِی الْعَطَسَاتِ وَصَوْتِهٖ فِی الْاَصْوَاتِ وَلَحْنِهٖ فِی الْاَلْحَانِ
اور آپ کی چھینک پر چھینکوں میں۔ اور آواز پر آوازوں میں۔ اور آپ کی خوش آوازی پر خوش آوازیوں میں

وَلَفْظِهٖ فِی الْاَلْفَاظِ وَكَلِمَتِهٖ فِی الْكَلِمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا
اور آپ کے تلفظ پر تلفظات میں۔ اور آپ کے ہر کلمہ پر کلمات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی كَلَامِهٖ فِی الْمُتَكَلِّمِيْنَ
محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کے کلام پر کلام کرنے والوں میں۔

وَقَوْلِهٖ فِی الْاَقْوَالِ وَنَفَسِهٖ فِی النُّفُوْسِ وَالْاَنْفَاسِ وَنَفْسِهِ
اور آپ کے قول پر اقوال میں۔ اور آپ کے نفس پر نفوس میں (اور سانس پر) سانسوں میں۔ اور آپکے نفس

النَّاطِقَةِ فِی النَّاطِقِيْنَ وَسُكُوْتِهٖ فِی السَّاكِتِيْنَ وَصَمْتِهٖ فِی
ناطقہ پر نفوس ناطقہ میں۔ اور آپ کے سکوت پر خاموش رہنے والوں والوں میں۔ اور آپکے چپ رہنے پر

الصَّامِتِيْنَ وَبُكَآئِهٖ فِی الْبَاكِيْنَ وَضِحْكِهٖ فِی الضَّاحِكِيْنَ وَتَبَسُّمِهٖ
چپ رہنے والوں میں۔ اور آپ کے رونے پر رونے والوں میں اور آپ کے ہنسنے پر ہنسنے والوں میں اور تبسّم پر

فِی الْمُتَبَسِّمِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ
تبسّم کرنے والوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی مَشْيِهٖ فِی الْمُشَاةِ وَخُطْوَتِهٖ فِی الْخُطُوَاتِ وَ
آل پر۔ اور آپ کے چلنے پر چلنے والوں میں۔ اور آپ کے قدموں (کے درمیانی فاصلے) پر قدموں میں اور

حَرَكَتِهٖ فِی الْحَرَكَاتِ وَسُكُوْنِهٖ فِی السَّكَنَاتِ وَوَسَخِهٖ فِی الْاَوْسَاخِ وَ
آپ کی ہر جنبش پر جنبشوں میں۔ اور ہر سکون پر سکنات میں اور آپ کی میل پر میلوں میں اور

عَرَقِهٖ فِی الْاَعْرَاقِ وَدَمِهٖ فِی الدِّمَآءِ وَمُهْجَتِهٖ فِی الْمُهَجِ وَبَلْغَمِهٖ فِی
پسینہ پر پسینوں میں۔ اور آپ کے خون پر خونوں میں۔ اور آپ کے دل کے خون پر ان خونوں میں اور بلغم پر

الْبَلَاغِمِ وَصُفْرَآئِهٖ فِي الصَّفْرَاوِيِّيْنَ وَسَوْدَآئِهٖ فِي السَّوْدَاوِيِّيْنَ اَللّٰهُمَّ

بلغموں میں۔ اور آپ کی خلط صفراء پر ارباب صفراء میں اور خلط سوداء پر ارباب سوداء میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى رِيْحِهٖ فِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ اور آپ کی خوشبو پر

الرِّيَاحِ وَدَمْعِهٖ فِي الدُّمُوْعِ وَعَبْرَتِهٖ فِي الْعَبَرَاتِ وَصَمْلُوْخِهٖ فِي

خوشبوؤں میں اور آنسو پر آنسوؤں میں۔ اور آپ کے بہتے آنسو پر بہتے آنسوؤں میں۔ اور آپکے کان کے اندرونی میل پر

الصَّمَالِيْخِ وَذَنِيْنِهٖ فِي الذَّنِيْنِ وَبُزَاقِهٖ وَرِيْقِهٖ فِي الْاَرْيَاقِ وَ

ان میلوں میں۔ اور آپ کے ناک کی ریزش پر ناکوں کی ریزشوں میں۔ اور آپ کے لعاب دہن اور تھوک پر تھوکوں میں اور

نُفَاثَتِهٖ فِي النُّفَاثَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

لعاب دہن سے آمیزاں پھونک پر ایسے پھونکوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّرِيْدٍ كُلِّ مَزِيْدٍ وَّمُزِيْدٍ كُلِّ مُرِيْدٍ وَّرَوْحِ الْعِبَادِ

سیدنا محمد کی آل پر جو ارادہ فرمانے والے ہیں ہر کمال میں ترقی کا اور زائد بخشنے والے ہیں ہر ارادت مند کو

وَرُوْحِ الْعُبَّادِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

اور بندگان خدا کا سروسامان راحت ہیں۔ اور عبادت گزاروں کی روح ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ عَظُمَ خَلْقُهٗ وَعُظِّمَ خُلُقُهٗ وَغَيْنِ كُلِّ عَنِيْدٍ وَّعَيْنِ كُلِّ

محمد کی آل پر جن کی خلقت عظیم ہو گئی اور جن کے خلق کو عظیم بنایا گیا جو آنکھ ہیں ہر تابعدار کی اور حجاب و پردہ ہیں ہر

عَنِيْدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

معاند کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر

مَظْهَرِ تَجَلِّيَاتِ الْعَبْدِيَّةِ وَالْجِنَانِ الْعِنْدِيَّةِ وَوَعِيْدِ كُلِّ شَقِيٍّ

جو آقا مظہر ہیں عبدیت کے انوار و تجلیات کے اور قربت والی جنات کے اور وعید نار ہیں ہر شقی کے لیے

وَّوَعْدِ كُلِّ نَقِيٍّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

اور وعدۂ جنت ہیں ہر پاکیزہ کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْمُخْلَصِيْنَ وَالْمُخْلِصِيْنَ وَدُرَّةِ الْمَجْدِ وَكَمَالِهٖ

سیدنا محمد کی آل پر جو خاتم ہیں خالص کئے ہوئے لوگوں کے اور ارباب اخلاص کے اور مجد و کمال کا دُرِ یکتا ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِيْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر جس آقا کے

جَعَلْتَ رَاْسَهٗ مِنَ الْهُدٰى وَسَمْعَهٗ مِنَ الطَّاعَةِ وَحَوَاجِبَهٗ مِنَ

سر ناز کو بنایا ہے تونے ہدایت سے۔ اور سمع مبارک کو طاعت سے۔ اور بھنوؤں کو

التَّفَكُّرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

تفکر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِيْ جَعَلْتَ عَيْنَهٗ مِنَ النُّوْرِ وَاَنْفَهٗ مِنَ الزُّهْدِ وَفَمَهٗ مِنَ الْحِكْمَةِ

کہ جس آقا کی آنکھ کو تونے نور سے بنایا ہے اور آپ کی ناک کو زہد سے۔ اور منہ مبارک کو حکمت سے

وَاَسْنَانَهٗ مِنَ اللُّؤْلُؤِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى

اور دانتوں کو موتیوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِيْ جَعَلْتَ لِسَانَهٗ مِنَ الصِّدْقِ وَلِحْيَتَهٗ مِنَ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کی زبان مبارک کو تونے صدق سے بنایا ہے۔ اور ڈاڑھی مبارک کو

الرِّضَا وَعُنُقَهٗ مِنَ التَّوَاضُعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رضا سے اور گردن مبارک کو تواضع سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِيْ جَعَلْتَ صَدْرَهٗ مِنَ الْحَيٰوةِ وَيَدَهٗ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے سینہ کو بنایا ہے تونے حیواۃ سے۔ اور ہاتھوں کو

مِنَ السَّخَاوَةِ وَبَطْنَهٗ مِنَ الْقَنَاعَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

سخاوت سے اور پیٹ مبارک کو قناعت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ݨِ الَّذِيْ جَعَلْتَ قَلْبَهٗ مِنَ الْاِخْلَاصِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جن کے دل انور کو تونے اخلاص سے بنایا

وَرِئَتَهٗ مِنَ السَّكِيْنَةِ وَكَبِدَهٗ مِنَ الْحَنَانَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
اور پھیپھڑے کو سکینت و وقار سے۔ اور جگر کو شفقت و رحمت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ جَعَلْتَ بَشَرَتَهٗ مِنَ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ جن کی جلد مبارک کو تو نے
الْعِصْمَةِ وَفَخِذَهٗ مِنَ الْوَرَعِ وَقَدَمَهٗ مِنَ الْاِسْتِقَامَةِ اَللّٰهُمَّ
عصمت سے بنایا۔ اور ہر ران کو تقویٰ سے اور ہر قدم کو استقامت و ثابت قدمی سے۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ اَسْرَارِ
صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو تیرے راز مخفی کے سرّ الاسرار ہیں
سِرِّكَ وَمَحَلِّ بِرِّكَ وَاِنْسَانِ كُلِّ اِنْسَانٍ وَّمَوْضِعِ الْاَمَانِ اَللّٰهُمَّ
اور تیرے برو احسان کا محل ہیں اور ہر انسان (کی آنکھ کی) پتلی اور امان کی جگہ ہیں۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ
صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ پھوٹے
تَفَتَّقَتْ مِنْ نُّوْرِهٖ جَمِيْعُ الْاَنْوَارِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا نُوْرَ الْمُصْطَفٰى
انہیں کے سرچشمہ نور سے سبھی انوار۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما نورِ مصطفیٰ
وَسُرُوْرَ الْمُصْطَفٰى وَظُهُوْرَ الْمُصْطَفٰى وَشَفَاعَةَ الْمُصْطَفٰى وَلَطَافَةَ
اور سرور مصطفیٰ۔ ظہور مصطفیٰ اور شفاعت مصطفیٰ لطافت
الْمُصْطَفٰى وَعِنَايَةَ الْمُصْطَفٰى وَاِعَانَةَ الْمُصْطَفٰى وَاِيْمَانَ الْمُصْطَفٰى
مصطفیٰ عنایت مصطفیٰ اور اعانت مصطفیٰ۔ ایمان مصطفیٰ
وَاِسْلَامَ الْمُصْطَفٰى وَبَهَاءَ الْمُصْطَفٰى وَلِقَاءَ الْمُصْطَفٰى وَاِخْلَاصَ
اور اسلام مصطفیٰ بہاء مصطفیٰ اور لقاء مصطفیٰ۔ اخلاص
الْمُصْطَفٰى وَبُرْهَانَ الْمُصْطَفٰى وَحُجَّةَ الْمُصْطَفٰى وَفَقْرَ
مصطفیٰ اور دلیل و برہان مصطفیٰ۔ حجت و استدلال مصطفیٰ۔ درویشی و فقر

الْمُصْطَفٰى وَبَرَكَةَ الْمُصْطَفٰى وَاَجْرَ الْمُصْطَفٰى وَقُوَّةَ الْمُصْطَفٰى
مصطفیٰ برکت مصطفیٰ اور جزاء و اجر مصطفیٰ۔ قوت و طاقت مصطفیٰ
وَنُصْرَةَ الْمُصْطَفٰى وَثَوَابَ الْمُصْطَفٰى وَتَوَكُّلَ الْمُصْطَفٰى وَشُكْرَ
اور نصرت و اعانت مصطفیٰ۔ ثواب مصطفیٰ اور توکل مصطفیٰ شکر
الْمُصْطَفٰى وَصَبْرَ الْمُصْطَفٰى وَجَمِيْلَ الْمُصْطَفٰى وَجَمَالَ الْمُصْطَفٰى
مصطفیٰ اور صبر مصطفیٰ۔ اجر جمیل مصطفیٰ اور حسن و جمال مصطفیٰ
وَجَنَّةَ الْمُصْطَفٰى وَصَلٰوةَ الْمُصْطَفٰى وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ
جنت مصطفیٰ اور صلوٰۃ مصطفیٰ (بطور تبعیت و تطفل کے اور عکس و پرتو کے محبوب کے) اور صلوٰۃ بھیجے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے
مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ؕ
بہتر اور سردار محمد پر اور آپ کی آل پر اور تمام اصحاب کرام پر ساتھ اپنی رحمت کے اے سب رحم کرنیوالوں سے بہت زیادہ رحم کرنیوالے
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر
نِ الَّذِىْ كَانَ لَا يَجْلِسُ اِلَّا عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِذَا انْتَهٰى اِلٰى قَوْمٍ جَلَسَ
کہ جو نہیں تشریف فرما ہوتے تھے کسی مجلس میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذکر پر۔ اور جب پہنچتے کسی قوم (کی مجلس) تک تو بیٹھ جاتے
حَيْثُ يَنْتَهِىْ بِهِ الْمَجْلِسُ وَيَاْمُرُ بِذٰلِكَ وَيُعْطِىْ كُلَّ جُلَسَآئِهٖ
جہاں پر مجلس اور محفل کی انتہاء ہوتی (اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہ بڑھتے تھے) اور اسی طریق پر عمل کا حکم دیتے تھے اور عطا فرماتے تھے اپنے
بِنَصِيْبِهٖ وَلَا يَحْسَبُ جَلِيْسُهٗ اَنَّ اَحَدًا اَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ مِمَّنْ
تمام ہمنشینوں کو ان کا حصہ اور نہ گمان کرتا آپ کا ہمنشین کہ کوئی شخص اس سے آپ کے نزدیک زیادہ اکرام والا ہے
جَالَسَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
اہل مجلس سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا
مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ وَاسِعَ النَّاسِ بَسْطُهٗ وَخُلُقُهٗ فَصَارَ لَهُمْ اَبًا وَّ
محمد کی آل پر کہ احاطہ کئے ہوئے تھی سب لوگوں کو آپ کی خوش مزاجی اور آپ کا حسن خلق پس آپ ان کے لیے باپ کی مانند تھے

صَارُوْا عِنْدَهٗ فِی الْحَقِّ سَوَآءً اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور وہ سبھی آپ کے نزدیک استحقاق میں برابر تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ مَجْلِسُهٗ مَجْلِسَ عِلْمٍ وَّحَيَآءٍ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کی محفل مبارک سراسر علمی محفل تھی اور حیاء

وَّصَبْرٍ لَّا تُرْفَعُ فِيْهِ الْاَصْوَاتُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و صبر والی جس میں آوازیں بلند نہیں کی جاتی تھیں (آپ کے ادب و احترام کی وجہ سے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ جُلَسَآئُهٗ مُتَعَادِلِيْنَ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی بارگاہ ناز میں بیٹھنے والے باہم عدل و انصاف سے کام لینے والے تھے

يَتَفَاضَلُوْنَ فِيْهِ بِالتَّقْوٰی مُتَوَاضِعِيْنَ يُوَقِّرُوْنَ فِيْهِ

اور مجلس شریف میں ان کی فضیلت تقویٰ کے ذریعے ہوا کرتی تھی باہم تواضع سے پیش آنے والے تھے، تعظیم کرتے تھے

الْكَبِيْرَ وَيَرْحَمُوْنَ فِيْهِ الصَّغِيْرَ وَيُؤْثِرُوْنَ ذَا الْحَاجَةِ وَ

اس میں بڑے کی۔ اور رحمت کرتے تھے چھوٹے پر اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے محتاجوں کو اور

يَحْفَظُوْنَ الْغَرِيْبَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی

مسافر کی حفاظت کرتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ اَوْقَاتُهٗ ثَلٰثَةَ اَجْزَآءٍ جُزْءٌ لِّلّٰهِ وَ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کے اوقات تین حصوں پر منقسم تھے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے

جُزْءٌ لِّاَهْلِهٖ وَجُزْءٌ لِّنَفْسِهٖ ثُمَّ جُزْءُهٗ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّاسِ اَللّٰهُمَّ

دوسرا حصہ اہل و عیال کی خبر گیری کے لیے۔ اور تیسرا حصہ اپنے لیے پھر آپ والا حصہ آپ کے اور عام لوگوں کے درمیان مشترک تھا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا نے

قَسَّمَ الْوَقْتَ عَلٰی قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِی الدِّيْنِ وَحَوَآئِجِهِمْ

تقسیم فرمایا وقت کو (غلاموں میں) ان کے دینی فضائل اور ان کے ضروریات کے مطابق

فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ وَيُشْغِلُهُمْ فِيْمَا يُصْلِحُهُمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پس آپ ان کے ساتھ (تبلیغ و تعلیم میں) مشغول رہتے۔ اور انہیں مشغول رکھتے ان کے اصلاحی امور میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ يَشْغَلُ بِالْاُمَّةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا مشغول رہتے تھے اُمّت کے ساتھ

مِنْ مَّسْئَلَتِهِمْ عَنْهُ وَاِخْبَارِهِمْ بِالَّذِیْ يَنْبَغِیْ لَهُمْ وَيَقُوْلُ لِيُبَلِّغِ

ان کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے اور انہیں ایسے امور کی خبریں دینے کی وجہ سے جو ان کے لیے موزوں تھے اور فرماتے "چاہیے کہ

الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَآئِبَ وَاَبْلِغُوْنِیْ حَاجَةَ مَنْ لَّا يَسْتَطِيْعُ اِبْلَاغَهٗ

پہنچائے تم میں سے حاضر مجلس غائب کو اور پہنچاؤ مجھے حاجت اس شخص کی جو براہ راست پیش کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ

الَّذِیْ كَانَ مُتَوَاصِلَ الْاَحْزَانِ وَالْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهٗ رَاحَةٌ اَللّٰهُمَّ

جو محبوب ہمیشہ قلبی طور پر حالت حزن و ملال میں رہتے تھے اور تفکر کی حالت میں اور نہیں تھی (بوجہ غم امت کے) آپ کے لیے راحت

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب (ظاہری طور پر مخلوق کے ساتھ)

كَانَ دَآئِمَ الْبِشْرِ وَعَظِيْمَ الْخُلُقِ اِنْ صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ وَاِنْ

ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملتے اور آپ کے اخلاق عظیم تھے۔ اگر خاموشی اختیار فرماتے تو بھی پر وقار انداز ہوتا تھا اور اگر

تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ

کلام فرماتے تو آپ سب سے بلند و بالا ہوتے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ مَنْ رَّاٰهُ بَدَاهَةً هَابَهٗ وَمَنْ خَالَطَهٗ مَعْرِفَةً

سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہیں کسی نے اچانک دیکھا تو آپ کی خداداد ہیبت سے مرعوب ہو گیا اور جس نے صحیح پہچان اور عرفان کے ساتھ میل جول

اَحَبَّهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

رکھا تو آپ کا محب بن گیا اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدِ الَّذِیْ کَانَ اَجْوَدَ النَّاسِ لَا یَدَّخِرُ شَیْئًا لِغَدٍ وَّاَشْجَعَهُمْ

محمد کی آل پر کہ جو محبوب سب لوگوں سے زیادہ جواد اور سخی تھے نہیں ذخیرہ فرماتے تھے کوئی چیز اگلے دن کیلئے اور سب سے بہادر

صَدْرًا وَّاَحْسَنَهُمْ صَوْتًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی

تھے دل کے لحاظ سے اور حسین تھے آواز کے لحاظ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ کَانَ اَصْدَقَ النَّاسِ قَوْلًا وَّوَعْدًا وَّاَحْلَاهُمْ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب قول اور وعدہ میں سب سے سچے تھے۔ اور تمام سے شیریں تر تھے

وَاَصْوَبَهُمْ کَلَامًا وَّاَوْضَحَهُمْ بَیَانًا وَّاَفْصَحَهُمْ لَهْجَةً وَّلِسَانًا وَّاَوْفٰهُمْ

اور صائب تھے کلام میں۔ اور سب سے واضح بیان والے تھے۔ اور فصیح ترین زبان اور لہجے والے تھے۔ اور سب سے زیادہ وفا کرنے

عَهْدًا وَّاَجْمَلَهُمْ صَبْرًا وَّاَکْثَرَهُمْ شُکْرًا وَّطَاعَةً اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

والے تھے عہد کی۔ اور سب سے زیادہ صبر جمیل والے تھے۔ اور سب سے زیادہ شکر گزار اور اطاعت گزار تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ کَانَ اَلْیَنَهُمْ عَرِیْکَةً وَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو سب سے زیادہ نرم طبع تھے اور

کَانَ فِیْ صَوْتِهٖ سَهْلٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ

آپ کی آواز میں نرمی اور دھیما پن تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ کَانَ طَوِیْلَ السَّکْتِ لَا یَتَکَلَّمُ فِیْ غَیْرِ حَاجَةٍ یَفْتَتِحُ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب زیادہ تر حالتِ خاموشی میں رہتے تھے نہیں کلام فرماتے تھے بغیر ضرورت کے۔ کلام

الْکَلَامَ وَیَخْتِمُ بِاسْمِ اللّٰهِ وَیَتَکَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْکَلِمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کا آغاز فرماتے اور اس کا اختتام فرماتے اللہ تعالیٰ کے نام پر اور آپ کلمات جامعہ کے ساتھ کلام فرماتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ لَا یَنَامُ قَلْبُهٗ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کا دل انور نہیں سوتا تھا

اِنْ نَّامَتْ عَیْنَاهُ وَکَانَ صَلّٰی حَتّٰی اِنْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اگرچہ آنکھ سو جاتی تھی اور آپ نماز ادا کرتے ہوئے (اس قدر قیام فرماتے) کہ سوج جاتے قدم مبارک آپ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ کَانَ یَعُوْدُ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو شہ کونین مریضوں کی

الْمَرِیْضَ وَیَشْهَدُ الْجَنَازَةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

عیادت فرماتے تھے اور غلاموں کے جنازوں میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ کَانَ یُجِیْبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ لَیْسَ بِالْجَافِیْ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جو مالک دوسرا قبول فرماتے تھے غلاموں کی دعوت کو۔ آپ نہ جفا کار تھے

وَلَا الْمَهِیْنِ مَا ضَرَبَ بِیَدِهٖ شَیْئًا قَطُّ اِلَّا اَنْ یُّجَاهِدَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَلَا

اور نہ ضعیف و ناتواں۔ نہیں مارا آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو کبھی بھی مگر یہ کہ آپ جہاد کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اور نہ

ضَرَبَ خَادِمًا وَّلَا امْرَاَةً اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی

آپ نے خادم کو اور نہ کسی عورت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ یَضْحَكُ مِمَّا یَضْحَكُ الصَّحَابَةُ مِنْهُ وَیَتَعَجَّبُ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جو ہنستے تھے اس امر سے جس سے صحابہ کرام ہنستے تھے۔ اور تعجب

مِمَّا یَتَعَجَّبُوْنَ مِنْهُ وَیَصْبِرُ لِلْغَرِیْبِ عَلَی الْجَفْوَةِ فِیْ مَنْطِقِهٖ وَمَسْئَلَتِهٖ

فرماتے اس امر پر جس سے وہ تعجب کرتے تھے اور درگزر فرماتے مسافر و اجنبی کے لیے اس کی جفا کاری پر خواہ کلام میں ہوتی یا سوال میں

وَیُکْثِرُ الصَّوْمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا

اور آپ بکثرت روزے رکھتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدِ الَّذِیْ کَانَ لَا یَقْطَعُ عَلٰی اَحَدٍ حَدِیْثَهٗ حَتّٰی یَجُوْزَ فَیَقْطَعُهٗ

محمد کی آل پر کہ جو آقا نہیں قطع فرماتے تھے کسی پر اس کی بات کو حتیٰ کہ وہ تجاوز کرتا حد سے تو قطع فرماتے اس کی

بِنَهْیٍ اَوْ قِیَامٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ

بات کو نہی کے ساتھ یا اٹھ کھڑے ہونے کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِیْ قَدْ تَرَكَ نَفْسَهٗ مِنَ الرِّیَآءِ وَالْاِکْبَارِ وَمَا لَا یَعْنِیْهِ وَمَا سُئِلَ شَیْئًا قَطُّ

کہ جس اکرم خلائق نے دور رکھا اپنے نفس کو ریاکاری سے اور بڑائی ظاہر کرنے سے اور ہر بے مقصد امر سے اور نہ سوال کیا گیا کسی چیز کا آپ سے کبھی بھی

فَقَالَ لَا وَاِذَا غَضِبَ اَعْرَضَ وَلَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَمَا كَانَ لَهَا اَللّٰهُمَّ

رحیس کے جواب میں اپنے نہیں کا لفظ فرمایا ہو۔ اور جب آپ غضبناک ہو جاتے کسی پر تو اس سے منہ موڑ لیتے اور نہیں غضب میں لاتی تھی آپ کو دنیا اور نہ ہی

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ كَانَ اِذَا تُعُدِّيَ

آپ دنیا کیلئے (رغبت رکھتے) تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو خلیفہ خدا اس شان والے تھے کہ جب تعدی کی

الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ بِغَضَبِهٖ شَيْءٌ حَتّٰى يَنْتَصِرَ لَهٗ وَلَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهٖ وَلَا يَنْتَصِرُ

جاتی حق سے تو آپکے غیظ و غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی کوئی شئی یہاں تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لیتے اور نہیں ناراض ہوتے تھے اپنی ذات کے لیے اور نہ اپنے لیے

لَهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ

بدلہ لیتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو مخدوم خلائق

كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا وَيُعَظِّمُ النِّعْمَةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

قبول فرماتے تھے ہدیہ کو اور اس پر بدلہ دیتے تھے اور نعمت خداوندی کی تعظیم فرماتے تھے (اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہوتی) اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ كَانَ لَمْ يَشْبَعْ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس زاہد ترین خلق نے نہیں سیر ہو کر کھایا

مِنْ خُبْزٍ وَّلَا لَحْمٍ وَّلَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهٗ غَدَاءٌ وَّلَا عَشَاءٌ مِّنْهُمَا اِلَّا عَلٰى

روٹی کو اور نہ گوشت کو۔ اور نہ ہی جمع ہوا (بیک وقت) آپ کے پاس صبح کا کھانا اور شام کا ان دونوں سے مگر

ضُعْفٍ يَا حَيُّ اَنْتَ الَّذِيْ تُمِيْتُ الْاَحْيَاءَ وَتُحْيِي الْاَمْوَاتَ يَا حَيُّ يَا

قلیل مرتبہ۔ اے بہ تقاضائے ذات زندہ رہنے والے تو ہی فوت کرتا ہے زندوں کو اور زندہ کرتا ہے مردوں کو اے زندہ۔ اے

مُنْعِمُ اَنْتَ الَّذِيْ تَعْجِزُ الْخَلَائِقُ مِنْ شُكْرِ نِعْمَتِهٖ يَا مُنْعِمُ يَا غَفَّارُ

انعام فرمانے والے تو ہی ہے کہ تمام مخلوقات عاجز و قاصر ہے جس کے شکر نعمت سے اے انعام کرنے والے۔ اے بخشنے والے

اَنْتَ الَّذِيْ تَغْفِرُ ذُنُوْبَ عِبَادِهٖ بِفَضْلِهٖ وَتَعْفُوْ عَنْهَا بِرَحْمَتِهٖ يَا غَفَّارُ

تو ہی بخشتا ہے گناہ اپنے بندوں کے اپنے فضل سے اور درگزر کرتا ہے ان سے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اے بخشنے والے

يَا مَالِكُ اَنْتَ الَّذِيْ تُؤْتِي الْمُلْكَ لِمَنْ تَشَاءُ بِلُطْفِهٖ يَا مَالِكُ يَا قَادِرُ

اے مالک تو ہی عطا کرتا ہے اپنا ملک جس کو چاہتا ہے ساتھ اپنے لطف و کرم کے۔ اے مالک۔ اے قادر

اَنْتَ الَّذِيْ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ مَوْجُوْدًا بِالسُّرْعَةِ يَا

تو ہی ایسا قادر ہے کہ جب ارادہ کرے کسی شئی کا پس کہے اسے ہو جا تو وہ موجود ہو جاتی ہے فوری طور پر اے

قَادِرُ يَا قَاهِرُ اَنْتَ الَّذِيْ تُفْنِيْ مَا شِئْتَ وَتُبْقِيْ مَا شِئْتَ بِمَشِيَّتِهٖ

قدرت والے اے قہار تو ہی ایسا قادر ہے کہ فنا کرتا ہے جسے چاہے اور باقی رکھتا ہے جسے چاہے اپنی مشیت کیساتھ

يَا قَاهِرُ يَا حَافِظُ اَنْتَ الَّذِيْ تَحْفَظُ لِمَنْ اَرَدْتَّ مِنْ اٰفَتِهٖ وَ

اے قاہر۔ اے حافظ تو ہی حفاظت فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اپنی آفات اور بلیات سے

بَلِيَّتِهٖ بِرَحْمَتِهٖ يَا قُدُّوْسُ اَنْتَ الَّذِيْ تَقَدَّسَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ

ساتھ اپنی رحمت کے۔ اے قدوس تو ہی وہ پاک ذات ہے کہ مقدس ہو گئے ملائکہ مقربون

وَالْاَنْبِيَاءُ الْمُرْسَلُوْنَ بِقُدْسِهٖ يَا قُدُّوْسُ يَا وَكِيْلُ اَنْتَ الَّذِيْ تَرْفَعُ

اور انبیاء مرسلین اس کے تقدس و طہارت سے اے قدوس اے کارساز تو ہی اٹھاتا ہے (ذمہ داری)

اُمُوْرَ الْمُتَوَكِّلِيْنَ عَلَيْكَ بِقُدْرَتِهٖ وَقُوَّتِهٖ يَا وَكِيْلُ يَا مُؤْمِنُ اَنْتَ

اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کے امور کی اپنی قدرت اور قوت کے ساتھ اے کارساز۔ اے امن و ایمان دینے والے تو ہی

الَّذِيْ تُعْطِي الْاِيْمَانَ وَالْاَمَانَ لِلْمُؤْمِنِ بِكَرَمِهٖ وَمَنِّهٖ يَا مُؤْمِنُ يَا حَكِيْمُ

عطا فرماتا ہے ایمان اور امان اہل ایمان کو اپنے کرم اور احسان سے۔ اے مومن۔ اے حکیم تو ہی وہ حکمت والا ہے کہ

اَنْتَ الَّذِيْ تَحَيَّرَتِ الْفُقَهَاءُ وَالْحُكَمَاءُ مِنْ حِكْمَتِهٖ يَا حَكِيْمُ يَا خَالِقُ

حیرت زدہ ہو چکے ہیں فقہاء اور حکماء جس کی حکمت سے اے حکیم۔ اے خالق

اَنْتَ الَّذِيْ تَخْلُقُ اَصْنَافَ الْخَلَائِقِ بِقُدْرَتِهٖ يَا خَالِقُ يَا كَرِيْمُ اَنْتَ

تو ہی پیدا فرماتا ہے مخلوقات کے انواع و اقسام کو اپنی قدرت سے اے خالق۔ اے کریم تو ہی

الَّذِيْ تُكَرِّمُ الْاِنْسَانَ عَلٰى سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ بِعِنَايَتِهٖ يَا كَرِيْمُ يَا وَهَّابُ

کرامت دیتا ہے انسان کو تمام حیوانات پر اپنی عنایت سے اے کریم۔ اے ہبہ کرنے والے

اَنْتَ الَّذِيْ تَهَبُ لِمَنْ تَشَاءُ الذُّكُوْرَ بِعَوْنِهٖ يَا وَهَّابُ يَا مَالِكَ الْمُلْكِ

تو ہی ہبہ فرماتا ہے جس کو چاہے اولاد نرینہ اپنی اعانت سے اے ہبہ کرنے والے۔ اے مالک ملک

أَنْتَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ مُلْكُهُ وَلَا يَزَالُ عِزُّهُ وَعُلُوُّهُ يَا مَالِكُ يَا غَنِيُّ أَنْتَ

تو ہی وہ ذات ہے کہ ہمیشہ سے ہے ملک جس کا۔ اور ہمیشہ رہے گی عزت اور برتری جس کی اے مالک۔ اے غنی تو ہی

الَّذِي تُؤْتِي الْمُلْكَ لِمَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَمْ تَرَ الِاحْتِيَاجَ بِحُكْمِهِ

عطا کرتا ہے ملک جسے چاہے اپنے بندوں سے اور نہیں دیکھی تو نے محتاجی اور مجبوری اپنے حکم میں

يَا غَنِيُّ يَا صَمَدُ أَنْتَ الَّذِي تُثْبِتُ ضَمَائِرَ عِبَادِهِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ

اے غنی۔ اے صمد و بے نیاز تو ہی برقرار رکھتا ہے اپنے بندوں کے دلوں کو اپنی وحدانیت پر

بِلُطْفِهِ يَا صَمَدُ يَا رَؤُوفُ أَنْتَ الَّذِي لَا تَرُدُّ الْمُحْتَاجِينَ مَحْرُومًا

ساتھ اپنے لطف کے اے صمد۔ اے رؤوف تو ہی ہے جو نہیں لوٹاتا محتاجوں کو محرومی کی حالت میں

مِنْ بَابِهِ يَا رَؤُوفُ يَا رَشِيدُ أَنْتَ الَّذِي تَرْزُقُ لِأَهْلِ مَعْرِفَتِهِ

اپنے در والا سے اے رؤوف۔ اے رشد و ہدایت کے مالک تو ہی بخشتا ہے اپنے اہل معرفت کو اپنا

قُرْبَهُ وَوِصَالَهُ يَا رَشِيدُ يَا قَدِيمُ أَنْتَ الَّذِي لَمْ تَبْلُغِ الْأَوْهَامُ إِلَى

قرب اور وصل۔ اے مالک رشد۔ اے قدیم تو ہی وہ ذات والا ہے کہ نہیں پہنچے مخلوق کے وہم و گمان

أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ يَا قَدِيمُ يَا هَادِي أَنْتَ الَّذِي تَهْدِي إِلَى مَعْرِفَتِهِ لِمَنْ

جس کے اول و آخر کو اے قدیم۔ اے ہدایت دینے والے تو ہی رہنمائی فرماتا ہے اپنی معرفت کی طرف جس کو

تَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يَا هَادِي يَا رَحِيمُ أَنْتَ الَّذِي تُجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَتُعِينُ

چاہتا ہے اپنے بندوں سے اے ہادی۔ اے رحیم تو ہی ہے جو مجبوروں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مظلوموں کی اعانت فرماتا ہے

وَتُحِبُّ الْعِبَادَ بِرَأْفَتِهِ لَا يَرْحَمُ أَحَدٌ وَلَدَهُ كَمَا رَحِمْتَ بِمَغْفِرَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا رَحِيمُ

اور محبت رکھتا ہے اپنے بندوں سے اپنی رأفت سے نہیں رحم کرتا کوئی اپنی اولاد پر جیسے تو نے رحم کیا ہے اپنی مغفرت کیساتھ اپنی مخلوق پر اے رحیم

يَا غَفُورُ أَنْتَ الَّذِي تُظْهِرُ الْحَسَنَاتِ وَتَسْتُرُ السَّيِّئَاتِ وَتَعْفُو عَنْهَا بِمَغْفِرَتِهِ وَبِرَأْفَتِهِ

اے غفور تو ہی ہے جو ظاہر فرماتا ہے (ہماری) نیکیوں کو اور چھپاتا ہے (ہماری) برائیوں کو اور درگزر کرتا ہے ان سے اپنی مغفرت اور رأفت کے ساتھ

يَا غَفُورُ يَا كَبِيرُ أَنْتَ الَّذِي تَعَالَى وَتَكَبَّرَتْ عَظَمَتُهُ وَجَلَالُهُ يَا كَبِيرُ يَا عَلِيُّ أَنْتَ

اے غفور۔ اے کبریائی والے تو ہی ہے جو بلند و برتر ہے اور بڑی ہے عظمت اور جلالت کی اے کبریائی والے۔ اے بلند شان والے تو ہی ہے

الَّذِي أَعْلَى شَأْنُهُ وَأَعْظَمَ سُلْطَانُهُ يَا عَلِيُّ يَا مُصَوِّرُ أَنْتَ الَّذِي تُصَوِّرُ

کہ جس کی شان بلند ہے اور جس کی سلطنت عظیم ہے اے بلند شان والے۔ اے مصور تو ہی ہے جو بناتا ہے حسین ترین

أَحْسَنَ الصُّوَرِ بِكَمَالِ صُنْعَتِهِ وَبَلَاغَتِهِ يَا مُصَوِّرُ يَا جَلِيلُ أَنْتَ الَّذِي لَا

صورتیں اپنی صنعت کے انتہائی کمال و انجام کے ساتھ اے مصور اے جلیل تو ہی ہے جس کا

يَزَالُ جَلَالُهُ وَمُلْكُهُ وَبَقَاؤُهُ يَا جَلِيلُ يَا عَلِيمُ أَنْتَ الَّذِي تَرْزُقُ الْعِلْمَ

جلال۔ ملک اور بقاء دائمی ہے اے جلیل۔ اے علیم تو ہی ہے جو عطا کرتا ہے علم

لِمَنْ تَشَاءُ بِكَرَمِهِ يَا عَلِيمُ يَا قَرِيبُ أَنْتَ الَّذِي أَقْرَبُ مِنْ كُلِّ قَرِيبٍ

جسے چاہے اپنے کرم سے اے علیم۔ اے قریب تو ہی ہے جو قریب تر ہے ہر قریب سے

بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ يَا قَرِيبُ يَا وَاحِدُ أَنْتَ الَّذِي عَذَّبْتَ لِمَنْ أَشْرَكَ وَأَنْكَرَ

اپنے علم اور قدرت کے ساتھ اے قریب۔ اے واحد تو ہی ہے جس نے عذاب دیا مشرکین کو اور اپنی وحدانیت کے

وَحْدَانِيَّتَهُ بِعَدْلِهِ يَا وَاحِدُ يَا عَظِيمُ أَنْتَ الَّذِي لَمْ تَبْلُغْ خَطَرَاتُ الْمُوَحِّدِينَ

منکرین کو اپنے عدل کے ساتھ اے واحد۔ اے عظیم تو ہی ہے کہ نہیں پہنچے خطرات و خیالات موحدین کے

بِكُنْهِهِ وَعَظَمَتِهِ يَا عَظِيمُ يَا وَلِيُّ أَنْتَ الَّذِي تَرْزُقُ لِأَوْلِيَائِهِ مَقَامَ الْوِلَايَةِ

اس کی حقیقت اور عظمت تک اے عظیم۔ اے ولی و کارساز تو ہی ہے کہ بخشتا ہے اپنے ولیوں کیلئے مقام ولایت کا

بَيْنَ عِبَادِهِ بِمَشِيَّتِهِ يَا وَلِيُّ يَا نُورُ أَنْتَ الَّذِي تُنَوِّرُ أَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

اپنے بندوں کے درمیان اپنی مشیت سے اے ولی۔ اے نور تو ہی ہے جو منور کرتا ہے آسمان و زمین والوں کو

بِنُورِهِ يَا نُورُ يَا عَزِيزُ أَنْتَ الَّذِي تُذِلُّ الْكَافِرِينَ بِعَدْلِهِ وَتُعِزُّ الْمُؤْمِنِينَ بِفَضْلِهِ

اپنے نور سے اے نور۔ اے عزیز و غالب تو ہی جو ذلیل کرتا ہے کفار کو اپنے عدل سے اور عزت دیتا ہے مومنین کو اپنے فضل سے

يَا عَزِيزُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّةِ هٰذِهِ الْأَسْمَاءِ وَعَظَمَتِهَا وَشَرَفِهَا وَكَمَالِهَا وَ

اے عزیز۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ان اسماء کی عزت و حرمت اور عظمت و شرافت اور کمال و

جَلَالِهَا وَسُلْطَانِهَا وَبُرْهَانِهَا وَذِكْرِهَا وَأُنْسِهَا وَنُورِهَا وَبِحَقِّ أَسْرَارِهَا وَ

جلال اور سطوت و سلطان اور ان کی حجت و برہان۔ اور ان کے ذکر اور انس و نور کے توسل سے۔ اور بطفیل ان کے حق اسرار و

بسم اللہ الرحمن الرحیم

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

الحمد للہ المنعم المتفضل

کہ دریں زمان سعادت اقتران بفضل

ایزد منان تحفۂ عجائب وہدیۂ غرائب الی اللہ

مقبول بارگاہ شاہ کونین حضرت محمد رسول اللہ

مُسمّٰی بہ

مجموعۂ صلوات الرسول

الجزء الرابع

فی لباسه وملبسه صلی اللہ علیہ وسلم

از تصنیف خادم مخلوق الملک السبحان خلیفہ حضرت شاہ جیلانی

حضرت خواجۂ خواجگان خواجہ محمد عبد الرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبۂ سرحد پاکستان

تَعْدَادِهَا وَكَبِيْرِهَا وَصَغِيْرِهَا وَدَرَجَاتِهَا وَدَعْوَاتِهَا وَخَوَاصِّهَا وَتَاثِيْرِهَا

تعداد کے اور ان کے کبیرو صغیر کے اور ان کے درجات و دعوات کے اور خواص وتاثیر کے

وَتَفْسِيْرِهَا وَمَعَانِيْهَا وَظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا وَرُسُوْمِهَا وَكُسُوْرِهَا وَسُطُوْتِهَا وَ

اور بوسیلہ ان کی تفسیر ومعانی کے اور ظاہر وباطن کے اور ان کے رسوم اور نقشوں کے اور ان کے کسور اور عددی تقسیم کے صدقے میں اور

اَبْنَاتِهَا وَخُدَّامِهَا وَاَقْلَامِهَا وَعَظَمَةِ جَمِيْعِ اَسْمَآئِهَا اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ

ان کی سطوت اور شدتوں اور ان کے خدام اور ان کے رکھنے والی قلموں کے طفیل اور تمام اسماء کی عظمت کے طفیل (سوال کرتا ہوں) کہ صلوٰۃ بھیجے سیدنا

وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاَنْ تَرْزُقَنِيْ دِيْنًا ثَابِتًا وَّيَقِيْنًا صَادِقًا وَّاِخْلَاصًا

محمد پر اور آل محمد پر اور عطا کرے مجھے پائیدار دین ۔ کامل یقین اور کامل اخلاص اور

كَامِلًا وَّشَوْقًا وَّاشْتِيَاقًا غَالِبًا وَّارْزُقْنِيْ بِجَمِيْعِ اَوْلِيَآئِكَ وَاَصْفِيَآئِكَ

غالب آنے والا شوق واشتیاق اور رزق عطا فرما مجھے بطفیل اپنے تمام اولیاء واصفیاء کے

وَاحْفَظْنِيْ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَالنَّفْسِ الْاَمَّارَةِ وَمِنْ شَرِّ جَمِيْعِ الْعُقُوْبَاتِ

اور محفوظ رکھ مجھے شیطان اور نفس امارہ کے شر سے ۔ اور تمام

الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْاُخْرَوِيَّةِ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمِكَ وَعَفْوِكَ يَا عَفُوُّ

دنیوی اور اخروی سزاؤں کے شر سے ساتھ اپنے فضل وکرم کے اور رحم وعفو کے اے درگزر فرمانے والے

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِكَرَمِكَ التَّوْحِيْدَ وَرَحْمِكَ التَّوْحِيْدَ

اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے کرم کے صدقے میں توحید کا اور رحم کے صدقے میں توحید کا

وَعَفْوِكَ التَّوْحِيْدَ وَبِكَمَالِكَ التَّوْحِيْدَ وَبِوِصَالِكَ

اور عفو کے صدقے میں توحید کا۔ اور تیرے کمال کے صدقے میں توحید کا اور تیرے وصال کے صدقے میں

التَّوْحِيْدَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ ۙ

توحید کے حصول کا۔ فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اس نے کسی کو جنم نہیں دیا

وَلَمْ يُوْلَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۞

وہ کسی سے نہیں جنا گیا اور نہیں اس کے لیے رشتہ دار کوئی ۔

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○
اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے

اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡۤ اَسۡـَٔلُکَ بِصَدۡرِ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○ وَبِحِرۡزِ بِسۡمِ
اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی صدارت اور شروع میں آنے کے اور بطفیل بسم
اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○ وَبِخَضۡرِ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○ وَبِسَتۡرِ
اللہ الرحمٰن الرحیم کے حرز و پناہ کے اور بطفیل بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی سرسبزی و شادابی کے۔ اور بطفیل
بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ○ الرَّحۡمٰنِ
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے ستر و پردہ کے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا سب جہانوں کا ہے۔ بہت رحم کرنے والا
الرَّحِیۡمِ ○ مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ○ اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَاِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ ○ اِہۡدِنَا
مہربان ہے۔ مالک ہے روزِ جزا کا۔ اے ان صفاتِ کمال سے ممتاز و مختص، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں، چلا ہمیں
الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ○ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ ۬ۙ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ
راہ راست پر۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے نہ ان لوگوں کی جن پر (تیری طرف سے) غضب
عَلَیۡہِمۡ وَلَا الضَّآلِّیۡنَ ○ اٰمِیۡنَ ○ قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی : یٰبَنِیۡۤ اٰدَمَ قَدۡ
کیا گیا ہے اور نہ راہِ راست سے بھٹکے ہوئے کی۔ ایسے ہی ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے اولاد آدم تحقیق
اَنۡزَلۡنَا عَلَیۡکُمۡ لِبَاسًا یُّوَارِیۡ سَوۡاٰتِکُمۡ وَرِیۡشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقۡوٰی
ہم نے نازل کیا ہے تم پر لباس جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو اور تمہارے لیے سامان زینت و آرائش ہے اور تقویٰ کا لباس ہی
ذٰلِکَ خَیۡرٌ ؕ ذٰلِکَ مِنۡ اٰیٰتِ اللّٰہِ لَعَلَّہُمۡ یَذَّکَّرُوۡنَ ○ یٰبَنِیۡۤ اٰدَمَ
سب سے بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اے اولادِ آدم
لَا یَفۡتِنَنَّکُمُ الشَّیۡطٰنُ کَمَاۤ اَخۡرَجَ اَبَوَیۡکُمۡ مِّنَ الۡجَنَّۃِ یَنۡزِعُ عَنۡہُمَا
ہرگز فتنہ میں نہ ڈالے تمہیں شیطان جیسے کہ اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے جبکہ کھینچتا تھا (باعتبار سبب لغزش ہونے کے) ان
لِبَاسَہُمَا لِیُرِیَہُمَا سَوۡاٰتِہِمَا وَقَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَۃَ
دونوں سے ان کا لباس جنت تاکہ دکھلائے انہیں ان کی شرمگاہیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پس جب چکھا ان دونوں نے درخت ممنوعہ کو

بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ

تو ظاہر ہوگئیں ان کے لیے ان کی شرمگاہیں اور لپیٹنے لگے اپنے اُوپر جنتی درختوں کے پتوں سے

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَهُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے حق میں" اور وہ عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے اور تم

لِبَاسٌ لَّهُنَّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَسَاهُ اللّٰهُ حُلَّةَ

لباس ہو ان کیلئے (ہر ایک گناہ سے بچاؤ کا سبب ہونے کی وجہ سے) اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے پہنائی پوشاک اور خلعت

التَّفْضِيْلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ خَيْرِ مَنْ حَصَلَ لَهٗ

فضیلت و برتری کی۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو بہتر ہیں ان تمام حضرات سے جنہیں حاصل ہوا

جَزِيْلُ الثَّوَابِ مِنْ رَّبِّ الْاَرْبَابِ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ بِفَضْلِهٖ وَكَرَمِهٖ

عظیم ثواب رب الارباب کی طرف سے۔ اے اللہ عطا فرما مجھے اپنے محبوب کے فضل و کرم کے صدقے میں

تَغَطِّىَ لِبَاسِ التَّوْحِيْدِ وَالْمَعْرِفَةِ وَتَلَبُّسَ الْحُبِّ بِتَوْرِيَةِ الْعَارِفِ

پردہ پوشی توحید اور معرفت کے لباس سے۔ اور پوشش حب کی بسبب پہنانے عارف کے

بِكَمَالِ الْمَحَبَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ مَنْ

ساتھ کمال محبت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا " جو

لَبِسَ ثَوْبَ الشُّهْرَةِ فِى الدُّنْيَا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَّوْمَ

پہنے اور اوڑھے لباس شہرت والا دُنیا میں پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے لباس ذلت و رسوائی کا

الْقِيٰمَةِ ثُمَّ اَلْهَبَ فِيْهِ نَارًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ

قیامت کے دن پھر اس میں بھڑکائے گا (اس پر) جہنم کی آگ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں

اُدْرِجَ فِىْ بُرْدِ حِبَرَةٍ وَّثَوْبَيْنِ اَبْيَضَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

لپیٹا گیا (بوقت تکفین) یمنی چادر میں اور دو سفید کپڑوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كُفِّنَ فِىْ ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد پر جنہیں کفن دیا گیا تین سفید سوتی کپڑوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے نزدیک محبوب ترین کپڑا

اِلَيْهِ اَنْ يَّلْبَسَهَا الْحِبَرَةُ وَالنِّسَآءُ وَالْاَلْوَانُ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

واسطے پہننے کے یمنی چادریں تھیں اور عورتیں اور کھانے کے مختلف اقسام اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِىْ لَبِسَ جُبَّةً رُّوْمِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

کہ جنہوں نے زیب تن فرمایا رومی جبہ جو تنگ آستینوں والا تھا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِىْ كَانَ فِرَاشُهُ الَّذِىْ يَنَامُ عَلَيْهِ اَدَمًا وَّحَشْوُهٗ لِيْفٌ وَصَلِّ

کہ جن کا وہ بچھونا جس پر استراحت فرماتے تھے چمڑے سے تھا اور اس کی اندر کھجور کی چھال بھری تھی۔ اور صلوٰۃ بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ وِسَادُهُ الَّذِىْ يَتَّكِئُ عَلَيْهِ مِنْ اَدَمٍ

سیدنا محمد پر جن کا تکیہ کہ جس پر اوٹ لگاتے تھے چمڑے سے تھا

وَّحَشْوُهٗ لِيْفٌ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ قَآئِلٌ فِيْهِ

اور اس کی بھرائی کھجور کی چھال سے تھی۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کے متعلق کہا کہنے والے نے

لِاَبِىْ بَكْرٍ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُّتَقَنِّعًا

ابو بکر صدیق کو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ادھر تشریف لا رہے ہیں در آنحالیکہ منہ مبارک کو کپڑے سے ڈھانپے ہوئے ہیں

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلٰى

اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے فرمایا" نہیں نظر فرمائے گا اللہ تعالیٰ روز قیامت (نظر رحمت) طرف

مَنْ جَرَّ اِزَارَهٗ بَطَرًا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ بَيْنَمَا

اس شخص کے جو گھسیٹے اپنی چادر کو فخر و ناز سے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے فرمایا" اس دوران کہ ایک آدمی

رَجُلٌ يَّجُرُّ اِزَارَهٗ مِنَ الْخُيَلَآءِ خُسِفَ بِهٖ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْاَرْضِ

گھسیٹ رہا تھا اپنی چادر کو تکبر سے تو اسے زیر زمین دھنسا دیا گیا پس وہ حرکت کرتا رہے گا نیچے کی طرف زمین میں

اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قَالَ مَنْ لَبِسَ

قیامت تک۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے فرمایا" جس شخص نے پہنا

الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الاٰخرۃ وصلّ علٰی سیّدنا محمّد
ریشمی کپڑا دُنیا میں نہیں پہنے گا اسے آخرت میں ۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر
الذی قال انما یلبس الحریر فی الدنیا من لّا خلاق لہ فی الاٰخرۃ و
کہ جنہوں نے فرمایا " نہیں اوڑھنا پہنتا ریشمی لباس دُنیا میں مگر وہی کہ نہیں ہے حصہ اس کے لیے آخرت میں اور
صلّ علٰی سیّدنا محمّد الذی قال الاسبال فی الازار والقمیص و
صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جنہوں نے فرمایا ۔ کہ اسبال اور تجاوز چادر ۔ قمیص اور
العمامۃ من جرّ منہا شیئًا خیلآء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیمۃ و
عمامہ تینوں میں ہے ۔ جس نے گھسیٹا یا حد معروف سے تجاوز کیا ان میں از رہ تکبر نہیں نظر فرمائے گا اللہ تعالیٰ طرف اسکے قیامت کے دن
صلّ علٰی سیّدنا محمّد الذی کان کمام اصحابہ بطحًا وصلّ علٰی
اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جن کے اصحاب کرام کی آستینیں کشادہ ہوتی تھیں ۔ اور صلوٰۃ بھیج
سیّدنا محمّد الذی کان کمّ قمیصہ الی الرّسغ وصلّ علٰی سیّدنا
سیّدنا محمد پر کہ جن کے قمیص کی آستین کلائی اور کف کے جوڑ تک ہوتی تھی ۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا
محمّد الذی کان صلّی اللہ علیہ وسلّم اذا لبس قمیصًا بدا أ
محمد ۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو جب بھی قمیص اوڑھتے تو اوڑھنے کا آغاز فرماتے
بمیامنہ وصلّ علٰی سیّدنا محمّد الذی یقول ازار المؤمن الٰی
دائیں جانب (دائیں آستین) سے ۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جو فرماتے ہیں " مومن کی چادر اس کی
انصاف ساقیہ لا جناح علیہ فیما بینہ وبین الکعبین وما
آدھی پنڈلیوں تک ہوتی چاہیئے (اور) نہیں حرج اس پر وہاں سے ٹخنوں تک اور جو
اسفل من ذٰلک ففی النّار قال ذٰلک ثلٰث مرّات ولا ینظر اللہ
اس سے نیچے ہے تو وہ آگ میں (جلائے جانے کے لائق) ہے ۔ فرمایا اسے تین مرتبہ ۔ اور نہیں نظر فرمائے گا اللہ تعالیٰ
یوم القیمۃ الٰی من جرّ ازارہ بطرًا وصلّ علٰی سیّدنا محمّد الذی
قیامت کے دن طرف اس کے جو گھسیٹے اپنی چادر کو بطور فخر و ناز کے ۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جنہیں

قالت امّ سلمۃ لہ حین ذکر الازار فالمرأۃ یا رسول اللہ قال
حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا جبکہ آپ نے چادر کا ذکر کیا تو عورت (اس کے متعلق کیا حکم ہے) یا رسول اللہ تو آپ نے
ترخی شبرًا فقالت اذًا تنکشف عنہا قال فذراعًا لّا تزید
فرمایا وہ ایک بالشت تک لٹکائے ۔ تو انہوں نے عرض کی تب تو اس سے ہٹ کر اسے برہنہ کر دیگی تو فرمایا ایک ہاتھ تک لٹکائے اس
علیہ ح فقالت اذًا تنکشف اقدامہنّ قال فیرخین ذراعًا
پر زیادہ نہ کرے ۔ تو انہوں نے عرض کیا تب بھی ان کے قدم ننگے ہو جائیں گے تو آپ نے فرمایا تو لٹکائیں ایک ہاتھ نہ زیادہ
لا یزدن علیہ وصلّ علٰی سیّدنا محمّد الذی انّہ لمطلق الازرار
کریں اس پر ۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جو قمیص کے بٹن کھولے ہوئے تھے
قال ابو معاویۃ بن قرّۃ فادخلت یدی فی جیب قمیصہ فمسست
کہا ابو معاویہ بن قرہ نے پس میں نے داخل کیا اپنا ہاتھ آپ کے قمیص کے گریبان میں پس چھوا میں نے
الخاتم وصلّ علٰی سیّدنا محمّد الذی قال عبد الرّحمٰن بن عوف
آپ کی خاتم نبوت کو ۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ فرمایا عبد الرحمٰن بن عوف نے (رضی اللہ عنہ)
عمّمنی رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم فسدلہا بین یدیّ و
عمامہ باندھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس لٹکایا اس کا ایک شملہ میری اگلی کی جانب اور دوسرا
من خلفی وصلّ علٰی سیّدنا محمّد اذا اعتمّ سدل عمامتہ بین
پچھلی جانب ۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جو خود دستار باندھتے تھے تو لٹکاتے عمامہ کے (دونوں شملے) اپنے
کتفیہ وصلّ علٰی سیّدنا محمّد الذی قال فرق ما بیننا وبین
دونوں کندھوں کے درمیان اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جنہوں نے فرمایا " فرق وہ جو ہمارے درمیان اور مشرکین کے درمیان ہے
المشرکین العمائم علی القلانس وصلّ علٰی سیّدنا محمّد الذی
وہ ہے دستاروں کا ٹوپیوں پر (باندھنا اہل اسلام کے لیے اور بغیر ٹوپیوں کے مشرکین کے لیے) اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جو
کان اذا استجدّ ثوبًا سمّاہ باسمہ عمامۃً او قمیصًا او ردآءً ثمّ یقول
جدید کپڑا بناتے تو اس کا نام لیتے (کہ یہ) عمامہ یا چادر ہے ۔ پھر فرماتے

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُ

اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے جیسے کہ تو نے پہنایا مجھے سوال کرتا ہوں میں تجھ سے اس کی خیر و بھلائی کا اور جس کیلئے بنایا گیا ہے اسکی خیر کا۔ اور پناہ مانگتا ہوں

بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ حِيْنَ رَزَقَنِيَ اللّٰهُ اَوْ اَعْطَانِيْ اَوْ كَسَانِيْ هٰذِهٖ

تجھ سے اس کے شر سے اور اس کے شر سے جس کے لیے بنایا گیا ہے جبکہ رزق دیا مجھے اللہ نے یا عطا کیا یا پہنایا مجھے یہ

الْعِمَامَةَ اَوِ الْقَمِيْصَ اَوِ الرِّدَآءَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَالَتْ

عمامہ یا قمیص یا چادر اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کے متعلق فرمایا

عَآئِشَةُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ يَا عَآئِشَةُ اِنْ

ام المومنین عائشہ نے کہ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اے عائشہ اگر

اَرَدْتِّ اللُّحُوْقَ بِيْ فَلْيَكْفِيْكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَاِيَّاكِ وَ

تو ارادہ رکھتی ہے لاحق ہونے کا ساتھ میرے (دار آخرت میں) پس چاہیئے کہ کفایت کرے تجھے دُنیا سے مثل سوار کے سفر خرچ کے۔ اور بچانا

مُجَالَسَةَ الْاَغْنِيَآءِ وَلَا تَسْتَخْلِقِيْ ثَوْبًا حَتّٰى تُرَقِّعِيْهِ وَصَلِّ عَلٰى

اپنے آپ کو اغنیاء کی ہمنشینی سے اور نہ بوسیدہ سمجھنا کسی استعمال میں لائے ہوئے کپڑے کو جبتک اسے پیوند نہ لگائے اور صلواۃ بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَالَ مَنْ اَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ

سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ جس نے کھانا کھایا پھر کہا "سب تعریفیں اللہ تعالے کے لیے ہیں جس نے

اَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهٗ

مجھے یہ کھانا کھلایا اور رزق دیا بغیر میری محنت اور قوت کے" بخشے جائیں گے اس کے لیے

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ

جو گزر چکے اس کے گناہوں سے۔ اور جس نے پہنا کپڑا پس کہا حمد ہے اللہ کے لیے جس نے مجھے پہنایا

هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

یہ اور نصیب کیا میرے بغیر میری محنت و قوت کے" بخشے جائیں گے جو گزر چکے اس کے گناہوں سے

ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَالَ الْبَسُوا الثِّيَابَ

اور جو آئندہ سرزد ہوں گے۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ سفید کپڑے

الْبِيْضَ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ وَصَلِّ عَلٰى

استعمال کرو کیونکہ وہ زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرے ہیں اور کفن دو انہیں میں اپنے فوت شدگان کو۔ اور صلواۃ بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَالَ اَلَا تَسْمَعُوْنَ اَلَا تَسْمَعُوْنَ اِنَّ الْبَذَاذَةَ

سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا "کیا سنتے نہیں ہو کیا سنتے نہیں ہو بے شک شکستہ حالی

مِنَ الْاِيْمَانِ اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

ایمان کا جزو ہے۔ بے شک شکستہ حالی ایمان کا جزو ہے۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد

الَّذِيْ قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ

پر جنہوں نے فرمایا جس نے شہرت والا لباس پہنا دُنیا میں پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو لباس

مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَالَ مَنْ

ذلت کا قیامت کے دن۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے

تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ تَوَاضُعًا

ترک کیا پہننا زیبائش و آرائش والے لباس کا حالانکہ وہ اس کے پہننے پر قادر ہو اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ بطور

كَسَاهُ اللّٰهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ وَمَنْ تَزَوَّجَ لِلّٰهِ تَوَّجَهُ اللّٰهُ تَاجَ الْمُلْكِ

تواضع کے پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت و کرامت کی پوشاک اور جو شادی کرے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ پہنائے گا اسے ملک و سلطنت کا تاج

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُّرٰى اَثَرُ

اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے کہ دیکھا جائے اس کی نعمت کا اثر

نِعْمَتِهٖ عَلٰى عَبْدِهٖ وَقَالَ اَبُو الْاَحْوَصِ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

و نشان اس کے بندے پر۔ اور کہا ابو الاحوص رضی اللہ عنہ نے میں حاضر ہوا بارگاہ رسول اللہ صلی

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ ثَوْبٌ دُوْنٌ فَقَالَ لِيْ اَلَكَ مَالٌ قُلْتُ

اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں اور مجھ پر گھٹیا لباس تھا۔ تو آپ نے مجھے فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے؟ میں

نَعَمْ قَالَ مِنْ اَيِّ الْمَالِ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ اَعْطَانِيَ اللّٰهُ

نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا تمام اقسام کا مال ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھے ہیں

مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللهُ

اونٹ اور گائیں۔ بھیڑیں بکریاں۔ گھوڑے اور غلام آپ نے فرمایا تو جب اللہ تعالےٰ تجھے عطا کرے

مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي

مال تو چاہیئے کہ اس کی نعمتوں کے اور کرامت وعنایت کے اثرات تجھ پر دیکھے جائیں۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمدؐ پر کہ جن کے متعلق

قَالَ جَابِرٌ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرًا فَرَأَى رَجُلًا

حضرت جابرؓ نے کہا۔ تشریف لائے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے تو دیکھا ایک آدمی

شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ

پراگندہ بالوں والا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے تو فرمایا کیا نہیں پاتا یہ ایسی چیز جس کے ساتھ بٹھائے

رَأْسَهُ وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَّسِخَةٌ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا

اپنے سر (کے بالوں) کو اور دیکھا دوسرے شخص کو جس پر میلے کچیلے کپڑے تھے تو فرمایا کیا نہیں پاتا یہ ایسی چیز

مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي قَالَ لَا أَرْكَبُ

جس سے دھوئے اپنے کپڑوں کو۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے فرمایا میں نہیں سوار ہوتا

الْأُرْجُوَانَ وَلَا يَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ

سرخ ریشمی گدیوں (والی زین) پر اور نہیں پہنتے تھے آپ زرد رنگ سے رنگا ہوا کپڑا اور نہ استعمال فرماتے وہ قمیص جس کی

بِالْحَرِيرِ وَقَالَ أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَّا لَوْنَ لَهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ

کفین ریشم کی ہوتیں اور فرمایا غور سے سنو مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیئے جس میں رنگ نہ ہو۔ اور عورتوں کی خوشبو ایسی ہو

لَوْنٌ لَّا رِيحَ لَهُ وَمَرَّ رَجُلٌ وَّعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلٰى

جو رنگ دے لیکن اس میں مہک نہیں ہونی چاہیئے۔ اور گزرا ایک آدمی جو دو سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھا پس اس نے سلام پیش کیا

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ نے اس کو جواب نہ دیا۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدِنِ الَّذِي نَهٰى عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ

محمدؐ پر کہ جنہوں نے دس چیزوں سے منع فرمایا دانت باریک کرانے اور جلد میں رنگ بھرانے سے۔ اور سفید بال اکھیڑنے سے

مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَّأَنْ يَّجْعَلَ الرَّجُلُ فِيْٓ أَسْفَلِ

اور عورت کے عورت کے ساتھ بغیر حجاب وحائل کے لیٹنے سے اور یہ کہ کرے آدمی اپنے کپڑوں کے نیچے

ثِيَابِهِ حَرِيْرًا مِّثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ حَرِيْرًا مِّثْلَ

ریشم مثل عجمیوں کے یا (رکھے) کندھوں پر ریشم مثل

الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبٰى وَعَنْ رُكُوْبِ النُّمُوْرِ وَلُبْسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي

عجمیوں کے اور لوٹ مار سے۔ اور چیتوں (کی کھالوں) پر سوار ہونے سے۔ اور انگوٹھی پہننے سے مگر ماسوائے

سُلْطَانٍ وَنَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمَيَاثِرِ وَ

صاحب سلطنت کے۔ اور منع فرمایا سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور قس کے بنے ہوئے ریشمی کپڑے اوڑھنے سے۔ اور سرخ ریشمی

نَهٰى عَنِ الْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَقَالَ لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ وَصَلِّ

گدوں سے اور منع فرمایا سرخ ریشمی گدوں سے۔ اور فرمایا کہ نہ سواری کرو ریشم پر اور نہ چیتوں کی کھالوں پر۔ اور صلواۃ بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي نَهَانَا أَنْ نَّشْرَبَ مِنْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَ

سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے منع فرمایا ہمیں کہ پئیں چاندی اور سونے کے برتنوں سے اور

الذَّهَبِ وَأَنْ نَّأْكُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَأَنْ

ان میں کھانے سے۔ اور عام ریشم پہننے سے اور باریک نفیس ریشم اوڑھنے سے۔ اور اس پر

نَّجْلِسَ عَلَيْهِ وَنَهٰى أَنْ يَّأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِيْ نَعْلٍ

بیٹھنے سے اور منع فرمایا اس سے کہ کھائے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے یا چلے صرف ایک پاؤں کے جوتے میں

وَّاحِدَةٍ وَأَنْ يَّشْتَمِلَ الصَّمَّآءَ أَوْ يَحْتَبِيَ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ كَاشِفًا

یا اپنے گرد چادر لپیٹے اس انداز میں کہ تکبیر کے لیے ہاتھ کانوں تک نہ لیجا سکے اور نہ رکوع میں گھٹنوں پر رکھ سکے یا احتباء[ع] کرے ایک ہی کپڑے میں دراں حالیکہ

عَنْ فَرْجِهِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَآءَ

منکشف کرنیوالا ہو اپنی شرمگاہ کو۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے منع فرمایا مردوں اور عورتوں کو

عَنْ دُخُوْلِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَّدْخُلُوْا بِالْمَيَازِرِ

حماموں میں داخل ہوتے سے پھر رخصت دی مردوں کے لیے کہ چادریں باندھ کر ان میں داخل ہوں۔

ع احتباء یہ ہے کہ بیٹھ اور پنڈلیوں کے گرد کپڑا لپیٹ کر اپنے آپ کو سہارا دے جبکہ پنڈلیوں اور رانوں کو کھڑا کرے جس کو پنجابی میں گوٹھ مارنا کہتے ہیں۔

وَقَالَ سَتُفْتَحُ لَكُمْ اَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُوْنَ فِيْهَا بُيُوْتًا يُقَالُ

اور فرمایا عنقریب فتح کی جائے گی تم پر عجم کی زمین اور تم پاؤ گے اس میں ایسے مکان

لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ اِلَّا بِالْاُزُرِ وَامْنَعُوْهَا النِّسَآءَ

جنہیں حمامات کہا جاتا ہے پس ہرگز نہ داخل ہوں اس میں مرد مگر چادریں باندھ کر اور دور رکھو ان سے عورتوں کو

اِلَّا مَرِيْضَةً اَوْ نُفَسَآءَ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

مگر بیمار اور نفاس والی کو۔ اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے

فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ اِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

تو وہ نہ داخل ہو حمام میں بغیر تہمد کے۔ اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور روزِ

الْاٰخِرِ فَلَا يُدْخِلُ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ

قیامت پر پس نہ داخل کرے اپنی بیوی کو حمام میں۔ اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالےٰ اور

الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلٰى مَآئِدَةٍ تُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَصَلِّ

روزِ قیامت پر پس نہ بیٹھے ایسے دسترخوان پر کہ جس پر گردش میں لائے جاتے ہوں (جام) شراب کے۔ اور صلوٰۃ بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سیدنا محمد پر کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے

فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَآئِرُ الرَّاْسِ وَاللِّحْيَةِ فَاَشَارَ اِلَيْهِ

مسجد میں کہ داخل ہوا ایک شخص جس کے سر اور ڈاڑھی کے بال پراگندہ تھے تو آپ نے اشارہ فرمایا طرف اسکے

بِيَدِهٖ كَاَنَّهٗ يَاْمُرُهٗ بِاِصْلَاحِ شَعْرِهٖ وَلِحْيَتِهٖ فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ

اپنے ہاتھ سے گویا کہ آپ اسے حکم دیتے تھے سر اور ڈاڑھی کے بالوں کی اصلاح کا چنانچہ اس نے اس پر عمل کیا پھر لوٹ کر آیا

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا مِّنْ

تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ صورت اس سے بہتر نہیں ہے کہ

اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ ثَآئِرُ الرَّاْسِ كَاَنَّهٗ شَيْطَانٌ وَصَلِّ عَلٰى

آئے ایک تم میں سے اس حال میں کہ وہ پراگندہ سر والا ہو گویا کہ وہ جنوں میں سے ہے۔ اور صلوٰۃ بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَالَ لَهٗ اَبُوْ قَتَادَةَ اِنَّ لِيْ جُمَّةً فَاُرَجِّلُهَا

سیدنا محمد پر کہ جنہیں حضرت ابو قتادہ نے عرض کیا کہ میرے سر پر پٹے (اور کانوں تک پہنچے ہوئے بال) ہیں کیا میں انہیں کنگھی کروں

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَاَكْرِمْهَا قَالَ فَكَانَ

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور ان کی عزت کر (راوی نے) کہا کہ

اَبُوْ قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ مِنْ اَجْلِ قَوْلِهٖ نَعَمْ

حضرت ابو قتادہ بسا اوقات انہیں تیل لگاتے تھے دن میں دو مرتبہ آنحضرت کے تعمیل ارشاد میں کہ ہاں

وَاَكْرِمْهَا ح قَالَ مَنْ كَانَ لَهٗ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ يُّحِبُّ

اور ان کی عزت کر الحدیث۔ فرمایا رسول معظم نے جس کے بال ہوں تو وہ ان کی مناسب دیکھ بھال کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے پسند فرماتا ہے

الطَّيِّبَ نَظِيْفٌ يُّحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيْمٌ يُّحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُّحِبُّ الْجُوْدَ

پاکیزگی کو۔ نظیف ہے اور صفائی و نظافت کو پسند فرماتا ہے۔ کریم ہے کرم کو پسند فرماتا ہے اور صاحب جود ہے جود کو پسند فرماتا ہے

فَنَظِّفُوْا اُرَاهُ قَالَ اَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ

پس صاف ستھرا رکھو (راوی کہتا ہے میرا گمان غالب ہے کہ آپ نے اس کے بعد فرمایا) اپنے صحنوں کو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ راوی نے کہا میں نے اس حدیث

لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيْهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ

کا تذکرہ مہاجر بن مسمار سے کیا تو اس نے کہا مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے عامر نے اپنے باپ سعد کے واسطہ سے نبی اکرم

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا اَنَّهٗ قَالَ نَظِّفُوْا اَفْنِيَتَكُمْ وَقَالَ الْوَلِيْدُ

صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مگر انہوں نے (بغیر کسی تردد کے) کہا "صاف ستھرا رکھو اپنے صحنوں کو اور کہا ولید نے

لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ اَهْلُ مَكَّةَ

جب فتح کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مکہ مکرمہ کو تو اہل مکہ نے

يَاْتُوْنَهٗ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَدْعُوْ لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُءُوْسَهُمْ فَجِيْئَ

آپ کے پاس لانا شروع کیا اپنے چھوٹے بچوں کو تو آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے تھے اور ہاتھ پھیرتے تھے ان کے سروں پر تو مجھے

بِيْ اِلَيْهِ وَاَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَمَسَّنِيْ مِنْ اَجْلِ الْخَلُوْقِ ح وَقَالَ عُثْمَانُ

بھی آپ کی بارگاہ میں لایا گیا جبکہ میرے سر پر خلوق (مرکب خوشبو رنگ دار) لگی تھی تو آپ نے اس لیے مجھے ہاتھ نہ لگایا الحدیث۔ اور کہا عثمان

بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَاَخْرَجَتْ اِلَيْنَا شَعْرًا

بن عبد اللہ بن موہب نے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے نکالا ہماری طرف بالوں کا گچھا

مِّنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوْبًا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے جنہیں خضاب لگا ہوا تھا۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ قَالَ يَكُوْنُ قَوْمٌ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُوْنَ بِهٰذَا

محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ ہو گی ایک جماعت میرے بعد والے دور میں جو سیاہ خضاب لگائیں گے

السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَجِدُوْنَ رَآئِحَةَ الْجَنَّةِ وَصَلِّ عَلٰى

مثل جنگلی کبوتروں کے سینے کی سیاہی کے نہیں پائیں گے جنت کی خوشبو سے (میدان قیامت میں جس سے مقربین مستفید ہونگے) اور صلواۃ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ قَالَ اِنَّ اَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّآءُ

بھیج سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا بیشک خوبترین چیز جس کے ساتھ سفیدی بالوں کی تبدیل کی جائے وہ مہندی

وَالْكَتَمُ ح وَاِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ

اور وسمہ ہے (جو سیاہ سرخی مائل رنگ دے) اور بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے رنگے ہوئے

السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهٗ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

چمڑے کے جوتے اور زرد خضاب لگاتے داڑھی مبارک کو ورس اور زعفران کے ساتھ۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ قَالَ رَجُلٌ لِّفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مَا لِيْ اَرَاكَ شَعِثًا قَالَ اِنَّ

محمد پر کہ جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے۔ ایک آدمی نے حضرت فضالہ بن عبید سے کہا کیا وجہ ہے کہ میں تجھے پراگندہ بال دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاِرْفَاتِ

کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرماتے تھے زیادہ کنگھی کرنے اور بننے سنورنے سے

قَالَ مَا لِيْ لَا اَرٰى عَلَيْكَ حِذَآءً قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

اس آدمی نے کہا کیا ہے مجھے کہ میں نہیں دیکھتا تمہارے پاؤں میں جوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُنَا اَنْ نَّحْتَفِيَ اَحْيَانًا ح نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم ننگے پاؤں بھی چلیں۔ کبھی کبھی الحدیث۔ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّلِ اِلَّا غِبًّا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ

علیہ وسلم نے کنگھی کرنے سے مگر کبھی کبھی۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کے متعلق

قَالَتْ عَآئِشَةُ اِذَا فَرَّقْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاْسَهٗ

فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب میں کنگھی کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو

صَدَعْتُ فَرْقَهٗ عَنْ يَّافُوْخِهٖ وَاَرْسَلْتُ نَاصِيَتَهٗ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَعَنْهَا

تو نکالتی آپ کی مانگ آپ کے تالو سے اور سر کے اگلے حصے کے بال چھوڑ دیتی تھی آپکے سامنے اور آپ سے مروی ہے

قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَاْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا

کہ میں کنگھی کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو باوجود یکہ میں

حَآئِضٌ ح وَقَالَتْ اُمُّ هَانِئٍ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ

حالت حیض میں ہوتی تھی الحدیث۔ فرمایا حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ قَدْمَةً وَّلَهٗ اَرْبَعُ غَدَآئِرَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

وسلم ہمارے ہاں مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ اور آپ کی چار مینڈھیاں تھیں۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ قَالَ اَنَسٌ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

محمد پر کہ جن کے متعلق فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے

سُكَّةٌ يَّتَطَيَّبُ مِنْهَا ح وَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ

مخصوص خوشبو جس کو آپ استعمال فرماتے تھے الحدیث۔ اور حضرت انس نے ہی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات

دُهْنَ رَاْسِهٖ وَتَسْرِيْحَ لِحْيَتِهٖ وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ كَاَنَّ ثَوْبَهٗ ثَوْبُ زَيَّاتٍ

سر مبارک کو تیل لگاتے اور داڑھی مبارک کے بال کنگھی کرتے اور سر مبارک پر بسا اوقات ایک خاص کپڑا لپیٹتے گویا وہ تیلی کا کپڑا تھا

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنِ الْوَشْمِ

اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے۔ اور منع فرمایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے یا گدوانے سے

ح وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ اَعْنِيْ عَلٰى

الحدیث اور منع فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہ کوئی مرد زعفرانی رنگ لگائے یعنی

بَدَنِهٖ وَثَوْبِهٖ ح وَقَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ اُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

اپنے بدن پر اور کپڑوں پر۔ الحدیث۔ اور فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں خوشبو لگایا کرتی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ بِاَطْيَبِ مَا نَجِدُ حَتّٰى اَجِدَ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِيْ رَاْسِهٖ وَلِحْيَتِهٖ ح

وسلم کو پاکیزہ ترین میسر آنے والی خوشبو سے حتی کہ میں پاتی تھی اس خوشبو کی سفیدی اور چمک کو آپ کے سر ناز اور داڑھی میں (الحدیث)

كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا اسْتَجْمَرَ بِالُوَّةٍ غَيْرِ مُطَرَّاةٍ وَّبِكَافُوْرٍ يَّطْرَحُهٗ مَعَ

اور تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ جب سلگاتے تھے خوشبودار لکڑی کو جو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کی ہوتی تھی اس سے خوشبو حاصل کرنے کیلئے

الْاُلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لیے اور کافور کو اس لکڑی کے ساتھ ڈال دیتے تھے پھر فرماتے۔ ایسے ہی تھے سلگایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کیلئے

ح عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى عَلَيْهِ

الحدیث۔ حضرت یعلی بن مرہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان پر

خَلُوْقًا فَقَالَ اَلَكَ امْرَاَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ

خلوق کو تو دریافت فرمایا کیا تیری بیوی ہے میں نے عرض کیا نہیں تو فرمایا اس کو دھو ڈال۔ پھر دھو ڈال اور پھر

اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ

دھو ڈال اور اس کے بعد ایسی خوشبو نہ لگانا اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کے متعلق کہا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے

قَدِمْتُ عَلٰى اَهْلِيْ مِنْ سَفَرٍ وَّقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَّقُوْنِيْ

میں اپنے گھر آیا ایک سفر سے جبکہ میرے دونوں ہاتھ پھٹ چکے تھے تو اہل خانہ نے مجھے زعفران ملی

بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ

خلوق لگا دی پس میں صبح کو بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پس میں نے سلام

عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هٰذَا عَنْكَ ح قَالَ

عرض کیا مگر آپ نے جواب سلام مجھے نہ دیا اور فرمایا جایئے اور اس خوشبو کو دھو کر اپنے سے دور کیجیے۔ (الحدیث)

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهٗ وَ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی خوشبو تو ظاہر ہو

خَفِيَ لَوْنُهٗ وَطِيْبُ النِّسَآءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهٗ وَخَفِيَ رِيْحُهٗ ح قَالَ

لیکن اس کا رنگ ظاہر نہ ہو اور عورتوں کی خوشبو کا رنگ نمایاں ہو اور مہک نمایاں نہ ہو۔ (الحدیث)۔ فرمایا

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ رَجُلٍ وَّفِيْ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قبول فرماتا اللہ تعالیٰ نماز اس آدمی کی جس کے

جَسَدِهٖ شَيْءٌ مِّنْ خَلُوْقٍ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالَ اَلْفِطْرَةُ

بدن پر خلوق میں سے کچھ خوشبو لگی ہو۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا فطرت (کی مقتضی خصلتیں)

خَمْسٌ اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَ

پانچ ہیں۔ ختنہ۔ زیر ناف بال صاف کرنا۔ مونچھیں کاٹنا۔ ناخن تراشنا اور

نَتْفُ الْاِبْطِ ح قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ

بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ الحدیث۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی مخالفت کرو

اَوْفِرُوا اللُّحٰى وَاَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوا

داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مونچھوں کو ہلکا کرو اور داڑھیوں کو

اللُّحٰى ح قَالَ اَنَسٌ وُقِّتَ لَنَا فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ وَنَتْفِ

دراز کرو۔ الحدیث۔ فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے وقت معین کیا گیا مونچھیں کاٹنے۔ ناخن تراشنے اور بغل کے

الْاِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ اَنْ لَّا نَتْرُكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَصَلِّ عَلٰى

بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے لیے کہ ہم انھیں نہ چھوڑیں چالیس دن سے زیادہ تک۔ اور صلوٰۃ بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَّنْهٰى عَنِ الْقَزَعِ قِيْلَ مَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ

سیدنا محمد پر جنہوں نے منع فرمایا قزع سے عرض کیا گیا۔ کیا ہے قزع؟ تو فرمایا کہ مونڈ لیا جائے

رَاْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ ح رَاَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيًّا

بچے کے سر کا کچھ حصہ اور چھوڑ دیا جائے کچھ حصہ الحدیث۔ دیکھا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو

قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَاْسِهٖ وَتُرِكَ بَعْضُهٗ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ اَحْلِقُوْا

جس کے سر کا کچھ حصہ مونڈا گیا تھا اور بعض اسی طرح چھوڑ دیا گیا تھا تو آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا اور فرمایا سارا مونڈو

كُلَّهُ اَوِ اتْرُكُوْا كُلَّهُ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

یا سارا چھوڑ دو۔ اور صلواۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جن کی بارگاہ میں لایا گیا ایسا شخص

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ

جو بتکلف ہیجڑا بنا ہوا تھا جس نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی لگا رکھی تھی تو رسول اللہ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هٰذَا قَالُوْا يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیا کیفیت ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ بتکلف عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار

فَاَمَرَ بِهٖ فَنُفِيَ اِلَى النَّقِيْعِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا نَقْتُلُهٗ فَقَالَ اِنِّيْ

کرتا ہے تو آپ نے اس کے متعلق حکم دیا تو اسے نقیع کی طرف نکال دیا گیا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا ہم اسے قتل نہ کردیں تو آپ نے فرمایا

نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ ح قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ

میں منع کیا گیا ہوں نماز پڑھنے والوں کے قتل کرنے سے الحدیث۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ لعنت فرمائی نبی صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ

علیہ وسلم نے عورتوں کے روپ میں ڈھلنے والے مردوں پر اور مردوں کی ہیئت اختیار کرنے والی عورتوں پر اور فرمایا

اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ

انھیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی

سَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ

اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں میں سے عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والوں پر اور عورتوں میں سے

النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَلَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ

مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والیوں پر۔ اور لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر جو

يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْاَةِ وَالْمَرْاَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ ح اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ

پہنے عورتوں کی طرح لباس۔ اور عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس استعمال کریں (الحدیث) نبی مکرم صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَ

علیہ وسلم نے فرمایا لعنت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے واصلہ اور مستوصلہ پر (یعنی جو عورت بال بڑھانے کیلئے دوسرے بال ساتھ ملائے یا ملانے کو کہے اور

الْمُسْتَوْشِمَةَ ح قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ

گودنے والی پر اور گدوانے والی پر (الحدیث)۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے "اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے گودنے والی عورتوں پر

وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ وَالْمُغَيِّرَاتِ

اور گدوانے والیوں پر اور بال نوچنے والیوں پر اور دانت باریک کرکے ان میں حسن پیدا کرنے کیلئے کشادگی پیدا کرنے والیوں پر اور تبدیل

خَلْقَ اللّٰهِ فَجَاءَتْهُ اِمْرَاَةٌ فَقَالَتْ اِنَّهٗ بَلَغَنِيْ اِنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَ

کرانے والیوں پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو" تو آئی ان کے پاس ایک عورت جس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے ایسے ایسے لعنت کی

كَيْتَ فَقَالَ مَالِيْ لَآ اَلْعَنُ مَنْ لَّعَنَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں ان پر لعنت نہ کروں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَاْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ

لعنت کی ہے اور جو لعنت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے۔ تو اس نے کہا میں نے تلاوت کی ہے سارے قرآن کی

فَمَا وَجَدْتُّ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَاْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِّيْهِ

مگر میں نے تو اس میں نہیں پایا جو تم کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تو نے اسے پڑھا ہوتا تو ضرور پایا ہوتا میرے قول کو

اَمَا قَرَاْتِ مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا قَالَتْ

کیا نہیں پڑھا تو نے کہ (جو دیں تمہیں رسول اللہ تو اسے پکڑلو۔ اور جس سے منع کریں تو اس سے رک جاؤ) اس نے کہا

بَلٰى قَالَ فَاِنَّهٗ قَدْ نَهٰى عَنْهُ ح قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا تو بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا الحدیث۔ فرمایا ابن عباسؓ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ اَوْ يَاْخُذُ مِنْ شَارِبِهٖ وَكَانَ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ

وسلم کاٹتے تھے یا لیتے تھے اپنی مونچھوں سے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی

الرَّحْمٰنِ يَفْعَلُهٗ ح قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ

اسی طرح کرتے تھے الحدیث۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "جس نے نہ

يَاْخُذْ مِنْ شَارِبِهٖ فَلَيْسَ مِنَّا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ

لیا (اور کاٹا) مونچھوں سے تو وہ نہیں ہے ہم سے یعنی کامل طریقہ پر نہیں۔ اے اللہ صلواۃ بھیج سیّدنا محمد پر جنہوں نے

قَالَ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ح قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

فرمایا کہ (بڑھاپے کی) سفیدی کو تبدیل کرو۔ اور نہ مشابہت اختیار کرو ساتھ یہودیوں کے۔الحدیث۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي

وسلم نے کہ سفید بالوں کو نہ اکھیڑو کیونکہ وہ مسلمان کے لیے نور ہیں جو شخص سفید بالوں والا ہوا

الْإِسْلَامِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَرَفَعَهُ بِهَا

اسلام میں لکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بسبب اس کے نیکی اور دور کرے گا اس کے بسبب اس کے گناہ اور بلند کریگا اس کے لیے

دَرَجَةً ح مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ح

بسبب اس کے درجہ۔ الحدیث جو بوڑھا ہوا اسلام میں تو یہ بڑھاپا ہو گا اس کے لیے نور قیامت کے دن۔ ح

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمُ الْأَسَدِيُّ

فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا مرد ہے خریم اسدی

لَوْلَا طُولُ جُمَّتِهٖ وَإِسْبَالُ إِزَارِهٖ فَبَلَغَ ذٰلِكَ خُرَيْمًا فَأَخَذَ شَفْرَةً

اگر نہ ہوتی اس کے سر کے بالوں کی حد سے تجاوز زیادتی۔ اور اس کا چادر کو گھسیٹنا تو کتنا اچھا ہوتا تو آپکا یہ فرمان خریم کو پہنچ گیا تو اس نے ایک چھری لی

فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهٗ إِلٰى أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهٗ إِلٰى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ اَللّٰهُمَّ

اور اس کے ساتھ بالوں کو کانوں تک کاٹ دیا اور بلند کیا اپنی چادر کو آدھی پنڈلیوں تک۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَسٌ كَانَتْ لِي ذُؤَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي لَا

صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے میری ایک مینڈھی تھی تو فرمایا مجھے میری ماں نے میں

أَجُزُّهَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُهَا اَللّٰهُمَّ

اسے نہیں کاٹوں گی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھینچتے تھے اور پکڑتے تھے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي إِذَا سَافَرَ كَانَ

صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا جب سفر فرمانے لگتے تو آپ کی

اٰخِرُ عَهْدِهٖ بِإِنْسَانٍ مِّنْ أَهْلِهٖ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَللّٰهُمَّ

آخری ملاقات اپنے اہل میں سے جس ہستی کے ساتھ ہوتی تھی وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا تھیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي أَلْبَسَهُ اللهُ حُلَّةَ

صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب مکرم کو اللہ تعالیٰ نے زیب تن کرایا ہے حلہ

التَّوْحِيدِ وَالْإِصْطِفَاءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي أُلْبِسَ

توحید کا اور خلعت اصطفاء کی۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں پہنائے گئے

ثِيَابَ الْعِزِّ وَسَوَابِغَ النِّعَمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي

حلّے عزوجاہ کے اور زرہیں نعمتوں اور انعاموں کی۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے

الْتَحَفَ ثَوْبَ الْمَجْدِ وَاكْتِسَابِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي

اوڑھا مجد اور بزرگی کا لباس اور کسب خیر کی خلعت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں

أَلْبَسَهُ اللهُ حُلَّةَ الْجَمَالِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي زَيَّنَ

اللہ تعالیٰ نے حسن وجمال کی پوشاک پہنائی۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر کہ مزین کیا ہے

اللهُ مَفْرِقَهٗ وَجَبِينَهٗ بِتَاجِ النُّورِ وَالْإِكْلِيلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ نے ان کے سرناز کو اور جبین اقدس کو نور کے تاج اور اس کی آرائش سے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدِنِ الَّذِي لَبِسَ حُلَّةَ الْخُلَّةِ وَخِلْعَةَ الْخَلْعَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

محمد پر کہ جنہوں نے زیب تن فرمایا خلت کے لباس کو۔ اور مخلوق سے علیحدگی کی خلعت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدِنِ الَّذِي فَازَ بِهٖ مَنْ فَازَ وَتَرَدَّى عَلٰى حُلَّةِ قُرَيْشٍ كَالطِّرَازِ اَللّٰهُمَّ

محمد پر کہ جن کے طفیل کامیاب ہوئے جو خوش قسمت کہ کامیاب ہوئے اور جم کر بیٹھ گئے قریش کے حلہ پر مانند نقش ونگار کے۔

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي رُفِعَ عَلٰى رَأْسِهٖ تَاجُ الْمَحَاسِنِ وَعَلَيْهِ

اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کے سرناز پر بلند کیا گیا محاسن اور خوبیوں کا تاج اور وہ اسی سر ناز پر ہی

انْتَصَبَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ مِنْ

قائم ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ اللہ تعالے نے پیدا کیا مخلوق کو ان کے

لُبْسِ جَمَالِ نُورِهٖ وَمِنْ مَّلْبَسِ جَلَالِ ظُهُورِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

جمال نور والے لباس سے اور ان کے جلال ظہور کے پہناوے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى كَمَالِهٖ فِى الْكَمَالَاتِ وَصَدَقَتِهٖ فِى
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے کمال پر کمالات میں ۔ اور صدقہ پر
الصَّدَقَاتِ وَسِرِّهٖ فِى الْاَسْرَارِ وَلُغَتِهٖ فِى اللُّغَاتِ وَعِبَارَتِهٖ فِى الْعِبَارَاتِ
صدقات میں اور آپکے بِتر اور رمز پر اسرار و رموز میں ۔ اور آپ کی لغت اور بولی پر لغات میں ۔ اور عبارت پر عبارتوں میں
وَفِكْرِهٖ فِى الْاَفْكَارِ وَدَرَجَتِهٖ فِى الدَّرَجَاتِ وَاُسْطُوْرَتِهٖ فِى الْاَسَاطِيْرِ وَ
اور آپکے فکر پر افکار میں ۔ اور آپکے درجہ پر درجات میں اور آپ کے لکھے ہوئے شان اور قصوں پر قصص میں ۔ اور
قِصَّتِهٖ فِى الْقِصَصِ وَخَاصَّتِهٖ فِى الْخَصَآئِصِ وَاِحْسَانِهٖ فِى الْمُحْسِنِيْنَ
آپکے بیان کئے ہوئے قصّے پر قصص میں ۔ اور آپ کے خاصے پر خواص میں ۔ اور آپ کے احسان پر محسنین میں
وَزُهْدِهٖ فِى الزَّاهِدِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ
اور آپ کے زہد پر زاہدین میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور سیدنا
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى شَفَاعَتِهٖ فِى الشُّفَعَآءِ وَمَحَبَّتِهٖ فِى الْمُحِبِّيْنَ وَشَرَافَتِهٖ
محمد کی آل پر اور آپ کی شفاعت پر شفاعت کرنے والوں میں ۔ اور آپ کی محبت پر محبوں میں اور شرافت پر
فِى الشُّرَفَآءِ وَنَجَابَتِهٖ فِى النُّجَبَآءِ وَهِدَايَتِهٖ فِى الْهُدَاةِ وَهِجْرَتِهٖ فِى
شرفاء میں اور آپ کی حسبی ونسبی عمدگی پر نجابتوں میں ۔ اور آپ کی ہدایت پر ہادیوں میں ۔ اور آپ کی ہجرت پر
الْمُهَاجِرِيْنَ وَرِيَاضَتِهٖ فِى الْمُرْتَاضِيْنَ وَتَوْبَتِهٖ فِى التَّآئِبِيْنَ وَثَوْبِهٖ فِى
مہاجرین میں ۔ اور آپ کی ریاضت و مشقت پر اہل ریاضت میں ۔ اور آپ کی توبہ پر توبہ کرنے والوں میں اور کپڑوں پر
الْاَثْوَابِ وَرِزْمَةِ ثِيَابِهٖ فِى الرِّزْمَاتِ وَصِوَانِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ
کپڑوں میں اور آپ کے کپڑوں کی گٹھڑی پر گٹھڑیوں میں اور کپڑے محفوظ رکھنے کے ظرف میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام اور
بَارِكْ وَعَظِّمْ وَكَرِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
برکت عطا فرما اور تعظیم و تکریم فرما سیدنا محمد کی ۔ اور سیدنا محمد کی
لِبَاسِهٖ فِى الْمَلَابِسِ وَخِيَاطَةِ مَلْبُوْسِهٖ فِى الْمَلْبُوْسَاتِ وَحُلَّتِهٖ فِى الْحُلَلِ
آل کی ۔ اور آپکے لباس کی لباسوں میں اور آپ کے ملبوسات کی سلائی پر ملبوسات میں اور آپکے حلہ و پوشاک پر پوشاکوں میں

وَوِزْرِ اُمَّتِهٖ فِى الْاَوْزَارِ وَعِصْيَانِ اُمَّتِهٖ فِى الْعُصَاةِ وَسَمَلِهٖ فِى الْاَسْمَالِ
اور آپ کی اُمّت کے بوجھ پر ایسے بوجھوں میں ۔ اور آپ کی اُمّت کے عصیان پر عاصیوں میں اور آپکے بوسیدہ کپڑے پر بوسیدہ کپڑوں میں
وَسُمُوْلِهٖ فِى السَّمَوَالِ وَسَرَاوِيْلِهٖ فِى السَّرَاوِيْلَاتِ وَتُقَاتِهٖ فِى الْاَتْقِيَآءِ
اور آپکے پھٹے ہوئے کپڑوں پر پھٹے ہوئے کپڑوں میں اور آپ کی شلوار پر شلواروں میں اور آپکے تقویٰ پر اہل تقویٰ میں
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے
قَمِيْصِهٖ فِى الْقُمُصِ وَاِزَارِهٖ فِى الْاُزُرِ وَمُرَقَّعِهٖ فِى الْمُرَقَّعَاتِ وَبِطَانَتِهٖ
قمیص پر قمیصوں میں اور تہمد پر تہمدوں میں اور آپ کی پیوند لگی گودڑی پر پیوند لگی گودڑیوں میں اور آپکے کپڑے کے استر
فِى الْبَطَآئِنِ وَظِهَارَتِهٖ فِى الظَّهَآئِرِ وَكُفَّتِهٖ فِى الْكُفَّاتِ وَجُبَّتِهٖ فِى
پر استروں میں اور ابرہ پر ابروں میں اور کنارے اور حاشیے پر کناروں اور حاشیوں میں ۔ اور آپ کے جبہ پر
الْجُبَّاتِ وَقَبَآئِهٖ فِى الْاَقْبِيَةِ وَعَبَآئِهٖ فِى الْاَعْبِيَةِ وَزِرِّهٖ فِى الْاَزْرَارِ
جبوں میں اور قباء پر قباؤں میں اور عباء پر عباؤں میں اور آپ کے ہر بٹن پر بٹنوں میں
وَكُمِّهٖ فِى الْاَكْمَامِ وَذَيْلِهٖ فِى الْاَذْيَالِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
اور آپ کی ہر آستین پر آستینوں میں اور آپکے دامن پر دامنوں میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى رُدْنِهٖ فِى الْاَرْدَانِ وَجِرِبَّانِهٖ
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی آستین پر آستینوں میں ۔ اور آپ کے تھیلے پر
فِى الْجُرُبِ وَعُرْوَتِهٖ فِى الْعُرُوَاتِ وَجَيْبِهٖ فِى الْجُيُوْبِ وَدِخْرِيْصِهٖ
تھیلوں اور زنبیلوں میں ۔ اور آپ کے کاج پر کاجوں میں ۔ اور گریبان پر گریبانوں میں اور تریز پر
فِى الدَّخَارِيْصِ وَرِدَآئِهٖ فِى الْاَرْدِيَةِ وَبُرْدِهٖ فِى الْبُرُوْدِ وَطَيْلَسَانِهٖ
تریزوں میں اور آپ کی اوڑھنے والی چادر پر چادروں میں ۔ اور آپ کی یمنی چادر پر یمنی چادروں میں اور طیلسان پر
فِى الطَّيَالِسِ وَنِطَاقِهٖ فِى النُّطُقِ وَمِرْطِهٖ فِى الْمُرُوْطِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
طیلسانوں میں اور کمر بند پر کمر بندوں میں اور کمبل پر کمبلوں میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی تَاجِہٖ فِی
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے تاج پر

التِّیْجَانِ وَعِمَامَتِہٖ فِی الْعَمَآئِمِ وَمِنْدِیْلِہٖ فِی الْمَنَادِیْلِ وَعَذَبَۃِ
تاجوں میں اور عمامہ پر عماموں میں۔ اور رومال پر رومالوں میں۔ اور عمامہ کے پچھلے

عِمَامَتِہٖ فِی الْعَذَبَاتِ وَکُوْرِ عِمَامَتِہٖ وَحِلْسِہٖ فِی الْاَحْلَاسِ وَغِطَآئِہٖ
شملہ پر شملوں میں۔ اور آپ کی دستار مبارک کے ہر پیچ پر۔ اور آپکے زمینی بچھونے اور ٹاٹ پر ان بچھونے میں۔ اور پردے پر

فِی الْاَغْطِیَۃِ وَعُصْمَتِہٖ فِی الْعُصَمِ وَلِحَافِہٖ فِی اللُّحُفِ وَقَطِیْفَتِہٖ فِی
پردوں میں اور آپ کے گلو بند پر گلو بندوں میں اور آپ کے لحاف پر لحافوں میں اور سوتری چادروں پر ان

الْقَطَآئِفِ وَدِرْعِہٖ فِی الدُّرُوْعِ وَنَعْلِہٖ فِی النِّعَالِ وَخَصْفِہٖ فِی
چادروں میں اور آپ کی زرہ پر زرہوں میں۔ اور جوتے پر جوتوں میں اور آپ کے جوتوں کو پیوند لگانے پر

الْخَصَّافِیْنَ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا
پیوند لگانے والوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی قِبَالِہٖ وَشِرَاکِہٖ وَخُفِّہٖ فِی الْخِفَافِ وَسَرِیْرِہٖ فِی السُّرُرِ
محمد کی آل پر اور آپکے جوتے کے اگلے تسمے پر اور پچھلے تسمے پر اور آپ کی خف پر خفوں میں اور چارپائی پر چارپائیوں

وَقَآئِمَۃِ سَرِیْرِہٖ فِی الْقَوَآئِمِ وَرَسَنِ سَرِیْرِہٖ فِی الْاَرْسَانِ وَخَشَبِ
میں اور چارپائی کے ہر پائے پر اس کے پایوں میں۔ اور آپ کی چارپائی کے رسے پر رسوں میں۔ اور آپ کی چارپائی کی ہر لکڑی

سَرِیْرِہٖ فِی الْاَخْشَابِ وَمِسْمَارِ سَرِیْرِہٖ فِی الْمَسَامِیْرِ وَاَرِیْکَتِہٖ
پر لکڑیوں میں۔ اور اس چارپائی کے ہر کیل پر کیلوں میں۔ اور اوٹ والی کرسی پر

فِی الْاَرَآئِکِ وَمِسْحِہٖ فِی الْاَمْسَاحِ وَحَصِیْرِہٖ فِی الْحُصُرِ وَفِرَاشِہٖ فِی
کرسیوں میں۔ اور آپ کے بوریا پر بوریوں میں اور چٹائی پر چٹائیوں میں اور بچھونے پر

الْفُرُشِ وَاَدِیْمِ فِرَاشِہٖ فِی الْفُرُشِ وَحَشْوِ فِرَاشِہٖ فِی الْحَشْوَاتِ
بچھونوں میں۔ اور بچھونے کے چمڑے پران بچھونوں میں۔ اور اس کی بھری پر بچھونوں کی بھریوں میں

وَمَحْمِلِہٖ وَشُغْدُفِہٖ فِی الشَّغَادِفِ وَشِبْرِیَّہٖ فِی الشِّبْرِیَّاتِ وَ
اور آپ کے محمل پر اور گدے پر گدوں میں اور بچھونے پر بچھونوں میں اور تکیہ پر تکیوں میں اور

نُمْرُقَتِہٖ فِی النَّمَارِقِ وَزِرْبِیَّتِہٖ فِی الزَّرَابِیِّ وَوِسَادَتِہٖ فِی الْوَسَآئِدِ وَ
مسند ناز پر مسندوں میں اور آرامگاہ پر آرامگاہوں میں اور

مَجْلِسِہٖ فِی الْمَجَالِسِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّغْرِبِ اَسْرَارِ
آپ کے بیٹھنے کی جگہ پر ان جگہوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو محل غروب و خفا ہیں اسرار

الذَّاتِ وَمَشْرِقِ اَنْوَارِ الصِّفَاتِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی
ذات کے لیے اور محل طلوع و اشراق ہیں انوار صفات کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّظْھَرِ التَّجَلِّیَاتِ بِاَنْوَارِ السُّبُحَاتِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ
سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ مظہر تجلیات ہیں بسبب انوار نوافل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الْمُصَلِّیْ فِیْ جَمْعِ
بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب اچھی طرح تعریف کرنے والے ہیں جمع

الْجَمْعِ بِاَحْمَدَ وَالْقَارِیْ بِفُرْقَانِ الْفَرْقِ بِمُحَمَّدٍ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَ
الجمع کے مقام میں احمد ہو کر اور قرأت کرنے والے ہیں فرقان حمید کی جو فرق کرنیوالا ہے مالک و مملوک اور عابد و معبود میں محمد ہو کر۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الْقَآئِمِ فِی الْمُلْکِ
سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو قائم کرنے والے ہیں ملک خدا وندی میں

بِشَرْعِہٖ وَجَلَالِہٖ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ
اپنی شریعت اور جلالت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الرَّاحِمِ فِی الْمَلَکُوْتِ بِرَحْمَتِہٖ وَجَمَالِہٖ اَللّٰھُمَّ
کی آل پر جو رحم فرمانے والے ہیں عالم اعلیٰ و اسفل میں اپنی رحمت اور جمال کے ساتھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُّوْحِ جُثْمَانِ
صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو روح ہیں اجسام اسرار

الْاَسْرَارِ وَلَوْحِ صُوَرِ الْاَنْوَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے لیے اور لوح ہیں انوار کی صورتوں کے ظہور کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ غَيْبِكَ الْكَامِلَةِ وَخَلِيْفَتِكَ عَلَى الْاِطْلَاقِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا تیرے غیب کے لیے کامل آنکھ ہیں اور تیرے خلیفہ مطلق ہیں

الشَّامِلَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

(جن کی خلافت سب کائنات کو) شامل ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ نُوْرِكَ وَسِرِّكَ الْاَبْهٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

محمد کی آل پر جو محبوب مکرم تیرے نور ہیں اور تیرے خوبترین راز ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ الْاَعْلٰى وَصَفِيِّكَ الْاَزْكٰى

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو ہمارے آقا تیرے حبیب اعلیٰ ہیں اور تیری پاکیزہ ترین منتخب ہستی ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا تیرے حسین اور

الْمَلِيْحِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دلربا نبی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

رَحْمَتِكَ الْمُفَاضَلَةِ الْوَاصِلَةِ مِنْكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

جو ہمارے آقا تیری سراسر قابل فخر رحمت ہیں جو ملنے والی ہے تیری طرف سے (ساری مخلوقات کو) اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَافِعِ الْبَلِيَّاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَحْتَجِزُ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب مکرم بلیات ومصائب کے دور کرنے والے ہیں (باذن اللہ) اے اللہ میں تحفظ وپناہ حاصل کرتا ہوں

بِكَ وَاَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِكَ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ

تیرے ساتھ اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری ذات کریمہ اور تیری سلطنت عظیمہ کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے

شَيْءٍ خَلَقْتَ وَاَحْتَرِسُ بِكَ مِنْهُمْ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنَ

جو تو نے پیدا کی اور میں نگہبانی طلب کرتا ہوں تیری ان کے شر سے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ عظیم کی

الْغَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالسَّرْقِ وَالْقَتْلِ وَالْهَدْمِ وَالْخَسْفِ وَالزَّلَازِلِ

غرق ہونے اور جلنے سے اور چوری و قتل سے اور دب کر مرنے اور زیر زمین دھنسائے جانے سے اور زلزلوں سے

وَالرِّمَالِ وَالصَّيْحَةِ وَالْفِتَنِ وَالصَّوَاعِقِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ

اور ریت کے (ٹیلوں کے نیچے) دب جانے سے اور زوردار آواز (کے عذاب) سے اور فتنوں سے اور بجلی کے کڑکوں سے اور جنون، کوڑھ

وَالْبَرَصِ وَاَكْلِ السَّبُعِ وَمِيْتَةِ السُّوْءِ وَجَمِيْعِ اَنْوَاعِ الْبَلَايَا فِي

سفید داغوں والی بیماری سے اور درندوں کا لقمہ بننے سے اور برے طریقہ پر مرنے سے اور تمام اقسام کی بلیات ومصائب سے

الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِكَ تَحَصَّنْتُ

دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اے ارحم الراحمین۔ اے زندہ و پائندہ ہستی تیرے ساتھ ہی حفاظت اور بچاؤ حاصل کیا میں نے

فَارْحَمْنِيْ بِحِمَايَةِ كِفَايَةِ وِقَايَةِ حَقِيْقَةِ بُرْهَانِ حِرْزِ بُرْهَانِ

لہٰذا رحم فرما مجھ پر ساتھ حمایت وکفایت فرمانے اور تحفظ ووقایت مہیا کرنے کے بسم اللہ کے برہان حقیقت اور

بِسْمِ اللّٰهِ وَاَدْخِلْنِيْ يَآ اَوَّلُ يَآ اٰخِرُ بِمَكْنُوْنِ غَيْبِ سِرِّ دَآئِرَةِ

برہان حفظ وامان کا۔ اور داخل فرما مجھے اے اول اے آخر مکنون غیب اور سر مخفی میں اس خزانۂ امان کے

كَنْزِ مَا شَآءَ اللّٰهُ ط لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۝ وَاَسْبِلْ عَلَيَّ يَا

دائرہ سے کہ جو اللہ نے چاہا (وہی ہوا) نہیں قوت وطاقت مگر ساتھ توفیق بخشنے اللہ عالیشان عظیم کے اور لٹکا مجھ پر اے

حَلِيْمُ يَا سَتَّارُ كَنَفَ سِتْرِ حِجَابِ صِيَانَةِ نَجَاةِ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ

حلیم اے ستار کنارا اور پہلو اس ستر وحجاب کا جو اللہ کے اس قول کی بدولت حاصل ہونے والی حفاظت اور نجات کا ہے یعنی

اللّٰهِ وَابْنِ يَا مُحِيْطُ يَا قَادِرُ عَلَيَّ سُوْرَ اَمَانِ اِحَاطَةِ مَجْدِكَ وَ

چنگل مارو سبھی مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی سے اور تعمیر فرما مجھ پر اے محیط اے قادر فصیل اور شہر پناہ اپنی مجد وبزرگی کے امان واحاطہ والی اور

سُرَادِقَ عِزِّ عَظَمَتِكَ ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَعُذْنِيْ

خیمے اپنی عزت وعظمت کے۔ وہی سب سے بہتر (صورت امان کی) ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہے اور پناہ دے مجھے

يَا رَقِيْبُ يَا مُجِيْبُ وَاحْرُسْنِيْ فِيْ نَفْسِيْ وَدِيْنِيْ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ

اے نگہبان اے دعائیں قبول کرنے والے اور میری حراست ونگرانی فرما میری جان۔ میرے دین۔ میرے اہل اور مال

وَوَلَدِیْ وَدَارِیْ بِکَلَائَۃٍ اِعَاذَۃٍ اِغَاثَۃٍ وَلَیْسَ بِضَآرِّھِمْ شَیْئًا اِلَّا بِاِذْنِ

و اولاد میں اور میرے مکان میں ساتھ ایسی نگہبانی اور پناہ اور فریادرسی کے جو تیرے اس قول میں ہے (اور نہیں وہ ان کو ضرر دینے والا ذرہ بھر مگر ساتھ

اللّٰہِ وَقِنِیْ یَا مَانِعُ یَا نَافِعُ یَا دَافِعُ بِاَسْمَآئِكَ وَاٰیَاتِكَ وَکَلِمَاتِكَ

اللہ کے اذن کے) اور مجھے بچالے دور رکھنے والے (ضرر کے) اے نفع دینے والے۔ اے دفع کرنے والے (مصائب کے) بطفیل اپنے اسماء و آیات اور تمام کلمات کے

مِنْ شَرِّ الشَّیْطَانِ وَالسُّلْطَانِ فَاَیُّ ظَالِمٍ اَوْ جَبَّارٍ بَغٰی عَلَیَّ اَخَذَتْہُ

شیطان اور حاکم وقت کے شر سے پس جو ظالم اور جابر و سرکش مجھ پر بغی و عدوان سے کام لے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے ایک عظیم

غَاشِیَۃٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰہِ وَنَجِّنِیْ یَا مُذِلُّ یَا مُنْتَقِمُ مِنْ عَبِیْدِكَ

ڈھانکنے والی (موج) اللہ کے عذاب کی۔ اور نجات عطا فرما مجھے اسے ذلت دینے والے۔ اے انتقام لینے والے اپنے ظلم پیشہ بندوں

الظَّلَمَۃِ الظَّالِمِیْنَ الْبَاغِیْنَ عَلَیَّ وَاَعْوَانِھِمْ فَاِنْ ھَمَّ بِیْ اَحَدٌ مِّنْھُمْ

سے جو مجھ پر ظلم و تعدی کرنے والے ہیں اور ان کے معاونین سے بھی بچا اگر ارادہ کرے میرے ساتھ (ظلم کا) کوئی بھی ان میں سے

اَللّٰھُمَّ یَا رَبِّ اُعِیْذُ حَامِلَ ھٰذَا الْکِتَابِ وَصَاحِبَہٗ وَقَارِئَہٗ

اے اللہ اے میرے پروردگار میں پناہ میں دیتا ہوں اس کتاب کے اٹھانے والے اور اس کو ساتھ رکھنے والے اور اس کے پڑھنے والے کو

وَکَاتِبَہٗ بِالْاِسْمِ الْمَکْتُوْبِ عَلٰی سُرَادِقِ الْعَرْشِ اَنَّہٗ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ

اور کتابت کرنے والے کو اس اصل مکتوب کی پناہ میں جو لکھا ہوا ہے عرش اعظم کے خیموں پر یعنی بے شک شان یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود برحق مگر

الْغَالِبُ الَّذِیْ لَا یَغْلِبُہٗ شَیْءٌ وَّلَا یَنْجُوْ مِنْہُ ھَارِبٌ وَّاُعِیْذُھُمْ بِالْحَیِّ

اللہ جو کہ (سب پر) غالب ہے غالب نہیں آسکتی اس پر کوئی شئی اور نہ بھاگ کر بچاؤ حاصل کر سکتا ہے اس سے کوئی بھاگنے والا اور میں ان سب کو پناہ میں دیتا ہوں اس

الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ وَبِالْقَیُّوْمِ الَّذِیْ لَا یَنَامُ وَبِالْکُرْسِیِّ الَّذِیْ لَا

زندہ اور ابدی ذات کی جس پر کبھی موت نہیں آئے گی اور اس پائندہ اور سرمدی ذات کی پناہ میں جو نہیں سوتا۔ اور اس کرسی کی پناہ میں جو کبھی

یَزُوْلُ وَبِالْعَرْشِ الَّذِیْ لَا یَنَامُ وَاُعِیْذُھُمْ بِالْاَسْمَآءِ الْمَکْتُوْبَۃِ

زوال پذیر نہیں ہوگی۔ اور اس عرش کی پناہ میں کہ نہیں سوتا (مالک اس کا) اور میں ان سب کو پناہ میں دیتا ہوں ان اسماء کے جو لکھے ہوئے ہیں

فِی اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ وَاُعِیْذُھُمْ بِتِسْعِ الْاٰیَاتِ الَّتِیْ نَزَلَتْ عَلٰی مُوْسٰی

لوح محفوظ میں۔ اور میں انھیں پناہ میں دیتا ہوں ان نو آیات کے جو نازل ہوئیں موسیٰ کلیم علیہ السلام پر۔

بِطُوْرِ سَیْنَآءَ وَاُعِیْذُھُمْ مِّنْ کُلِّ عَیْنٍ نَّاظِرَۃٍ وَّاُذُنٍ سَامِعَۃٍ وَّ

طور سینا پر۔ اور پناہ میں دیتا ہوں ان سب کو ہر دیکھنے والی آنکھ۔ سننے والے کان اور

اَلْسِنَۃٍ نَّاطِقَۃٍ وَّاَقْدَامٍ مَّاشِیَۃٍ وَّقُلُوْبٍ وَّاعِیَۃٍ وَّاَنْفُسٍ کَافِرَۃٍ

بولنے والی زبانوں سے۔ چلنے والے قدموں اور محفوظ رکھنے والے دلوں اور کافر نفوس سے

وَّیَمِیْنٍ لَّازِمَۃٍ ظَاھِرَۃٍ اَوْ بَاطِنَۃٍ وَّاُعِیْذُھُمْ مِّمَّنْ یَّعْمَلُ الْخَطَایَا وَیَھُمُّ

اور لازم آنیوالی قسم سے ظاہر ہو یا مخفی ہو۔ اور پناہ میں دیتا ہوں ان سب کو ان لوگوں سے جو گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں یا ان کا

بِھَا مِنْ ذَکَرٍ وَّاُنْثٰی وَاُعِیْذُھُمْ مِّنْ شَرِّ کُلِّ عَقْدِھِمْ وَمَکْرِھِمْ وَسِلَاحِھِمْ

ارادہ کرتے ہیں خواہ مرد ہوں یا عورتیں۔ اور میں (اللہ تعالیٰ کی) پناہ میں دیتا ہوں ان سب کو ان کے اعداء کے) منتروں سے اور مکر سے اور ان کے ہتھیاروں سے

وَبَرِیْقِ اَعْیُنِھِمْ وَحَرِّ اَجْسَادِھِمْ وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَالشَّیَاطِیْنِ وَ

ان کی آنکھوں کی چمک سے اور ان کے اجسام کی حرارت سے اور جن و شیاطین کے شر سے اور

التَّوَابِعِ وَالسَّحَرَۃِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ تَکُوْنُ فِی الْجِبَالِ وَالْحِیَاضِ وَالْخَرَابِ

(عاملوں کے) تابع جنوں سے اور جادوگروں کے شر سے اور ہر اس چیز کے شر سے جو ہو پہاڑوں میں۔ حوضوں اور تالابوں میں یا

وَالْعُمْرَانِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ یَّکُوْنُ فِی الْبِحَارِ وَالْبَرَارِیْ وَالْمَفَاوِزِ وَالْبُلْدَانِ

ویرانے اور آبادیوں میں اور ہر اس چیز کے شر سے جو ہو سمندروں میں یا خشکیوں میں۔ جنگلات و بیابان اور شہروں میں۔

وَمِنْ شَرِّ سَاکِنِ النَّوَاوِیْسِ وَمِنْ شَرِّ سَاکِنِ الطُّیُوْرِ وَسَاکِنِ الْقُبُوْرِ وَ

اور نصاریٰ کے قبرستانوں میں رہنے والوں سے اور پرندوں کے اندر رہنے والوں کے شر سے۔ اور قبروں میں رہنے والوں اور

سَاکِنِ الطُّرُقِ وَاُعِیْذُھُمْ مِّنْ شَرِّ کُلِّ غُوْلٍ وَّغُوْلَۃٍ وَّسَاحِرٍ وَّسَاحِرَۃٍ

راستوں پر رہنے والوں کے شر سے۔ میں انہیں پناہ میں دیتا ہوں (اللہ تعالیٰ کے) ہر غول اور چھلاوے سے مذکر ہو یا مونث اور جادوگر مردوں اور

وَّمِنْ شَرِّ الطَّیَّارَاتِ وَاُعِیْذُھُمْ بِاٰھِیًّا شَرَاھِیًّا لَكَ الْحَمْدُ وَاِلَیْكَ

عورتوں سے اور اڑنے والے جنوں کے شر سے اور میں انہیں پناہ میں دیتا ہوں اہیا اشر اہیا (حی و قیوم) کی تیرے لیے ہی حمد ہے اور طرف تیری ہی

الْمُشْتَکٰی وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَاَنْتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اَللّٰھُمَّ صَلِّ

شکایت ہے (حوادث زمان سے) اور تو ہی حد درد و توفیق طلب کیا جانے والا ہے (ہر ایک کا) اور تو ہی ہر چیز پر بہت ہی قدرت والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاسِطَةِ اَهْلِ الْحُبِّ وَقِبْلَةِ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو واسطہ ہیں (تیرے وصل کیلئے) اہل محبت کا اور قبلہ ومرکز توجہ ہیں مقام قرب

اَهْلِ الْقُرْبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والوں کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

لَوْحِ اَسْرَارِ الْقَیُّوْمِیَّةِ وَرُوْحِ الْمُشَاهَدَةِ الْمَلَكُوْتِیَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

جو اسرار قیومیت کے لیے لوح (نقش ونگار) اور ملکوت کے مشاہدہ کے لیے روح ہیں (اہل مشاہدہ کی)۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَرْجُمَانِ الْاَزَلِ وَالْاَبَدِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو ہمارے آقا ترجمان ہیں ازل اور ابد کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِّسَانِ الْغَیْبِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محرم اسرار خداوندی ترجمان اور سبب اظہار ہیں اس

الَّذِیْ لَا یُحِیْطُ بِهٖ اَحَدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی

غیب کا جس کا احاطہ نہیں کرسکتا کوئی شخص۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صُوْرَةِ الْحَقِیْقَةِ الْفَرْدَانِیَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

جو محبوب مجسم صورت اور مظہر ہیں حقیقت احدیہ فردانیہ کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِلصُّوْرَةِ الْمُزَیَّنَةِ بِاَنْوَارِ الرَّحْمَانِیَّةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا ایسی صورت (کے مالک ہیں) جو مزین اور آراستہ ہے انوار رحمانیہ کیساتھ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِنْسَانِ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو اللہ تعالےٰ کے

اللّٰهِ الْمُخْتَصِّ بِالْعِبَادَةِ عَنْهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

ایسے انسان ہیں جو مختص کردیے گئے ہیں عبادت خداوند تعالیٰ کے ساتھ اس کی طرف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ الْقَابِلِیَّةِ الْاِلٰهِیَّةِ الْاِمْكَانِیَّةِ الْمُتَلَقِّیَةِ مِنْهُ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سر اور راز مخفی ہیں اس خداداد قابلیت واستعداد کا (جو مخلوقات کے) حد امکان میں ہے اور حاصل ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْبَاطِنِ

طرف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ باطن ہیں۔ (اپنی

وَالظَّاهِرِ بِتَفْعِیْلِ التَّكْمِیْلِ الذَّاتِیِّ فِیْ مَرَاتِبِ قُرْبِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

حقیقت کے اعتبار سے) اور ظاہر ہیں (اپنی صورت جسمانیہ اور براہین رسالت کے اعتبار سے) بسبب اثر انگیزی اس تکمیل ذاتی کے (جو اللہ نے فرمائی ہے) آپکے

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ غَایَةِ طَرْفِ الدَّوْرَةِ

مراتب قرب میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو رسول معظم کہ غایت اور مقصد آخری ہیں

النُّبُوِیَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دور نبوت کا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو وسیلہ ایجاد

اِلْمُتَّصِلِ بِالْاَوَّلِ نَظَرًا وَّاِمْدَادًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

متصل ہیں ساتھ اول حقیقی اور قدیم ذات کے از روئے نظر عنایت اور امداد واعانت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِدَایَةِ نُقْطَةِ الْاِنْفِعَالِ الْوُجُوْدِیِّ اِرْشَادًا وَّاِسْعَادًا

اور سیدنا محمد کی آل پر جو مخلوق اول کہ نقطہ آغاز وابتداء ہیں انفعال وجودی کا اور نتیجہ اول ہیں تاثیر خداوندی کی اثر پذیری کا از روئے رہنمائی اور نیکبختی مہیا کرنیکے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَمِیْنِ اللّٰهِ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا امین ہیں

عَلٰی سِرِّ الْاُلُوْهِیَّةِ الْمُطَلْسَمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الوہیت کے اس راز مخفی کے جس تک رسائی سے مخلوق کو دور رکھا گیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ حَفِیْظُهٗ عَلٰی غَیْبِ لَاهُوْتِیَّةِ الْمُكَتَّمِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محمود خلائق وخالق محافظ ہیں اللہ کے لاہوتی غیب واسرار کے جو اچھی طرح چھپا دیے گئے ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَا

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب اس قدر مخفی حقیقت والے ہیں کہ نہیں

تُدْرِكُ الْعُقُوْلُ الْكَامِلَةُ مِنْهُ اِلَّا مِقْدَارَ مَا تَقُوْمُ عَلَیْهِ الْحُجَّةُ الْبَاهِرَةُ

احاطہ کرتے کامل ترین عقول ان کی کسی شان کا مگر اتنے قدر کا کہ قائم اور موجود ہو اس پر روشن دلیل اور حجت

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد کی آل پر کہ جس راز مخفی کو

لَا تَعْرِفُ النُّفُوْسُ الْعَرْشِيَّةُ اِلَّا مَا يُتَعَرَّفُ لَهَا مِنْ لَّوَامِعِ اَنْوَارِهِ

نہیں پہچانتے عرشی نفوس مگر اسی قدر کہ پہچان کرائی جاتی ہے انہیں آپ کے روشن انوار کے

الزَّاهِرَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عکس اور چمک سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو قبلۂ موجودات

مُنْتَهٰى هِمَمِ الْقُدْسِيِّيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى

منتہی اور مقصد حقیقی ہیں قدسیوں کے قصد و ارادوں کا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ بَدَاَ بِهٖ مِمَّا فَوْقَ عَالَمِ الطَّبَآئِعِ مَرْمَى اَبْصَارِ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس مخلوق اول سے آغاز ہوا عالم طبائع اور مادیات سے مافوق عالم کا جو منتہائے مقصود ہے موحدین کی

الْمُوَحِّدِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نظروں کا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ نور مطلق ہیں

النُّوْرِ الْمُطْلَقِ اَللّٰهُمَّ اَحْرِقْ عَوَارِضَ خَيَالِىْ مِنْ نَّارِ عِشْقِكَ وَشَوْقِىْ

(باعتبار وجود اول کے) اے اللہ جلاڈال اپنے عشق کی آگ سے ان رکاوٹوں اور موانع کو جو پیش آنیوالے ہیں میرے خیال اور

اِلٰى جَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَقَطِّعْ حِجَابًا مِّنْ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ وَنَوِّرْ قَلْبِىْ بِنُوْرِ

شوق کو جو طرف تیرے جلال اور جمال ذات کے ہے۔ اور ٹکڑے ٹکڑے کردے اس حجاب کو جو میرے اور تیرے درمیان ہے۔ اور منور فرما میرے دل کو

مَعْرِفَتِكَ وَارْزُقْنِىْ كَاْسًا مِّنْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ وَخِلْعَةِ وِصَالِكَ وَ

اپنے نور معرفت سے اور عطا فرما مجھے جام اپنے شراب محبت سے اور مشرف فرما مجھے اپنے وصال کی خلعت اور اپنی لقاء کے

تَشْرِيْفِ لِقَآئِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِىْ لِذِكْرِكَ

اعزاز سے۔ اے جلال و اکرام کے مالک۔ اے اللہ کھول دے میرے دل کے کان اپنے ذکر سننے کیلئے

وَارْزُقْنِىْ طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُوْلِكَ وَعَمَلًا بِكِتَابِكَ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ

اور مجھے نصیب فرما اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت اور اپنی کتاب پر عمل اے اللہ اے اللہ

يَا اَللّٰهُ وَصُبَّ عَلَيْنَا مِنْ اَنَابِيْبِ مَيَازِيْبِ التَّوْفِيْقِ فِىْ رَوْضَاتِ

اے اللہ۔ اور زور سے پلٹ ہم پر اپنی توفیق کے پرنالوں کی نالیوں سے (توفیق کا آب حیات) سعادت مندیوں کے

السَّعَادَاتِ اٰنَآءَ لَيْلِكَ وَاَطْرَافَ نَهَارِكَ وَاَغْمِسْنَا فِىْ اَحْوَاضِ

باغات میں رات کی ہر آن میں اور دن کے ہر حصے میں۔ اور ہمیں ڈبو دے ان تالابوں اور حوضوں میں

سَوَاقِىْ مَسَاقِىْ بِرِّ بِرِّكَ وَرَحْمَتِكَ وَقَيِّدْنَا بِقُيُوْدِ السَّلَامَةِ عَنِ

جو تیرے خاص احسان اور رحمت کے دریا سے پھوٹنے والی نہروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور مقید فرما ہمیں سلامتی کی بیڑیوں کے

الْوُقُوْعِ فِىْ مَعْصِيَتِكَ يَا اَوَّلُ يَا اٰخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا قَدِيْمُ

ساتھ اپنی نافرمانبرداری کے (گڑھوں میں) گرنے سے۔ اے اول۔ اے آخر۔ اے ظاہر۔ اے باطن۔ اے قدیم

يَا قَوِيْمُ يَا مُقِيْمُ يَا مَوْلَآئِىْ يَا قَادِرُ يَا مَوْلَآئِىْ يَا غَافِرُ يَا لَطِيْفُ يَا

اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ اے قائم رکھنے والے (سموٰات وارض کے) اے میرے مولی۔ اے قادر۔ اے میرے مولی۔ اے بخشنے والے۔ اے

خَبِيْرُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

لطیف۔ اے خبر رکھنے والے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

ِالَّذِىْ لَا يَتَجَلّٰى اَشِعَّةُ اللّٰهِ لِقَلْبٍ اِلَّا مِنْ مِّرْاٰةِ سِرِّهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

نہیں پرتو فگن اور نمایاں ہوتیں اللہ کے نور ذات کی تجلیات کسی دل پر مگر اسی محبوب کے آئینہ راز سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ لَا تَرَنَّمُ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ نہیں نغمہ سرا ہوتے

الْمَزَامِيْرُ عَلٰى لِسَانِهٖ اِلَّا بِرَنَّاتِ ذِكْرِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

مزامیر اور آلات غنا آپ کی زبان اقدس پر مگر ذکر باری تعالی کے نغمات کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ الْوِتْرُ الشَّفِيْعُ الْمُحَقِّقُ الْمَحْكُوْمُ بِالْجِهَادِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا (مرتبہ ذات میں) یکتا ہیں اور گنہگاروں کیلئے (از راہ رحمت) شفیع ہیں۔ مرتبہ تحقیق پر فائز ہیں

عَلٰى كُلِّ مَنِ ادَّعَى الْكُفْرَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

اور حکم دئے گئے ہیں جہاد کا ہر اس شخص کے خلاف جو کفر کا دعوی رکھتا ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّعْرِفَةِ اللّٰهِ مُجَرَّدَةٍ فِیْ نَفْسِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد کی آل پر جو مرشد کامل کہ سراسر اللہ تعالیٰ کا عرفان ہیں اور واقع میں (سب مخلوق اور ان کے علائق سے) الگ تھلگ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَرْعِ الْحَدْثَانِ الْمُتَرَعْرِعِ فِیْ غَایَتِهٖ بِمَا یُبِدُّ بِهٖ

سلام بھیج سیدنا محمد پر جو کہ (باغ قدس) کی تازہ شاخ ہیں جو نشو و نما پانے والی ہے اپنی غایت تک رسائی کیلئے بسبب اس کے جو حصہ دیتا ہے

كُلَّ اَصْلٍ اَبَدِیٍّ حِیْنَئِذٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی

اسے ہر اصل ابدی وقت نشو و نما میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ ثَمَرَةِ شَجَرَةِ الْقِدَمِ وَنُسْخَةِ الْوُجُوْدِ وَالْعَدَمِ اَللّٰهُمَّ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ پھل ہیں درخت قدم کا اور نسخہ کاملہ جامعہ ہیں جن سے ایجاد و اعدام کا آغاز ہوا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَ

صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقائے خلق اللہ تعالیٰ کے عبد خاص ہیں اور

نِعْمَ الْعَبْدُ الَّذِیْ بِهٖ كَمَالُ الْكَمَالِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا

بہت اچھے عبد ہیں انہیں کی بدولت کمال نے کمال پایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَابِدِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ بِلَا اتِّحَادٍ وَّلَا حُلُوْلٍ وَّلَا

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ساتھ اللہ (کی توفیق مخصوص) کے بغیر اتحاد و حلول کے اور بغیر

اتِّصَالٍ وَّلَا انْفِصَالٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی

اتصال و انفصال کے (بلکہ ایسے ربط سے جو تصور سے بالاتر ہے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِیْ اِلَی اللّٰهِ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ اَللّٰهُمَّ

محمد کی آل پر جو کہ بلانے والے ہیں (مخلوق کو) طرف اللہ تعالیٰ کے (اور خود بھی) راہ راست پر ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الْاَنْبِیَآءِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ انبیاء کے نبی ہیں

وَمُمِدِّ الرُّسُلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ

اور رسل کرام کے فیض رساں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ مِنْ حَیْثُ كَمَا اَنْتَ وَهُوَ عَبْدُكَ مِنْ حَیْثُ

محمد کی آل پر جو کہ تیرے عبد خاص اور طاعت گزار ہیں اس عبدیت و طاعت کے ساتھ جو تیری ذات والا کے لائق ہے اور وہ تیرے عبد کامل

كَافَّةِ اَسْمَآئِكَ وَصِفَاتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں از روئے تیرے تمام اسماء و صفات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَمَالِ التَّجَلِّیَاتِ الْاِخْتِصَاصِیَّةِ وَجَلَالِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ سراسر جمال ہیں (تیری) مخصوص و مختص تجلیات کا۔ اور سراپا جلال ہیں

التَّنَزُّلَاتِ الْاِصْطِفَائِیَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

تنزلات اصطفائیہ کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَاطِنِ بِكَ فِیْ غَیَابَاتِ الْعِزِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ پوشیدہ اور مخفی ہونے والے ہیں تیری اعانت سے تیرے عز و اکرام کے پردوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الظَّاهِرِ بِنُوْرِكَ فِیْ

اور سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ ظاہر ہونے والے ہیں تیرے نور کی بدولت

مَشَارِقِ الْمَجْدِ الْاَفْخَرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی

بلند مرتبت مجد اور بزرگی کے مطالع ظہور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَزِیْزِ الْحَضْرَةِ الصَّمَدِیَّةِ وَسُلْطَانِ الْمَمْلَكَةِ الْاَحَدِیَّةِ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ بارگاہ صمدیت میں معزز و مکرم ہیں اور مملکت احدیت و خداوندی کے بادشاہ ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَآئِرَةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر جو آقا کہ دائرہ ہیں

الْاِحَاطَةِ الْعُظْمٰی وَمَرْكَزِ مُحِیْطِ الْفَلَكِ الْاَسْمٰی اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

عظیم احاطہ والا (جس کے گھیرے میں سب کائنات ہے) اور مرکز ہیں بلند مرتبت فلک محیط اور فلک الافلاک کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّنْ سَتَرْتَهٗ بِمَا لَا یَنْبَغِیْ لِاَحَدٍ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کو تو نے چھپا دیا ہے ان پردوں میں جو نہیں شایاں واسطے کسی کے

مِنْ خَلْقِكَ وَفِي بَاطِنِهٖ لَكَ أَسْرَارٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

تیری مخلوق سے سوا ان کے اور ان کے باطن میں تیرے اسرار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّنْ كَحَلْتَ بِنُوْرِ قُدْسِكَ مُقْلَتَهٗ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی آنکھ کو سرمگین کیا ہے تو نے اپنے نور قدس کے ساتھ

فَرَاٰى ذَاتَكَ الْعَلِيَّ جِهَارًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

پس دیکھا انہوں نے تیری ذات کو علانیہ روبرو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّنْ بِهٖ نَطَقَتْ اَسْرَارُكَ وَكَمُلَ بِهٖ جَلَالُكَ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کی وساطت سے بولنے لگے تیرے اسرار اور کمال پذیر ہوا ساتھ ان کے تیرا جلال (عالم ظاہر ہیں)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ

الَّذِيْ مِنْهُ ظَهَرَتْ اَنْوَارُكَ وَبَرَزَتْ كَمَالَاتُكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس تیرے مظہر کے ذریعے ظاہر ہوئے تیرے انوار اور آشکار ہوئے تیرے کمالات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّسْتَوٰى تَجَلِّيْ عَظَمَتِكَ

بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا موزوں تر مقام و محل ہیں تیری تجلیٔ عظمت

وَرَحْمَتِكَ وَحِلْمِكَ فِيْ جَمِيْعِ مَخْلُوْقَاتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور ظہور رحمت کے لیے اور تیرے حلم کی جلوہ گری کے لیے تیری تمام مخلوقات میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّنْ فَلَقْتَ بِكَلِمَةِ الْخُصُوْصِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ پھاڑا تو نے خصوصیت محمدیہ والے کلمہ کے ساتھ

بِحَارَ الْجَمِيْعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سب کے (راستہ میں حائل) سمندروں کو (انہیں پار لگانے کے لیے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مَّنْ مَّنَنْتَ مِنْهُ مَعْرِفَتَكَ وَجَمَالَكَ وَخِطَابَكَ لِلْقَلْبِ وَالْبَصَرِ وَالسَّمْعِ

کہ جس وسیلۂ خلق کے طفیل احسان و انعام کیا تو نے اپنی معرفت اور جمال و ہمکلامی کا ہر قلب و نظر اور سب کانوں کے لیے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْاَحْمَدِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو بہت حمد و ثنا کرنے والے

الْاَحَدِيِّ الْحَامِدِ الْمُحَمَّدِيِّ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مُتَوَسِّلًا بِهٰذَا الْحَامِدِ

ہیں ذات بے ہمتا و یکتا کی اور خود صاحب حمد ہیں اور بہت ہی حمد کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے توسل کرتے ہوئے ساتھ

الْحَمَّادِ الْمَحْمُوْدِ الْمُحَمَّدِ اَنْ تَشْفِيَنِيْ وَتُقَوِّيَنِيْ شِفَاءً بَدَنِيًّا قَلْبِيًّا وَّ

اس ذات کے جو تیری حمد کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ حمد کرنے والے ہیں نیز حمد و ثنا کیے ہوئے ہیں اور بار بار حمد و ثنا کیے ہوئے ہیں کہ تو مجھے شفاء

قُوَّةً ظَاهِرِيَّةً وَّبَاطِنِيَّةً وَّشِفَاءً لِّلظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ عَامًّا لِّلصُّوَرِ

اور تقویت عطا کرے شفاء ایسی جو بدن اور قلب کی ہو۔ اور قوت ظاہر اور باطن کی اور شفاء واسطے ظاہر کے اور باطن کے جو شامل ہو صورتوں کو بھی

وَالْمَعَانِيْ وَتَجْعَلَنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِيْ عِبَادَتِكَ وَعُبُوْدِيَّتِكَ وَعُبُوْدَتِكَ

اور معانی کو۔ اور بنائے تو مجھے طویل عمر والا اپنی عبادت کیلئے۔ اور اپنی عبادت کو محض حصول شرف اور لطف اندوزی کیلئے سرانجام دینے کیلئے اور عبادت

وَتُثَبِّتَنِيْ عَلَى الطَّرِيْقَةِ الْخَاصَّةِ الْاِنْسَانِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ

کو جزاء و عطاء سے بالاتر ہو کر صرف اپنے ذاتی استحقاق کی خاطر بجا لانے کیلئے اور مجھے ثابت قدم رکھے اوپر طریقہ خاصہ انسانیہ محمدیہ کے اور اس معرفت کے جس

التَّوْحِيْدِيَّةِ الْاَكْمَلِيَّةِ الْاَجْمَعِيَّةِ الْاَحَدِيَّةِ الْاَحْمَدِيَّةِ وَثَبِّتْنِيْ عَلٰى

کا تعلق کامل ترین توحید سے اور احدیت احمدیہ سے ہے اور مجھے ثابت قدم رکھ اوپر

طَلَبِ الطَّرِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الَّتِيْ هِيَ الْكَمَالُ وَفَوْقَ الْكَمَالِ وَاَوْصِلْنِيْ

طریقت محمدیہ کی طلب و آرزو کے جو کہ عین کمال ہے اور سب کمالات سے بلند و بالا مرتبہ ہے اور مجھے واصل فرما

اِلَيْهَا بِحُرْمَتِهٖ وَاجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمْرِ فِي اتِّبَاعِ شَرْعِكَ وَسُنَّةِ حَبِيْبِكَ

اس طریقہ تک بطفیل عزت و حرمت محبوب کے۔ اور بنا تو مجھے عمر دراز والا اپنی شریعت اور اپنے حبیب کی سنت کی اتباع کیلئے

وَاهْدِنِيْ صِرَاطَ الْمَعْرِفَةِ الْكَامِلَةِ الذَّوْقِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ اَللّٰهُمَّ وَاشْفِنِيْ

اور مجھے ہدایت عطا فرما اس معرفت کاملہ کے راستہ کی جو سراسر ذوق و شوق محمدی ہے۔ اے اللہ اور مجھے شفا عطا کرنا

وَامْحُ عَنْ لَوْحِ وُجُوْدِيْ رَقْمَ الْمَرَضِ الْقَالَبِيِّ بِحُرْمَةِ مِيْمِهِ الْمَاحِيْ

اور مٹا دے میرے لوح وجود سے نقش و نشان جسمانی امراض کا بطفیل حرمت میم کے جو محبوب کریم کے اسم ماحی سے ہے (مٹانے والے)

وَحَوِّلْ وَجْهَ الْبَلِيَّةِ عَنِّيْ بِحُرْمَةِ حَآئِهِ الْمُحَوِّلِ بِالْحَقِّ ثُمَّ امْحُ رَقْمَ

اور پھیر دے رُخ بلیت و مُصیبت کا مجھ سے بطفیل حرمتِ حا کے جو محبوب کے اسم محول بالحق سے ہے احق کے ساتھ داغ اپھر مٹا دے

الْمَرَضِ الْقَلْبِيِّ بِحُرْمَةِ مِيْمِهِ الثَّانِيْ وَدُلَّنِيْ عَلٰى مَا يَدْفَعُ عَنِّيْ

نام ونشان مرض قلبی کا بطفیل حرمت وکرامت اسم محمد کے میم ثانی کے ۔ اور میری رہنمائی فرما ان امور کی طرف جو دور کردیں مجھ سے

مَرَضَ التَّوَجُّهِ إِلٰى غَيْرِكَ وَالْعَمَلِ بِمَا يُخَالِفُ الشَّرِيْعَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ بِحُرْمَةِ

تیرے ماسوا کی طرف متوجہ ہونے کا مرض اور دور کریں مجھ سے شریعت محمدیہ کے برخلاف عمل کرنے کا مرض بطفیل حرمت

دَالِهِ الدَّلِيْلِ لِلْعٰلَمِيْنَ إِلَى الْحَقِّ الصِّرْفِ اَللّٰهُمَّ اشْفِ هٰذَا الْعَبْدَ

اسم محمد کی دال کے جو رہبر ہیں تمام عالمین کے لیے طرف محض اور خالص حق کے ۔ اے اللہ شفا بخش اس عبد کو

الْمُتَذَلِّلَ الْمُتَوَسِّلَ بِحَبِيْبِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اَجِبْ

جو سراپا عجز ونیاز ہے اور توسل کرنے والا ہے تیرے حبیب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ اے اللہ یہ التجائیں قبول فرما

بِحُرْمَتِهِ اَللّٰهُمَّ بِبَرَكَةِ الصَّلٰوةِ عَلَيْهِ اجْعَلْنَا مِنَ الْفَآئِزِيْنَ وَعَلٰى

بطفیل حرمت حبیب کے ۔ اے اللہ ان پر صلوات کی برکت سے بنا ہمیں کامیاب اور فائز المرام لوگوں سے اور آپ کے

حَوْضِهِ مِنَ الْوَارِدِيْنَ الشَّارِبِيْنَ وَبِسُنَّتِهِ وَطَاعَتِهِ مِنَ الْعَامِلِيْنَ

حوض کوثر پر وارد ہوتے اور پینے والوں سے ۔ اور آپ کی سنت اور اتباع میں عمل کرنے والوں سے

وَلَا تَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِهِ وَتَوَفَّنَا عَلٰى

اور نہ حائل ہونا درمیان ہمارے اور درمیان ان کے قیامت کے دن ۔ اور ہمیں عمل پیرا بنا ان کی سنت کے ساتھ اور وفات دینا

مِلَّتِهِ وَاحْشُرْنَا فِيْ زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَآئِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ رُّفَقَآئِهِ وَاَوْرِدْنَا

ان کی ملت پر ۔ اور ہمیں قیامت کے دن جمع کرنا ان کی جماعت کے ساتھ اور ان کے لواء حمد کے نیچے اور ہمیں آپکے رفقا میں داخل فرما

حَوْضَهُ وَاسْقِنَا بِكَاْسِهِ وَانْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

اور ہمیں آپ کے حوض پر وارد فرمانا اور ان کے دستِ کرم سے جام پلانا ۔ اور ہمیں نفع اندوز بنا ان کی محبت سے اور ہمیں بنا ہدایت پانے والوں

بِمِنْهَاجِ شَرِيْعَتِهِ وَاهْدِنَا بِهَدْيِهِ وَتَوَفَّنَا عَلٰى مِلَّتِهِ وَاحْشُرْنَا يَوْمَ

سے ان کی شریعت کے واضح اور کشادہ راستہ کی ۔ اور ہمیں ان کی سیرت پر چلا اور ہمیں وفات دینا ان کی ملت پر اور اٹھانا ہمیں

الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ فِيْ زُمْرَتِهِ وَاَمِتْنَا عَلٰى حُبِّهِ وَحُبِّ اٰلِهِ

بہت بڑی گھبراہٹ والے دن میں اُن کے دامنِ رحمت میں امن پانے والی جماعت سے ۔ اور ہمیں وفات دینا ان کی اور ان کی آل کی محبت

وَاَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ

پر ۔ اور آپ کے اصحاب اور ذریات کی محبت و عقیدت پر آمین یارب العالمین ۔ اے اللہ کردے اپنی

حُبَّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَآءِ اِلَيَّ وَاجْعَلْ خَوْفَكَ اَخْوَفَ الْاَشْيَآءِ عِنْدِيْ وَاقْطَعْ

محبت کو سب اشیائے محبوب تر طرف میرے اور کردے اپنے خوف کو سب اشیائ سے زیادہ خوف دلانے والا میرے نزدیک اور قطع

عَنِّيْ حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ اِلٰى لِقَآئِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

کردے مجھ سے تمام دنیوی حاجات کو اپنے شوقِ لقاء کے ذریعے سے ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَخَّرْتَ عَنْ مَّقَامِهِ تَاْخِيْرًا ذَاتِيًّا

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس مقتدائے خلائق کے مقامِ تقدیم سے موخر کردیا ہے تو نے بطور تاخیر ذاتی کے

لِّكُلِّ اَحَدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

ہرایک کو ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِيْ جَعَلْتَهُ بِحُكْمِ اَحَدِيَّتِكَ وِتْرَ الْعَدَدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

کہ جس آقا کو بنا دیا تو نے اپنے حکم احدیت وازل میں طاق عدد والے اکر والدین کے اکلوتے فرزند تھے اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِوَآءِ عِزَّتِكَ الْخَافِقِ وَلِسَانِ حِكْمَتِكَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو خلیفۂ مطلق تیری عزت وعظمت کے لہراتے علم ہیں اور تیری حکمت کی

النَّاطِقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

بولتی زبان ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

سُلْطَانِ مَمَالِكِ الْعِزَّةِ اِلٰى كَآفَّةِ بِلَادِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

جو آقا کہ ممالک عزت کے سلطان ہیں تیری طرف سے تمام بلاد اور آبادیوں کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَلَاطَمَتْ بِرِيَاحِ التَّعَيُّنِ الصَّمَدَانِيِّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو ایسے سمندر ہیں کہ تلاطم خیز ہیں صمدانی تعین کی ہواؤں سے

اَمْوَاجُهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ

موجیں اس کی۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ

الَّذِیْ قَآئِدُ جَیْشِ النُّبُوَّةِ الَّذِیْ تَسَارَعَتْ بِكَ اِلَیْكَ اَفْوَاجُهٗ اَللّٰهُمَّ

جو آقا قائد ہیں جیش نبوت کے کہ سرعت کے ساتھ چلنے والی ہیں تیری توفیق کیساتھ تیری ہی طرف افواج ان کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ هُوَ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا تیرے

خَلِیْفَتُكَ عَلٰی كَآفَّةِ خَلِیْقَتِكَ وَاَمِیْنُكَ عَلٰی جَمِیْعِ بَرِیَّتِكَ

خلیفۂ مطلق ہیں تیری ساری مخلوق پر اور تیرے امین اور معتمد علیہ ہیں تیری مخلوقات پر۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مَّنْ هُوَ غَایَةُ مَجْدِ الْمَجِیْدِ وَفِی الثَّنَآءِ عَلَیْهِ الْاِعْتِرَافُ بِالْعَجْزِ عَنْ

کہ جو عالی مرتبت محبوب غایت وانتہا ہیں بزرگی و برتری کی جو خود موصوف ہے رفعت و بلندی سے اور ان پر ثناء و توصیف میں ہر مخلوق کو اعتراف ہے عجز و

اكْتِنَاهِ صِفَاتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا

قصور کا ان کی صفات کی حقیقت معلوم کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ نِّهَایَةِ الْبَلِیْغِ الْمُبَالِغِ اَنْ لَّا یَصِلَ اِلٰی مُبَالِغِ الْحَمْدِ عَلٰی مَكَارِمِهٖ

آل پر کہ فصیح و بلیغ بلکہ بلاغت کی انتہائی بلندی پر فائز خطیب کی غایت و نہایت یہ ہے کہ نہ پہنچنے پائے حمد و ثناء کی آخری حدود تک انکے مکارم اخلاق

وَهِبَاتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ

اور خدا داد اوصاف کمال پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِی اسْتَوْجَبَ مِنَ الْحَمْدِ بِكَ لَكَ اِصْدَارَهٗ وَاِیْرَادَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

کہ جو احمد الخلائق مستحق ہو گئے ہیں تیری توفیق سے تیری حمد کے بعد سیر ہو کر واپس ہونے کے اور سیرابی کیلئے اس چشمۂ حیات پر وارد ہونے

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الْاَكْبَرِ وَالْاَسْنَدِ

کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ تیرے عبد اکبر ہیں اور تیری نورانی سند

الْاَنْوَرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ

اور دستاویز ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الْبَاطِنِ تَحْتَ سُرَادِقَاتِ عِزَّتِكَ وَعَظَمَتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

کہ جو محبوب مخفی و پوشیدہ ہیں تیری عزت و عظمت کے خیموں کے نیچے (از رہِ غیرتِ محبت) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الظَّاهِرِ بِنَوَامِیْسِ اَمْرِكَ وَنَهْیِكَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو رسول معظم ظاہر ہیں تیرے امر و نہی لانے والے ملائکہ کے ذریعے اور

وَرَحْمَتِكَ وَحِبْرَتِكَ الْمُبْتَغٰی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ فِی الدُّنْیَا طَاعَتَكَ وَ

تیری رحمت اور تیری تزیین و آرائش مطلوبہ کے ساتھ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا میں تیری طاعت کا اور

الْفِرَارَ عَنْ مَّعْصِیَتِكَ وَفِی الْاٰخِرَةِ جَنَّتَكَ وَرُؤْیَتَكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ

بھاگ نکلنے کا تیری معصیت سے۔ اور آخرت میں تیری جنت کا اور تیرے دیدار کا۔ اور تیری عقوبت و سزا سے

عُقُوْبَتِكَ اَللّٰهُمَّ وَاعْمُرْ بَاطِنِیْ بِاَمْدَادَاتِكَ وَاعْمُرْ ظَاهِرِیْ بِالْجُلُوْسِ عَلٰی

محفوظ رہنے کا۔ اے اللہ آباد فرما میرے باطن کو اپنی امدادوں سے اور میرے ظاہر کو ساتھ بٹھانے کے

بِسَاطِ مُنَاجَاتِكَ وَاجْعَلْنِیْ اَهْلًا لِّلْجُلُوْسِ عَلٰی مَوَآئِدِ كَرَامَتِكَ وَانْفُخْ فِیَّ

اپنی مناجات اور ہمکلامی کی مسند پر۔ اور بنا مجھے اہل اور حقدار واسطے بیٹھنے کے اوپر اپنی کرامت و عنایت کے دستر خوانوں کے۔ اور پھونک

رُوْحًا مِّنْ عِنْدِكَ لِكَیْ اَقْهَرَ بِهٖ مَا اسْتَوْلٰی عَلَیَّ مِنْ قَبِیْحِ الصِّفَاتِ وَ

میرے اندر روح اپنے پاس سے تاکہ قاہر و غالب ہو جاؤں میں بسبب اس کے اپنے اوپر غلبہ پا جانے والی قبیح خصلتوں پر اور

انْفُخْ فِیْ قَلْبِیْ مِنْ نَّفَحَاتِ الْقُدْسِیَّةِ مَا یُوْصِلُنِیْ اِلَی التَّحَقُّقِ بِحَقَآئِقِ

پھونک میرے دل میں قدسی خوشبودار ہواؤں سے اتنا قدر کہ پہنچا دیں مجھے طرف متحقق اور متصف ہونے کے ساتھ حقائق

الذَّاتِ وَاَزِحْ عَنْ عَیْنِ بَصِیْرَتِیْ مُشَاهَدَةَ الْغَیْرِ وَحَقِّقْنِیْ فِی الْمَقَامَاتِ

ذات کے اور دور فرما دے میری چشم بصیرت سے غیروں کے مشاہدہ والا پردہ۔ اور مجھے ثابت و برقرار رکھ مقامات

الْفَرْدِیَّةِ وَحَسِّنْ مِنِّی السَّیْرَ لِكَیْ اَشْهَدَ اَهْلَ السَّمَآءِ فِی الْقُرْبِ كَاَهْلِ

فردانیت و احدیت (کے انکشاف کے وقت) اور میری سیر اور ترقی سلوک کو خوبتر بنا تاکہ میں مشاہدہ کرسکوں اہل سموات کا مقام قرب میں

الْاَرْضِ وَتَنْدَحِي فِي نَظَرِي الْمَوْجُودَاتُ كُلُّهَا فِي الطُّوْلِ وَالْعَرْضِ

مثل اہل ارض کے۔ اور کشادہ ہو کر اور کھل کر آجائیں میری نظر میں موجودات تمام کے تمام اپنے طول و عرض میں

وَاَرَى الْكُلَّ فِي مَشْهَدِي كَحَلْقَةِ الْخَاتَمِ الصَّغِيْرِ وَيَسْرِيْ حُكْمُ اَمْرِي

اور دیکھوں میں سب کو اپنے مقام شہود میں مانند چھوٹی انگوٹھی کے حلقہ کے۔ اور جاری و ساری ہو میرا حکم و امر جو کہ

الْمُوَافِقُ لِاَمْرِكَ فِي الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَلِاَسْمَعَ بِكَ كُلَّ نَاطِقٍ فِي الْوُجُوْدِ وَ

موافق ہو تیرے امر کے ہر صغیر و کبیر میں۔ اور تاکہ سن لوں میں تیری توفیق سے ہر بولنے والے کا کلام جو بھی وجود میں آئے اور

مَاثَمَّ يَفْهَمُ هٰذَا اَهْلُ الشُّهُوْدِ وَفَهِّمْنِي الْمُشْكِلَاتِ الْاٰبِيَةَ عَنِ الْوُضُوْحِ

نہیں اس مقام پر سمجھتے اس کو اہل شہود۔ اور مجھے سمجھا دے وہ تمام مشکل امور جو بذات خود واضح و آشکار ہونے سے انکاری ہیں

وَعَلِّمْنِي مِنْ عُلُوْمِكَ اللَّدُنِّيَّةِ وَاجْعَلْنِي مِنْ اَهْلِ الرُّسُوْخِ وَالْفُتُوْحِ

اور بتلا مجھے اپنے علوم لدنیہ سے اور بنا مجھے ثابت قدم لوگوں اور ارباب کشف سے

يَافَتَّاحُ افْتَحْ عَلَيَّ بَابَ قَلْبِي وَاَطْلِقْ لِسَانِي بِالْاَسْرَارِ الْمُؤَبَّدَةِ بِالْقُبُوْلِ

اے کھولنے والے کھول مجھ پر میرے دل کا بند دروازہ۔ اور جاری فرما میری زبان کو ساتھ ان اسرار کے جو ہمیشہ قبولیت پانے والے ہیں

وَاَفْلِقْ صُبْحَ وُجُوْدِي بِنُوْرِ شُهُوْدِي لِيَفْهَمَ السَّامِعُ عَنِّي مَا اَقُوْلُ وَ

اور روشن فرما میری صبح وجود کو ساتھ میرے نور شہود کے تاکہ مجھ سے سننے والا سمجھ سکے اس کو جو میں کہوں۔ اور

اَمْحُنِي عَنِّي حَتّٰى لَا اَشْهَدَ اَنِّي وَاَبْقِنِي بِكَ لِاَنِّي وَاجْعَلْ فِيْكَ

مجھے محو کر دے مجھ سے حتیٰ کہ میں نہ مشاہدہ کر سکوں اپنی انانیت و وجود کا۔ اور باقی رکھ مجھے اپنی توفیق سے میرے اصل کیلئے اور بنا

بِكَ اِلَيْكَ ذَهَابِي وَاِيَابِي لِاَشْهَدَكَ بِكَ وَاُوَحِّدَكَ بِكَ

اپنی ذات میں۔ اپنی توفیق سے۔ طرف اپنے ہی میرا جانا اور لوٹنا تاکہ میں تیرا مشاہدہ کر سکوں تیرے انوار کے ساتھ اور تجھے واحد مانوں

كَذٰلِكَ فَيَكُوْنَ تَوْحِيْدِي هُوَ عَيْنَ تَوْحِيْدِكَ لِذَاتِكَ وَ

تیرے نور کی بدولت مشاہدہ کر کے پس ہو جائے میری توحید اور ایک ماننا عین تیرے واحد جاننے کا اپنی ذات کو اور

الْغَيْرُ هَالِكٌ اَللّٰهُمَّ وَاجْعَلْنَا وَمَنْ نُحِبُّ فِيْكَ وَمَنْ فِيْكَ

تیرے ماسوا سبھی مرتبہ ذات میں ہالک و فانی ہیں۔ اے اللہ بنا ہمیں اور جنہیں ہم تیری خاطر محبوب رکھتے ہیں اور جو تیری خاطر

يُحِبُّنَا وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ خَاصَّتِكَ الْاَبْرَارِ الْمُكْتَسِيْنَ جِلْبَابَ الْوَقَارِ

ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ اور تمام اہل اسلام کو جو تیرے خواص ابرار و محسنین سے ہیں عزو وقار کی وسیع و عریض چادریں اوڑھائے ہوئے۔ اور

الْمُتَنَعِّمِيْنَ فِي شُهُوْدِكَ وَالْمُحَافِظِيْنَ عَلَى الْوَفَاءِ بِعُهُوْدِكَ الْقَائِمِيْنَ

تیری نعمتوں سے سرفراز ہونے والے تیرے شہود ذات میں۔ اور محافظت کرنے والے تیرے عہد اور پیمانوں کی وفا پر قیام کرنے والے

بِكَمَالِ الْاٰدَابِ اِلَيْكَ وَالْفَائِزِيْنَ بِجَمِيْلِ الْاِنْتِسَابِ اِلَيْكَ رَبِّ اَيَّ بَابٍ

کمال آداب سے تیری بارگاہ کی طرف اور فائز و سرفراز ہونے والے تیری ذات کی طرف خوبترین نسبت و تعلق کے ساتھ۔ اے میرے رب کس دروازے

اَقْصِدُ غَيْرَ بَابِكَ وَاَيَّ جَنَابٍ اَتَوَجَّهُ اِلَيْهِ غَيْرَ جَنَابِكَ اَنْتَ الْعَلِيُّ

کا قصد کروں سوائے تیرے دروازے کے اور کس بارگاہ کی طرف توجہ کروں سوا تیری بارگاہ کے تو ہی عالی شان

الْعَظِيْمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لَنَا اِلَّا بِكَ رَبِّ اِلٰى مَنْ اَقْصِدُ وَاَنْتَ الرَّبُّ

و عظیم ہے۔ اور نہیں منہ موڑنے کی استطاعت گناہوں سے اور نہ طاقت نیک اعمال پر مگر اے اللہ تیری توفیق سے۔ اے میرے رب میں کس کا قصد کروں

الْمَقْصُوْدُ وَاِلٰى مَنْ اَتَوَجَّهُ وَاَنْتَ الْحَقُّ الْمَعْبُوْدُ وَمَنْ ذَا الَّذِي يُعْطِيْنِي

حالانکہ تو ہی میرا رب اور میرا مقصود ہے۔ اور طرف کس کے توجہ کروں حالانکہ تو ہی حق ہے اور معبود ہے اور کون ہے وہ جو مجھے عطا کرے

وَاَنْتَ صَاحِبُ الْكَرَمِ وَالْجُوْدِ رَبِّ حَقِيْقٌ عَلَيَّ اَنْ لَّا اَشْتَكِيَ اِلَّا اِلَيْكَ

حالانکہ تو ہی صاحب جودوکرم ہے۔ اے رب میرے یہ امر لائق و سزاوار ہے میرے کہ میں نہ شکایت کروں (حوادث دہر کی) مگر طرف تیرے

وَلَازِمٌ عَلَيَّ اَنْ لَّا اَتَوَكَّلَ اِلَّا عَلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اَجِبْ دَعْوَتِي وَاقْضِ حَاجَتِي

اور واجب و لازم ہے مجھ پر کہ نہ اعتماد اور بھروسہ کروں مگر اوپر تیرے۔ اے اللہ قبول فرما میری دُعا کو اور پورا فرما میری ہر حاجت کو

وَاكْشِفْ عَنْ بَصِيْرَتِي وَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِيْ فِي دَارِي وَبَارِكْ لِيْ

اور میری بصیرت سے پردے ہٹا دے۔ اور بخش دے میرے لیے گناہ میرے۔ اور فراخی کر میرے لیے میرے (اخروی) گھر میں اور برکت

فِي رِزْقِي اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ الْبَرُّ الْجَوَادُ الْكَرِيْمُ اِغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِي وَ

عطا فرما میرے لیے میرے رزق میں۔ اے اللہ بیشک تو ہی محسن۔ جواد اور کریم ہے۔ میرے لیے مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے

عَافِنِي وَارْزُقْنِي وَاسْتُرْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَاهْدِنِي وَلَا تُضِلَّنِي وَ

عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما اور مجھے (اپنے دامن رحمت) میں چھپا۔ اور میرے نقص کو دور فرما اور مجھے بلندی عطا کر اور ہدایت دے اور

اَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِیْ وَفِیْ

مجھے گمراہ نہ فرمانا۔ اور داخل فرمانا مجھے جنت میں اپنی رحمت کے ساتھ اے ارحم الراحمین۔ طرف تیری ہی متوجہ ہوں اے میرے پروردگار لہٰذا مجھے اپنا محبوب بنا

نَفْسِیْ لَكَ رَبِّ فَذَلِّلْنِیْ وَفِیْ اَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظِّمْنِیْ وَمِنْ سَيِّئِ

اور مجھے میرے نفس اور دل میں لئے میرے پروردگار پس عاجز و بے بس بنا۔ اور لوگوں کی نظروں میں پس عظیم بنا مجھے۔ اور برُے

الْاَخْلَاقِ فَجَنِّبْنِیْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ

اخلاق سے پس دور فرما مجھے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْاَزَلِ وَالْاَبَدِ تَقْدِيْرًا ثُمَّ تَصْوِيْرًا ثُمَّ تَحْقِيْقًا ثُمَّ تَخْلِيْقًا

کی آل پر جو تیرے شاہکار قدرت ازل بھی ہیں اور ابد بھی ازروے علمی وجود کے۔ پھر صورت کے تعین کے پھر حقیقت ثابتہ ہونے کے پھر خارجی

ثُمَّ ظُهُوْرًا ذَاتِيًّا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

وجود کے ساتھ موجود ہونے کے پھر بے پردہ و بے حجاب ذات کے طور پر ظاہر ہونے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ مُّسَخَّرِ الْحُكْمِ بِلَا اَمَدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد کی آل پر جس آقا کے لیے حکم مسخر کر دیا گیا اور ان کے اختیار میں دے دیا گیا ہے بغیر کسی تاخیر و مہلت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَجَلِّيَاتِكَ الْقُدْسِيَّةِ الْاَكْرَمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ سراسر تیری تجلیات قدسیہ (کا مظہر) ہیں اور انتہائی عزت و کرامت والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُوْرَانِیِّ الْمَشَارِقِ وَ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو تیرا محبوب نورانی مشارق والا ہے (جن کا چہرہ آفتاب نبوت کیلئے افق شرق ہے)

الْمَغَارِبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور نورانی مغارب والا ہے (آفتاب رخ کے پردہ میں ہونے پر)۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

صَمَدَانِیِّ الْوَجْهِ بِكَ اِلَيْكَ فِی الْمَاٰرِبِ وَالْمَطَالِبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو محبوب کہ صمدانی اور بے نیاز چہرے والے ہیں بسبب تیری توفیق کے (صرف محتاج ہیں تو) طرف تیرے تمام حاجات اور مطالب میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَوْحِ نُقُوْشِ سِرِّكَ الْمُحِيْطِ الْجَامِعِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو تیرے امین اسرار کہ تیرے نقوش اسرار کے لیے محیط اور جامع لوح ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُّوْحِ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ تیرے وسیع امر لدنی کے

هَيَاكِلِ اَمْرِكَ اللَّدُنِّیِّ الْوَاسِعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ڈھانچے اور مجسمہ کی روح رواں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِّسَانِ نُقْطَةِ الْاَزَلِ الْمُفِيْضَةِ لِكُلِّ مَا شِئْتَ

پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب مکرم کہ نقطۂ ازل کی لسان ترجمان ہیں جو فیض رساں ہیں ہر اس شئی کیلئے جس کیلئے تو فیض رسانی چاہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خِزَانَةِ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو ابدی مراتب کے لیے خزانہ ہیں

رُتْبَةِ الْاَبَدِ الْمُمِدَّةِ لِكُلِّ مَا اَرَدْتَّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ امداد و اعانت کرنے والے ہیں ہر اس شخص کی جس کی امداد کا تو ارادہ فرمائے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْاَوَّلِ الْقَابِلِ لِاَنْوَاعِ تَعَيُّنَاتِكَ الْعَلِيَّةِ وَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ تیرے شاہکار اول ہیں جو قبول کرنے والے ہیں تیرے تمام قسم کے تعینات عالیہ کو۔ اور

كُنُوْزِ اِمْدَادَاتِكَ الزَّكِيَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

تیری امداد و اعانت کے پاکیزہ خزانوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْعَبْدِ الْقَآئِمِ بِسِرِّ الْغَيْبِ وَالْاِحَاطَةِ بِغَايَةِ الْوَصْلِ وَ

آل پر جو کہ تیرے ایسے عبد ہیں جو قائم ہیں تیرے سر غیب کے ساتھ اور وصل کی انتہا کے احاطے کے ساتھ۔ اور

النَّاظِرِ بِعَيْنِ الذَّاتِ وَلَا كَيْفَ وَلَا مِثْلَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

دیکھنے والے ہیں تیری عین ذات کو جو کیفیت سے پاک ہے اور مثل و مثال سے منزہ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَاتِحَةِ كُتُبِ الْاِلٰهِيَّاتِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ آغاز و افتتاح ہیں کتب الٰہیہ اور

الصِّفَاتِ وَالْاٰيَاتِ الْبَيِّنَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

صفات الٰہیہ اور آیات بینات کا باعتبار سبب ظہور ہونے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ السِّرِّ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ الدَّآئِمَةِ
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ راز ہیں باقیات صالحات (رازِ دائمی) جو کہ دائم و پائیدار ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

جَامِعِ الْجَوَامِعِ الْمُحِيْطِ الْفَرْدَانِيِّ وَتَحْتَهٗ ذَخِيْرَةُ كَنْزِ التَّعَيُّنِ
جو آقا کہ سب جامع اور عام و شامل اشیاء کے بھی جامع اور محیط فردانی ہیں اور انہیں کے گھیرے اور احاطے میں ہے تعین عرفانی

الْعِرْفَانِيِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
کے خزانے کا ذخیرہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ مَّرْقُوْمِ نُقُوْشِ اَسْرَارِ الْمَحَبَّةِ عَنْ قَوَابِلِ الْخَلَآئِقِ
آل پر کہ جس محبوب میں رقم کئے گئے ہیں اسرارِ محبت کے نقوش (انہیں نسخۂ جامعہ بنانے کیلئے) ساری مخلوقات کے آئینوں سے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

لِسَانِ الْاِصْطِفَآءِ الْمُرَقَّعِ بِصُوَرِ الْحَقَآئِقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
جو کہ زبان ہیں مرتبہ اصطفاء کی اور مزین و آراستہ ہیں رنگ برنگے صور حقائق کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّاطِقِ بِلِسَانِ كَانَ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ کلام کرنے والے ہیں ساتھ اس زبان (وکلام) کے "موجود تھا

اللّٰهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
اللہ تعالیٰ جبکہ نہیں موجود تھی کوئی شئی ساتھ اس کے"۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ السَّابِقِ بِكَ فِيْ مَيْدَانِ تَجَلِّيَاتِكَ الْمُبْدَعَةِ اَللّٰهُمَّ
آل پر جو محبوب کہ سبقت لے جانے والے ہیں تیری توفیق سے تیری انوکھی اور عمدہ تجلیات کے میدان میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُّوْحِ اَشْبَاحِ
صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ روح رواں ہیں جمعیت و سکون

الْاَرْوَاحِ الْجَمْعِيَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
والی روحوں کے اشباح اور ڈھانچوں کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَجَلِّ اَصْفِيَآئِكَ وَتَاجِ اَوْلِيَآئِكَ وَاَشْرَفِ
آل پر جو آقا کہ تیرے سب اصفیاء سے جلیل تر ہیں اور تیرے تمام اولیاء کے سرتاج ہیں۔ اور تمام انبیاء سے

اَنْبِيَآئِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
بزرگ تر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدٍ دَعْوَةِ اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرٰى اَخِيْهِ عِيْسٰى وَمَنْعُوْتِ
جو محبوب و مطلوب کہ مجسم دعا ہیں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور سراپا بشارت ہیں اپنے بھائی حضرت عیسٰی کی اور جن کا

بِذِكْرِهٖ فِيْ تَوْرٰىةِ مُوْسٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ
تذکرہ اوصاف موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں کیا گیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِكَ السَّاطِعِ وَسَيْفِ حُجَّتِكَ اللَّامِعِ
سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ تیرا بلندیوں تک پہنچنے والا نور ہے اور تیری حجت و برہان کی چمک دار اور (شکوک و شبہات کی جڑ)

الْقَاطِعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
کاٹنے والی تلوار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اَيَّدْتَهٗ بِرُوْحِ قُدْسِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
آل پر جس آقائے کائنات کی تو نے تائید و تقویت فرمائی ہے اپنے مقدس روح جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ حَقَّقْتَهٗ بِحَقَآئِقِ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہیں تو نے ثابت و برقرار رکھا ہے اپنی معرفت اور

مَعْرِفَتِكَ وَاُنْسِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
انس کے حقائق کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الصَّادِعِ بِالْحَقِّ وَالنَّاطِقِ بِالصِّدْقِ وَالْمَنْصُوْرِ
محمد کی آل پر جو پوری قوت کے ساتھ حق کا اظہار کرنے والے ہیں اور صدق و سچائی کے ساتھ نطق و کلام فرمانے والے ہیں اور

بِالرُّعْبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

خداداد رعب و دبدبہ کے ذریعے نصرت و امداد دئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الْمَمْلُوِّ قَلْبُهٗ بِالْحِكْمَةِ وَالْفُرْقَانِ وَالْحُبِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

کہ جس معلم حکمت کا قلب انور بھر پور ہے حکمت کے ساتھ اور حق و باطل کے فرق و امتیاز کے ساتھ اور محبت مولیٰ کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ رَفَعْتَ ذِكْرَهٗ مَعَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب معظم کے ذکر کو بلند فرمایا تو نے اپنے

ذِكْرِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

ذکر کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَقَمْتَهٗ فِىْ مِحْرَابِ الْعُبُوْدِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ اَللّٰهُمَّ

پر کہ جس محبوب کو تو نے قائم فرمایا ہے عبودیت و رسالت کی محراب میں۔ اے اللہ

اجْعَلْ حُبَّ مُحَمَّدٍ فِىْ قَلْبِىْ وَنَفْسِىْ وَجَسَدِىْ وَعَيْنِىْ وَبَصَرِىْ وَ

پیدا فرما محمد کریم کی محبت میرے قلب و نفس اور جسم میں۔ اور میری آنکھ اور میری بصارت میں۔

سَمْعِىْ وَفَمِىْ وَلِسَانِىْ وَشَفَتِىْ وَشَامَّتِىْ وَفِىْ وَجْهِىْ وَجَبْهَتِىْ وَ

میرے کان اور میرے منہ اور زبان میں اور ہونٹوں پر اور میرے سونگھنے والے حاسہ میں اور میرے چہرے اور پیشانی پر۔ اور

فِىْ صَدْرِىْ وَجِلْدِىْ وَفِىْ لَحْمِىْ وَدَمِىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ وَفِىْ شَعْرِىْ

میرے سینے اور جلد و پوست میں اور میرے گوشت اور خون میں میری ہڈیوں اور اعصاب اور بالوں میں۔

وَفِىْ جَمِيْعِ اَجْزَآئِىْ وَاَعْضَآئِىْ وَفِىْ كُلِّىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ

اور میرے تمام اجزاء و اعضائے بدن میں اور میرے پورے وجود میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ

اِذَا اَقْرَرْتَ عُيُوْنَ اَهْلِ الدُّنْيَا بِدُنْيَاهُمْ فَاَقْرِرْ عَيْنِىْ بِكَ وَ

جب ٹھنڈا اور خوش کرے تو اہل دنیا کی آنکھوں کو ان کی دنیا کے ساتھ تو ٹھنڈا کرنا میری آنکھوں کو اپنی ذات (کے دیدار)

بِعِبَادَتِكَ وَاقْطَعْ عَنِّىْ لَذَّآئِذَ الدُّنْيَا بِاُنْسِكَ وَالشَّوْقِ اِلٰى لِقَآئِكَ

اور اپنی عبادت کے ساتھ۔ اور منقطع فرمادے مجھ سے دنیا کی لذتوں کو اپنا انس اور شوق لقاء عطا کر کے۔

وَاجْعَلْ طَاعَتَكَ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ مِّنِّىْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ

اور پیدا فرما اپنی اطاعت کو میری ہر چیز میں۔ اے جلال و اکرام والے۔ اے اللہ

ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُّقَرِّبُنِىْ اِلٰى حُبِّكَ

مجھے نصیب فرما اپنی محبت اور اپنے محبوں کی محبت اور ہر ایسے عمل کی محبت جو مجھے تیری محبت کے قریب کردے

وَاَوْصِلْنَا اِلٰى مَقَاصِدِنَا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَحْيِنَا عَلَى الْاِسْلَامِ

اور پہنچا ہمیں ہمارے مقاصد و مطالب تک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہمیں زندہ رکھنا اسلام پر۔

وَاَمِتْنَا مَعَ الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَآءِ اِلَيْنَا مِنَ

اور موت دینا ساتھ ایمان کے۔ اے اللہ بنادے اپنی محبت کو محبوب ترین تمام اشیاء سے طرف ہمارے (حتی کہ)

الْمَآءِ الْبَارِدِ لِلْعَطْشَانِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا

ٹھنڈے پانی سے واسطے (جاں بلب) پیاسے کے۔ اے جلال و اکرام والے۔ اے اللہ ہمیں پلانا

بِكَاْسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيْئَةً مَّرِيْئَةً

محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جام سے ایسا خوشگوار اور مفید و نافع شربت کہ

لَا نَظْمَاُ بَعْدَهَا اَبَدًا اَبَدًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نہ پیاسے ہوں اس کے پی لینے کے بعد کبھی بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ هُوَ مُطِيْعٌ لِّاَمْرِكَ وَمُعْتَرِفٌ بِعَظِيْمِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ اطاعت گذار ہیں تیرے حکم کے اور دل و جان سے تسلیم کرنے والے ہیں تیرے

قَدْرِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

عظیم قدر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَقْسَمْتَ بِعُمْرِهٖ فِىْ كِتَابِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

آل پر کہ جس آقا کے لیے تو نے قسم اٹھائی ان کی عمر شریف کی اپنی کتاب میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ فَضَّلْتَهٗ بِمَا فَضَّلْتَهٗ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہیں تو نے اپنے ہاں وہ فضیلت و برتری بخشی جو

عِنْدَكَ مِنْ اَنْوَاعِ خِطَابِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صرف تو ہی جانتا ہے یعنی خطاب ونداء کے انواع واقسام اور انداز سے ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ خَلَقْتَ نُوْرَ ذَاتِهٖ مِنْ نُّوْرِ ذَاتِكَ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس نورانی محبوب کے نور ذات کو تونے پیدا فرمایا اپنی ذات کے

الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

عظیم نور سے ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ رَجَّحْتَ بِهٖ فِیْ غَيْبِ لَاهُوْتِ سِرِّكَ الْاَسْمٰى اَللّٰهُمَّ

کی آل پر کہ جس پر وقار محبوب کو تونے راجح اور وزنی بنا دیا ہے اپنے بلند رتبت راز کے غیب لاہوت میں، اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کے لیے

ثَبَتَ لَهٗ فِی الْخِلَافَةِ عَنْكَ مِنْ حَيْثُ اَنْتَ قِدَمًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ

ثابت ہو چکی ہے خلافت و نیابت تیری طرف سے جب سے کہ تو ہے شان قدیمی کے ساتھ ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ نَشَرْتَ لَهٗ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے متعلق مشہور کر دیا تونے

بِوَارِثَةِ اِسْمِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

اپنے ہر اسم کا وارث اور مظہر ہونا ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ فِی الْكَوْنَيْنِ عِلْمًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

پر جو آقا کہ ظاہر و باطن ہیں دونوں جہان میں از روئے علم کے یعنی ظاہر کے علم کے لحاظ سے ظاہر اور حقیقت کے علم کے لحاظ سے باطن ۔ اے اللہ

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ حَقَّقْتَهٗ بِكَ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کو تونے ثابت و قائم فرمایا ہے اپنی توفیق سے

فِیْ مَظَاهِرِ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ

ان مظاہر میں کہ (اور نہیں مارا تونے جبکہ مارا ہے تونے لیکن (وہ تو) اللہ تعالیٰ نے مارا ہے) اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ اَنْطَقْتَ لِسَانَهٗ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کی زبان کو تونے ناطق اور گویا فرمایا ہے

بِحُجَّتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی حجت اور دلیل قدرت کے ساتھ ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

اُفُقِ اَنْوَارِكَ وَبَحْرِ اَسْرَارِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو آقا کہ تیرے انوار کا افق ومطلع ہیں اور تیرے اسرار کا سمندر ہیں ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ بَيْعَتُهٗ عَيْنُ بَيْعَتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس تیرے نائب مطلق کی بیعت بعینہٖ تیری بیعت ہے ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَآئِدِ جُيُوْشِ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو ہادیٔ برحق کہ قائد و رہبر ہیں تیری طرف ہدایت

الْهِدَايَةِ اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

ورہنمائی کے لشکروں کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ الْمُكَرَّمِ وَرَسُوْلِكَ الْمُعَظَّمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

آل پر جو آقا تے خلق کہ تیرے حبیب مکرم اور رسول معظم ہیں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالْمَحْمُوْدِ فِیْ ذَاتِهٖ وَ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو اسم بامسمّٰی کہ حمد و ستائش کیے ہوئے ہیں باعتبار اپنی ذات کے اور

اَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

اپنے اسماء وصفات کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ عَمَّرْتَ الْاَكْوَانَ بِبَرَكَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

آل پر کہ جس بہار جالفزا کی برکت سے تونے تمام کائنات کو معمور اور آباد فرمایا ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِیْ جَمَعْتَ بِهٖ تَشَتُّتَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے ذریعے جمعیت بخشی تونے نفوس کے افتراق و

النُّفُوْسِ وَجَلَّيْتَ بِهٖ ظَلَامَ الْقُلُوْبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

انتشار کو۔ اور جلاء بخشی ان کی بدولت تاریکی میں ڈوبے ہوئے دلوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ فَضَّلْتَهٗ عَلٰى جَمِيْعِ مَخْلُوْقَاتِكَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کو تونے فضیلت دی اپنی ساری مخلوقات پر۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب مکرم کو

كَرَّمْتَهٗ عَلٰى عُمُوْمِ مَوْجُوْدَاتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تونے عزت وکرامت بخشی ہے اپنے عام موجودات پر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ خَصَّصْتَهٗ بِالْمَقَامِ الْمَحْبُوْبِيَّةِ اَللّٰهُمَّ

اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو تونے مخصوص ٹھہرایا ہے ساتھ مقام محبوبیت کے (اور دوسروں کو اس مقام میں آپ کا طفیلی بنایا)

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ بَعَثْتَهٗ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس رسول محتشم کو تونے مبعوث فرمایا

اِلٰى كَافَّةِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

تمام انسانوں اور جنوں کی طرف ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الْقَسِيْمِ الْوَسِيْمِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا تیری نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں اور خوبصورت ہیں اور کریم نبی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ لَوْلَاهُ لَمَا اَظْهَرَ مَوْلَاهُ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو مخلوق اول موجود نہ ہوتے تو نہ ظاہر فرماتا ان کا مولیٰ

الْمَوْجُوْدَاتِ بِاَسْرَارِهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

موجودات کو۔ معہ ان کے اسرار وحکم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ اَبَاحَهُ الْاَسْرَارَ فِي الْاَسْرَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

محمد کی آل پر کہ جس سر وحدت کو ظاہر کیا اسرار نے زمرۂ اسرار میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ اَمَدَّهٗ مِنْهُ نَبِيْلُ طَائِلٍ مَّا لَهٗ اَحَدٌ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امداد پہنچی عظیم شرافت ومنفعت کہ نہیں شایاں

فِي الْاَنْبِيَآءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس کے کوئی بھی انبیاء علیہم السلام میں سے ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

شَمْسِ الْمَعَارِفِ وَقَمَرِ الْعَوَارِفِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

جو منبع عرفان کہ معارف کا آفتاب ہیں اور عطیات کا ماہتاب ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَنْزِ اللَّطَائِفِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ لطائف ونفائس کا کنز وخزانہ ہیں ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ الْعُلُوْمِ وَمَطْلَبِ الْفُهُوْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ علوم کے (بحر ناپیدا کنار) ہیں اور فہم ودانشوں کا مقصد اہم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اٰرِعِسِ رُبُوْعِ الضَّلَالِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس آقا نے سرنگوں کردیا ضلالت وگمرہی کے محلات کو۔ اور

مَاحِيْ شَرِيْعَةِ اَهْلِ الْمُحَالِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

جو مٹانے والے ہیں شریعت اور طریقہ اہل بطالت کا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الْبَدْرِ الطَّالِعِ وَالضِّيَاءِ اللَّامِعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ (ازروئے نورانیت کے) ماہ تاباں ہیں اور چمکتی ضیاء اور روشنی ۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُّزْهَةِ النُّفُوْسِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ نفوس کیلئے سامان تفریح ہیں

وَرَيْحَانِ الْقُلُوْبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ

اور دلوں کے لیے (اچھی) پھول اور خوشبو۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِّسَانِ حُجَّتِكَ وَعَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد کی آل پر جو آقا کہ تیری حجت ودلیل کی زبان وترجمان ہیں اور تیری مملکت کے دولہا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْعِزِّ السَّامِحِ
وسلام بھیج سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سراسر عزووقار اور عزت کی سخاوت کرنے والے ہیں
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ
اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر
نِ النُّوْرِ الْبَاهِرِ السَّاطِعِ اللَّامِعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
جو آقا کہ غالب نور ہیں اور بلند ہونے والا اور چمکنے والا نور۔ اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر
وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْبُرْهَانِ الظَّاهِرِ الْقَاطِعِ وَالْبَحْرِ الزَّاخِرِ
اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سراپا برہان ہیں جو کہ ظاہر ہے اور شکوک وشبہات کے لیے قاطع بھی اور ایسا سمندر ہیں ٹھاٹھیں
الْوَاسِعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا
مارنے والا ہے اور وسیع وعریض ہے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر
مُحَمَّدِنِ الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
جو محمود خلائق ایسی رحمت ہیں جو سب کو محیط ہے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور
اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْحَضْرَةِ الْجَامِعَةِ لِلْمَكَارِمِ الْفَائِقَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
سیدنا محمد کی آل پر جس آقا کی بارگاہ جامع اور محیط ہے بلند ترین اخلاق کریمہ کو۔ اے اللہ صلواۃ
وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ اَنْوَرِ الْاَنْوَارِ الْمَخْلُوْقَةِ
وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ روشن ترین نور ہیں ان تمام انوار سے جو پیدا کیے گئے ہیں
الرَّائِقَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ
اور نظروں کو بھلے معلوم ہونے والے ہیں۔ اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر
مَّعْدِنِ الْحِكَمِ وَالْاَسْرَارِ وَطِرَازِ حُلَّةِ الْفَخَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
جو آقا کہ معدن اور سرچشمہ ہیں حکمتوں اور اسرار کے اور باعث زینت نقش ہیں خلعت فخر کے۔ اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دُرَّةِ صَدَفِ الْوُجُوْدِ وَذَخِيْرَةِ الْمَلِكِ الْوَدُوْدِ
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ صدف وجود کے گوہر یکتا ہیں اور ملک ودود کے ذخیرہ اور خزانہ اسرار ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّنْبَعِ
اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سرچشمہ ہیں
الْفَضَائِلِ وَالْكَرَمِ وَالْعَطَاءِ وَالْجُوْدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
فضائل و کرم اور عطاء و جود کا۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر
وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَاجِ مَمْلَكَةِ التَّمْكِيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ تاج (وقار و عزت) ہیں مملکت تمکین وطمانیت کے۔ اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النِّعْمَةِ الْوَفِيَّةِ عَلَى الْخَلَائِقِ اَجْمَعِيْنَ اَللّٰهُمَّ
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقائے خلق کہ سراسر نعمت تامہ کاملہ ہیں تمام مخلوقات پر۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِنْسَانِ عَيْنِ اَعْيَانِ
صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ نور چشم اور آنکھ کی پتلی ہیں اللہ کی موجود
خَلْقِ اللّٰهِ فِى الْوُجُوْدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا
مخلوق کے اعیان واکابر کے لیے۔ اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا
مُحَمَّدِنِ الرَّءُوْفِ الرَّحِيْمِ بِكَافَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةِ اللّٰهِ الْجَامِعَةِ لِلْعٰلَمِيْنَ
محمد کی آل پر جو آقا کہ رؤف ورحیم ہیں (بالخصوص) تمام مومنین کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مجسم ہیں جو محیط ہے تمام جہانوں کو
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَقِيْقَةِ
اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کریم کہ سراسر حقیقت ہیں
الْاِسْتِقَامَةِ فِىْ حَضَائِرِ قُدْسِكَ وَمَقَاصِيْرِ اُنْسِكَ عَلٰۤى اَرَائِكَ اَللّٰهُمَّ
استقامت اور ثابت قدمی کی تیری بارگاہ مقدس کے قافلوں اور جماعتوں کے لیے اور تیرے انس والفت کے محلات میں اور پر آرام کرسیوں کے (بیٹھنے والوں کیلئے)
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ مُشَاهَدَاتِكَ
اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر (جو مجسم نور) کہ تیرے مشاہدات کا نور مجسم ہیں۔
وَتَجَلِّيَاتِ مَنَازِلِكَ وَالْمُزَيَّنِ بِسَطَعَاتِ سُبُحَاتِ اَنْوَارِ ذَاتِكَ
اور تیری منازل رفعت کی تجلیات کا مظہر اور جو مزین و آراستہ ہیں تیرے بلند ہونے اور پھیلنے والے انوار ذات سے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّتَعَطِّرٍ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو ریحان باغ قدس کہ معنبر ومعطر ہیں۔ تیری

بِاَخْلَاقِ حَقَآئِقِ دَقَآئِقِ صِفَاتِكَ وَاٰثَارِ بَرَكَاتِ اَفْعَالِكَ اللّٰهُمَّ صَلِّ

صفات ازلیہ کاملہ کے اخلاق۔ حقائق اور دقائق سے۔ اور تیرے افعال کے برکات کے آثار وثمرات سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَلِيْلِكَ الْجَمَالِ الزَّاهِرِ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ تیری مجسم دلیل و برہان ہیں اور سراپا جمال روشن

وَالْجَلَالِ الْقَاهِرِ وَالْكَمَالِ الْفَاخِرِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور جلال قاہر وغالب اور سراسر کمال فخر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاسِطَةِ عِقْدِ النُّبُوَّةِ وَلُجَّةِ الْقُوَّةِ وَالْفُتُوَّةِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ واسطہ ہیں اور درمیانی عمدہ ونفیس جوہر ہیں نبوت کے ہار کا۔ اور قوت وجوانمردی کا گہرا سمندر ہیں

اللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَخَذْتُ سَمْعَ مَنْ يُّطَالِبُنِيْ بِسُوْٓءٍ بِسَمْعِ اللّٰهِ وَبَصَرِهٖ

اے اللہ میں نے پکڑلی اور قابو کرلی ہے قوت سامعہ ہر اس شخص کی جو مجھ سے برائی کا طلبگار ہے بوساطت اللہ تعالیٰ کی صفت سمع وبصر کے

وَقُوَّتِهٖ وَقُدْرَتِهٖ وَحَبْلِهِ الْمَتِيْنِ وَسُلْطَانِهِ الْمُبِيْنِ فَلَيْسَ لَهُمْ

اور اس کی قوت وقدرت کے اور اس کی مضبوط رسی کے اور واضح سلطنت کے۔ پس نہیں ہے ان کے لیے

عَلَيْنَا سَبِيْلٌ وَّلَا سُلْطَانٌ اِنْشَآءَ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سُتْرَةُ النُّبُوَّةِ

ہم پر کوئی تصرف وتسلط۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے اور ان کے درمیان نبوت کا ستر اور حجاب ہے

الَّتِيْ سَتَرَ اللّٰهُ بِهَا الْاَنْبِيَآءَ مِنَ الْفَرَاعِنَةِ جِبْرَآئِيْلُ عَنْ اَيْمَانِنَا

کہ بچایا اور چھپایا بسبب اس کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو وقت کے فرعونوں سے۔ جبرئیل علیہ السلام ہماری دائیں جانبوں ہیں

وَمِيْكَآئِيْلُ عَنْ شَمَآئِلِنَا وَاللّٰهُ مُظِلٌّ عَلَيْنَا وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ

اور میکائیل علیہ السلام بائیں جانبوں میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ڈالنے والا ہے ہم پر۔ اور بنایا ہے ہم نے

اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝ ط

ان کے آگے حجاب اور ان کے پیچھے حجاب پس ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے پس وہ نہیں دیکھتے۔

حَسْبِيَ اللّٰهُ الَّذِيْ يَكْفِيْ وَلَا يَكْتَفِيْ مِنْهُ شَيْءٌ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ

کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ جو کفایت فرماتا ہے اور اس سے کوئی شئ کفایت نہیں کرتی۔ کافی ہے مجھے اللہ اور وہ اچھا

الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝ حَسْبِيَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

کارساز ہے۔ اچھا مددگار اور اچھا نصرت مہیا کرنے والا ہے ہمیشہ کے لیے۔ کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ کہ نہیں معبود برحق مگر

هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

وہی اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ هُوَ قُدْوَةُ السَّالِكِيْنَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو ہادی برحق مقتدار ہیں سالکان راہ طریقت کے

وَقُرَّةُ عَيْنِ الْعَارِفِيْنَ وَحِرْزُ الْاُمِّيِّيْنَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور ٹھنڈک ہیں عارفوں کی آنکھوں کے اور جائے پناہ ہیں اُمّتِ امیہ یعنی بے پڑھوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَهْلِ الْمِنَنِ وَالْاِمْتِنَانِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محسن کائنات لائق ہیں احسانات فرمانے کے اور حقدار ہیں احسان جتلانے کے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

اَغْزَى الْغَازِيْنَ وَمُفَرِّجِ الْمَغْمُوْمِيْنَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

کہ جو آقا سب غازیوں سے بڑے غازی ہیں اور غمزدگان کو فرحت بخشنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَامِعِ مَعْبَدِ الصَّنَمِ اللّٰهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو بانی اسلام وتوحید ہیں اکھیڑنے والے ہیں اوثان واصنام کی عبادتگاہیں۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَّذِيْرِ الْعَشِيْرَةِ

اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو رسول خدا ڈرانے والے ہیں قریبی رشتہ داروں کے

وَخَافِضِ الْجَنَاحِ لِلْاُمَّةِ وَمُرَبِّي الْعِتْرَةِ وَالصَّحَابَةِ اللّٰهُمَّ صَلِّ

(عذاب خداوندی سے) اور پست کرنے والے ہیں رحمت کے بازو امت کے لیے اور تربیت فرمانے والے ہیں اولاد اور اصحاب کی۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْقَيُّوْمِ لِلْكَوْنَيْنِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا سبب قیام وموجب بقاء ہیں واسطے دونوں جہان کے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَبَبِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ وسیلہ جلیلہ ہیں

الْبَرَكَاتِ وَالْخَيْرَاتِ وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ وَمَحْوِ السَّيِّئَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

تمامتر برکات اور خیرات کا اور باعث و موجب ہیں قضاء حاجات کا اور سیئات کے مٹنے اور نیست ونابود ہونے کا اے اللہ

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّظْهِرِ الْمُخْفِيَّاتِ وَدَافِعِ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا مخفی اور غیبی امور کو ظاہر کرنے والے ہیں۔

الْبَلِيَّاتِ وَمُنْجِي الْمُهْلِكَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

بلیات ومصائب کے دور کرنے والے ہیں اور موجبات ہلاکت سے نجات دلانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرَاجِ الْمِلَّةِ وَنُوْرِ الطَّرِيْقَةِ وَمُحَقِّقِ الْحَقِيْقَةِ وَ

سیدنا محمد کی آل پر جو ملت کے روشن چراغ ہیں اور طریقت کے نور، حقیقت کو تحقیقی انداز میں بیان کرنے والے ہیں اور

بُرْهَانِ الْمَعْرِفَةِ وَسُلْطَانِ الشَّرِيْعَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

معرفت کی برہان اور شریعت کے بادشاہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حُجَّةِ اللّٰهِ عَلَى الْاَرْضِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ اللہ تعالیٰ کی مجسم حجت ودلیل ہیں زمین پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ هِمَّتُهٗ مَازَاغَ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی ہمت وقوت کی شان یہ ہے نہ ٹیڑھی ہوئی

الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى وَمِعْرَاجُهٗ مَقَامُ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

ان کی نگاہ اور نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ اور جن کا معراج ہے مقام قرب قاب قوسین اَوْ اَدْنیٰ کا یعنی قریب ہوئے کمان کے دوسروں کی مقدار بلکہ اس

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّلْجَاءِ الْعَارِفِيْنَ وَ

سے بھی قریب تر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا عارفوں کا سہارا ہیں اور

مَاْوَى الْعَاشِقِيْنَ وَحَاجِي الْحَرَمَيْنِ وَجَدِّ السِّبْطَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

عاشقوں کی جائے پناہ۔ حرمین شریفین میں ٹھہرنے اور قیام فرمانے والے اور دو شہزادوں حسن وحسین کے نانا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُرَّةِ الْعَيْنَيْنِ وَالْمَطْلُوْبِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو (ہر صاحب ایمان وعرفان کی) دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اور کونین سے وہی مطلوب

مِنَ الْكَوْنَيْنِ وَالْمَقْصُوْدِ مِنَ الدَّارَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

خداوند تعالیٰ اور دارین سے وہی مقصود باری تعالیٰ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّقَبِّلِ الْحَجَرَةِ وَقَاتِلِ الْفَجَرَةِ اَللّٰهُمَّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا بیت اللہ کے (کونوں کا) بوسہ لینے والے ہیں اور فاجروں کے قتل کرنے والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّنْبَعِ اَسْرَارِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب سرچشمہ ہیں اسرار

الْقُرْاٰنِ وَمَخْزَنِ نُكَاتِ مُقَطَّعَاتِ السُّوَرِ الٓمّٓ ۚ الٓمّٓ ۚ الٓمّٓصٓ ۚ الٓرٰ ۚ

قرآن کے اور خزانہ ہیں سورتوں کے حروف مقطعات کے نکات کے (جو کہ یہ ہیں) الٓمٓ۔ الٓمٓ۔ الٓمٓصٓ۔ الٓرٰ

الٓرٰ ۚ الٓمّٓرٰ ۚ الٓرٰ ۚ كٓهٰيٰعٓصٓ ۚ طٰهٰ ۚ طٰسٓمّٓ ۚ طٰسٓ ۚ طٰسٓمّٓ ۚ الٓمّٓ ۚ

الٓرٰ۔ الٓمٓرٰ۔ الٓرٰ۔ کٓھٰیٰعٓصٓ۔ طٰہٰ۔ طٰسٓمٓ۔ طٰسٓ۔ طٰسٓمٓ۔ الٓمٓ

الٓمّٓ ۚ الٓمّٓ ۚ الٓمّٓ ۚ يٰسٓ ۚ صٓ ۚ حٰمٓ ۚ حٰمٓ ۚ حٰمٓ ۚ عٓسٓقٓ ۚ حٰمٓ ۚ

الٓمٓ۔ الٓمٓ۔ الٓمٓ۔ یٰسٓ۔ صٓ۔ حٰمٓ۔ حٰمٓ۔ حٰمٓ۔ عٓسٓقٓ۔ حٰمٓ

حٰمٓ ۚ حٰمٓ ۚ قٓ ۚ نٓ ۚ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

حٰمٓ۔ حٰمٓ۔ قٓ۔ نٓ۔ اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے اور سب تعریفیں اللہ

وَحْدَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

واحد کے لیے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُرْشِدِ الثَّقَلَيْنِ وَمُجَوِّزِ الْاِمَامَيْنِ وَالْقِبْلَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو ہادی برحق کہ رہنما ہیں جنوں اور انسانوں کے۔ اور جائز رکھنے والے ہیں۔ دونوں اماموں اور قبلوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْکَوْنَیْنِ وَالدَّارَیْنِ وَ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ کونین ودارین (دنیا وآخرت) کا نور ہیں اور
الثَّقَلَیْنِ وَالْحَسَنَیْنِ وَالسِّبْطَیْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
جنوں اور انسانوں اور حسن وحسین دونوں نواسوں کے نور ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر
وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّبَرِّدِ نَارِ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ وَنُوْرِ اللّٰهِ عَلَی الْاَفْئِدَةِ
اور سیدنا محمد کی آل پر جو رحمت مجسم کہ ٹھنڈا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی نار جہنم کے اور اللہ تعالیٰ کے نور ہیں جن کا عکس پڑتا اہل ایمان کے
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَّحْمَتِكَ
دلوں پر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ سراسر تیری رحمت ہیں۔
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً
اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر ایسی صلوٰۃ کہ
تُلْبِسُنَا بِهَا جِلْبَابَ الْخُشُوْعِ وَالْخُضُوْعِ یَا صَانِعَ كُلِّ مَصْنُوْعٍ اَللّٰهُمَّ
پہنائے تو ہمیں بسبب اس کے خضوع وخشوع کی وسیع چادر۔ اے بنانے والے ہر مصنوع کے۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُلْبِسُنَا بِهَا جِلْبَابَ الْعِصْمَةِ یَا
صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر ایسی صلوٰۃ کہ اس کی بدولت پہنائے تو ہمیں چادر عصمت کی اے
مُوْلِیَ كُلِّ نِعْمَةٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُلْبِسُنَا
عطا کرنے والے ہر نعمت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر ایسی صلوٰۃ کہ پہنائے تو ہمیں
بِهَا الْاَمَانَ یَا قَدِیْمَ الْاِحْسَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
بطفیل اس کے لباس امن وامان کا اے قدیمی احسان والے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر
وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كُفِّنَ فِیْ ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ بِیْضٍ سُحُوْلِیَّةٍ
اور سیدنا محمد کی آل پر جس آقا کو کفن دیا گیا تین سفید سوتی یا دھلے ہوئے کپڑوں میں۔
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ
اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب

هُوَ لَنَا حَوَارِ جُنَا عَنْ دُخُوْلِ الْعِصْیَانِ بَوَّابٌ وَّلِسِرِّنَا مُصَقِّلٌ اَللّٰهُمَّ
ہمارے بیرون کے لیے عصیان میں داخل ہونے سے رکاوٹ ہیں اور دروازہ بند رکھنے والے۔ اور ہمارے اندرون کو صیقل کرنے اور جلا بخشنے
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَنَدِ النُّقٰی وَنُوْرِ
والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ پاکیزہ لوگوں کی سند اور دستاویز ہیں اور
الْهُدٰی اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ
ہدایت کے نور ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر
الَّذِیْ صَوْمُهٗ اَشَقُّ الصِّیَامِ وَقِیَامُهٗ اَطْوَلُ الْقِیَامِ وَهُوَ اَشَدُّ الْبَلَاءِ وَاَحْمَلُ
کہ جس محبوب کا روزہ سب سے زیادہ گراں اور باعث مشقت تھا اور جن کا قیام سب سے طویل تر تھا اور وہ شدید آزمائش میں مبتلا ہونے والے ہیں اور اسطے بلندی درجات
اَذَی الْاَنَامِ وَمَلْجَاُ الْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِیْنَ وَالْعَوَامِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی
کے اور بہت زیادہ برداشت کرنے والے ہیں تکالیف مخلوق کی اور جائے پناہ ہیں مقربین ملائکہ کے اور عام ملائکہ کیلئے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج
سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّرَبِّی الْكَوْنَیْنِ مِنَ الْاِنْسِ وَالْجَانِّ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ کونین کے اندر مربی ہیں انسانوں اور جنوں کے۔
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ
اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی
اَوْلِیَآءُ اُمَّتِهٖ مُشْتَاقُوْنَ اِلٰی لِقَآئِهٖ وَكَلَامِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا
اُمت کے تمام اولیاء کرام مشتاق ہیں ان کی لقاء و دیدار اور ان سے شرف ہمکلامی حاصل کرنے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَوْ كَانَتِ الْاَفْلَاكُ اَوْرَاقًا وَّالْاَشْجَارُ اَقْلَامًا وَّالْبِحَارُ مِدَادًا لَّمَا
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس عظیم المرتبت محبوب کیلئے سب آسمان ورق بن جائیں اور سب درخت قلمیں اور سب سمندر سیاہی بن جائیں
وَسِعَتْ حَصْرَ مَنَاقِبِهٖ وَعَدَّ كَمَالَاتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
تو پھر بھی البتہ گنجائش نہیں رکھیں گے ان کے مناقب کے حصر کی اور کمالات کے شمار کی۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر
مَّا دَامَ الْمُمْكِنُ مُحْتَاجًا اِلَی الْوَاجِبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
جب تک ممکنات کا احتیاج واجب تعالیٰ کی طرف برقرار رہے (یعنی ہمیشہ کے لیے) اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ وَيَا مَنْ بِهٖ يَرْحَمُنَا اللّٰهُ وَيَا اَفْضَلَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ آقا کہ نبی رحمت ہیں۔ اور اے وہ ذات رحیم کہ طفیل ان کے رحم فرماتا ہے ہم پر اللہ تعالیٰ اے وہ

خَلْقِ اللّٰهِ وَيَا اَشْرَفَ خَلْقِ اللّٰهِ وَيَا اَكْرَمَ خَلْقِ اللّٰهِ وَيَا اَرْحَمَ خَلْقِ

ذات جو افضل ترین ہیں اللہ کی ساری مخلوق سے! اور اے بزرگ تر اللہ کی ساری مخلوق سے اور اے مکرم ترین مخلوق خدا سے۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے

اللّٰهِ وَيَا اَحْلَمَ خَلْقِ اللّٰهِ وَيَا اَعْظَمَ خَلْقِ اللّٰهِ وَيَا اَفْضَلَ النَّبِيِّيْنَ اَللّٰهُمَّ

تمام مخلوق خدا سے۔ اے سب مخلوق سے زیادہ حلیم اور بردبار۔ اے سب مخلوق سے عظیم تر۔ اے تمام انبیاء سے افضل ترین۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُّوْرًا لِّلْمُسْتَبْصِرِيْنَ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ نور ہیں بصیرت کے طلبگاروں کے لیے

وَدَلِيْلًا لِّلْمُتَحَيِّرِيْنَ وَطَرِيْقًا لِّلْعَارِفِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور دلیل و رہنما ہیں حیرت میں ڈوبے ہوؤں کے لیے اور صراط مستقیم ہیں عرفا رو واصلین کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّنْبَعِ الْمُشَاهَدَاتِ وَمَعْدِنِ التَّجَلِّيَاتِ وَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ مشاہدات باری تعالیٰ کے لیے منبع و سرچشمہ ہیں اور معدن و کان ہیں تجلیات الٰہیہ کے لیے اور

مُوْصِلِ الْعِبَادِ اِلٰى رَبِّ الْاَرْبَابِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

واصل کرنے والے ہیں بندگانِ خدا کو رب الارباب تک۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ حَسَنَ الْجِسْمِ كَاَنَّهٗ غُصْنٌ بَيْنَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ خوبصورت اور تروتازہ جسم والے تھے گویا کہ نو دمیدہ شاخ تھے

غُصْنَيْنِ لَمْ تُعِبْهُ ثُجْلَةٌ وَّلَمْ تُزْرِ بِهٖ صَعْلَةٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

دو شاخوں کے درمیان جنہیں عیب دار نہیں کیا۔ پیٹ کی بڑائی نے اور نہ عیب ناک کیا سر کی چھوٹائی نے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ اَبْيَضَ مَلِيْحًا كَاَنَّمَا

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو معدن حسن و جمال سفید رنگ اور ملاحت و جاذبیت والے تھے گویا کہ

صِيْغَ مِنَ الْفِضَّةِ وَكَانَ وَجْهُهٗ اَبْيَضَ مُشْرَبًا بِالْحُمْرَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

چاندی سے ڈھالے گئے تھے اور آپ کا چہرہ انور سفید سرخی مائل تھا (جیسے سونے پر چاندی کا پانی چڑھا ہو) اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ كَاَنَّ الشَّمْسَ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب خدا کا چہرہ اس قدر روشن تھا کہ گویا سورج

تَجْرِیْ فِیْ وَجْهِهٖ وَكَانَ رَقِيْقَ الْبَشْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ شَیْءٌ اَصْفٰى مِنْ جِلْدِهٖ

اس کے اندر چل رہا ہے اور آپ کی جلد مبارک انتہائی رقیق اور ملائم تھی اور کائنات کی کوئی شئی آپ کی جلد مبارک کی طرح صاف و

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ

شفاف نہیں تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس سراپا حسن کے چہرے مبارک کا

كَانَ كَاَنَّ مَآءَ الذَّهَبِ يَجْرِیْ فِیْ صَفْحَةِ خَدِّهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

رنگ ایسے تھا کہ گویا کہ سونے کا پانی بہہ رہا ہو ان کے عارض رخ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَاَنَّ رَوْنَقَ الْجَمَالِ يَطَّرِدُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے بیے جمال و حسن کی رونق اور بہار دائمی تھی

فِیْ سِرَّةِ جَبِيْنِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

ان کی پیشانی کے خطوط اور لکیروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ كَانَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَّكَانَ عَرَقُهٗ فِیْ وَجْهِهٖ

آل پر کہ جو محبوب سب سے حسین تر تھے چہرہ انور کے لحاظ سے اور تھے آپ کے پسینے (کے قطرات) آپ کے چہرۂ اقدس میں

كَاللُّؤْلُؤِ الدُّرِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

گویا کہ لولوئے آبدار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ

نِ الَّذِیْ لَمْ يَكُنْ بِالْاَبْيَضِ الْاَمْهَقِ وَكَانَ مَلِيْحَ الْوَجْهِ كَثِيْرَ الْعَرَقِ

جو تاجدارِ حسن بالکل خالص سفید نہیں تھے اور آپ ملیح اور پرکشش چہرہ والے تھے اور زیادہ پسینہ والے تھے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا

كَانَ اِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ حَتّٰى كَاَنَّهٗ قِطْعَةٌ مِّنَ الْقَمَرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

جب خوش ہوتے تھے تو آپ (کا چہرہ انور) جگمگا اٹھتا تھا گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ كَانَ اَثَرُ الْمَخِيْطِ فِیْ صَدْرِهٖ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کے سینہ مبارک میں (شق صدر کے بعد) سلائی کا نشان موجود تھا

وَكَانَ تَدْوِيْرٌ قَلِيْلٌ فِیْ وَجْهِهٖ مَعَ التَّنْوِيْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اور تھی گولائی موزوں سی آپ کے چہرۂ اقدس میں بمعہ تنویر اور چمک ودمک کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ كَانَ يَتَبَرَّقُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهٖ اَللّٰهُمَّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے چہرہ انور اور جبین مقدس کے خطوط چمکتے تھے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ كَانَ اَحْسَنَ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سب سے زیادہ

النَّاسِ عُنُقًا وَّكَانَ جَبِيْنُهٗ بَرَّاقًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خوبصورت گردن والے تھے۔ اور آپ کی پیشانی مبارک بہت روشن اور چمکیلی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ كَانَ عَظِيْمَ الْهَامَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ عظیم سر مبارک والے تھے (موزوں انداز میں) اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ بہت دراز قد بھی نہیں تھے۔ اور نہ بالکل پست

وَلَا بِالْقَصِيْرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ جَلِيْلَ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

اور کوتاہ قامت (بلکہ درمیانہ قامت والے تھے) اور آپکے ہڈیوں کے سرے اور کندھوں کا درمیانی حصہ عظیم وجلیل تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ كَانَ يُنْسَبُ اِلَی

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا درمیانہ قد لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے

الرَّبْعَةِ اِذَا مَشٰی وَحْدَهٗ وَكَانَ اِذَا مَشٰی مَعَ الطَّوِيْلِ طَالَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

جب اکیلے چلتے اور جب کسی دراز قد آدمی کے ساتھ چلتے تو اس سے بلند و بالا نظر آتے (تا کہ معنوی برتری کی طرح صوری بلندی بھی متحقق ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ كَانَ اَزَجَّ الْحَاجِبَيْنِ وَكَانَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا باریک اور دراز ابروؤں والے تھے اور تھے

اَحْسَنَ عِبَادِ اللّٰهِ شَفَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

اللہ کے تمام بندوں سے زیادہ حسین ہونٹوں کے لحاظ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ كَانَتْ حَوَاجِبُهٗ سَوَابِغَ مِنْ غَيْرِ قَرَنٍ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے ابرو مبارک کامل و مکمل اور دراز و کشادہ تھے بغیر باہمی مقارنت واتصال کے

وَّلَمْ يَكُنْ قَصِيْرَ الذَّقَنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی

اور نہ تھے آپ کوتاہ اور چھوٹی ٹھوڑی والے (بلکہ ہر عضو موزونیت کے اعلیٰ معیار پر تھا) اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ كَانَ بَيْنَ حَاجِبَيْهِ عِرْقٌ يُدِرُّهُ الْغَضَبُ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس شہ کونین کے دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جس کو جنبش دیتی تھی حالت غضب

وَكَانَ سَرِيْعَ الْمِشْيَةِ اِذَا مَشٰی تَقَلَّعَ كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ اَللّٰهُمَّ

اور آپ چلنے میں بہت تیز تھے جب آپ چلتے تو پاؤں اس طرح قوت اور زور سے اٹھاتے گویا کہ آپ بلندی سے ڈھل رہے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ كَانَ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا باریک بھنوؤں والے تھے۔

دَقِيْقَ الْحَاجِبَيْنِ وَكَانَ اِذَا سُرَّ يُرٰی شَخْصُ الْجُدُرِ فِیْ وَجْهِهِ الْحَسَنِ وَكَانَ

اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو دیکھے جاتے در و دیوار کے عکس آپ کے حسین وجمیل چہرہ میں اور تھا

لَوْنُ اِبْطَيْهِ اَبْيَضَ كَلَوْنِ سَائِرِ الْبَدَنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رنگ آپ کی مبارک بغلوں کا سفید تر مانند تمام بدن کی رنگت کے (نہ کہ سیاہی مائل بوجہ بالوں کے) اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ كَانَ عَظِيْمَ الْجُمَّةِ يُجَاوِزُ شَعْرُهٗ اِلٰی شَحْمَتَیْ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب عظیم بالوں والے تھے آپ کے بال تجاوز کر جاتے کانوں کے نرموں تک

اُذُنَيْهِ اِذَا طَالَ وَوَفْرُهٗ اِذَا قَصُرَ اِلٰی اَنْصَافِهِمَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

جب دراز ہو جاتے تھے (اس مقدار کو جُمّہ کہا جاتا ہے) اور وفرہ کی صورت میں ہو جاتے کانوں کے وسط تک جب کاٹے جاتے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ كَانَ رَجِلَ الشَّعْرِ كَاَنَّهٗ مُشِطَ

بھیج سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ درمیانے قسم کے کھنگریالے بالوں والے تھے گویا کہ وہ کنگھی کئے ہوئے ہیں

وَكَانَ لَهٗ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ دُوْنَ الْوَفْرَةِ وَكَانَ لَهٗ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ
اور تھے آپ کے بال جُمّہ کی حد سے اوپر اور وفرہ کی حد سے نیچے اور (کبھی کبھار) آپ کے بال مبارک آپ کے کندھوں سے ٹکراتے تھے۔
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ كَانَ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس آقا کے بال مبارک (کبھی)
شَعْرُهٗ اِلٰٓى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ وَطَابَتْ رَائِحَةُ اِبْطَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
ان کے مبارک کانوں کے درمیان تک (ہوتے) تھے۔ اور پاکیزہ تھی آپ کے مبارک و معنبر بغلوں کی خوشبو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ كَانَ اِذَا انْفَرَقَتْ عَقِيْقَتُهٗ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کے بال پراگندہ اور جدا ہو جاتے
فَرَّقَ وَاِلَّا فَلَا وَكَانَ جَعْدًا رَجِلًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
تو کنگھی کر کے مانگ نکالتے ورنہ نہیں۔ اور تھے گھنگریالے مگر درمیانے قسم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر
وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ لَمْ يَكُنْ بِالسَّبْطِ وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ اَللّٰهُمَّ
اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ ایسے گھنگریالے کہ بالکل الجھے ہوئے ہوں۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ كَانَ حَسَنَ
صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے بال بہت حسین تھے۔
الشَّعْرِ وَكَانَ غَامِرَىِ الثَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ وَكَانَ مَفَاضَ الْبَطْنِ وَعَارِىَ
اور تھے آپ بالوں سے عاری پستانوں اور پیٹ والے (ماسوائے مسربہ کے) اور آپ کا پیٹ مبارک ہموار تھا اور سینہ مبارک ابھرا ہوا اور بلند
الصَّدْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ
تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا تھے
كَانَ ذَا غَدَائِرَ اَرْبَعٍ وَّكَانَ طَوِيْلَ الْاَصَابِعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
چار مینڈھیوں والے اور دراز انگلیوں والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ كَانَ عَرِيْضَ الصَّدْرِ وَ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب فراخ اور کشادہ سینہ والے تھے

كَانَ شَدِيْدَ سَوَادِ الشَّعْرِ وَكَانَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ رَاْسِهٖ
اور سخت سیاہ بالوں والے۔ اور درمیانے قدو قامت والے تھے۔ اور نہیں تھی آپ کے سر مبارک میں
شَيْبٌ اِلَّا شَعَرَاتٌ فِى الْفَرْقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ
سفیدی بڑھاپے کی ماسوائے چند بالوں کے چوٹی مبارک میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور
عَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ كَانَ الْبَيَاضُ فِىْ عَنْفَقَتِهٖ وَفِى الصُّدْغَيْنِ
سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کی (ڈاڑھی مبارک میں) سفیدی صرف نچلے ہونٹ کے زیریں حصہ میں اور کنپٹیوں میں تھی۔
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ لَمْ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے نہ تھے
يَكُنْ عِنْدَ الشَّيْبِ فِىْ رَاْسِهٖ وَلِحْيَتِهٖ اِلَّا عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَآءَ اَللّٰهُمَّ
بڑھاپے کے وقت سر ناز اور ڈاڑھی مبارک میں (مجموعی طور پر) مگر صرف بیس سفید بال۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ كَانَ مَسِيْحَ
صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ (گویا) تیل لگائے ہوئے
الْقَدَمَيْنِ يَنْبُوْ عَنْهُمَا الْمَآءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى
قدموں والے تھے دور ہو جاتا تھا ان دونوں سے پانی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور
اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ كَانَ لَهٗ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ وَشَيْبُهٗ اَحْمَرُ
سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے مبارک بالوں پر بڑھاپے کا اثر نمودار ہو چکا تھا اور وہ اثر تھا ان کا سرخی مائل ہونا
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالَّذِىْ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب سب
كَانَ اَجْمَلَ النَّاسِ مِنْ بَعِيْدٍ وَّاَجْلَاهُمْ وَاَحْسَنَهُمْ مِنْ قَرِيْبٍ وَّكَانَ
سے زیادہ با جمال تھے دور سے "دیکھنے پر" اور روشن ترین اور خوبترین قریب سے۔ اور
اَجْرَدَ وَاَنْوَرَ الْمُتَجَرَّدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
آپ کا جسم مبارک (عمومی طور پر) بغیر بالوں کے تھا اور آپ کے اعضاء بالوں کے بغیر خوشنما اور نورانی تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ ذَا الْمَسْرُبَةِ وَطَوِيْلَ الْمَسْرُبَةِ وَحَسَنَ
سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب سینہ سے ناف تک بالوں والے تھے اور آپ کی بالوں کی یہ لکیر

الْاَرْنَبَةِ وَاَقْنَى الْاَنْفِ وَخَافِضَ الطَّرْفِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
لمبی تھی اور آپ کے ناک مبارک کی نوک بہت حسین تھی، اور آپکا ناک مبارک بلند (معلوم ہوتا تھا بوجہ نورانیت کے) اور نیچی نظروں والے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ اَقْنَى الْعِرْنَيْنِ وَ
وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ تھے (ناک مبارک) کی بلند نوک والے یا بلند وسطی حصہ والے

وَاسِعَ الْجَبِيْنِ وَحَسَنَ الصَّوْتِ وَضَلِيْعَ الْفَمِ مُفَلَّجًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ
کشادہ جبین۔ حسین آواز والے۔ کشادہ منہ مبارک والے اور (سامنے کے دانتوں میں مناسب) کشادگی والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ اَدْعَجَ
سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سیاہ اور موٹی آنکھوں والے

الْعَيْنَيْنِ وَتَامَّ الْاُذُنَيْنِ وَاَحْوَرَ اَنْجَلَ الْمُقْلَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
تھے۔ اور کامل ومکمل کانوں والے۔ سفید رنگت والے۔ موٹی اور خوبصورت آنکھ والے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ اَسِيْلَ الْخَدَّيْنِ
بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ ڈھلواں رخساروں والے تھے۔

وَبَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ وَطَوِيْلَ شَقِّ الْعَيْنَيْنِ وَعَظِيْمَ الْمَنْكِبَيْنِ
اور کندھوں کے درمیانی چوڑے حصہ والے تھے آپ کی آنکھوں کے شگاف اور دراز لمبی تھیں اور آپ کی گردن مبارک اور مونڈھے کے درمیانی حصے عظیم

وَكَانَ اَهْدَبَ الْاَشْفَارِ وَلِيَدِهٖ طِيْبٌ كَاَنَّهٗ مُخْرَجَةٌ مِّنْ جُوْنَةِ
تھے۔ آپ کی پلکیں دراز تھیں۔ اور آپ کے ہاتھوں میں ایسی خوشبو تھی گویا کہ وہ نکالے گئے ہیں

الْعَطَّارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ
عطار کے تھیلے اور ڈبے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِىْ كَانَ اَشْكَلَ اَىْ كَانَتْ لَهٗ عُرُوْقٌ دَقِيْقَةٌ حَمْرَاءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
جو محبوب اشکل العینین تھے یعنی آپ کی آنکھوں میں سرخ باریک ڈورے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ شَثْنَ
وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ پُر گوشت ہتھیلیوں اور

الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ خُمْصَانَ الْاَخْمَصَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
قدموں والے تھے۔ اور درمیان سے تھوڑے بلند اور اٹھے ہوئے تلووں والے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَتْ كَفُّهٗ اَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيْرِ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے ہر دو کف دست زیادہ ملائم تھے ریشم سے (بالعموم)

وَالدِّيْبَاجِ وَغَلَبَ ضَوْءُهٗ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَالسِّرَاجِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
اور باریک نفیس ترین ریشم سے بالخصوص (باوجود اپنے سارے کام کاج خود کرنے کے) اور غالب تھی نورانیت آپ کی سورج اور چراغ کی روشنی پر یعنی جس کے سامنے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ
سامنے ہوتے اسی پر غلبہ حاصل ہوتا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب سرمگین آنکھوں والے تھے حالانکہ

بِاَكْحَلَ وَكَانَ نَظْرُهٗ اِلَى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِ نَظْرِهٖ اِلَى السَّمَاءِ اَطْوَلَ اَللّٰهُمَّ
سرمہ لگاتے نہیں تھے۔ اور تھی آپ کی نظر مبارک طرف زمین کے بعد دیکھنے کے طرف آسمان کے زیادہ دراز اور لمبی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ لَمْ يَصِفْهُ
صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی توصیف نہیں کی

وَاصِفٌ قَطُّ اِلَّا شَبَّهَ وَجْهَهٗ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَكَانَ حَسَنَ الشَّعْرِ
کسی تعریف کرنے والے نے کبھی مگر اس نے تشبیہ دی آپ کے چہرہ انور کو ساتھ چودھویں کے چاند کے اور تھے آپ حسین بالوں والے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ
اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ

كَانَ اَشْنَبَ وَكَانَ سَبْطَ الْقَصَبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
خوبصورت دانتوں والے تھے اور موزوں لمبی ہڈیوں والے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ مُفَلَّجَ الْاَسْنَانِ وَكَانَ اَحْسَنَ مِنْ
اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب کہ سامنے کے دو دانتوں میں کشادگی رکھتے تھے اور تھے زیادہ حسین

القمر في ليلة اضحيان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
چاند سے روشن ترین رات میں (چودھویں شب) اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور
آل سيدنا محمد الذي كان براق الثنايا وكان يرى احد عشر نجما
سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کریم کے روشن اور چمکیلے تھے سامنے کے اوپر نیچے والے دانت اور آپ دیکھا کرتے تھے گیارہ ستارے
في الثريا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
ثریا میں نگاہ کی ظاہری قوت کے لحاظ سے اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر
الذي كان افلج الثنيتين ولم يكن له شعر سوى المسربة على
جو محبوب کہ دونوں ثنایا میں کشادگی رکھتے تھے۔ اور نہیں تھے آپ کے پستان اور پیٹ مبارک پر بال سوائے پیٹ اور سینہ کے
البطن والثديين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل
درمیان والی بالوں کی باریک لکیر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور
سيدنا محمد الذي كان رقيق المسربة ضخم العظام وكان اذا
سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب سینہ کے نچلے حصے سے ناف تک باریک لکیر بالوں کی رکھتے تھے اور ضخیم ہڈیوں والے تھے
تبسم يفتر عن مثل سناء البرق او مثل حب الغمام اللهم اجعل
جب تبسم فرماتے تو ہونٹ مبارک ہٹتے تھے بجلی جیسی چمک سے یا اولوں کے دانوں سے۔ اے اللہ پیدا فرما
في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا
میرے دل میں نور۔ اور میری آنکھوں میں نور۔ میرے کانوں میں نور۔ میرے دائیں نور
ومن شمالي نورا ومن خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من
اور میرے بائیں نور۔ میرے پیچھے نور اور میرے آگے نور۔ میرے
فوقي نورا ومن تحتي نورا ط اللهم اعطني نورا واجعل لي
اوپر نور اور میرے نیچے نور۔ اے اللہ عطا فرما مجھے نور۔ بنا میرے لیے
نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري
نور۔ اور میرے اعصاب میں نور۔ میرے گوشت میں نور اور میرے خون میں نور۔ میرے بالوں میں

نورا وفي بشري نورا وفي لساني نورا واجعل في نفسي نورا و
نور اور میری جلد میں نور۔ میری زبان میں نور اور پیدا فرما میرے نفس میں نور اور
اعظم لي نورا اللهم افتح لي ابواب رحمتك وسهل لنا ابواب
عظیم فرما میرے لیے نور کو۔ اے اللہ کھول دے ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے اور آسان فرما ہمارے لیے اپنے
رزقك اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعمدي وكل ذلك
رزق کے دروازے اور وسائل۔ اے اللہ میرے لیے بخش دے میری سنجیدہ حرکت اور غیر سنجیدہ اور غیر ارادی فعل اور ارادی گناہ اور یہ سبھی انواع واقسام
عندي اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل
میرے اندر ہیں۔ اے اللہ بے شک ہم تجھ سے استعانت کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں تیرے ساتھ۔ اور توکل کرتے ہیں
عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك
تجھ پر اور ثناء کرتے ہیں تجھ پر خیر کے ساتھ۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور کفران نعمت نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں
من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى
تیرے نافرمانبرداروں کو۔ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری نماز پڑھتے ہیں۔ تجھی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور صرف تیری طرف دوڑتے
ونحفد ونرجوا رحمتك ونخشى عذابك الجد ان عذابك الجد
ہیں اور جلدی کرتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی اور خوف رکھتے ہیں تیرے سخت عذاب کا۔ بے شک تیرا عذاب شدید
بالكفار ملحق ط اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل و
کافروں کو ہی پہنچنے والا ہے۔ اے اللہ جو رب ہے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کا اور
محمد صلى الله عليه وسلم اعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نار جہنم سے۔ اے اللہ بخش دے ہمیں
وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من
اور رحم فرما ہم پر۔ ہم سے راضی ہو اور ہم سے قبول فرما۔ ہمیں جنت میں داخل فرما اور نجات دے
النار واصلح لنا شاننا كله اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات
نار جہنم سے اور درست فرما ہمارے لیے ہمارے تمام معاملات۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما۔ اور درست فرما ہمارے

بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۚ وَجَنِّبْنَا

باہمی تعلقات کو اور ہمیں چلا سلامتی کی راہوں پر اور ہمیں نجات عطا فرما ظلمات اور تاریکیوں سے پہنچاتے ہوئے طرف نور کے اور ہمیں دور

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِیْٓ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَ

رکھ برائیوں سے جو ظاہر ہیں ان میں سے یا مخفی اور برکت دے ہمارے لیے ہمارے کانوں۔ آنکھوں اور

قُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَ

دلوں میں۔ بیویوں میں اور اولادوں میں۔ اور نظر رحمت فرما ہم پر بیشک تُو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ اور

اجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَابِلِيْهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ

بنا ہمیں شکر گزار اپنی نعمتوں کا۔ ثنا کرنے والے ساتھ ان کے (دل وجان سے) قبول کرتے والے ان کے۔ اور انہیں مکمل فرما ہم پر۔ اے اللہ

اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ

حصہ بخش ہمیں اپنی خشیت کا۔ اس قدر کہ حائل ہو جائے تو بسبب اس کے درمیان ہمارے اور درمیان ہمارے گناہوں کے اور

طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا

طاعت سے اتنا قدر کہ پہنچا دے بسبب اس کے جنت تک ویقین سے اتنا حصہ کہ آسان کر دے بسبب اس کے ہم پر

مَصَآئِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَآ اَحْيَيْتَنَا وَ

مصائب دنیا کے اور نفع مند بنائے رکھنا ہمیں ہمارے کانوں اور آنکھوں کے ساتھ اور ہماری قوتوں کے ساتھ جب تک ہمیں زندہ

اجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَاْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ

رکھے اور بنا ان میں سے ہر ایک کو وارث اور باقی ہم سے۔ اور بنا ہمارا بدلہ ان پر جنہوں نے ہم پر ظلم کیا۔ اور ہمیں نصرت عطا فرما ہمارے

عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِیْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا

اعداء پر۔ اور نہ بنانا مصیبت ہماری ہمارے دین میں۔ اور نہ بنانا دُنیا کو ہمارا بڑا مقصد اور نہ

مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا

ہمارا مبلغ علم (کہ اس کے علاوہ کچھ نہ جانیں) اور نہ مسلط فرمانا ہم پر جو نہ رحم کرے ہم پر۔ اے اللہ ہمیں بڑھا اور ہمیں کم نہ کر۔

وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا

اور ہمیں عزت عطا کر اور حقیر نہ کر۔ ہمیں عطاؤں سے نواز اور محروم نہ فرما۔ اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے ہم پر کسی کو ترجیح نہ دینا

وَاَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِیْ رُشْدِیْ وَاَعِذْنِیْ مِنْ شَرِّ

اور ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ مجھے الہام فرما میری بھلائی کا۔ اور مجھے پناہ دے میرے نفس کے

نَفْسِیْ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِیْ بِمَا عَلَّمْتَنِیْ وَعَلِّمْنِیْ مَا يَنْفَعُنِیْ وَزِدْنِیْ عِلْمًا

شر سے۔ اے اللہ مجھے نفع بخش ساتھ اس کے جو تو نے علم عطا کیا ہے اور مجھے وہ علم سکھا جو مجھے نفع دے۔ اور مجھے بڑھا از روئے علم

بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ كَثَّ اللِّحْيَةِ وَذَرِيْعَ الْمِشْيَةِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ گھنی ڈاڑھی مبارک والے تھے اور چلنے میں تیز رفتار

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَتْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی

لِحْيَتُهٗ تَمْلَاُ صَدْرَهٗ وَقَالَ نَاعِتُهٗ لَمْ اَرَ قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ اَللّٰهُمَّ

ڈاڑھی مبارک ان کے سینہ کو بھرے ہوئے تھی اور کہتا تھا ان کا ہر نعت خوان " نہیں دیکھا میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپکے بعد آپ جیسا اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَتْ لِحْيَتُهٗ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کی ڈاڑھی مبارک

اَسْوَدَ وَكَانَتْ كَفُّهٗ مِنَ الثَّلْجِ اَبْرَدَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سیاہ تھی اور ان کی ہتھیلی برف سے زیادہ ٹھنڈی (معلوم ہوتی تھی بسبب ذوق ومحبت کے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ يَاْخُذُ مِنْ لِّحْيَتِهٖ مِنَ الطُّوْلِ وَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ کاٹتے تھے اپنی ڈاڑھی مبارک لمبائی سے بھی (قبضہ سے زائد ہونے کی صورت میں) اور چوڑائی

الْعَرْضِ وَكَانَ بَطْنُهٗ كَالْقَرَاطِيْسِ الْمُثَنّٰى بَعْضُهَا عَلٰى بَعْضٍ ۞ اَللّٰهُمَّ

میں بھی اور تھا آپ کا بطن اقدس (سفیدی اور نرمی کی وجہ سے) مانند سفید کاغذات کے جو تہ بہ تہ کئے گئے ہوں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے

ضَخْمَ الْكَرَادِيْسِ ضَخْمَ الْهَامَةِ وَكَانَ خَاتَمُ نُبُوَّتِهٖ بَضْعَةً
کندھوں کی ہڈیاں عظیم تھیں اور سر مبارک کی کھوپری عظیم تھی اور آپ کی مہر نبوت گوشت کا ابھرا
نَاشِزَةً كَبَيْضَةِ الْحَمَامَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
ہوا ٹکڑا تھی مانند کبوتری کے انڈے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر
وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ
اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کی مہر نبوت بائیں کندھے کی چوڑی باریک ہڈی کے
الْيُسْرٰى وَكَانَ يَتَكَفَّأُ اِذَا مَشٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
قریب تھی اور آپ تیز جنبش فرماتے تھے جب چلتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ يَتَلَأْلَأُ خَاتَمُ نُبُوَّتِهٖ
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کی مہر نبوت چمکتی تھی (بوجہ شدید نورانیت کے جانب اندرون میں)
وَكَانَ اِصْبَعُ قَدَمَيْهِ السَّبَّابَةُ اَطْوَلَ مِنْ سَآئِرِ اَصَابِعِهٖ اَللّٰهُمَّ
اور آپ کے قدموں کی انگوٹھوں کے ساتھ والی انگلیاں دوسری تمام انگلیوں سے لمبی تھیں۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ
صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی
مَكْتُوْبًا عَلٰى خَاتَمِ نُبُوَّتِهٖ اَللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ تَوَجَّهْ حَيْثُ
مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا "اللہ یکتا ہے نہیں شریک اس کے لیے توجہ کرو جدھر
شِئْتَ فَاِنَّكَ مَنْصُوْرٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
چاہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و امداد ہر وقت تمہارے شامل حال ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور
اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ النُّوْرُ وَ
سیدنا محمد کی آل پر کہ جو نور مجسم جب کلام فرماتے تھے تو نکلتا تھا ان کے سامنے کے دانتوں سے نور اور
كَانَ عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ وَالْعَضُدَيْنِ وَطَوِيْلَ الزَّنْدَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
تھے آپ مضبوط سفید کلائیوں اور بازوؤں والے اور لمبے گٹوں اور جوڑ کی لمبی ہڈیوں والے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ رَقِيْقَ
و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ باریک اور نفیس
الْاَنَامِلِ وَكَانَ عَبْلَ الْاَسَافِلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
پوروں والے تھے اور انگلیوں کے موٹے اور مضبوط نچلے جوڑوں والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ اَشْعَرَ الْمَنْكِبَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کریم کے کندھوں اور پنڈلیوں پر زیادہ بال تھے (بنسبت دوسرے حصوں کے)
وَرَحْبَ الْقَدَمَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اور آپ پر گوشت اور چوڑے قدموں والے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور
اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَتْ لَهٗ خُمُوْشَةٌ فِي السَّاقَيْنِ وَكَانَ
سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کی پنڈلیوں میں مناسب باریکی تھی۔ اور تھیں
مَنْهُوْسَ الْعَقِبَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
آپ کی ایڑیاں کم گوشت والی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور
اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ اَحْسَنَ الْبَشَرِ قَدَمًا وَّكَانَ فَخْمًا مُّفَخَّمًا
سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ سب بشروں سے حسین تھے از روئے قدموں کے۔ اور تھے بذات خود عظیم اور عظیم سمجھے جانے والے
وَّكَانَتْ خِنْصَرُ وَبِنْصَرُ رِجْلَيْهِ مُتَظَاهِرَةً وَّكَانَتْ سَاقُهٗ كَاَنَّهَا جُمَّارَةٌ
اور آپ کے پاؤں مبارک کی چھوٹی انگلی اور ساتھ والی لمبائی میں قریب قریب تھیں اور آپ کی پنڈلی گویا کھجور کی شاخ تر تھی جبکہ پردے میں ہوا بوجہ
كَانَ بَادِنًا حِيْنَ اَسَنَّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
سفیدی کے تھے آپ بھاری جسم والے سن رسیدگی کے دوران۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور
سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ مُتَمَاسِكَ الْبَدَنِ وَمُنْبَسِطَ الْوَجْهِ دَآئِمَ
سیدنا محمد کی آل پر جو کہ سمٹے ہوئے بدن والے تھے۔ اور خنداں چہرے والے ہمیشہ مسکرانے اور مسرت کو ظاہر
الْبِشْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ
کرنے والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا

كَانَ لَطِيفَ الظَّاهِرِ وَكَانَتِ الْمُلَاحَظَةُ جُلَّ نَظَرِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ
لطیف جلد والے تھے اور تھا آپ کا کنکھیوں سے دیکھنا پوری آنکھ سے دیکھنا یعنی کنکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ التَّبَسُّمُ جُلَّ
سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کا تبسم ہی مکمل

ضِحْكِهٖ وَاِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
ہنسی تھا۔ اور جب آپ کسی طرف متوجہ ہوتے تو پورے جسم مبارک کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اِذَا زَالَ زَالَ قَلْعًا وَّكَانَ مَنْ رَّاٰهُ
اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جب رواں ہوتے تو پوری قوت سے روانہ ہوتے اور جو آپ کو اچانک

بَدَاهَةً هَابَهٗ وَكَانَ اِذَا خَالَطَهٗ مَعْرِفَةً اَحَبَّهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
دیکھتا تھا مرعوب ہو جاتا تھا اور جب آپ سے کمال معرفت کے ساتھ میل جول رکھتا تو آپ کا محب بن جاتا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ اَنْوَرَ
و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کا بالوں سے خالی ہر عضو بدن

الْمُتَجَرِّدِ يَتَلَاْلَاُ وَجْهُهٗ تَلَاْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَكَانَ سَوَاءَ
انتہائی نورانی اور روشن تھا آپ کا چہرۂ انور چمکتا تھا مثل چمکنے چاند کے چودھویں رات اور آپ کا سینہ مبارک اور

الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ
پیٹ مبارک برابر اور ہموار تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ ذَاتُهٗ لِجَمِيْعِ الْخَيْرِ وَالْحُسْنِ شَامِلَةٌ وَّصِفَاتُهٗ
آل پر جن کی ذات مقدسہ تمام خوبیوں اور محاسن کو محیط ہے اور جن کی صفات

عَالِيَةٌ كَامِلَةٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا
عالی شان اور کامل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ هُوَ سَاطِعُ الْاَنْوَارِ وَمُشْرِقُ الْوَجْنَةِ وَمَكِيْنُ الْمُكْنَةِ
جو محبوب کہ بلند اور غالب انوار والے ہیں۔ چمکیلے اور روشن رخساروں والے اور عظیم و قوی قوت وطاقت والے ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کریم کہ

هُوَ بَدِيْعُ الْمَنْظَرِ وَالْمَخْبَرِ وَهُوَ طَلْقُ الْمُحَيَّا وَكَانَ النُّوْرُ يَسْبِقُ
انوکھے اور عمدہ منظر اور علم و آگہی والے ہیں اور کشادہ چہرے والے اور تھا آپ کے چہرے کا نور سبقت لے جانے والا

وَجْهَهٗ عِنْدَ الرُّؤْيَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی
آپ کے چہرے سے وقت دیدار کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ نُوْرُهٗ اَسْنٰی مِنَ الْقَمَرَيْنِ وَاَشْرَقُ
کی آل پر کہ جس نور مجسم کا نور شمس و قمر سے زیادہ نمایاں اور روشن تھا

وَكَانَ نُوْرُهٗ يَعْلُو الْاَنْفَ وَيَحِيْرُ فِيْهِ الْوَاصِفُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
اور آپ کا نور بینی پر نور پر سے بلند ہوتا تھا اور آپ کا واصف و ثنا گو اس میں حیرت کا مجسمہ بن جاتا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ هُوَ وَاسِعُ
و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ ماتھے اور جبین اقدس کی وسیع سفیدی

الْغُرَّةِ وَهُوَ سَنَدُ الْبَرَايَا وَرَاٰی جِبْرَآئِيْلَ عَلٰی صُوْرَةِ دِحْيَةَ اَللّٰهُمَّ
والے ہیں اور مخلوقات (کی نجات و فلاح) کے لیے سند و دستاویز۔ اور دیکھا آپ نے حضرت جبرئیل کو دحیہ کلبی کی صورت پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ
صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

هُوَ سَائِلُ الْاَطْرَافِ وَكَامِلُ الْاَوْصَافِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
بھاری اور چوڑی ہتھیلیوں اور قدموں والے ہیں اور کامل اوصاف والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ هُوَ اَبْهٰی مِنَ
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ زیادہ خوب صورت ہیں

الشَّمْسِ وَالْبَدْرِ وَهُوَ شَامِلُ الْاِحْسَانِ وَكَانَ يَبِيْتُ يُجَافِیْ
سورج سے اور چودھویں کے چاند سے جن کا جود و احسان سب کو محیط ہے اور راتیں گزارتے تھے اس شان سے کہ

جَنْبَيْهِ مِنَ الْفِرَاشِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

آپ کے پہلو دور رہتے تھے بستر سے (شب بیداری اور تہجد گزاری کی وجہ سے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ جَمَعَ اللّٰهُ فِيْهِ مَا افْتَرَقَ وَسَدَلَ شَعْرَهٗ

آل پر کہ جس محبوب میں جمع کر دیا ہے اللہ نے (ہر اس کمال کو) جو متفرق طور (کاملین عالم میں) موجود تھا اور آپ نے بالوں کو بغیر مانگ نکالے

وَفَرَّقَ وَلَمْ يُرَ اَحَدٌ قَطُّ اَجْمَلَ مِنْهُ وَلَا اَحْسَنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

بھی پیچھے ہٹائے رکھا اور مانگ بھی نکالی۔ اور نہیں دیکھا گیا کوئی شخص کبھی آپ جیسا جمیل اور نہ حسین ۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ هُوَ شَرِيْفُ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب کہ بلند و بالا قدر و منزلت اور

الْقَدْرِ وَالنَّسَبِ وَهُوَ حُلْوُ الْمَعَاطِفِ وَالشَّمَآئِلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نسب والے ہیں اور شیریں گلے اور گفتار والے ہیں اور پسندیدہ خصلتوں والے ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ جَعَلَ اللّٰهُ مَحَاسِنَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا میں اللہ تعالیٰ نے نور اور

النُّوْرِ وَالْبَهَآءِ جَارِيَةً فِيْ مَفَاصِلِ تَصْوِيْرِهٖ وَتَكْوِيْنِهٖ اَللّٰهُمَّ

خوبصورتی کے محاسن کو جاری فرمایا ہے آپ کی تصویر کے اعضاء اور جوڑوں میں اور خلق و تکوین میں ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر ۔ جو

كَانَ يَبْتَدِئُ الْكَلَامَ وَيَخْتِمُهٗ بِاَشْدَاقِهٖ وَهُوَ بَدِيْعُ الْجَمَالِ

کلام کا آغاز فرماتے اور اس کا اختتام فرماتے اپنے ہونٹوں کے مقام اتصال پر (جو کہ دلیل فصاحت و بلاغت ہے) اور آپ عمدہ جمال والے

وَلِلْعُقُوْلِ بَاهِرٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

ہیں اور عقول کو دنگ کرنے والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ مَسِيْحُ الصَّدْرِ وَعَالِي الْقَدْرِ وَاَنْوَرُ الْمُتَجَرَّدِ

آل پر جو محبوب کہ قدرتی طور پر چکنے اور چیڑے ہوئے سینہ والے ہیں اور بلند مرتبت اور آپ کے بالوں سے خالی اعضاء اور اجزاء بدن سے حسین منظر اور

وَمَوْرِدُ كُلِّ وَارِدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

خوشنما تھے اور آپ ہر تشنہ لب کی سیرابی کے لیے (آب حیات) کا گھاٹ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَانَ فِي الْعُيُوْنِ عَظِيْمًا فَخِيْمًا وَّكَانَ فِي

آل پر جو محبوب کریم کہ خلائق کی نظروں میں عظیم و جلیل تھے اور مخلوقات کے

الْقُلُوْبِ مُعَظَّمًا مُّفَخَّمًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

کے دلوں میں واجب التعظیم و التوقیر تھے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

عَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ حَسَنَ الْجِسْمِ اَسْمَرَ وَاَظْهَرَ اللَّوْنِ

کی آل پر کہ جو محبوب حسین جسم والے سفید سُرخی مائل اور روشن رنگ والے تھے اور آپ

وَكَانَ يَمْشِيْ بِالْهَوْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

چلتے تھے آہستگی اور وقار کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ لَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَالْمُكَلْثَمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جو محبوب کہ نہیں تھے پر گوشت اور بالکل گول چہرے والے اور نہ چپکے اور سمٹے ہوئے رخساروں والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ وَسِيْمًا قَسِيْمًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب خوب صورت تھے اور خزائن الٰہیہ کے تقسیم کرنے والے

رَحْبَ الرَّاحَةِ وَكَانَ عُنُقُهٗ جِيْدَ دُمْيَةٍ فِيْ صَفَآءِ الْفِضَّةِ وَكَانَ

کشادہ ہتھیلیوں والے (سخی) اور آپ کی گردن مبارک گویا بت سیمین کی گردن تھی چاندی جیسی صفائی اور سفیدی میں اور

سَطَعٌ فِيْ عُنُقِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

آپ کی گردن مبارک میں فرازی اور بلندی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ رَبْعَةً اِلَى الطُّوْلِ اَقْرَبَ وَكَانَ اَطْوَلَ مِنَ

آل پر جس محبوب کا قد رعنا درمیانہ مائل بہ درازی تھا اور تھا دراز درمیانہ

الْمَرْبُوْعِ وَاَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قد سے اور کوتاہ تھا انتہائی دراز قامت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ اَشْعَرَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاعِدَيْنِ وَ
اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے ہاتھ اور کلائیاں بالوں والی تھیں اور

كَانَتْ رَائِحَتُهٗ اَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَكَانَ عَرَقُهٗ اَطْيَبَ
آپ کی خوشبو پاکیزہ تر تھی کستوری اور عنبر سے۔ اور تھا آپ کا پسینہ سب خوشبوؤں سے

الطِّيْبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ
زیادہ خوشبودار (بلکہ خوشبوؤں کو معنبر معطر بنانے والا) اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِیْ كَانَ ظَهْرُهٗ كَاَنَّهٗ سَبِيْكَةُ الْفِضَّةِ وَكَانَ بَرَّاقَ الْجَبِيْنِ وَقَامَتُهٗ
جس محبوب کی پشت انور گویا چاندی سے ڈھلی ہوئی تختی تھی۔ اور آپ انتہائی روشن پیشانی والے تھے اور

بَيْنَ الْقَامَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ
آپ کی قامت زیبا درمیانی تھی نہ طویل نہ قصیر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَا بِالطَّوِيْلِ الذَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ الدَّانِیْ وَ
آل پر جو آقا کہ نہ بہت طویل القامت تھے اور نہ بہت کوتاہ قامت پستہ قد (بلکہ درمیانے موزوں قد والے تھے)

كَانَ اَبْيَضَ اللَّوْنِ وَمُشْرَبًا بِالْحُمْرَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی
اور آپ سفید رنگ والے تھے جس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اِذَا قَامَ مَعَ النَّاسِ عَمَّ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کریم جب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ان پر چھا جاتے

لَهُمْ فِی الْقِيَامِ وَاِذَا مَشٰی مَعَهُمْ كَاَنَّهٗ سَحَابٌ مُّظَلِّلٌ مُّعَلَّقٌ
حالت قیام میں اور جب ان کے ساتھ چلتے تو (از روئے عظمت وہیبت یوں معلوم ہوتے کہ گویا بادل ہیں جو سایہ فگن اور ٹکرانے

بِالْغَمَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ
والے ہیں بادلوں کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جو

اَجْعَدَ الشَّعْرِ شَدِيْدٌ سَوَادُهٗ كَاللَّيْلِ الْبَهِيْمِ وَكَانَ شَعْرُهٗ نَازِلًا مُّتَّصِلًا
گھنگریالے بالوں والے تھے جو سخت سیاہ تھے مانند سیاہ تاریک رات کے۔ اور تھے آپ کے بال لٹکے ہوئے اور

اِلٰی شَحْمَةِ اُذُنَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ
کانوں کے نرموں سے ملے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ يَخْزُنُ لِسَانَهٗ اِلَّا فِيْمَا يَعْنِيْهِ وَيُؤَلِّفُهُمْ
آل پر جو محبوب مکرم اپنی زبان کو محفوظ رکھتے تھے (بولنے سے) مگر مقصودی امور میں اور صحابہ کرام کی تالیف قلوب فرماتے تھے

وَلَا يُنَفِّرُهُمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا
اور انہیں اپنے سے دور نہیں بھگاتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ يُكْرِمُ كَرِيْمَ كُلِّ قَوْمٍ وَّيُوَلِّيْهِ عَلَيْهِمْ وَيَتَفَقَّدُ اَصْحَابَهٗ
جو محبوب معظم کہ ہر قوم کے رئیس اور سردار کی عزت و تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان پر والی بناتے تھے۔ اور اپنے صحابہ کی خبر گیری

وَيَسْئَلُ النَّاسَ عَمَّا فِی النَّاسِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
کرتے تھے اور لوگوں سے سوال کرتے ان معاملات کا جو لوگوں میں ہوتے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ يُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيْهِ وَيُقَبِّحُ
اور آپ کی آل پر کہ جو اچھے کام پر داد دیتے اور اس کی تقویت فرماتے اور قبیح کی قباحت

الْقَبِيْحَ وَيُوَهِّنُهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ
بیان فرماتے اور اس پر حوصلہ شکنی فرماتے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَانَ مُعْتَدِلَ الْاَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ لَّا يَغْفُلُ
آل پر جو آقا کہ معتدل اور درمیانے امر والے تھے جس میں اختلاف نہ پایا جائے۔ اور آپ سے توجہی نہیں فرماتے تھے

مَخَافَةَ اَنْ يَّغْفُلُوْا اَفْضَلُهُمْ عِنْدَهٗ مَنْزِلَةً اَحْسَنُهُمْ مُّوَاسَاةً
اس اندیشہ سے کہ اُمت غافل نہ ہو جائے۔ آپ کے نزدیک برتر منزل والا وہی ہوتا تھا جو سب سے اچھا ہوتا باہمی ہمدردی و غمخواری میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمَمْلُوْ
اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کا دل انور معمور و بھرپور تھا

قَلْبُهٗ مِنَ الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا دَآئِمًا وَّاِسْلَامًا بَاقِيًا وَّ
ایمان اور حق الیقین سے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دائمی ایمان کا اور باقی رہنے والے اسلام کا

إِحْسَانًا مُّسْتَمِرًّا وَّالْجَوَارِحَ مَحْفُوْظَةً وَّالسُّلُوْكَ عَلٰى طَرِيْقِكَ وَعَمَلًا

ہمیشہ رہنے والے احسان کا۔ اور ایسے اعضاء کا جو محفوظ ہوں (برائیوں سے) اور چلنے کا تیری راہ پر۔ اور مقبول عمل اور

مَّقْبُوْلًا وَّقَلْبًا خَاشِعًا وَّلِسَانًا ذَاكِرًا وَّعَيْنًا دَامِعًا وَّخَدًّا رَطْبًا فِيْ حُبِّكَ وَ

خشوع والے دل کا۔ ذکر والی زبان کا۔ آنسوؤں والی آنکھ کا۔ تیری محبت اور تیرے حبیب کی محبت کی بدولت تر و تازہ رخساروں کا۔ اور

حُبِّ حَبِيْبِكَ وَالْوُقُوْفَ عَلٰى حُدُوْدِكَ وَالتَّوْفِيْقَ عَلٰى طَاعَتِكَ وَالنَّجَاةَ

تیرے حبیب کی محبت کا اور تیری مقرر کردہ حدوں پر ٹھہرنے کا۔ اور تیری طاعت کی توفیق کا اور خلاصی کا

مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَسُؤَالِهٖ وَالسَّلَامَةَ فِي

زندگی اور موت کے فتنہ سے۔ اور قبر کی آزمائش اور اس کے سوال سے نجات کا۔ اور دین۔ دنیا اور

الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ دَوَامَ الْاِقْبَالِ عَلَيْكَ

آخرت میں سلامتی کا۔ اے اللہ مجھے عطا فرما ہمیشہ اپنی طرف توجہ والتفات

وَالْاِسْتِمْسَاكَ بِمَا يُقَرِّبُنِيْ لَدَيْكَ وَهَبْ لِيْ قَلْبًا سَلِيْمًا وَّاجْعَلْهُ فِيْ

اور تمسک ساتھ ان امور کے جو مجھے تیرے قریب کر دیں۔ اور عطا فرما مجھے قلب سلیم۔ اور بنا تو اسے اپنی محبت میں

حُبِّكَ سَلِيْمًا وَّكُنْ اَنْتَ لِدَآئِهٖ حَكِيْمًا وَّامْنَحْهُ فَيْضًا عَمِيْمًا وَّفَتْحًا

سالم (ہر رکاوٹ سے) اور بن تو خود اس کی بیماریوں کے لیے حکیم و طبیب اور اسے ہبہ فرما فیض عام و تام کا۔ اور واضح

مُّبِيْنًا وَّسِرًّا اَمِيْنًا وَّوَارِدًا رَّحْمَانِيًّا وَّخَاطِرًا رَّبَّانِيًّا وَّجَذْبًا قَوِيًّا

فتح اور کامیابی۔ اور ایسے راز و اسرار جو اس کی امانت میں ہوں۔ اور واردات قلب جو اللہ رحمٰن کی طرف سے ہوں اور خاطر و خیال ربانی اور

وَّسَيْرًا سَوِيًّا وَّشُرْبًا اَحْمَدِيًّا وَّعَمَلًا مَّرْضِيًّا وَّظَاهِرًا تَقِيًّا وَّبَاطِنًا

کامل کشش اسکی اور رفتار ہموار اور مناسب۔ اور پینا اور برداشت کرنا شراب عشق کا مانند احمد مجتبےٰ علیہ السلام کے اور پسندیدہ عمل اور ظاہر جو تقویٰ سے

نَّقِيًّا وَّعَقْلًا كُلِّيًّا وَّكَشْفًا قُدْسِيًّا وَّلُبًّا زَكِيًّا وَّيَدًا فِي الْخَيْرَاتِ

آراستہ اور باطن جو پاک اور منزہ ہو اور عقل کلی اور کشف قدسی اور مغز و دماغ پاکیزہ۔ اور خیرات میں لمبے اور سخی

مَمْدُوْدَةً وَّقَدَمًا سَاعِيًا فِي الْاَفْعَالِ الْمَحْمُوْدَةِ وَلِسَانًا ذَاكِرًا

ہاتھ۔ اور پسندیدہ افعال میں سعی اور کوشش کرنے والے قدم۔ ذکر کرنے والی زبان

وَطَرْفًا سَاهِرًا وَّتَوَجُّهًا لِسَيْفِ الْهَزْمِ شَاهِرًا وَّفِكْرًا ثَاقِبًا وَّمَدَدًا

تیری یاد میں بیدار رہنے والی آنکھ۔ اور ایسی توجہ جو برہنہ کرنے والی ہو ہزیمت (نفس) کے لیے تلوار کو۔ اور

مُّتَعَاقِبًا وَّعَيْنًا سَحِيْحَةً وَّاَقْوَالًا صَحِيْحَةً وَّمَوَارِدَ رَجِيْحَةً

روشن فکر اور مدد پے در پے۔ اور آنکھ برسنے والی۔ اور اقوال درست۔ اور سیرابی کے لیے وارد ہونے کے انتہائی موزوں گھاٹ

وَّعَوَارِفَ لِبَرَاقِعِ الْجَمَالِ مُزِيْحَةً وَّاُذُنًا سَمِيْعَةً وَّجَوَارِحَ

اور ایسے عطیے جو جمال کے پردوں اور حجابات کو زائل کرنے والے ہوں اور کان حق کے سننے والے۔ اور اعضاء

مُطِيْعَةً وَّصَدْرًا رَحِيْبًا وَّعَيْشًا خَصِيْبًا وَّرُوْحًا زَكِيَّةً وَّنَفْسًا

فرمانبردار۔ سینہ وسیع و کشادہ اور گزران فراخی و خوشحالی والی۔ اور روح پاکیزہ اور نفس

مَّرْضِيَّةً وَّاَنْفَاسًا مُّعَمَّرَةً بِالشُّهُوْدِ مُثْمِرَةً بِكُلِّ وَصْفٍ مَّحْمُوْدٍ

پسندیدہ۔ اور سانس جو معمور اور آباد ہوں ساتھ شہود ذات کے۔ ثمر آور ہوں ہر وصف محمود و پسندیدہ کے۔

اَللّٰهُمَّ نَسْئَلُكَ اَنْ لَّا تَدَعَ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ

اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ تو نہ چھوڑے کوئی گناہ مگر اسے بخش دے اور نہ کوئی غم و اندوہ مگر

وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهٗ وَلَا فَاسِدًا اِلَّا اَصْلَحْتَهٗ وَلَا شَرًّا

اس کو دور فرما دے۔ اور نہ قرض مگر اسے ادا فرما دے اور نہ کوئی فساد والا امر مگر اس کی اصلاح فرما دے اور نہ

اِلَّا صَرَفْتَهٗ وَلَا غَمًّا اِلَّا كَشَفْتَهٗ وَلَا قَبِيْحًا اِلَّا سَتَرْتَهٗ

کوئی شر مگر اس کو ہم سے پھیر دے۔ اور نہ کوئی غم مگر اس کو ہٹا دے۔ اور نہ کوئی فعل و خصلت قبیح مگر اس کو ڈھانپ دے

وَلَا سَقَمًا اِلَّا شَفَيْتَهٗ وَلَا فَضْلًا اِلَّا اَسْبَغْتَهٗ وَلَا فَقْرًا

اور نہ کوئی بیماری مگر اس کو شفا دے۔ اور نہ کوئی فضیلت مگر اس کو کامل و مکمل کر دے۔ اور نہ فقر و فاقہ کو چھوڑ دے

اِلَّا اَغْنَيْتَهٗ وَلَا عُسْرًا اِلَّا يَسَّرْتَهٗ وَلَا نَذْرًا اِلَّا وَفَّيْتَهٗ وَلَا

مگر اس کو غنا سے بدل دے۔ اور نہ کوئی عسر اور تنگدستی مگر اس کو یسر اور فراخ دستی سے بدل دے۔ اور نہ کوئی نذر مگر اس کو پورا فرما دے

خَطِيْئَةً اِلَّا كَفَّرْتَهَا وَلَا سَيِّئَةً اِلَّا مَحَوْتَهَا وَلَا حَسَنَةً اِلَّا

اور نہ کوئی خطا مگر اس کو مٹا دے۔ اور نہ کوئی برائی مگر اس کو بے نام و نشاں کر دے۔ اور نہ کوئی نیکی مگر اس کو

اصطفیتہا ولا فاقۃ الا سددتہا ولا کربۃ الا کشفتہا ولا

قبول فرمالے اور نہ فقروفاقہ مگر اس کو بند فرمادے ۔ اور نہ کوئی تکلیف مگر اسے دور فرمادے اور نہ

نعمۃ الا اتممتہا ولا دعوۃ الا استجبتہا ولا قحطا الا

کوئی نعمت مگر اس کو کامل فرمادے ۔ اور نہ کوئی دعا مگر اس کو قبول فرمالے ۔ اور نہ قحط سالی مگر

دفعتہ ولا بلاء الا رفعتہ ولا مرضا الا شفیتہ ولا ذنبا

اس کو دفع کردے ۔ اور نہ کوئی بلا اور مصیبت مگر اس کو اٹھادے ۔ اور نہ کوئی مرض مگر اس سے شفا دے اور نہ کوئی گناہ

الا غفرتہ ولا دینا الا قضیتہ اللہم زد نورنا وزد سرورنا

مگر اس کو بخش دے ۔ اور نہ قرض مگر اس کو ادا فرمادے ۔ اے اللہ ہمارے نور کو زیادہ فرما ۔ اور ہمارے سرور کو زیادہ فرما

وزد حضورنا وزد معرفتنا وزد طاعتنا وزد نعمتنا

اور ہمارے حضور قلب کو زیادہ فرما ۔ ہمارے عرفان میں اضافہ فرما ۔ ہماری اطاعت میں اضافہ فرما ۔ اور ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما

وزد محبتنا وزد عشقنا وزد شوقنا وذوقنا وعلمنا

ہماری محبت میں ترقی دے ۔ ہمارے عشق کو ترقی دے ۔ ہمارے شوق وذوق کو ترقی دے ۔ ہمارے علم وعمل کو ترقی دے

وعملنا بحرمۃ علم عالم الکل والجزء رب اشرح لی

بطفیل حرمت وعزت اس ذات کے علم کے جو ہر کل اور جز کی عالم ہے ۔ اے میرے پروردگار کھول دے میرے لیے

صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی

سینہ میرا اور آسان فرما میرے لیے معاملہ میرا ۔ اور کھول دے گانٹھ اور بندش میری زبان سے

یفقہوا قولی ولا اشرک بربی احدا ۔ قل ہو اللہ احد ۔

تاکہ سمجھیں لوگ بات میری اور میں نہیں شریک ٹھہراتا ساتھ اپنے رب کے کسی کو ۔ فرمادیجئے وہ اللہ ایک ہے ۔

اللہ الصمد ۔ لم یلد ۔ ولم یولد ۔ ولم

اللہ بے نیاز ہے ۔ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود جنا گیا اور نہیں

یکن لہ کفوا احد ۔

اس کے لیے رشتہ دار کوئی بھی ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم ۔

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اللہم انی اسئلک بسمو بسم اللہ الرحمن الرحیم و بنمو بسم

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بلندی (شان) کے وسیلہ سے اور بسم اللہ

اللہ الرحمن الرحیم و بعلو بسم اللہ الرحمن الرحیم و بحلو بسم

الرحمن الرحیم کے نمو اور افزائش (درجات) کے وسیلہ سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علو (مرتبت) کے وسیلہ سے اور

اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلمین ۔ الرحمن الرحیم ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حلاوت اور شیرینی کے وسیلہ سے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے

ملک یوم الدین ۔ ایاک نعبد وایاک نستعین ۔ اہدنا الصراط

روز جزاء کا مالک ہے ۔ (ان صفات کمال کے موصوف کامل) تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں ۔ چلا ہمیں راہ

المستقیم ۔ صراط الذین انعمت علیہم ۔ غیر المغضوب علیہم

راست پر ۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے نہ ان لوگوں کی جن پر (تیری طرف سے) غضب کیا گیا ہے

ولا الضالین ۔ اللہ خالق کل شیء وہو الخلاق العلیم اللہم

اور نہ گمراہوں کی ۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے ہر شئ کا اور وہی بہت پیدا کرنے والا اور دائمی علم والا ہے ۔ اے اللہ

صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی ال سیدنا محمد الذی لما

صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا

اراد اللہ ان یخلق من ارضی الارض ارضی اہل الارض والسماء

کہ پیدا کرے پسندیدہ ترین (قطعہ) زمین سے تمام اہل ارض سے پسندیدہ ترین شخصیت کو اور تمام اہل سموات سے پسندیدہ ترین (محبوب) کو تو

امر جبرائیل ان یاتی بالقطعۃ البیضاء والطینۃ البیضاء وصل

حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ لے آئے سفید ٹکڑا زمین کا اور سفید گیلی مٹی اور صلواۃ بھیج

علی سیدنا محمد الذی خلقہ اللہ من الطینۃ التی ہی قلب

سیدنا محمد پر کہ جنہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس طینت اور خمیر سے جو کہ تمام زمین کا

الْاَرْضِ وَبَهَآءُهَا وَنُوْرُهَا وَسَنَآءُهَا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ

دل تھا اور اس کی بہار اور اس کا نور اور اس کی چمک ورونق اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ

رَفَعَ جِبْرَآئِيْلُ طِيْنَتَهٗ مِنْ اَكْرَمِ بُقْعَةٍ بِاَشْرَفِ رُتْبَةٍ وَّرِفْعَةٍ وَّصَلِّ

جبرئیل علیہ السلام نے اٹھایا جن کی طینت اور خمیر کو انتہائی عزت وکرامت والے قطعہ زمین سے انتہائی بلند رتبہ اور درجہ کے ساتھ اور صلوٰۃ بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ وَضَعَ جِبْرَآئِيْلُ طِيْنَتَهٗ فِىْ مَوْضِعِ الْقَبْرِ

سیّدنا محمد پر کہ رکھا جبرئیل علیہ السلام نے جن کی مقدس طینت اور خمیر کو آپ کی قبر انور

الشَّرِيْفِ وَالْمِنْبَرِ الْعَالِى الْمُنِيْفِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ

اور بلند مرتبت منبر کی جگہ میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ

وَضَعَ جِبْرَآئِيْلُ طِيْنَتَهٗ بِاَشْرَفِ بُقَاعِ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ بَعْدَ اَنْ

رکھا جبرئیل علیہ السلام نے آپ کی طینت مبارکہ کو زمین اور آسمانوں کے بزرگترین قطعہ میں بعد اس کے کہ

طَافَ بِهَا عَلٰى جَمِيْعِ الْمَخْلُوْقَاتِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ

طواف کرایا اسے تمام مخلوقات پر۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جن کی

قَبَضَ جِبْرَآئِيْلُ تِلْكَ الطِّيْنَةَ الشَّهِيْرَةَ وَهِىَ بَيْضَآءُ مُنِيْرَةٌ وَّصَلِّ

اس طینت مبارکہ مشہورہ کو جبرئیل اسلام نے مٹھی میں لیا دراٰنحالیکہ وہ سفید رنگ نورانی چمکی تھی۔ اور صلوٰۃ

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ طَافَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ بِطِيْنَتِهٖ حَوْلَ الْعَرْشِ

بھیج سیّدنا محمد پر کہ طواف کرایا ملائکہ نے ان کی طینت مبارکہ کو عرش اعظم

وَحَوْلَ الْكُرْسِىِّ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ طَافَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ

اور کرسی کے گرد۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ طواف کرایا جن کی طینت کو ملائکہ نے

بِطِيْنَتِهٖ فِىْ كُلِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرَضِيْنَ وَفِىْ مَقَاعِدِ الْعِزِّ وَالتَّمْكِيْنِ

تمام آسمانوں اور زمینوں میں۔ اور عزت وتمکین والی مجالس میں۔

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ عُجِنَتْ طِيْنَتُهٗ بِمَآءِ التَّسْنِيْمِ وَ

اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جن کی طینت مبارکہ کو گوندھا گیا تسنیم کے پانی کے ساتھ اور

غُمِسَتْ فِىْ مَعِيْنِ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ بَدَاَ

اس کو ڈبویا گیا (غسل دینے کے لیے) جنات نعیم کے صاف ستھرے پانی میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ آغاز کیا

اللّٰهُ بِخَلْقِ نُوْرِهٖ وَخَتَمَ قَبْلَ خُرُوْجِ الْخَلْقِ مِنَ الْعَدَمِ وَصَلِّ عَلٰى

اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ان کے نور اقدس کی تخلیق سے اور انھیں پر سلسلۂ نبوت کے ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا پہلے نکلنے مخلوق کے پردۂ عدم سے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ لَمَّآ اَرَادَ اللّٰهُ خَلْقَ الْاَنَامِ بَدَاَ بِخَلْقِ نُوْرِهٖ

طرف وجود کے اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا مخلوق کو پیدا کرنے کا تو ابتداء فرمائی ان کے نور کی تخلیق سے

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرَهٗ

ان پر سلام ہو۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جب پیدا کیا اللہ تعالےٰ نے ان کا نور

وَسَوَّاهُ اَعْلَنَ بِالسُّجُوْدِ لِمَوْلَاهُ وَاَكْثَرَ تَسْبِيْحَهٗ وَدَعَاهُ وَصَلِّ

اور اس کو موزوں صورت بخشی تو اعلانیہ سجدہ کیا اس نے اپنے مولیٰ کیلئے اور بہت زیادہ کی اس کی تسبیح اور اس سے دعا مانگی۔ اور صلوٰۃ

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ الْمَبْرُوْرَ اَلْبَسَهُ اللّٰهُ

بھیج سیّدنا محمد پر کہ جب پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو مقبول بارگاہ خداوند ہیں تو انھیں اس نور اقدس کا

ذٰلِكَ النُّوْرَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مِنْ اَجْلِ اَنْوَارِهٖ

لباس پہنایا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ اسی محبوب کریم کے انوار مبارکہ کی

الْمُتَبَارِكَةِ سَجَدَتْ لِاٰدَمَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ

برکت سے سجدہ کیا آدم علیہ اسلام کی طرف ملائکہ نے اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جس آقا کا

كَانَ نُوْرُهٗ يَتَلَاْلَاُ فِىْ ظَهْرِ اٰدَمَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ عَرَّفَ

نور انور چمکتا تھا آدم علیہ السلام کی پشت انور میں اور صلوٰۃ بھیج سیّدنا محمد پر کہ جتلایا اللہ تعالیٰ نے

اللّٰهُ الْمَلَآئِكَةَ فَضْلَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّعْرَفَ اٰدَمُ وَنَسْلُهٗ وَصَلِّ عَلٰى

ان کا شرف وفضل ملائکہ کو قبل اس کے کہ جانے جاتے آدم علیہ السلام اور ان کی نسل۔ اور صلوٰۃ بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ اٰدَمُ يَتَعَجَّبُ مِنْ كَثْرَةِ نَظَرِ الْمَلٰٓئِكَةِ

سیّدنا محمد پر کہ آدم علیہ السلام تعجب کرتے تھے (بوجہ) بکثرت دیکھنے ملائکہ کے

اِلَیْہِ بِالْعُیُوْنِ مُنْذُ اَوْدَعَہُ اللّٰہُ نُوْرَہُ الْمَکْنُوْنَ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا

طرف ان کے ساتھ اپنی آنکھوں کے جب سے کہ اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمایا تھا آپ کا نور مکنون ان میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ سَئَلَ اٰدَمُ رَبَّہٗ عَنْ ذٰلِکَ النُّوْرِ وَالضِّیَآءِ فَنَادٰہُ

محمد پر کہ سوال کیا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے اس نور اور ضیاء کے متعلق تو ان کے رب تبارک وتعالیٰ سے

رَبُّہٗ ذٰلِکَ نُوْرُ خَاتِمِ الرُّسُلِ وَالْاَنْبِیَآءِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

پکار کر کہا انہیں وہ نور ہے خاتم الرسل اور خاتم الانبیاء کا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِیْ کَوَّنَہُ اللّٰہُ مِنْ نُّوْرِہِ الْمُبِیْنِ وَاٰدَمُ بَیْنَ الْمَآءِ وَالطِّیْنِ وَ

کہ جنہیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس نور مبین سے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور کیچڑ کے درمیان تھے

صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ انْتَقَلَ نُوْرُہٗ اِلٰی وَجْہِ اٰدَمَ مِنْ

اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ منتقل ہوا نور اقدس آپ کا آدم علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف قبل

قَبْلِ اَنْ یَّخْلُقَ اللّٰہُ الْعَوَالِمَ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ انْتَقَلَ

اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پیدا فرماتا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ منتقل ہوا

نُوْرُہُ الْبَاہِرُ مِنْ کُلِّ صُلْبٍ طَیِّبٍ اِلٰی کُلِّ رَحِمٍ طَاہِرٍ وَّصَلِّ عَلٰی

جن کا نور انور ہر پاکیزہ صلب اور پشت سے طرف ہر پاک رحم اور بطن کے۔ اور صلوٰۃ بھیج

سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ نُوْرُہُ اسْتَعْلٰی مِنْ وَّجْہِ اَبِیْنَا اٰدَمَ اِلٰی وَجْہِ

سیدنا محمد پر کہ جن کا نور اقدس بلند ہوا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے چہرہ سے ہماری امی

اُمِّنَا حَوَّآءَ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ انْتَقَلَ نُوْرُہٗ اِلَی الْقَنَوَاتِ

حواء کے چہرہ انور کی طرف۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ منتقل ہوا ان کا نور پاکیزہ اصلاب والی کاریزوں اور نالیوں

الطَّاہِرَۃِ وَالْاَرْحَامِ الزَّکِیَّۃِ الْفَاخِرَۃِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ

کی طرف اور قابل فخر پاکیزہ رحموں کی طرف۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کا

لَمْ یَزَلْ نُوْرُہٗ یَظْہَرُ فِیْ وُجُوْہِ اٰبَآئِہِ الْاَمَاجِدِ وَیَنْتَقِلُ مِنْ وَّاحِدٍ

نور انور ہمیشہ نمایاں اور ظہور پذیر ہوتا رہا ان کے بزرگ آباء کے چہروں میں اور ان میں یکے بعد دیگرے

مِنْہُمْ اِلٰی وَاحِدٍ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَمْ یَزَلْ نُوْرُہٗ

ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ ہمیشہ جن کا نور اقدس

یَنْتَقِلُ بِاَمْرِ اللّٰہِ اِلٰی اَنِ اسْتَقَرَّ بِوَجْہِ اَبِیْہِ عَبْدِ اللّٰہِ وَصَلِّ عَلٰی

منتقل ہوتا رہا اللہ تعالیٰ کے امر سے حتیٰ کہ قرار پذیر ہو گیا آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے چہرہ میں۔ رضی اللہ عنہ۔ اور صلوٰۃ بھیج

سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَمَّا اسْتَقَرَّ نُوْرُہٗ فِیْ وَجْہِ اَبِیْہِ قَابَلَتْہُ

سیدنا محمد پر کہ جب قرار پذیر ہوا ان کا نور اقدس ان کے والد گرامی کے چہرہ میں تو سامنے آ کھڑے ہوتے ان کے

الْمَلٰٓئِکَۃُ بِالتَّرْحِیْبِ وَالتَّنْزِیْہِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ

ملائکہ مرحبا و خوش آمدید کہتے ہوئے اور پاکیزگی بیان کرتے ہوئے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں

اَبْرَزَہُ اللّٰہُ مِنْ ظَہْرِ اَبِیْہِ لِلْوُجُوْدِ وَہُوَ سَیِّدُ اَہْلِ الْکَرَمِ وَالْجُوْدِ وَ

اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ان کے والد گرامی کی پشت سے عالم وجود کے لیے در آنحالیکہ وہ سردار ہیں اہل کرام اور ارباب جود کے اور

صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَبْرَزَہُ اللّٰہُ مِنْ ظَہْرِ اَبِیْہِ لِلْوَرٰی خَیْرَ

صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ان کے والد گرامی کی پشت مبارک سے تمام مخلوق کیلئے جو کہ تمام تر بندگان خداوند تعالیٰ

الْعِبَادِ طُرًّا وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ سَادَ بِہٖ عَبْدُ اللّٰہِ وَسَمَا

سے بہتر و برتر ہیں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت حضرت عبداللہ سردار بن گئے اور سربلند ہو گئے

وَافْتَخَرَ بِہِ الْاَرْضُ بِظُہُوْرِہٖ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ وَصَلِّ

اور زمین نے فخر و مباہات کا اظہار کیا آپ کی وجہ سے آپ کے ظہور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صلوٰۃ بھیج

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ تَنَاہٰی لِاَبِیْہِ الشَّرَفُ الْاَصِیْلُ وَالْمَجْدُ

سیدنا محمد پر کہ انتہاء کو پہنچ گیا ان کے والد گرامی کے لیے شرف و فضل راسخ اور بزرگی

الْاَثِیْلُ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَصْبَحَتْ قُرَیْشٌ فِیْ نَادِیْ

پائیدار۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت ہو گئے قریش ان کی والدہ ماجدہ

اُمِّہٖ اٰمِنَۃَ لَمَّا وَضَعَتْہُ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِی اسْتَنَارَ بِہٖ

آمنہ کی محفل میں امن پانے والے جبکہ انہوں نے آپ کو جنم دیا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت چمکا

بَدْرُ النُّبُوَّةِ وَاكْتَمَلَ وَبَلَغَتْ بِهٖ اُمُّهٗ غَايَةَ الْقَصْدِ وَالْاَمَلِ وَصَلِّ

اور روشن ہوا نبوت کا ماہ تمام اور کمال پذیر ہوا - اور پہنچیں ان کی بدولت ان کی والدہ ماجدہ اپنے منتہائے مقصود اور غایت الانتہائے

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ هُوَ نَجْمُ سِيَادَةِ الْاَقْصٰى وَاسْتَنَارَ فِيْ اٰفَاقِ

آرزو تک - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ سیادت کے انتہائی بلند ستارے ہیں اور چمکے ہیں

الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَمَّ بِهٖ لِاَبَوَيْهِ

زمین اور آسمان کے آفاق میں - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمدؐ پر کہ جن کی بدولت تام اور مکمل ہوئی ان کے والدین کیلئے

كُلُّ فَخْرٍ وَّمَجَادَةٍ بِطُلُوْعِ نَجْمِ السَّعَادَةِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

ہر فضیلت اور بزرگی بسبب طلوع ہونے اس انجم سعادت کے - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِيْ اسْتَنَارَتْ بِنُوْرِهِ النَّيِّرَاتُ وَمَا حَوَتْهُ اَقْطَارُ السَّمٰوٰتِ وَ

کہ روشن ہوئے ان کے نور کے طفیل روشن اجرام علویہ اور جس جس چیز کو محیط ہیں آسمانوں کے اقطار واطراف اور

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَزَيَّنَتْ بِظُهُوْرِهِ الدُّنْيَا وَحَلَّ مِنَ

صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کے ظہور کے صدقے میں مزین اور آراستہ ہوگئی دنیا اور وہ قیام پذیر ہوئے مہد

الشَّرَفِ اَعْلٰى مَرْتَبَةً عُلْيَا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمُخَاطَبِ

شرف کے بلند مرتبت مقام پر - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ مخاطب ہیں اللہ عزوجل

بِقَوْلِهٖ عَزَّوَجَلَّ تَشْرِيْفًا لِنَبِيِّهٖ وَتَكْرِيْمًا لَّهٗ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ

کے اس قول سے جو کہ اس نبی مکرم کے شرف اور اکرام کو ظاہر کرنے کے لیے ہے" اور تھا فضل اللہ تعالٰے کا

عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَاَسْئَلُكَ بِالْاِسْمِ الَّذِيْ فَتَحْتَ بِهٖ عَالَمَ الْاَمْرِ وَ

آپ پر عظیم " اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل اس اسم مبارک کے جس کے ساتھ آغاز کیا عالم امر اور

الْخَلْقِ بُسْرًا لِّتَجَلِّي الْمُظْهَرِ لِظُهُوْرِ النُّوْرِ وَنُوْرِ الظُّهُوْرِ لِسَبَبِ

خلق وایجاد کا واسطے جلد ظاہر اور غالب کرنے تجلیٔ حق کے جو مظہر ہے نور کے ظہور کے لیے اور ظہور کے نور کیلئے بسبب

التَّنْزِيْلِ وَالْمُتَعَالِ اَمْرًا وَّوُجُوْدًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

تنزیل کے اور بلند مرتبت ہے ازروئے امر کے اور وجود کے - اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ جَآءَ لِاُمِّهٖ اٰدَمُ فِي الْمَنَامِ وَهَنَّاهَا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

محمد پر کہ تشریف لائے جن کی والدہ ماجدہ کے پاس حضرت آدم خواب میں اور انہیں مبارک باد دی - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ سَلَّمَ عَلٰى اُمِّهِ الْكَلِيْمُ فِي الْمَنَامِ وَحَيَّاهَا وَصَلِّ عَلٰى

محمد پر کہ سلام دیا جن کی والدہ ماجدہ کو حضرت موسیٰ کلیم نے خواب میں اور انہیں ہدیۂ تبریک پیش کیا اور صلوٰۃ بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قِيْلَ لِاُمِّهٖ حِيْنَ كَمَّلَ اللّٰهُ حَمْلَهَا وَاَتَمَّهٗ

سیدنا محمد پر کہ کہا گیا جن کی والدہ ماجدہ سے جبکہ مکمل فرمادیا اللہ نے ان کے حمل کی مدت کو اور کامل کیا بطن اقدس والے بچے

حَمَلْتِ بِنَبِيِّهٖ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْهَادِيْ بِطُرُقِ الْبَيَانِ

کو کہ تو حاملہ ہوئی ہے اللہ تعالٰی کے نبی مکرم کے ساتھ - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ ہدایت فرمانے والے ہیں اظہار وبیان کے طریقوں کی

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ حَضَرَتْ لِمَوْلِدِهٖ اٰسِيَةُ بِنْتُ

طرف - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی ولادت با سعادت کے وقت حاضر ہوئیں آسیہ بنت

مُزَاحِمٍ وَّمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ

مزاحم - اور مریم بنت عمران - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں

طَافَتْ بِهِ الْمَلٰٓئِكَةُ جَمِيْعَ الْاَقْطَارِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ

طواف کرایا (ان کا دیدار کرانے کے لیے) ملائکہ نے تمام اطراف واکناف جہان میں - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کا

عَرَّفَتْ بِهِ الْمَلٰٓئِكَةُ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْبِحَارِ وَصَلِّ عَلٰى

تعارف اور پہچان کرائی ملائکہ نے آسمانوں - زمینوں اور سمندروں پر (رہنے والوں کو) اور صلوٰۃ بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ رَدَّتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ لِاُمِّهٖ فِيْ اَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ

سیدنا محمد پر کہ جنہیں واپس کیا ملائکہ نے (طواف کرانے کے بعد) ان کی والدہ ماجدہ کی طرف آنکھ جھپکنے سے بھی

الْعَيْنِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ سَادَ فِي الْمَهْدِ عَلَى الْغِلْمَانِ

جلدی اور پہلے اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ سیادت اور فوقیت پاگئے (گود کے زمانہ) میں تمام بچوں پر

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ حَضَرَتْ لِاُمِّهٖ عِنْدَ وَضْعِهٖ

اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ حاضر ہوئی ان کی والدہ ماجدہ کے پاس ان کے وقت وضع میں

جَمَاعَةٌ مِّنَ الْحُوْرِ الْحِسَانِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ

ایک جماعت حسین وجمیل حوروں کی۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ

کَمُلَ مِنَ السُّعُوْدِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ تَشَرَّفَ بِهٖ

کامل و مکمل ہوئے سعادتوں اور نیک بختیوں (کے عناصر وارکان) سے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت شرف و فضل پایا

الْاٰبَآءُ وَالْجُدُوْدُ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ نَادَتْهُ الْکَآئِنَاتُ

آپ کے آباء واجداد نے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں پکار کر کہا ساری کائنات نے

شَرْقًا وَّغَرْبًا مَّرْحَبًا وَّصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ طَیِّبَ

شرق سے غرب تک "مرحبا خوش آمدید" اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ پاکیزہ

الْاَرْدَانِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ یَشِبُّ شَبَابًا لَّا

آستینوں والے تھے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جو پروان چڑھتے تھے اس انداز میں کہ کوئی مناسبت

یُشْبِهُ الْغِلْمَانَ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ اَوْرَعِ مَنْ شَهَرَ الدِّیْنَ

نہیں تھی دوسرے بچوں کے ساتھ۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو انتہائی پرہیزگار ہیں ان تمام حضرات سے جنہوں نے دین خداوندی کی

وَاَعْلَنَهٗ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ یَشِبُّ فِی الْیَوْمِ

تشہیر کی اور اس کا اعلان کیا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جو بڑھتے تھے ایک دن میں مانند

شَبَابَ الصَّبِیِّ فِی الشَّهْرِ وَیَشِبُّ فِی الشَّهْرِ شَبَابَ الصَّبِیِّ فِی السَّنَةِ

بڑھنے دوسرے بچوں کے ایک مہینہ میں اور بڑھتے تھے ایک مہینہ میں مانند بڑھنے دوسرے بچوں کے ایک سال میں

وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ لَهُ الشَّانُ الْجَسِیْمُ وَالنَّبَاُ

اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی شان اور عظمت بہت وسیع و عریض تھی اور جن کی خبر

الْعَظِیْمُ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ خُلِعَتْ عَلَیْهِ مَلَابِسُ

عظیم تھی۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کو پہنائی گئیں خلعتیں

الْاِجْلَالِ وَالتَّعْظِیْمِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَتِ

اجلال اور تعظیم کیں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں آسمانی ستارے

الْکَوَاکِبُ تُؤْنِسُهٗ فِی الظَّلَامِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ

انس مہیا کرتے تھے تاریکیوں میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ

عَیْنُ اللّٰهِ تَحْرُسُهٗ فِی الْیَقْظَةِ وَالْمَنَامِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ

اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت جن کی حفاظت و نگہداشت کرتی تھی بیداری میں اور نیند میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ

کَانَتِ الْمَلٰٓئِکَةُ تَقِفُ صُفُوْفًا تَنْتَظِرُ فِیْ نُوْرِهٖ وَهُوَ فِیْ ظَهْرِ اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ

تھے ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوتے درآنحالیکہ وہ دیکھ رہے ہوتے تھے آپکے نور کو جبکہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے قبل اس

اَنْ تُخْلَقَ الْعَوَالِمُ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَنْشَاَهُ اللّٰهُ فِیْ اَشْرَفِ

کے کہ پیدا کئے جاتے سارے جہان۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا شرف اور بزرگی میں بلندتر

بِلَادِهٖ مِنْ عِبَادِهٖ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَمَّا حَمَلَتْ بِهٖ

شہر میں اپنے (بزرگی والے) بندوں سے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جب حاملہ ہوئیں ساتھ ان کے

اُمُّهٗ نَطَقَتْ کُلُّ دَآبَّةٍ لِّقُرَیْشٍ بِالْبَیْتِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

ان کی والدہ ماجدہ تو کلام کیا قریش کے ہر جانور نے بیت حرام اور حرم مکہ میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ

الَّذِیْ غَرَسَهُ اللّٰهُ مِنْ اَطْیَبِ الْمَنَاصِبِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

جن کے سروناز کو اگایا اللہ تعالےٰ نے پاکیزہ ترین محل و مکان میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِی انْتَخَبَهُ اللّٰهُ مِنْ ظُهُوْرِ النُّجَبَآءِ وَبُطُوْنِ النَّجَآئِبِ وَصَلِّ عَلٰی

کہ جنہیں منتخب فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمدہ لوگوں کی پشتوں سے اور شرافت مآب عورتوں کے بطون سے۔ اور صلوٰۃ بھیج

سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَشْرَقَتْ بِظُهُوْرِهِ الْغَیَاهِبُ وَالْخَنَادِسُ وَصَلِّ

سیدنا محمد پر کہ جن کے ظہور سے جگمگا اٹھے ظلمات اور تاریکیاں۔ اور صلوٰۃ بھیج

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ تَسَاقَطَتْ بِبِعْثَتِهِ الْاَصْنَامُ مِنْ اَعْلَی

سیدنا محمد پر کہ گر پڑے جن کی بعثت سے اصنام و اوثان اپنے بلند

الْمَجَالِسِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَشْرَقَتْ بِظُهُوْرِهِ الْاَرْضُ

مقامات سے (منہ کے بل) اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ روشن ہوگئی جن کے ظہور کی بدولت زمین

وَ ثَرْهَا وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ تَهَدَّمَتْ بِبِعْثَتِهٖ صَوَامِعُ
(اوپر سے بھی) اور اس کا نچلا پانی میں "دوبا ہوا طبقہ بھی اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ منہدم ہو گئیں جن کی بعثت سے عبادت گاہیں
الْکُهَّانِ وَزَالَ بِنَاءُهَا وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَخَذَ اللّٰهُ عَلٰی
کاہنوں کی اور نیست و نابود ہو گئیں بنیادیں ان کی۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ لیے اللہ تعالیٰ نے
اٰدَمَ الْمَوَاثِیْقَ وَ الْعُهُوْدَ اَنْ لَّا یَدَعَ نُوْرَهٗ اِلَّا فِیْ اَهْلِ الْکَرَمِ وَ
حضرت آدم علیہ السلام سے عہد و پیمان کہ نہ ودیعت کریں ان کے نور کو مگر اہل کرم اور
الْجُوْدِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَمْ یَزَلْ نُوْرُهٗ یَنْتَقِلُ
ارباب جود میں۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کا نور اقدس ہمیشہ منتقل ہوتا رہا
مِنْ ظُهُوْرِ الْاَخْیَارِ اِلٰی بُطُوْنِ الْخَیْرَاتِ وَ الْاَحْرَارِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا
پاکیزہ سیرت لوگوں کی پشتوں سے پاکیزہ سیرت اور شریف عورتوں کے ارحام کی طرف اور صلواۃ بھیج سیدنا
مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَوْصَلَ نُوْرَهٗ یَدُ الشَّرَفِ وَالْمَکَارِمِ اِلٰی عَبْدِ اللّٰهِ وَ
محمد پر کہ جن کے نور انور کو پہنچایا شرافتوں اور بزرگیوں کے ہاتھ نے حضرت عبداللہ تک اور
صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اُلْبِسَ بِهٖ عَبْدُ اللّٰهِ ثَوْبَ الْبَهَاءِ
صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت حضرت عبداللہ کو پہنایا گیا حسن و خوبی کا
وَالْمَلَاحَةِ فَنَطَقَ بِالْبَیَانِ وَالْفَصَاحَةِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ
لباس۔ پس انہوں نے کلام کیا واضح اور فصیح (زبان) کے ساتھ۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر
الَّذِیْ نُوْدِیَ عَبْدُ اللّٰهِ فِیْهِ اَدِّ مَا حَمَلْتَ مِنَ الْوَدِیْعَةِ اِلٰی اَحْشَاءِ
کہ حضرت عبد اللہ کو ندا دی گئی ان کے متعلق کہ پہنچا دیجئے وہ امانت جو تم نے اُٹھا رکھی ہے طرف بلند مرتبت
اٰمِنَةَ الْمَنِیْعَةِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اُلْقِیَ فِیْ طِیْنَتِهٖ
آمنہ کی انتڑیوں (اور رحم) کے۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ ڈالا گیا ان کی طینت اور خمیر ارضی میں
النُّوْرُ الَّذِیْ سَبَقَ فَخْرُهٗ وَتَقَادَمَ وَصْفُهٗ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا
وہ نور جس کی شان فخر و ناز گزر چکی اور پہلے بیان ہو چکا ہے وصف اس کا۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدِنِ الَّذِیْٓ اُوْدِعَتْ طِیْنَتُهٗ فِیْ ظَهْرِ اَبِیْهِ اٰدَمَ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا
محمد پر کہ ودیعت کی گئی ان کی طینت ان کے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اقدس میں اور صلواۃ بھیج سیدنا
مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ رَاٰی خُرُوْجَ النُّوْرِ مِنْ اُمِّهٖ حَتّٰی اَضَآءَ لَهَا قُصُوْرَ
محمد پر کہ جنہوں نے دیکھا نور کا برآمد ہوتا ان کی والدہ ماجدہ سے حتیٰ کہ روشن کر دیئے اس نور نے ان کیلئے
الشَّامِ وَرَاٰی بَیْنَ عَیْنَیْ اِسْرَافِیْلَ کُلَّ شَیْءٍ اُنْزِلَ عَلَیْهِ قَبْلَ
شام کے محلات اور مشاہدہ فرمایا آپ نے حضرت اسرافیل کی لوح جبین پر ہر اس شئ کو جو نازل کی گئی آپ پر بعد میں
التَّنْزِیْلِ وَزَارَتْهُ الْمَلٰٓئِکَةُ عِنْدَ وِلَادَتِهٖ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا
قبل اس کے نازل کئے جاتے کے اور زیارت کی ان کی ملائکہ نے ان کی ولادت باسعادت کے وقت اور صلواۃ بھیج سیدنا
مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ جَآءَتِ الْوُحُوْشُ وَالطُّیُوْرُ لِبَابِهٖ مُنْقَادَةً وَصَلِّ عَلٰی
محمد پر کہ حاضر ہوئے جنگلی جانور اور پرندے ان کے درِ اقدس پر تابعدار بن کر۔ اور صلواۃ بھیج
سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ نَزَلَتِ النُّجُوْمُ عِنْدَ وِلَادَتِهٖ عَلَی السُّقُوْفِ وَ
سیدنا محمد پر کہ اترے ستارے ان کے وقت ولادت میں مکانوں کی چھتوں پر (ان کے دیدار کے لیے) اور
صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ رَفَعَتْهُ الْمَلٰٓئِکَةُ تَدُوْرُ بِهٖ عَلَی الْخَلَآئِقِ
صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں اُٹھا لیا ملائکہ نے درآنحالیکہ آپ کو پھراتے تھے مخلوقات پر اور
وَتَطُوْفُ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ اَوْفَی النَّاسِ بِالْعَهْدِ
طواف کراتے تھے (دیدار کرانے کے لیے) اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جو سب سے زیادہ پورا کرنے والے تھے عہد کے
وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ صَامَ رَمَضَانَ فِی الْمَهْدِ وَصَلِّ
اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے عالم مہد میں۔ اور صلواۃ بھیج
عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ سَلِیْسِ الْاَسْلَافِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ نرم خو اور تابعدار اسلاف والے ہیں۔ اے اللہ صلواۃ بھیج
عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ ابن عبد اللہ بن عبد المطلب

ابْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ

بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

آل پر جو آقا کہ لخت جگر ہیں قصی بن کلاب بن مرہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ اَللّٰهُمَّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ فرزند ارجمند ہیں کعب بن لوی بن غالب کے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَضْرٍ

صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ نور نظر ہیں فہر بن مالک بن نضر کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ

اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ فرزند دلبند ہیں کنانہ بن

خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ اِلْيَاسَ بْنِ

خزیمہ بن مدرکہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جو لخت جگر ہیں الیاس بن

مُضَرِ بْنِ نَزَّارٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مضر بن نزار کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ بْنِ اُوَدَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

جو بیٹے ہیں معد بن عدنان بن اود کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ اُوَدِ بْنِ هَمِيْعِ بْنِ سَلَامَانَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

کی آل امجاد پر جو کہ قابل فخر پسر ہیں اود بن ہمیع بن سلامان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ حَمَلِ بْنِ قَيْذَارٍ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ لخت جگر ہیں ثابت بن حمل بن قیدار کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ

اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ نور نظر ہیں حضرت اسماعیل

ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اٰزَرَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

بن ابراہیم بن آذر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدِ بْنِ نَاخُوْرَ بْنِ شَارُوْخَ بْنِ اَرْغُوْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

آل پر جو کہ نور چشم ہیں ناخور بن شاروخ بن ارغو کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ فَالِغِ بْنِ غَابِرِ بْنِ اَرْفَخْشَدَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ قرۃ العین ہیں فالغ بن غابر بن ارفخشد کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ سَامِ بْنِ نُوْحِ بْنِ لَامِكَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ راحت جان ہیں سام بن نوح بن لامک کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ مُتَوَشْلَحَ

اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سرور قلب ہیں متوشلح

ابْنِ اَخْنُوْخَ بْنِ بَيَارَدَ بْنِ مَهْلَائِيْلَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بن اخنوخ بن بیارد بن مہلائیل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ قَيْنَانَ بْنِ اَنُوْشَ بْنِ شِيْثَ بْنِ اٰدَمَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ ولد عزیز ہیں قینان بن انوش بن شیث بن آدم کے

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ

اللہ تعالیٰ درود و صلوٰۃ بھیجے ہمارے نبی و آقا محمد پر اور آپ کے آباء و اجداد میں سے جتنے انبیاء و مرسلین ہیں

مِنْهُمْ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

ان پر صلوٰۃ بھیجے اور سلام۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدِنِ الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِ مَنْ اَيَّدَهُ اللّٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ مِنْ عِنْدِهٖ

محمد کی آل پر جو محبوب کہ مخاطب ہیں اس قول کے جن کی تائید فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ساتھ روح القدس کے،

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ صَلّٰى

بے شک ہم نے وحی نازل کی ہے طرف تمہارے جیسے کہ وحی نازل کی ہم نے طرف (حضرت) نوح کے اور ان کے بعد والے انبیاء کے صلی

اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اَتَوَسَّلُ اِلَیْکَ فِیْ اِبْتِدَآئِیْ وَ اِنْتِھَآئِیْ وَ
اللہ علیہ و علیہم وسلم ۔ اے اللہ بے شک میں توسل کرتا ہوں تیری طرف اپنی ابتداء اور اپنی انتہاء میں اور
لَآ اُظْھِرُ لِغَیْرِکَ رَجَآئِیْ یَا عَالِمَ الْخَفِیَّاتِ وَالسَّرَآئِرِ وَیَا جَامِعَ الشَّتَّاتِ
میں نہیں ظاہر کرتا تیرے غیر پر اپنی امید و رجاء کو اے جاننے والے مخفی امور اور اسرار کے اور اے جمع کرنیوالے مختلف و متفرق امور کے
فِی الْبَصَآئِرِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ ھُوَ رَافِعٌ لِّلْاِنْسَانِ رَفِیْعُ
عقول و اذہان میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ انسانوں کو رفعت بخشنے والے ہیں اور خود بلند مرتبت
الشَّانِ بَدِیْعُ الْبُرْھَانِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِ
ہیں اور انوکھے برہان والے ہیں ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن سے خطاب کیا گیا
اللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ فَاسْتَمْسِکْ بِالَّذِیْٓ اُوْحِیَ اِلَیْکَ اِنَّکَ عَلٰی صِرَاطٍ
اللہ علی عظیم کے اس قول کے ساتھ پس تم تمسک کرو اور چنگل مارو ساتھ اس کے جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف بیشک تم صراط
مُّسْتَقِیْمٍ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰی
مستقیم پر ہو ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ نہیں جھٹلایا ان کے دل نے جو دیکھا ان کی آنکھوں نے
وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوٰی اِنْ ھُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰی اَعْطِنِیْ لَذَّۃَ النَّظَرِ اِلٰی
اور نہیں کلام کرتے ایسی جو سرزد ہو خواہش نفس سے نہیں ہے وہ (کلام) مگر وحی جو ان کی طرف نازل کی گئی ۔ عطا کر مجھے اپنے چہرۂ اقدس
وَجْھِکَ وَالشَّوْقَ اِلٰی لِقَآئِکَ فِیْ کُلِّ لَمْحَۃٍ یَّزِیْدُ وَیُضَاعَفُ بِمَحْضِ
کی طرف نظر کی لذت اور اپنی ملاقات و دیدار کا شوق جو ہر لحظہ و ہر لحظ بڑھنے اور کئی گنا زائد ہونے والا ہو محض اپنے
فَضْلِکَ وَاِحْسَانِکَ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاَسْنَا
فضل اور احسان سے ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ بہت نورانی اور روشن نبی ہیں
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ الْاَسْمَآءِ الْحُسْنٰی اَللّٰھُمَّ بِاسْمِکَ
اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ تیرے اسماء حسنیٰ کا سرِ نہاں ہیں ۔ اے اللہ بطفیل اپنے اسم اعظم
الْاَعْظَمِ وَبِاَسْمَآئِکَ الْحُسْنٰی وَصِفَاتِکَ الْکُبْرٰی وَکُتُبِکَ الْعُظْمٰی
کے اور اپنے اسماء حسنیٰ کے اور اپنی تمام عظیم صفات کے اور اپنی تمام عظیم کتابوں کے

وَصُحُفِکَ الْعُلْیَا وَنُعُوْتِ نَبِیِّکَ الْمُصْطَفٰی اِجْعَلْ ھٰذِہِ الصَّلَوٰتِ
اور بلند مرتبت صحیفوں کے اور بطفیل اپنے نبی مصطفیٰ کی نعوت و صفات کے بنا ان صلوات کو
مُفَرِّحَاتٍ لِّقُلُوْبِنَا مَانِعَاتٍ لِّمُھْلِکَاتِنَا بَاعِثَاتٍ لِّمُنْجِیَاتِنَا مَاحِیَاتٍ
موجب فرحت و سرور کا واسطے ہمارے قلوب کے اور مانع ہماری ہلاکتوں کے اسباب کا اور باعث و محرک ہماری نجات کے عوامل کا
لِّذُنُوْبِنَا مُکَفِّرَاتٍ لِّسَیِّاٰتِنَا سَاتِرَاتٍ لِّعُیُوْبِنَا مُضَاعِفَاتٍ لِّحَسَنَاتِنَا نَاصِرَاتٍ
مٹانے والیاں ہمارے گناہوں کو کفارہ بننے والیاں ہمارے سیئات کیلئے چھپانے والیں ہمارے عیوب کو ۔ دوگنا کرنے والیں ہماری نیکیوں کو نصرت دینے
عَلٰٓی اَعْدَآئِنَا وَفَاتِحَاتٍ لِّمُھِمَّاتِنَا فِی الدَّارَیْنِ وَمُبَرِّعَاتٍ لِّقُبُوْرِنَا
والیں ہیں ہمارے اعداء پر اور حل کرنے والیں ہماری مہمات و مشکلات کو دارین میں ۔ اور روشن کرنے والیں ہماری قبروں کو
وَقَآئِدَاتٍ اِلٰی جَنَّاتِنَا وَبِلِقَآئِکَ رَافِعَاتٍ لِّدَرَجَاتِنَا بِغَیْرِ حِسَابٍ
اور رہبر ہماری طرف ہماری جنات کے اور تیری لقاء و دیدار کے ۔ بلند کرنیوالیں ہمارے درجات کو بغیر کسی حساب
وَّعَذَابٍ وَّعِتَابٍ بِمَغْفِرَتِکَ وَرَاْفَتِکَ وَفَضْلِکَ وَکَرَمِکَ وَ
اور عذاب و عتاب کے صدقے میں تیری مغفرت و رافت اور فضل و احسان اور کرم و
رِضْوَانِکَ اَنْتَ حَسْبِیْ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ ط نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْرُ ۵
رضا مندی کے، تو ہی کافی ہے مجھے اور اچھا کارساز ہے، اچھا متولی و سرپرست اور بہترین مدد گار ہے
غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَاِلَیْکَ الْمَصِیْرُ ۵ ط اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا
تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اے رب ہمارے اور طرف تیری ہی بازگشت اور رجوع ہے اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ مَّدَدِ السُّوْدِ وَسِرِّ الْوُجُوْدِ عَبْدِ اللّٰہِ
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سراپا مدد و اعانت ہیں سرداروں کے لیے اور سرِ وجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے
الْاَمِیْنِ وَحِرْزِ اللّٰہِ الْمَتِیْنِ التَّقِیِّ الْمُرَاقِبِ وَالْکَلِیْمِ الْمُخَاطَبِ
معتمد علیہ عبد ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مضبوط و مستحکم پناہ ہیں ۔ سراپا تقویٰ ہیں اور نگہبان اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے اور اسکے
وَالْھَدِیَّۃِ الْمُھْدَاۃِ وَالسَّابِقِ لِلْخَیْرَاتِ وَالْبُرْھَانِ السَّاطِعِ وَالدَّلِیْلِ
مخاطب ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہدیہ ۔ نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے اور سراپا غالب برہان اور قطعی دلیل،

الْقَاطِعِ وَالْبَرَكَةِ الشَّامِلَةِ وَالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ الْاَوَّلِ فِی الْخَلْقِ وَالْاٰخِرِ

ایسی برکت جو سب کو محیط ہے اور ایسی شہادت جو سراسر عدالت ہے، جو اول ہیں تخلیق و ایجاد میں اور آخر ہیں

فِی الْبَعْثِ بِالْحَقِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ

حق کے ساتھ مبعوث ہونے میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَمَرِ الدَّيَاجِی وَالشَّهِيْدِ النَّاجِی وَ رَسُوْلِ الرَّأْفَةِ وَ قُثَمِ

کی آل پر جو آقا کہ شبہائے تاریک کے لیے روشن چاند ہیں اور نجات پانیوالے شہید اور احوال اُمت پر مطلع گواہ اور رسول رافت،

التُّحْفَةِ الْمَاحِیْ شُبَهِ الضَّلَالَةِ وَالصَّادِقِ الْمَقَالَةِ فَاتِحِ سُبُلِ

بعث سخی، اللہ تعالیٰ کا تحفہ و ہدیہ، ضلالت کے شبہات کو مٹانے والے۔ سچی کلام اور گفتگو والے۔ آغاز کرنے والے

الْهُدٰی وَخَاتِمِ سُنَنِ الْاِقْتِدَاءِ وَالْاِهْتِدَاءِ رُوْحِ الْعَوَالِمِ وَخُلَاصَةِ

ہدایت کی راہوں کا۔ اور تکمیل کرنیوالے ہیں قابلِ اقتداء و اہتداء و سنن کی، جو تمام جہانوں کیلئے روح کی مانند ہیں اور جوہر و خلاصہ ہیں

طِيْنَةِ اٰدَمَ مِفْتَاحِ خَزَائِنِ الْحِكْمَةِ وَسِرِّ خَصَائِصِ الرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ

حضرت آدم علیہ السلام کی طینت و خمیر کا۔ حکمت کے خزائن کی چابی ہیں اور رحمت و برکت کے خصائص کا سِرّ نہاں ہیں

الدُّرَّةِ الْفَاخِرَةِ وَطِيْبِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ بَابِ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ وَصِرَاطِهِ

قابل فخر درّہ یکتا۔ دنیا و آخرت کی پاکیزگی اور خوشبو۔ اللہ تعالیٰ کے حریم ناز کے عظیم دروازے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا بہت سیدھا

الْاَقْوَمِ ذَخِيْرَةِ الْاَنَامِ وَكَهْفِ الْاَرَامِلِ وَالْاَيْتَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

راستہ مخلوق کے لیے (انعامات خداوندی کا) ذخیرہ اور بیوگان و یتامیٰ کی جائے پناہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَكَمِ الْعَادِلِ وَالْمُفَرِّقِ

بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ عادل حاکم ہیں اور تفریق کرنے والے ہیں

بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالنَّجِیِّ الْفَائِزِ وَالْعَفُوِّ الْمُتَجَاوِزِ مُبِيْدِ الْعِدٰی وَ

درمیان حق و باطل کے اور کامیاب ہمراز اور ہمکلام ہیں اور سراپا عفو اور درگزر ہیں، دشمنوں کو ہلاک کرنے والے اور

رَاْسِ التُّقٰی وَالْعُلٰی غَايَةِ الْقُصْوٰی وَعَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰی اَكْرَمِ بَنِیْ

عالی مرتبت لوگوں اور متقیوں کے سردار ہیں۔ بلندیٔ مراتب کی آخری حد ہیں اور ان کو تعلیم دی ہے شدید قوتوں والے نے، تمام نوع انسانی

اٰدَمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُكْنِ الْمُتَوَاضِعِيْنَ اَللّٰهُمَّ

سے بزرگتر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ تواضع اور انکساری کرنے والوں کے سروسامان عزت اور قوت ہیں اے اللہ

اجْعَلْنِیْ هَيِّمًا اِلَی الْمُشَاهَدَاتِ النَّفْسِيَّةِ عَرْضًا فَعَرْضًا فَاجْعَلْنِیْ

بنا دے مجھے بہت زیادہ مشتاق اور محب مشاہدات نفسیہ کا جو یکے بعد دیگرے پیش آنے والے ہوں پس بنا دے مجھے

بَطْنًا مِّنَ الْمُسْتَوْدَعَاتِ الَّتِیْ اَوْدَعْتَهَا فِيْهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا هَنِيْئًا مَّرِيْئًا وَّ

بطن اور ظرف ان ودیعتوں اور امانتوں کا جو تونے ودیعت کی ہیں نفوس میں پھر بنا دے انہیں میرے لیے خوشگوار اور لذیذ اور

لَا تَجْعَلْنِیْ حَزِيْنًا عِنْدَ رُؤْيَتِهَا وَلَا تَجْعَلْهَا فَانِيَةً بَلِ اجْعَلْنِیْ مُنْتَفِعًا

نہ بنانا مجھے غمگین ان کے دیدار پر اور نہ ان مشاہدات کو فنا پذیر بنانا بلکہ بنانا مجھے نفع اندوز

وَّمُفَرِّحًا بِهَا وَذِیْ عِزٍّ وَّجَاهٍ عِنْدَ وُرُوْدِهَا وَحُصُوْلِهَا وَاَعْرِضْنِیْ عَنِ

اور شاداں و فرحاں ساتھ ان کے اور عزت و مرتبت والا ان کے ورود و حصول کے وقت اور مجھے ہٹا دے اور دور کر دے

الْعَقَبَاتِ الْقَالَبِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ الَّتِیْ ظَهَرَتْ مِنَ الْاٰثَارِ الْحِسِّيَّةِ وَ

بدنی اور نفسانی عقبات اور دشوار گھاٹیوں سے جو ظاہر ہوئیں حسی اور ذہنی آثار

الذِّهْنِيَّةِ الْعَادِيَةِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْحِسِّ وَالنَّفْسِ وَمِنَ الْعَقْلِيَّةِ

عادیہ سے جو فرق کرنے والے ہیں درمیان حس اور نفس کے اور عقلی

وَالْقَلْبِيَّةِ ثُمَّ السِّرِّيَّةِ الْقُدْسِيَّةِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَ

اور قلبی آثار سے پھر سری قدسی آثار سے جو فرق کرنے والے ہیں درمیان خوف و رجاء کے اور

السِّرِّ وَالْجَهْرِ وَالْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ وَالْقَبْضِ وَالْبَسْطِ وَالصَّحْوِ وَالسُّكْرِ وَ

اخفاء و جہر کے اور فناء و بقاء کے اور درمیان طبیعت کے انقباض اور انبساط کے اور درمیان ہوشیاری اور مدہوشی

الْكَوْنِ وَالْعَدَمِ وَالرُّوْحِيَّةِ فَسَلِّطْ عَلَیَّ اٰثَرَهٗ بَلْ اَسْرِعْنِیْ اِلَی

کے اور وجود و عدم کے اور روحی آثار کے پس مسلط فرما مجھ پر اس کے آثار کو بلکہ مجھے جلدی لے جا طرف

الْمَلَكُوْتِ ثُمَّ اِلَی الْجَبَرُوْتِ ثُمَّ اِلَی الْاِسْتِغْرَاقِ فِیْ قُدْسِكَ وَ

ملکوت اور عالم بالا کے۔ پھر طرف جبروت اور صفات جلال کے پھر طرف استغراق کے اپنی ذات مقدسہ میں اور

مُطَالَعَاتِ شُهُوْدِكَ وَطَهِّرْ قَلْبِيْ وَزَكِّ نَفْسِيْ ثَمَّهٗ بِحَيْثُ تَلْتَذُّ

اپنے شہود وحضور کے مطالعات ہیں اور پاک فرما میرے دل کو اور منزہ فرما میرے نفس کو اس مقام پر اس طرح پر کہ لذت وحلاوت

اِلْتِذَاذًا وَّيَعِنُّ الْمَقَامُ لَهٗ عَنًّا وَّلَا يَعْفُنُ عَفْنًا فَيَضْمَحِلَّ وَتَخَلْخَلَ

محسوس کرے اس مقام میں اور وہ مقام خود اس کو پیش آئے اور اس پر فاسد وتباہ نہ ہو تاکہ سست اور ناکارہ ہو جائے اور اپنے مقام سے ہٹ

عِنْدَ الطَّلَعَاتِ الْجَلَالِيَّةِ وَسَخِّرْ لِيَ النُّفُوْسَ الْعَالِيَةَ الَّتِيْٓ اَبْدَاْتَهَا

جائے وقت رونما ہونے تجلیات جلالیہ کے اور مسخر فرما میرے لیے نفوس عالیہ کو کہ جنہیں تو نے پیدا فرمایا

اَنْ تَكُوْنَ حَآئِلَةً حَاضِرَةً مُّتَحَمِّلَةً لِّتِلْكَ الطَّلَعَاتِ الْعَالِيَةِ لِئَلَّا

کہ ہوں حائل اور رکاوٹ حاضر وموجود (درمیان نفوس انسانیہ ناقصہ اور ان تجلیات کے) جو خود متحمل ہوں ان تجلیات عالیہ کے تاکہ

يَكُوْنَ شَخْصِيْ وَنَفْسِيْ عَتَبًا وَّلَا عَبَثًا وَّلَا مُبَدَّلًا مِّنْ صُوْرَةٍ

نہ ہو میرا شخص اور نہ میرا نفس محل عتاب اور نہ عبث وبے فائدہ اور نہ ہی تبدیل کیا ہوا ہو صورت

اِنْسَانِيَّةٍ وَّنَفْسٍ حَيَوَانِيَّةٍ اِلٰى صُوْرَةٍ اَدْوَنَ مِنْ ذٰلِكَ فَتَسْخَرُ وَ

انسانی اور نفس حیوانی سے (بطور مسخ کے) طرف ایسی صورت کے جو اس سے کمتر اور حقیر ہو پس تمسخر اور

تَسْتَهْزِئُ بِيَ الْعُلْوِيَّاتُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ الْجَوَادُ الْبَرُّ الرَّءُوْفُ

استہزاء کریں ساتھ میرے عالم بالا کے مکین نفوس عالیہ۔ اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے جو بہت جودو احسان اور رأفت

الرَّحِيْمُ وَقَدْ صَيَّرْتَ الْعَزَازِيْلَ مَلَكًا مُّعَلِّمًا مَّعَ الْقَدْرِ وَالْفَخَامَةِ

ورحمت والا ہے اور تحقیق بنایا تھا تو نے عزازیل کو فرشتہ جو تعلیم دیتا تھا بڑی قدرو منزلت اور عظمت کے ساتھ موصوف ہوتے

ثُمَّ اَسْرَرْتَ فِيْهِ طُغُوْمَاتِ النَّارِيَّةِ الْاَصْلِيَّةِ فَغَفَلَ عَنِ الْهَيْئَةِ

ہوئے پھر تو نے چھپا دیں اس میں حماقتیں اور کمینگیاں اس کے جوہر ناری کی۔ پس وہ غافل ہو گیا اپنی گھٹیا اور

الْاُوْلَى الدَّنِيَّةِ الذَّمِيْمِيَّةِ فِي الْهَيْئَةِ الثَّانِيَةِ حَتّٰى طَغٰى فَجُرِّدَ مِنَ

مذموم ہیئت سے دوسری ہیئت ملکیہ میں منہمک ہو کر یہاں تک کہ اس نے سرکشی کی۔ پس وہ ملکی

اللِّبَاسِ وَالْمَقَامِ وَاسْتَحَقَّ اللَّعْنَ وَمِثْلُهُ الْهَارُوْتُ وَالْمَارُوْتُ

لباس سے برہنہ کر دیا گیا اور اس منصب معلمی سے الگ کر دیا گیا اور مستحق ٹھہرا لعنت کا اور اسی کی مانند ہیں ہاروت وماروت

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْفَاعِلُ الْمُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ الْاٰفَاتِ وَهِيَ مَخْلُوْقَةٌ وَّمُذَلَّلَةٌ

اے اللہ تو ہی مؤثر وموجد ہے جو منزہ وپاکیزہ ہے تمام آفات اور رکاوٹوں سے جبکہ وہ تیری ہی پیدا کردہ ہیں اور تیری قدرت کے

تَحْتَ قُدْرَتِكَ تُسَلِّطُهَا عَلٰى مَنْ اَرَدْتَّ بِهَا عَلٰى حَسَبِ اقْتِضَآءِ

نیچے مغلوب ومقہور ہیں تو مسلط فرماتا ہے انھیں جس پر ارادہ فرمائے ان کے مسلط کرنے کا اپنی الوہیت اور

اُلُوْهِيَّتِكَ وَحِكْمَتِكَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْغَنِيُّ الْقَوِيُّ الْوَاجِبُ وَاَنَا عَبْدُكَ

حکمت کاملہ کے تقاضوں کے مطابق۔ اے اللہ تو ہی غنی اور قوی ہے اور اپنے آپ موجود ہے وجود ذاتی کے ساتھ اور میں تیرا

الْفَقِيْرُ الضَّعِيْفُ الْحَادِثُ وَالْاٰفَاتُ خَلَقْتَهَا قَوِيَّةً وَّضَعِيْفَةً

فقیر ومحتاج اور ضعیف وناتواں بندہ ہوں جو تیری ایجاد سے خلعت وجود پہنے ہوئے ہوں اور آفات کو پیدا کیا تو نے اس حال میں کہ بعض ان کی

بِالنِّسْبَةِ فَلَآ اَسْتَطِيْعُ تَحَمُّلَهَا اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ

قوی ہیں اور بعض بنسبت ان کے ضعیف پس میں نہیں طاقت رکھتا کسی کے بھی برداشت کرنے کی۔ اے اللہ تو ہی قادر ہے اس پر کہ

تَمْنَعَنِيْ مِنْ اٰفَةٍ مَّرْكُوْزَةٍ فِيْ غِذَآءٍ اَوْ شَرَابٍ اَوْ سَارِيَةٍ مَّعَ

مجھے دور رکھے اس آفت سے جو گڑی ہوئی ہے غذا میں یا مشروب میں یا سرایت کرنے والی ہے ساتھ

نَفَسٍ اِلٰى مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ سَنَةً حَتّٰى تَكْمُلَ مَعْرِفَتِيْ حَسَبَ

نفس کے روک رکھے اسے ایک سو بیس سال تک حتی کہ کامل ہو جائے میری معرفت میری طاقت کے

طَاقَتِيْ وَطَهِّرْ وَزَكِّ فِكْرِيْ عَنِ اللَّحْنِ وَلِسَانِيْ عَنِ الْخَطَآءِ فَاَلْقِ

مطابق اور پاکیزہ ومنزہ فرما میرے فکر کو غلطی وفساد سے اور میری زبان کو خطا سے پس القاء فرما

فِيْهِ حَقًّا وَّاَخْرِجْ مِنْهُ حَقًّا اَنْتَ الْحَقُّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اس میں حق کا اور اس سے ظاہر فرما حق کو تو ہی حق ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَبَبِ الْفَوْزِ وَالنَّجَا اَللّٰهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ سبب ہیں کامیابی اور نجات وفلاح کا۔ اے اللہ

رَبِّ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ

جو میرا پروردگار ہے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس دن میں جو کچھ ہے اس کی خیر کا اور اس کے مابعد کی خیر کا اور میں پناہ طلب کرتا ہوں

مِنْ شَرِّ مَا فِیْ هٰذَا الْیَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَافِیَةَ

اس کے شر سے جو اس دن میں ہے اور اس کے بعد کے شر سے ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت

فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِیْ دِیْنِیْ وَدُنْیَایَ وَ

کا دنیا و آخرت میں اور سوال کرتا ہوں تجھ سے عفو و عافیت کا اپنے دین میں اور دنیا میں اور

فِیْ اَهْلِیْ وَمَالِیْ وَاَسْئَلُكَ صِحَّةً فِیْ اِیْمَانٍ وَّاِیْمَانًا فِیْ حُسْنِ

اپنے اہل اور مال میں ۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے صحت کا مع ایمان کے اور ایمان کا مع حسن

خُلُقٍ وَّنَجَاةً یَّتْبَعُهَا فَلَاحٌ وَّرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِیَةً وَّمَغْفِرَةً مِّنْكَ

خلق کے اور نجات کا جس کے تابع ہو فلاح و کامیابی اور سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا اور عافیت کا ۔ اور تیری مغفرت

وَرِضْوَانًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا

ورضامندی کا ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ عِمَادِ مَنْ اِلَیْهِ لَجَا وَالْتَجَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَا

آل پر جو محبوب کہ سہارا ہیں ہر اس شخص کا جو ان کی پناہ پکڑے اور ان سے التجا کرے ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس خیر اور بھلائی کا جس

سَئَلَكَ بِهٖ عِبَادُكَ الصّٰلِحُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا

کا سوال کیا تجھ سے تیرے نیک بندوں نے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الرِّسَالَةِ وَظَاهِرِ الدَّلَالَةِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ خاتم رسالت ہیں اور جن کی نبوت کے دلائل ظاہر ہیں ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَیْرِ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تمام تر خیر اور بھلائی کا جو میں اس سے معلوم کر سکا ہوں اور جو میں نہیں معلوم کر سکا ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

اَمَنَةِ اَصْحَابِهٖ وَمَلَاذِ مَنْ لَّاذَ بِجَنَابِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ

جو اپنے صحابہ کرام کے لیے امان ہیں اور جائے پناہ ہیں ہر اس شخص کی جو پناہ پکڑے ان کی بارگاہ میں ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

النَّعِیْمَ الْمُقِیْمَ الَّذِیْ لَا یَحُوْلُ وَلَا یَزُوْلُ وَاَسْئَلُكَ الْاَمْنَ یَوْمَ الْخَوْفِ

دائمی نعمتوں کا جو نہ تبدیل ہونے والی ہوں اور نہ زائل ہونے والی اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے امن کا خوف کے دن

وَاَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ

اور سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب موجبہ کا اور تیری مغفرت کے حتمی وسائل کا اور ہر

ذَنْبٍ وَالْغَنِیْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِیْ ذَنْبًا

گناہ سے تحفظ اور بچاؤ کا اور ہر نیکی سے غنیمت و منفعت کا اور ہر گناہ سے سلامتی کا نہ چھوڑ تو میرے لیے کوئی گناہ

اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا كَرْبًا اِلَّا نَفَّسْتَهٗ وَلَا ضَرًّا اِلَّا

مگر یہ کہ اسے بخش دے ۔ اور نہ غم و اندوہ مگر اس کو دور کر دے اور نہ کرب و کلفت مگر اس کو ہٹا دے ۔ اور نہ کوئی ضرر اور نقصان

كَشَفْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِیَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَیْتَهَا یَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ

مگر اس کو دور کر دے ۔ اور نہ کوئی ایسی حاجت جو تجھے پسندیدہ ہے مگر یہ کہ تو اسے پورا فرما دے ۔ اے ارحم الراحمین ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الرَّحْمَةِ الْعُلْیَا لِلْاَنَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی

جو بلند مرتبت رحمت ہیں واسطے مخلوق کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمِنَّةِ الْعُظْمٰی عَلٰٓی اَهْلِ الْاِسْلَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی آل پر جو محبوب کریم عظیم احسان ہیں (اللہ تعالےٰ کا) اہل اسلام پر ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ ثِمَالِ الْیَتَامٰی وَعُرْوَةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ یتیموں کے فریاد رس ہیں اور مضبوط سہارا ہیں

الْاَیَامٰی اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا

بے خاوند عورتوں کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ النُّوْرِ السَّابِقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا

آل پر جو محبوب کہ سب سے (پیدا کئے جانے والے) نور ہیں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّاسِطَةِ الْخَلْقِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْخَالِقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
محمد کی آل پر جو رسول معظم کروسیلہ ہیں مخلوق کے درمیان اور خالق جل وعلیٰ کے درمیان۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُرَّةِ عَيْنِ جِبْرَآئِيْلَ اَللّٰهُمَّ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب، جبرئیل علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِ
صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ حبیب ہیں۔
اِسْرَافِيْلَ وَمِيْكَآئِيْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ
حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل کے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت وتقویٰ کا۔ اور عفت
وَالْغِنٰى وَاَسْئَلُكَ الثُّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَاَسْئَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ وَ
واستغناء کا۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے ثابت قدمی کا تمام امور میں اور سوال کرتا ہوں محکم اور پائیدار رشد وہدایت کا اور
اَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ
سوال کرتا ہوں تیری نعمتوں کے شکر کا اور تیری حسین عبادت (کی توفیق) کا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاَنْ تَغْفِرَ
نیک کاموں کی انجام دہی کا اور برے کاموں کے ترک کا اور مساکین کی محبت کا۔ اور میرے لیے مغفرت
لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ وَاِذَآ اَرَدْتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ ط
فرمانے اور رحم کرنے کا۔ اور جب تو ارادہ کرے کسی قوم کو فتنہ اور آزمائش میں ڈالنے کا تو مجھے وفات دے دینا در آنحالیکہ فتنہ سے
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ
بچایا ہوا ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ رسول ہیں
الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
پیدا کرنے والے بادشاہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد
مُحَمَّدِنِ الْمَبْعُوْثِ لِتَتْمِيْمِ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
کی آل پر جن کو مبعوث فرمایا گیا اعلیٰ اخلاق کی تکمیل وتتمیم کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَّفِيْعِ الْجَلَالَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ بلند بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و
سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَحَمِّلِ لِاَعْبَآءِ
سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ اٹھانے والے ہیں رسالت کے بوجھ
الرِّسَالَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ
اور اثقال کو۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری خشیت اور خوف کا باطن اور ظاہر میں اور کلمہ
الْاِخْلَاصِ فِى الرِّضَآءِ وَالْغَضَبِ وَاَسْئَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى
اخلاص کا حالت رضا اور غضب میں۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے میانہ روی کا۔ فقر اور غنا میں۔
وَاَسْئَلُكَ نَعِيْمًا لَّا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَّا تَنْقَطِعُ وَاَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ
اور سوال کرتا ہوں ایسی نعمتوں کا جو ختم نہ ہوں اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو منقطع نہ ہو اور سوال کرتا ہوں تجھ سے تمام تر خیر اور
كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا
بھلائی کا جو جلدی میسر ہو یا دیر سے جو میں نے معلوم کر لی ہے یا میں نے نہیں معلوم کی اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے جنت کا اور
قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَّاَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَآءٍ قَضَيْتَهٗ
ایسے قول وعمل کا جو اس کے قریب کرے۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ بنا دے ہر قضا کو جو صادر فرمائی ہے تو نے
لِيْ خَيْرًا وَّاَسْئَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِيْ مِنْ اَمْرٍ اَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهٗ رُشْدًا
میرے لیے خیر اور بہتر۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ جس امر کی تو نے میرے لیے قضا صادر فرمائی ہے اس کا انجام رشد و بھلائی بنا دے
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَآئِنُهٗ بِيَدِكَ وَاَسْئَلُكَ عِيْشَةً
اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہر خیر اور بھلائی کا جس کے خزانے تیرے دست قدرت میں ہیں۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے
نَقِيَّةً وَّمِيْتَةً سَوِيَّةً وَّمَرَضًا غَيْرَ مُخْزِيٍ وَّلَا فَاضِحٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ
پاکیزہ گزران کا۔ اور موزوں ومناسب حالت موت کا۔ اور ایسے مرض کا جو مجھے رسوا کرنے والا۔ اور بے آبرو کرنے والا نہ ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و
سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ السَّآئِلِ الْمُجَابِ اَللّٰهُمَّ
سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کی التجاء اور دعا مقبول ومستجاب ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالْبَرِّ التَّوَّابِ اَللّٰهُمَّ
صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا محسن ہیں اور معذرتوں کے قبول کرنے والے ۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالْعَبْدِ الْمِسْكِيْنِ
صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سید خلق کہ (تیری بارگاہ صمدیت میں) عبد مسکین ہیں
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالزَّاجِرِ
اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ (معصیت سے) سختی کے ساتھ روکنے والے
الْمُتَطَوِّلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا
ہیں اور نیکوکاروں پر احسان فرمانے والے۔ اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل
مُحَمَّدِ ِالْوَاهِبِ الْمُتَفَضِّلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَآ اٰتِيْ وَخَيْرَ
پر جو آقا کہ عطیہ دینے اور فضل واحسان فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ان امور کی خیر کا جن کو کرتا ہوں۔ اور ان کی خیر
مَآ اَفْعَلُ وَخَيْرَ مَآ اَعْمَلُ وَخَيْرَ مَا بَطَنَ وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ وَالدَّرَجَاتِ
کا جن کا ارتکاب کرتا ہوں اور ان کی خیر اور بہتری کا جن پر عمل کرتا ہوں۔ اور باطنی امور کی خیر کا اور ظاہری امور کی خیر کا اور بلند ترین درجات کا
الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِيْ وَتَضَعَ
جنت میں آمین ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے ذکر کو بلند کرے اور میرا گناہوں کا
وِزْرِيْ وَتُصْلِحَ اَمْرِيْ وَتُطَهِّرَ قَلْبِيْ وَتُحَصِّنَ فَرْجِيْ وَتُنَوِّرَ لِيْ فِيْ
بوجھ اتار دے ۔ میرے امور کی اصلاح فرمائے اور میرے دل کو پاک کرے ۔ میری شرمگاہ کی حفاظت فرمائے (غلط کاری سے)
قَبْرِيْ وَتَغْفِرَ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَسْئَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ ط
میری قبر کو منور فرمائے اور بخش دے میرے گناہ ۔ اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے بلند درجات کا جنت میں آمین۔
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ
اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا
لَيْسَ هُوَ عَلَى الْخَلْقِ بِمُصَيْطِرٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
نہیں ہیں مخلوق پر جبر اور سختی کرکے عمل درآمد کرانے والے (داروغے) اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالْمُصْطَبِرِ الصَّبَّارِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ
اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ (ایذاء خلق پر) صبر کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ صبر وتحمل کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں
نَفْسِيْ فَاِنَّهَا لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْٓءِ لِئَلَّا تَكُوْنَ النَّفْسُ مُفْرِطَةً ضَآرَّةً
اپنے نفس سے کیونکہ وہ برائی کا بہت زیادہ امر اور مشورہ دینے والا ہے تاکہ نہ ہو وہ نفس حد سے متجاوز اور ضرر رساں
لِاَنْفَاسِيْ وَاَعْضَآئِيْ وَاَنْفَاسِ اَمِيْرِيْ وَوَالِيَّ وَاَحِبَّآئِيْ وَاَهْلِيْ وَ
میرے انفاس اور اعضاء کے لیے اور میرے امیر اور والی کے انفاس کے لیے اور میرے احباب اور اہل وعیال کے لیے اور
كُلِّ مَنْ يَّتَوَجَّهُ اِلَيَّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَانِعُ لِكُلِّ اٰفَةٍ وَّشَرٍّ اَرْضِيٍّ وَّ
میری طرف متوجہ ہونے والے تمام لوگوں کے انفاس کے لیے ۔ اے اللہ تو ہی روکنے والا ہے ہر آفت اور شر کو ارضی ہو یا
سَمَاوِيٍّ مِنْ وُّصُوْلِهٖ وَاِيْصَالِهٖ اِلَيَّ وَاِلٰى اَمِيْرِيْ وَاِلٰى وَالِيَّ وَ
سماوی اس کے پہنچنے سے اور پہنچائے جانے سے طرف میرے اور طرف میرے امیر و والی اور
اَبْنَآئِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَعْوَانِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ اٰلَةٌ مِّنْ
اس کی اولاد ورفقاء اور معاونین ومتبعین کے اور ہر اس شئے کے جو آلہ ہے اس کی
اٰلَاتِ اِمَارَتِهٖ وَوِلَايَتِهٖ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَافِظُ الْمُتَصَرِّفُ تَتَصَرَّفُ
امارت اور ولایت کے آلات واسباب سے ۔ اے اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا اور تصرف فرمانے والا ہے تصرف فرماتا ہے
فِيْ مُلْكِهٖ كَيْفَ تَشَآءُ فَصَرِّفِ الْاٰفَاتِ وَالْحَوَادِثَ الطَّارِيَةَ
اس والی کے ملک میں جیسے تو چاہتا ہے پس پھیر دے طاری ہونے والے آفات اور پیش آنے والے حوادثات کو
الْعَارِضَةَ اِلَى النُّصْرَةِ وَالْقُوَّةِ مِنِّيْ وَمِنْهُ وَمِنْ كُلِّ مَنْ يَّتَعَلَّقُ بِهٖ
مجھ سے اور اس سے اور اس کے جملہ متعلقین سے (انھیں) نصرت و قوت بناتے ہوئے (ہمارے لیے)
اِلٰى عَدُوِّهٖ وَاِلٰى مَنْ اَرَادَ سُوْٓءًا فِيْ حَقِّهٖ وَالْغَلَبَةَ عَلَيْهِ بِقُوَّةٍ فَانْصُرْهُ
طرف اس کے دشمن کے اور اس کے حق میں برائی کا ارادہ رکھنے والوں کے اور اس پر بزور بازو غلبہ پانے کا ارادہ رکھنے والوں کے پس اس کو مدد دے
بِقُوَّةٍ وَّنُصْرَةٍ مِّنْ عِنْدِكَ وَالْمَلٰٓئِكَةِ الْاَرْضِيَّةِ الْحَفَظَةِ اٰمِيْنَ بِلِسَانٍ
اپنی مخصوص قوت ونصرت کے ساتھ اور زمین پر موجود محافظ ملائکہ کے ساتھ آمین ۔ ساتھ زبان

كل عارف تقي ه يا ايها الكافي الموسع لما خلق من عطايا فضله
ہر عارف پرہیز گار کے۔ اے کفایت فرمانے والے اور وسیع کرنے والے اپنے پیدا کردہ عطا ہائے فضل واحسان کے

وسع قلبي لحلول اثار العلويات من عطايا فضلك و محض
میرے دل کو وسعت بخش واسطے اترنے علویات کے آثار و انوار کے تیرے فضل کے عطیات سے اور تیرے خالص

جودك من حيث الكليات الكائنة الموصوفة به الذوات المجردة
جود و نوال سے از روئے آثار کلیہ کے جن کے وجود میں آنے پر متصف ہوتے ہیں ساتھ ان کے ارواح و نفوس مجردہ

في ذاته و فعله ثم هب لي العطيات المعنوية العلمية اللوحية و
اپنے مرتبۂ ذات میں اور مراتب فعل و تاثیر میں پھر ہبہ فرما میرے لیے معنوی علمی عطیات کا جن کا تعلق لوح محفوظ سے ہے اور

الارزاق الارضية خدمة لفقرائك ووسع كل شيء لكل احد
(حسی و جسمانی عطیات) کا جن کا تعلق ارضی رزق و روزی سے ہے واسطے اپنے فقراء کی خدمت کے اور وسیع فرما ہر شئی مطلوبہ کو واسطے

لمن اراد في حقه هذا الداعي المتوجه اليك على حسب
ہر اس شخص کے جس کے حق میں ارادہ کرے یہ دعاگو اور راغب و متوجہ بندہ تیری بارگاہ کی طرف مطابق اپنی

استعداده وصلاحه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و
استعداد اور صلاحیت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر (جو عقول و افہام خلق سے بالاتر ہے)

على ال سيدنا محمد اوحى الله اليه ما اوحى اللهم صل
اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محرم اسرار کی طرف وحی فرمائی اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الولي الكافي
اور سلام سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر جو ناصر و مددگار ہیں اور کفایت کرنے والے مجھے (امداد خلق سے)

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو

الطبيب الشافي اللهم اني اتوسل اليك في صحة بدني وقوة
طبیب شافی ہیں۔ اے اللہ میں تیری طرف توسل کرتا ہوں اپنے بدن کی صحت اور جسم کی قوت میں (تیرے محبوب کیساتھ)

جسمي فشرفني بان يكون هو وسيلة لي واقبل ملتمسي
پس مشرف فرما مجھے ساتھ اس شرف کے کہ ہوں وہ میرے وسیلہ اور قبول کر میرے سوال کو بطفیل ان کی عزت و

بحرمته وبحرمة من له العزة والقبول واشفني بحرمته واله
حرمت کے اور بطفیل حرمت ہر اس شخصیت کے جنہیں عزت و قبولیت حاصل ہے (تیری بارگاہ میں) اور شفا دے مجھے بطفیل آپ کی حرمت اور آل

واصحابه وازواجه واتباعه واولاده شفاء كاملا عاجلا وقوني
واصحاب ازواج مطہرہ اور متبعین اور اولاد کی حرمت کے ایسی شفا جو کامل ہو اور فوری ہو اور مجھے قوی و توانا بنا اور

وصحح جسمي وقلبي ووفقني لما يوصلني الى رضائك ورضاء
صحت مند بنا میرے جسم اور میرے قلب کو اور مجھے توفیق دے ایسے اعمال کی جو واصل کریں مجھے تیری رضا اور

حبيبك ولاتباع طريقته الانيقة ولما تحبه ويحبه ولمتابعته
تیرے حبیب کی رضا تک اور ان کے عمدہ طریقہ کی اتباع تک اور جو تجھے پسند ہو اور انھیں پسند ہو اس تک۔ اور ان کی

في الظاهر والباطن وثبتني على طريقة المحبة الحقيقية
ظاہری و باطنی متابعت تک۔ اور ثابت قدم رکھ مجھے اپنی محبت حقیقیہ

المرضية والتوكل والقناعة وغناء القلب عن الدنيا واهلها
اور پسندیدہ و مقبولہ کے طریقہ پر اور توکل و قناعت پر۔ اور دل کے دنیا اور اہل دنیا سے مستغنی ہونے پر

اللهم بحرمته وبعزته وبقبوله وبشرفه وبنبوته وبولايته
اے اللہ بطفیل اس محبوب کی حرمت و عزت اور قبولیت و شرافت کے اور بطفیل ان کی نبوت و ولایت کے

اشفني وتؤمنني من كل مرض ومن كل مكروه بدني او ديني
مجھے شفاء عطا فرما۔ اور مجھے امان میں رکھ ہر مرض سے اور ہر ناپسندیدہ امر سے بدنی ہو یا دینی ہو

وثبتني على السنة السنية وعلى الطريقة الشرعية الغراء
اور مجھے ثابت قدم رکھ عالیشان سنت پر اور اس طریقہ شرعیہ پر جو روشن و نورانی اور

المحمدية الاكملية الاجمعية الاحدية وعلى الطريقة المرضية
محمدی طریقہ ہے جو انتہائی کامل، جامع اور یکتا و منفرد ہے اور اس طریقہ پسندیدہ مقبولہ پر

الْمُوْصِلَةِ اِلَى الْمَقَامِ الْاَحَدِيِّ وَالتَّوْحِيْدِيِّ وَاَوْصِلْنِيْ اِلٰى ذِرْوَتِهَا

جو پہنچانے والا ہے مقام احدیت و توحید تک اور مجھے واصل فرما اس طریقہ کی چوٹی اور آخری حد تک

وَاَقِمْنِيْ فِيْ مَقَامِ التَّوَكُّلِ وَالرِّضَآءِ وَالْغِنَآءِ عَنِ الدُّنْيَا وَاَهْلِهَا وَالْحُبِّ

اور قائم فرما مجھے مقام توکل و رضاء میں اور دُنیا و اہل دُنیا سے استغناء کے مقام میں اور

الْحَقِيْقِيِّ الْمَرْضِيِّ وَاشْفِنِيْ شِفَآءً نَّافِعًا فِي الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ فِي

حقیقی پسندیدہ محبت کے مقام میں۔ اور شفاء عطا فرما مجھے جو نافع ہو بدن اور قلب کے لیے

الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَاهْدِنِيْ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ التَّوْحِيْدِ الْاَكْمَلِيِّ

دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اور چلا مجھے صراط مستقیم پر جو راہِ راست ہے محمد کریم کی بیان کی ہوئی توحید اکمل

الْمُحَمَّدِيِّ الْاَجْمَعِيِّ الْاَحَدِيِّ وَصِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لِمَعْرِفَةِ

اور جامع ترین توحید واحدیت کا۔ اوران لوگوں کی راہ پر جن پر تونے انعام فرمایا ہے اپنی ذات

ذَاتِكَ وَصِفَاتِكَ وَاتِّبَاعِ حَبِيْبِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ

اورصفات کی معرفت اور پہچان کا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ اے اللہ

رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رب ہمارے اور رب ہر شئی کے میں گواہ ہوں اس امر کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَحَبِيْبُكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

تیرے عبد خاص اور تیرے رسول ہیں اور تیرے نبی و تیرے حبیب ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمُسْتَنْصِرِ الْمُرْتَقِبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ مدد طلب کرنے والے ہیں صرف (تجھ سے) اور انتظار کرنے والے ہیں (صرف تیرے احکام کی) اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمُنْتَدِبِ الْمُحْتَسِبِ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ فریادیوں کی فریاد پر لبیک کہنے والے ہیں اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی اُمید رکھنے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ التَّقِيِّ

والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ پاکیزہ دامن ہیں

مِنْ كُلِّ جَوْرٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

ہر قسم کے جور و ظلم سے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدِنِ الْعَدْلِ الرِّضٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

کی آل پر جو آقا کہ سراسر عدل اور مجسمہ رضا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمُحِبِّ الْمَحْبُوْبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ (تیرے) محب بھی ہیں۔ اور محبوب بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمَرْجُوِّ لِدَفْعِ الْكُرُوْبِ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ مرکز اُمید و رجا ہیں واسطے دور کرنے شدائد و ابتلاآت کے۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ

عَلٰى سُنَّتِهٖ وَتَوَفَّنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ وَاجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِ شَفَاعَتِهٖ وَ

ان کی سنت پر اور وفات دے ان کی ملت پر اور بنا ہمیں ان کی شفاعت کے حقداروں سے۔ اور

احْشُرْنَا فِيْ زُمْرَةِ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَاَوْرِدْنَا حَوْضَهٗ وَاسْقِنَا

اٹھانا ہمیں انبیاء اور صدیقین کی جماعت میں۔ اور وارد فرما ہمیں ان کے حوض پر اور پلا ہمیں

مِنْ كَاْسِهٖ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِيْنَ وَلَا شَاكِّيْنَ وَلَا مُبَدِّلِيْنَ وَ

ان کے جام سے درآنحالیکہ نہ رسوا ہونے والے ہوں اور نہ پشیمان اور نہ شک و شبہ میں مبتلا اور نہ تبدل و تغیر کا

لَا مُغَيِّرِيْنَ وَلَا فَاتِنِيْنَ وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

شکار ہونے والے نہ کسی کو فتنہ میں ڈالنے والے اور نہ کسی کی طرف سے فتنہ میں پڑنے والے آمین یارب العالمین۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الْمُتَعَطِّفِ الْعَطُوْفِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

جو مہربانی کا بہت اظہار فرمانے والے ہیں۔ اور فی الواقع مہربان ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ كَانَ هُوَ بِاَشْرَفِ الْخِصَالِ مَوْصُوْفًا اَللّٰهُمَّ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ بزرگترین خصلتوں کے ساتھ موصوف تھے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَاعِی الْخَلْقِ
صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ دعوت دینے والے ہیں مخلوق کو طرف
اِلَى الْخَلَّاقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا
ان سب کے پیدا کرنے والے کے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا
مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ الْخَلْقِ عَلَى الْاِطْلَاقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
محمد کی آل پر جو تمام مخلوق سے افضل و برتر ہیں ہر پہلو سے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ الْخَلْقِ عَلَى الشُّمُوْلِ وَالْاِسْتِغْرَاقِ
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو ساری مخلوق سے مجموعی اور کلی طور پر اکرم و افضل ہیں
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَنْزِ اَهْلِ
اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ اہل تقویٰ کے
التَّقْوٰى اَللّٰهُمَّ امْلَأْ قَلْبِیْ فَاخْلَعْ سَلْبِیْ وَاقْطَعْ غَيْرِیْ بِنُوْرِ مَحَبَّتِهٖ
کنز اور خزانہ ہیں۔ اے اللہ میرے دل کو پھیر دے پس اُتار دے مجھ سے غم دنیا کا ماتمی لباس اور منقطع فرما میرا تعلق غیروں سے بطفیل
وَمَعْرِفَتِهٖ بِحُرْمَتِهٖ وَعِزَّتِهٖ وَعَظْمَتِهٖ بِطَوِيْلِ الْخَيَالِ الْقَلْبِ وَ
محبوب کریم کی محبت و معرفت کے بطفیل ان کی حرمت اور عزت۔ و عظمت کے ساتھ لمبے خیالوں والے قلب کے اور
بِطَائِلِ الطَّوْلِ الْقُطْبِ وَبِطَيْلِ الطَّيَالِ الْقَشَبِ وَبِطَلِّ الطِّلَالِ
کارآمد قوت والے قطب کے اور ساتھ درازی دراز تر عرصہ والے زنگ آلود کے۔ اور ساتھ نمی بہت برسنے والی
الطِّلَالِ الْكَثَبِ وَبِظِلِّ ظَلِيْلِ الْكَمَالِ ظِلَالِ الْاَكْمَالِ ظِلَلِ
شبنموں کے جو باریک قطرات والی ہیں اور ساتھ کمال والے گھنے اور گہرے سایہ کے ساتھ اکمال کے سایوں کے
الْاِجْلَالِ فِی الظِّلَالِ الْاِيْصَالِ وَالْاَظْلَالِ الْوِصَالِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
اور جلال کے سایوں کے، مطلوب تک واصل کرنے والے سایوں میں اور وصال کے سایہ فگن سایوں میں۔ اے اللہ صلواۃ
وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَّاشِرِ لِوَآءِ الْحَمْدِ
و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ لہرانے والے ہیں لواء حمد کے

وَالْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا
اور علم ایمان کے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا
مُحَمَّدٍ رَّافِعِ لِوَآءِ الْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
محمد کی آل پر جو عدل و احسان کے لواء و علم کے بلند کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غِذَآءِ نُفُوْسِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
محمد پر جس محبوب (کا دیدار یا شریعت روحانی) غذا ہے اہل ایمان کے نفوس کے لیے۔ اے اللہ صلواۃ
وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ضِيَآءِ الْقُلُوْبِ وَ
و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ دلوں کی ضیاء اور روشنی ہیں
مُفَرِّجِ الْكُرُوْبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ
اور غموم و آلام کے دور کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَهْجَةِ الْاِسْلَامِ وَسِرَاجِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
آل پر جو محبوب کہ اسلام کی رونق و بہار ہیں اور اس کے روشن چراغ۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْاَكْرَمِيْنَ الْاَطَآئِبِ وَمَحْضِ
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ لخت جگر ہیں انتہائی عزت و کرامت والوں کے اور پاکیزہ ترین اشخاص کے اور خالص پاکیزہ
الْغَرَآئِبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا
انوکھے اخلاق والیوں کے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی
مُحَمَّدٍ قِوَامِ الْحَقِّ وَنِظَامِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
آل پر جو آقا کہ حق کے قائم و برپا ہونے کا ذریعہ ہیں۔ اور اس کے نظم و ضبط کا۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سید محمد پر
وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَمَالِ الدِّيْنِ وَتَمَامِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
اور سیدنا محمد کی آل پر جو سراپا جمال ہیں دین کا اور اس کی تکمیل و تتمیم ہیں۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج
عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غُرَّةِ الْاِسْلَامِ وَاَفْضَلِ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو اسلام کی روشنی اور زینت ہیں، اور افضل ترین ہیں

مَنْ مَّرَّتْ عَلَيْهِ اللَّيَالِيْ وَالْاَيَّامُ ط اُسْوَةِ الْمُرْسَلِيْنَ وَمِحْرَابِ قِبْلَةِ

ان تمام لوگوں سے جن پر گزری ہیں راتیں اور دن۔ مقتداء ہیں مرسلین کے اور انبیاء کرام کے لیے محراب قبلہ ہیں

النَّبِيِّيْنَ ط لَطِيْفِ الْحَرَكَةِ وَعَظِيْمِ الْبَرَكَةِ حُلْوِ الْمَشَاهِدِ وَكَثِيْرِ

لطیف چال والے۔ اور عظیم برکت والے ہیں۔ شیریں اور لذیذ دیداروں والے اور بہت بڑے

الْفَوَآئِدِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَهَبْ لِيْ سُؤَالِيْ وَاَجِبْ دُعَآئِيْ بِحُرْمَةِ

فوائد والے ہیں۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور مجھے عطا فرما میرا سوال اور میری دُعا کو قبول فرما بطفیل حرمت

مَنْ لَّا يُرَدُّ دُعَآءُ مَنْ تَوَسَّلَ بِهٖ فَاِنِّيْ مُتَوَسِّلٌ بِهٖ اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ

اس ذات مقدسہ کے کہ نہیں رد کی جاتی دُعا کسی شخص کی جو توسل کرے ساتھ اس ذات مقدسہ کے۔ تو میں بھی انہیں کیساتھ توسل کرنیوالا ہوں طرف

اقْبَلْ عُذْرِيْ وَتَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَتُبْ عَلَيَّ بِالْعِنَايَةِ الْخَآصَّةِ وَاشْفِنِيْ

تیری۔ اے اللہ قبول فرما میرا عذر اور مقبول ٹھہرا میری توبہ۔ اور نظر عنایت فرما مجھ پر ساتھ مخصوص عنایت کے اور مجھے شفا عطا فرما۔

وَقَوِّنِيْ وَاجْعَلْنِيْ طَوِيْلَ الْعُمُرِ فِيْمَا تُحِبُّهٗ وَيُحِبُّهٗ وَتَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ

اور مجھے قوت بخش اور بنا مجھے لمبی عمر والا ان امور میں جنہیں تو محبوب رکھتا ہے اور تیرا محبوب پسند فرماتا ہے اور جن پر تو راضی ہے اور وہ راضی ہیں

اٰمِيْنَ بِحُرْمَتِهٖ وَبِرَحْمَتِكَ الْعَآمَّةِ الْوَاسِعَةِ كُلَّ شَيْءٍ يَّآ اَرْحَمَ

آمین۔ بطفیل اس محبوب کی حرمت کے اور بطفیل تیری رحمت کے جو عام اور شامل ہے ہر شئے کو اے ارحم

الرَّاحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَجِبْ وَلَا تَرُدَّ فَاِنْ رَّدَدْتَّ فَمَنْ لِّيْ اَسْئَلُهٗ وَمَنْ

الراحمین۔ اے اللہ قبول فرما اور رد نہ فرما اگر تو رد کرے تو کون ہے میرے لیے جس سے سوال کروں میں اور کون ہے

لِّيْ سِوَاهُ اَتَوَسَّلُ بِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حُلْوِ

میرا وسیلہ سوا تیرے محبوب کے جس سے توسل کروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو شیریں

الْمَذَاقِ وَطَيِّبِ الْاَخْلَاقِ اَمِيْنِ الْوَحْيِ وَالتَّنْزِيْلِ وَشَادِخِ الْغُرَّةِ

مذاق اور طبیعت والے اور پاکیزہ اخلاق والے ہیں۔ وحی و تنزیل کے امین ہیں۔ کشادہ روشن پیشانی والے ہیں

وَاضِحِ التَّحْجِيْلِ الْمُسْتَغْرِقِ لِاَوْصَافِ الْكَمَالِ اِسْتِحْقَاقًا وَّالْخَلِيْفَةِ

اور ہاتھوں پاؤں کی واضح سفیدی و نورانیت والے ہیں۔ احاطہ کرنے والے ہیں اوصاف کمال کا از روئے حقداری و استحقاق کے اور خلیفہ مطلق

اِطْلَاقًا قُطْبِ دَآئِرَةِ الْكَمَالِ وَتَاجِ مَحَاسِنِ الْجَمَالِ وَالْجَلَالِ حِكْمَةِ

ہیں اللہ تعالیٰ کے پوری کائنات ہیں۔ دائرہ کمال کے قطب ہیں اور جمال و جلال کے محاسن اور خوبیوں کے تاج ہیں

اللّٰهِ الْبَالِغَةِ وَحُجَّةِ اللّٰهِ الدَّامِغَةِ نَجْلِ الذَّبِيْحَيْنِ وَعِصَامِ نُجْبَةِ

اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں جو سرکوبی کرنے والے ہیں (باطل کی) دو ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ

قُصَيٍّ وَّفَخْرِ بَنِيْ لُؤَيٍّ اَعْلَى الْخَلَآئِقِ جَاهًا وَّخَيْرِ الْخَلْقِ طٰهٰ هِلَالِ

کے فرزند ارجمند ہیں اور سبب عصمت وحفاظت ہیں اشرافِ قصی کا اور سرمایۂ فخر ہیں اولاد لوی کا، تمام مخلوقات سے بلند تر ہیں از روئے مرتبہ کے اور ساری مخلوق کے

الْكَوْنِ الشَّرِيْقِ وَرِيَاضِ الْاَمْنِ وَالتَّوْفِيْقِ مُزِيْلِ الْمَحْلِ وَخَصِيْبِ

بہتر طٰہٰ موجودات کا روشن اور طلوع ہونے والا ہلال ہیں۔ اور امن و توفیق کے باغات ہیں۔ قحط سالی کو زائل کرنے والے ہیں اور خوشحال

الرَّحْلِ وَعَطَّالِ الْاَيَادِيْ وَالَّذِيْ اَطْفَاَ بِنُوْرِهٖ حِقْدَ الْاَعَادِيْ وَ

قیامگاہ والے ہیں۔ عام کرنے والے ہیں انعامات کے۔ اور جن کے نور سے اللہ نے بجھایا اور مٹا دیا دشمنوں کا کینہ اور

الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ وَمَرْكَزِ الْهِدَايَاتِ وَالْاٰيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَسِمَاكِ

مضبوط و پائیدار قلعہ ہیں۔ ہدایات اور آیات بینات کے مرجع اور مرکز ہیں اور ذریعہ ہیں

فَلَكِ الرِّضٰى وَدِيْنِهِ الْحَنَفِيَّةِ الْبَيْضَآءِ وَجَمَالِ الْكَوْنَيْنِ وَجَدِّ الْحَسَنِ

فلک رضا کی بلندی و رفعت کا۔ اور اپنی ملت حنیفیہ بیضاء اور واضح کا اور کونین کا جمال وحسن ہیں اور حسن حسین رضی اللہ عنہما کے

وَالْحُسَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نانا جان ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

كَنْزِ الْاَذْخَارِ وَمَقْصُوْدِ الدِّيَارِ حَامِي الذِّمَارِ وَمَحْمُوْدِ الدَّوَاعِيْ وَزَكِيِّ

جو محبوب کہ کمالات کے ذخائر کا خزانہ ہیں۔ اور تمام آبادیوں اور مساکن سے صرف وہی مقصود ہیں۔ حمایت و نگرانی کرنے والے ہیں خاندانی شرف و عزت کی قابل

الْفَرْعِ وَعِمَادِ الدِّيْنِ وَالشَّرْعِ لُبَابَةِ الْحَسَبِ الْعَرِيْقِ وَجَآءَ بِالصِّدْقِ

ستائش اسباب والے اور پاکیزہ فرع والے ہیں دین و شریعت کا عماد و ستون ہیں۔ شرافت والے خاندان کا جوہر و خلاصہ ہیں اور جو لائے صدق و حق کو

وَالتَّصْدِيْقِ دَوْحَةِ الْمَجْدِ الْاَثِيْلِ وَهَامَةِ النَّسَبِ الْاَصِيْلِ وَاَكْرَمِ مَنْ

اور تصدیق و ایمان کو پائیدار شرافت و بزرگی کا بلند و بالا درخت ہیں اور پائیدار اور مضبوط نسب کے سردار اور رئیس ہیں اور ان سب سے زیادہ کرامت والے ہیں

يستمد منه العطا واجلب الناس نفعا لمحو الذنوب والخطا اللهم

جن سے عطاو بخشش کی امداد و خیرات ملتی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ مہیا کرنے والے ہیں نفع کے واسطے مٹانے ذنوب و خطا کے۔ اے اللہ

انت الكافي جميع همومي صغيرا كان او كبيرا علويا كان او سفليا

تو ہی کفایت فرمانے والا ہے میری تمام مشکلات میں چھوٹی ہوں یا بڑی۔ عالم بالا سے تعلق رکھنے والی ہوں یا عالم اسفل سے

فاجعلني مستحقا لتلك العطايا والفضائل بخلق القابلية

پس بنا دے مجھے حقدار واسطے ان عطیات اور فضائل کے بسبب پیدا کرنے قابلیت و استعداد کے

المجددة لكل نوع من الكمالات بحيث يصير قلبي مراة لعالم

لحظہ بہ لحظہ واسطے تمام انواع کمالات کے اس انداز میں کہ ہو جائے دل میرا آئینہ صافی واسطے عالم

الغيب ونفسي فاعلة بانواع الافعال متاثرة بانواع الاثار حتى

غیب کے اور نفس میرا فاعل و مؤثر افعال کے انواع و اقسام میں اور اثر قبول کرنے والا مختلف اقسام کے آثار سے حتیٰ کہ

يحبني الملئكة الارضية وينصرني بانواع المدد حتى اكون

محبت کرنے لگیں مجھ سے زمین کے مدبر ملائکہ اور مدد کریں میری تمام تر انواع اعانت کے ساتھ حتیٰ کہ ہو جاؤں میں

في خلقك قاضيا للحاجات باخذ الاجابة منك وممن اصطفيته

تیری مخلوق میں حاجات کا پورا کرنے والا تیری طرف سے قبولیت پا کر اور جنہیں تو نے ملائکہ سے چن لیا ہے

من كلكائيل وروبائيل وحرفائيل وجبرائيل وميكائيل وعزرائيل

یعنی کلکائیل ۔ روبائیل ۔ حرفائیل ۔ جبرائیل ۔ میکائیل اور عزرائیل

واهكائيل موكلة لتدابير اقطار الارض من سبعة اقاليم فانهم

و اہکائیل علیہم السلام جن کو سونپی گئی ہفت اقلیم کی زمین کے اطراف و اکناف کی تدبیر و انتظام ۔ پس وہ سبھی

متصرفون فيها على وجه رضاك بقوة الحروف السبعة الصادرة

تصرف کرنے والے ہیں ان میں تیری رضا اور پسند کے مطابق بطفیل قوت و طاقت ان سات حروف کے جو سرزد اور صادر ہونے والے

من سر نورك مكيفة بكيفيات هذه الصور الوقفية الشخصية

ہیں تیرے سر نور سے۔ درانحالیکہ وہ متکیف ہیں ساتھ کیفیات ان صورتوں کے جو کہ وقفی ہیں اور شخصی

من م ز ب خ ت ذ فوسع روحي لاخذ ما في هذه الحروف من الاثار

یعنی م ز ب خ ت ذ۔ لہٰذا توسیع فرما میرے روح میں واسطے اخذ اور ضبط کرنے ان آثار

والاسرار المودعة فيها في مقام الجمع والعماء ثم سخر بها كل

واسرار کے جو ان حروف میں ودیعت کئے گئے ہیں مقام جمع میں اور مقام عماء میں (خالص الوہی اطلاقی مقام جہاں غیریت کا گزر نہیں) پھر مسخر فرما

الكل من حيث التاثير والتدبير الالهي يا فاطر الحقائق الارضيات

میرے لیے بسبب ان کے سب مخلوق کو از روئے تاثیر اور تدبیر الٰہی کے اے پیدا کرنے والے حقائق ارضیہ کے

ليس احد اتوجه اليه شيئا سواك فالق الالفة والمحبة بين

نہیں کوئی شخص کہ توجہ کروں میں طرف اس کے سوا تیرے پس پیدا فرما الفت اور محبت درمیان

عبدك هذا الداعي وبين تلك الملئكة حتى تنصرني وتعينني

اپنے اس داعی اور سائل عبد کے اور درمیان ان ملائکہ کے حتیٰ کہ وہ میری نصرت و اعانت فرمائیں

على امر اقصد اليه او لم نقصد لفقد علمي بذلك الامر وهو

اس امر پر جس کا میں نے قصد کیا یا ہم اس کا قصد نہیں کر پائے بسبب فقدان علم و شعور کے ساتھ اس امر کے حالانکہ وہ

لا بد لصلاح خلق من مخلوقاتك ومزج بسمك الالفة والمحبة

ضروری تھا تیری کسی مخلوق کی بھلائی اور بہتری کے لیے تیرے خلائق سے اور مخلوط فرما الفت و محبت کی (اس) مچھلی کے ساتھ

الفة الماائيات من غير ظهور اثر الضد وهم ملاك طبيعة سيالة

الفت مؤکلات مائیہ کی بغیر ظاہر ہونے اثر اس کی ضد اور مدمقابل کا اور وہ مالک ہیں طبیعت سیال اور مائع کے

سيارة اثارها في اجسام نفاعة في شيء وضرارة في شيء وهم

کہ بہت زیادہ سرایت کرنے والے ہیں آثار ان کے اجسام میں۔ اگر بہت زیادہ نافع ہیں ایک شئی میں تو بہت نقصان دہ ہیں دوسری شئی میں۔ اور وہ

يدبرونها وتلك الطبيعة مقدورة لها في اي بحر كان من السبعة

اس کی تدبیر کرتے ہیں اور وہ طبیعت مائیہ ان کے زیر قدرت و تصرف ہے خواہ جس سمندر میں ہو سات سمندروں سے

او من اي جدول من جداول او في مقر ما فهم الاعلون فعرفني

یا نہر اور ندی میں ہو ندیوں سے یا کسی بھی ٹھکانے میں پس وہی ان مائیات پر غالب ہیں پس میری پہچان کرا

بَيْنَهُمْ حَتّٰى تُحِبَّنِيْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ بِاِذْنِكَ يَا نَقِيًّا مِّنْ كُلِّ

درمیان ان کے یہاں تک کہ محبت کرے مجھ سے (اور تیری محبت کی وجہ سے وہ محبت کریں) اور سرانجام دیں ان امور کو جن کا حکم دئیے جائیں تیرے اذن سے

جَوْرٍ لَّمْ يُخَالِطْهُ فَعَالُهٗ اِحْفَظْنِيْ مِنْ كُلِّ جَوْرٍ وَّجَفَاءٍ وَّمَضَرَّةٍ

اے پاک ہر طرح کے ظلم سے کہ نہیں ربط و اختلاط رکھا اس جور سے اس کے افعال نے مجھے محفوظ رکھ ہر جور و جفاء سے اور ضرر و نقصان سے

حَادِثَةٍ عَنِ الْمَحْسُوْسَاتِ اَوِ الْمُغَيَّبَاتِ فَاَحْصِنْ لِّيْ مِنْ اِثْخَانِهِمْ

جو پیدا ہونے والا ہے محسوسات سے یا غیبی امور سے پس میرے لیے محافظت فرما ان کے تجاوز اور قتل سے

وَلَا تُحْزِنِّيْ اِنْ صَدَرَ مِنْهُمْ فِيْ حَقِّيْ جَوْرًا اَوْ ظُلْمٌ مُّتَوَجِّهٌ اِلَيَّ فَاَهْلِكْهُمْ

اور مجھے غمزدہ نہ کر اگر ان سے سرزد ہو میرے حق میں جور یا ظلم جو متوجہ ہو طرف میری پس ہلاک فرما انہیں

عِنْدَ الْاِفْرَاطِ وَاَفْرِغْنِيْ عَنْهُمْ صَبْرًا فِيْ اَوَّلِ الْوَهَلَاتِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ

حد سے تجاوز کی صورت میں اور ڈال میرے اندر صبر و تحمل ان کی طرف سے ابتدائی مراحل میں۔ اے اللہ تو ہی

الْمُتَصَرِّفُ فِي الْمَحْسُوْسَاتِ فَتَقَبَّلْ دَعَوَاتِيْ عِنْدَ كُلِّ جَوْرٍ وَّظُلْمٍ

تصرف فرمانے والا ہے محسوسات میں پس قبول فرما میری دعاؤں کو وقت ہر جور اور ظلم کے جو سرزد ہو

فِيْ حَقِّ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِكَ حِيْنَ التَّوَجُّهِ اِلٰى عَبْدِكَ الْمُتَوَجِّهِ اِلَيْكَ

تیرے کسی بھی بندے کے حق میں تیرے بندوں سے وقت متوجہ ہونے ان بندوں کے تیرے اس بندے کی طرف جو متوجہ ہے تیری بارگاہ عالی

الْفَقِيْرِ الْحَقِيْرِ مِنْ عِبَادِكَ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ عَنْ جَوْرِ نَفْسِيْ فِيْ

کی طرف جو فقیر و حقیر سا بندہ ہے تیرے بندوں سے۔ اے اللہ محفوظ فرما مجھے میرے نفس کے جور سے جو سرزد ہو

حَقِّ رُوْحِيْ وَقَلْبِيْ وَعَنِ الْخَنَّاسِ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صَدْرِيْ

میرے قلب و روح کے حق میں اور اس خناس سے جو وسوسے ڈالتا ہے میرے دل میں

فَاجْعَلْهُ مَقْهُوْرًا تَحْتَ نَفْسِيْ مُطْمَئِنَّةً مُّلْهَمَةً حَتّٰى يَكُوْنَ

پس کر تو اسے مغلوب و مقہور نیچے میرے نفس کے درآنحالیکہ وہ مطمئن ہے (تیرے ذکر کی وجہ سے) اور الہام کیا ہوا ہے (رشد و خیر کا تیری طرف سے) حتیٰ کہ ہو

مَقْهُوْرًا اَوْ مُنْقَادًا تَحْتَ نُوْرِكَ فِيْ عَبْدِكَ الصَّالِحِ الْعَادِلِ الْمُتَوَجِّهِ

جائے مقہور اور تابعدار نیچے تیرے نور کے جو تیرے صالح و عادل بندے میں ہے جو تیری طرف

اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَرُؤْيَةِ اَعْمَالِنَا وَمِنْ شَرِّ

متوجہ ہے۔ اے اللہ ہمیں بچالے ہمارے نفوس کے شرور سے اور اپنے اعمال پر نظر رکھنے سے اور

كَيْدِ الشَّيْطَانِ وَاجْعَلْنَا مِنْ خَوَاصِّ اَحْبَابِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهٗ

مکر شیطان کے شر سے۔ اور بنا ہمیں اپنے خاص احباب سے کہ جن پر شیطان کے لیے نہیں کسی

عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فَاِنَّهٗ لَا قُوَّةَ لَهٗ اِلَّا عَلٰى مَنْ سَلَبْتَ عَنْهُ نُوْرَ

طرح کا تسلط اور غلبہ کیونکہ نہیں اس کے لیے قوت تصرف مگر صرف ان لوگوں پر جن سے تو چھین لے نور

التَّوْفِيْقِ وَخَذَلْتَهٗ وَلَا يَقْرُبُ اِلَّا مِنْ قَلْبٍ حَجَبْتَهٗ عَنْكَ

توفیق کو اور اسے محروم اعانت کردے۔ اور وہ نہیں قریب ہوتا مگر اسی قلب کے جس کو حجاب میں کردے اپنی ذات سے

بِالْغَفْلَةِ وَاَهَنْتَهٗ وَاَمَتَّهٗ اِلٰهَنَا فَمَا حِيْلَةُ الْعَبْدِ وَاَنْتَ تُقْعِدُهٗ

بسبب اس کی غفلت کے اور اس کی تذلیل کرے اور اسے موت سے ہمکنار کردے۔ اے ہمارے الٰہ پس کیا چارہ ہے بندے کیلئے (تیرے تک رسائی کا) جبکہ

وَمَا وُصُوْلُهٗ وَاَنْتَ تُبْعِدُهٗ هَلِ الْحَرَكَاتُ وَالسَّكَنَاتُ اِلَّا بِاِذْنِكَ

تو بٹھادے اسے۔ اور کیا صورت ہے اس کے وصال کی جبکہ تو دور کردے اسے۔ نہیں ہیں حرکات و سکنات مگر ساتھ تیرے اذن و توفیق کے

وَلَيْسَ مُنْقَلَبُ الْعَبْدِ وَمَثْوَاهُ اِلَّا بِعِلْمِكَ اِلٰهَنَا فَاجْعَلْ حَرَكَاتِنَا

اور نہیں بندے کا پلٹنا اور ٹھہرنا مگر ساتھ تیرے علم کے۔ اے ہمارے معبود پس کردے ہمارے حرکات

وَسُكُوْنَنَا اِلَيْكَ وَشُكْرَنَا لَكَ وَاقْطَعْ جَمِيْعَ جِهَاتِنَا بِالتَّوَجُّهِ اِلَيْكَ

و سکنات کو متوجہ طرف اپنے۔ اور ہمارے شکر کو مخصوص واسطے اپنے اور منقطع فرمادے ہماری تمام توجہات کو بسبب متوجہ کرنے کے طرف اپنے

وَاجْعَلِ اعْتِمَادَنَا فِيْ كُلِّ الْاُمُوْرِ عَلَيْكَ فَمَبْدَأُ الْاَمْرِ مِنْكَ رَاجِعٌ

اور بنا تو ہمارے تمام امور میں اعتماد اور بھروسہ صرف اپنی ذات پر کیونکہ ہر امر کی ابتداء بھی تجھی سے ہے اور اس کا مرجع و مآل بھی

اِلَيْكَ اِلٰهَنَا اِنَّ الطَّاعَةَ وَالْمَعْصِيَةَ سَفِيْنَتَانِ سَائِرَتَانِ بِالْعَبْدِ

تیری ذات ہی ہے۔ اے ہمارے معبود برحق بیشک طاعت اور معصیت دو کشتیاں ہیں جو بندے کو لے کر رواں دواں ہیں

فَالْعَبْدُ فِيْ بَحْرِ الْمَشِيْئَةِ اِلٰى سَاحِلِ السَّلَامَةِ وَالْهَلَالِ فَالْوَاصِلُ

لہٰذا ہر بندہ تیری مشیئت کے سمندر میں سلامتی کے ساحل یا ہلاکت کے (بھنور) کی طرف متوجہ ہے پس جو

اِلٰی سَاحِلِ السَّلَامَۃِ ھُوَ السَّعِیْدُ الْمُتَقَرِّبُ وَذُو الْھَلَاکِ ھُوَ الشَّقِیُّ
سلامتی کے ساحل تک واصل ہونے والا ہے وہی سعادت مند اور مقرب بارگاہ ہے۔ اور جو ہلاک ہونے والا ہے وہی بدبخت ہے
الْمُبْعَدُ وَالْمُعَذَّبُ اِلٰھَنَا اَمَرْتَ بِالطَّاعَۃِ وَنَھَیْتَ عَنِ الْمَعْصِیَۃِ
اور بارگاہ قرب سے دھتکارا ہوا اور مبتلاء عذاب ہے۔ اے ہمارے معبود تو نے حکم دیا اطاعت کا اور منع فرمایا معصیت سے
وَقَدْ سَبَقَ تَقْدِیْرُھُمَا وَالْعَبْدُ فِیْ قَبْضَۃِ تَصَرُّفِکَ زِمَامُہٗ فِیْ یَدِکَ
اور دونوں (طاعت و معصیت) کے متعلق تیری تقدیر وارد ہو چکی ہے ماضی میں اور بندہ تیرے قبضہ قدرت و تصرف میں ہے اس کی باگ ڈور تیرے
تَقُوْدُہٗ اِلٰی اَیِّھِمَا شِئْتَ وَقَلْبُہٗ بَیْنَ الْاِصْبَعَیْنِ مِنْ اَصَابِعِکَ تُقَلِّبُہٗ
ہاتھ میں ہے کھینچتا ہے تو اسے ان دو میں سے جس کی طرف چاہے اور اس کا دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے تو اسے الٹا پلٹتا ہے
کَیْفَ شِئْتَ اِلٰھَنَا فَثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰی مَآ اَمَرْتَنَا وَجَنِّبْنَا عَمَّا نَھَیْتَنَا
جس طرح چاہے۔ اے ہمارے خدا پس ثابت رکھ ہمارے قلوب کو اپنے اوامر پر اور ہمیں دور کر دے اپنے نواہی سے
عَنْہُ فَاِنَّہٗ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِکَ سُبْحَانَکَ لَآ اِلٰہَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَ الْخَلْقَ
کیونکہ صورت حال واقعی یہ ہے کہ نہیں پھرنا (معصیت سے) اور نہ قوت و طاقت (طاعت کی) مگر ساتھ تیری توفیق کے۔ پاک ہے تو نہیں کوئی معبود برحق سوا تیرے
قِسْمَیْنِ وَفَرَّقْتَھُمْ فَرِیْقَیْنِ فَرِیْقٌ فِی الْجَنَّۃِ وَفَرِیْقٌ فِی السَّعِیْرِ ؕ
تو نے مخلوق کو دو قسم پر پیدا فرمایا اور انہیں دو گروہوں میں منقسم فرمایا۔ ایک فریق جنت میں ہے اور دوسرا فریق بھڑکتی آگ میں ہے۔
ھٰذَا حُکْمُکَ عَدْلٌ وَّتَقْدِیْرُکَ حَقٌّ وَّسِرُّکَ غَامِضٌ فِیْ ھٰذَا الْخَلْقِ وَ
یہ تیرا حکم اور فیصلہ سراسر عدل ہے اور تیری تقدیر برحق ہے۔ اور تیرا ستر اور راز باریک اور مخفی ہے اس خلق و ایجاد میں۔ اور
مَا نَدْرِیْ مَا یُفْعَلُ بِنَا فَافْعَلْ بِنَا مَآ اَنْتَ اَھْلُہٗ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا
ہم نہیں جانتے (بذات خود) جو ہمارے ساتھ کیا جائے گا پس کر تو ہمارے ساتھ وہ سلوک کہ جس کا تو اہل اور حقدار ہے۔ اور نہ سلوک فرما ہمارے
نَحْنُ اَھْلُہٗ فَاِنَّکَ اَھْلُ التَّقْوٰی وَاَھْلُ الْمَغْفِرَۃِ اِلٰھَنَا فَاجْعَلْنَا
ساتھ ایسا جس کے ہم سزاوار ہیں کیونکہ بے شک تو ہی لائق ہے اس کے کہ ڈرا جائے تجھ سے۔ اور لائق ہے امید مغفرت کے۔ اے ہمارے معبود پس بنا ہمیں
مِنْ خَیْرِ فَرِیْقٍ وَّمِمَّنْ سَلَکَ الْاَیْمَنَ فِی الطَّرِیْقِ مِنَ الْاٰخِرَۃِ وَ
بہترین فریق سے اور ان لوگوں سے جو چلنے والے ہیں بہت امن والی راہ پر آخرت کے راستوں سے۔ اور

اِرْحَمْنَا بِرَحْمَتِکَ وَاعْصِمْنَا بِعِصْمَتِکَ لِنَکُوْنَ مِنَ الْفَآئِزِیْنَ وَدُلَّنَا
رحم فرما ہم پر اپنی مخصوص رحمت سے اور محفوظ فرما ہمیں اپنی خاص عصمت سے تاکہ ہو جائیں ہم کامیاب لوگوں سے۔ اور ہماری رہنمائی
عَلَیْکَ لِنَکُوْنَ مِنَ الْوَاصِلِیْنَ ۚ اِنَّ وَلِیِّیَ اللّٰہُ الَّذِیْ نَزَّلَ الْکِتَابَ
فرما اپنی ذات کی طرف تاکہ ہو جائیں ہم واصلین میں سے۔ بیشک میرا یار و مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی
وَھُوَ یَتَوَلَّی الصّٰلِحِیْنَ ۚ فَاللّٰہُ خَیْرٌ حَافِظًا ۠ وَّھُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ ۚ
اور وہ متولی ہے نیکوکاروں (کے امور) کا۔ پس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمُجِیْبِ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ قبول کرنے والے ہیں (دعوت)
لِمَنْ دَعَاہُ وَکَفَاہُ اللّٰہُ وَاٰوَاہُ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
ہر اس شخص کی جو انہیں دعوت دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کفایت کی ہے اور انھیں اپنی پناہ اور امان دی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا
وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ النَّدٰی وَعَلَمِ الْھُدٰی اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا سخاوت کے سمندر ہیں اور ہدایت کے علم و نشان ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج
عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَھْجَۃِ الدَّارَیْنِ اَللّٰھُمَّ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ دارین کی رونق اور بہار ہیں۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِلَّۃِ التَّکْوِیْنِ
صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ ایجاد کونین کی علت (باعثہ و غائیہ) ہیں
اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَظْھَرِ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ مظہر ہیں تحکیم کا
التَّحْکِیْمِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
(فیصلہ کیلئے امور کی سپردگی کا)۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو
یَنْبُوْعِ النَّعِیْمِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا
آقا کہ سرچشمہ ہیں (دنیوی اور اخروی) نعمتوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

الكواكب تؤنسه في الظلام وصل على سيدنا محمد الذي كان
انس مہیا کرتے تھے تاریکیوں میں ۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ
عين الله تحرسه في اليقظة والمنام وصل على سيدنا محمد الذي
اللہ تعالیٰ کی نظرِ عنایت جن کی حفاظت و نگہداشت کرتی تھی بیداری میں اور نیند میں ۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ
كانت الملٰئكة تقف صفوفا تنتظر في نوره وهو في ظهر ادم من قبل
تھے ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوتے دراں حالیکہ وہ دیکھ رہے ہوتے تھے آپ کے نور کو جبکہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے قبل اس
ان تخلق العوالم وصل على سيدنا محمد الذي انشاه الله في اشرف
کے کہ پیدا کئے جاتے سارے جہان ۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا شرف اور بزرگی میں بلندتر
بلاده من عباده وصل على سيدنا محمد الذي لما حملت به
شہر میں اپنے (بزرگی والے) بندوں سے ۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جب حاملہ ہوئیں ساتھ ان کے
امه نطقت كل دابة لقريش بالبيت وصل على سيدنا محمد
ان کی والدہ ماجدہ تو کلام کیا قریش کے ہر جانور نے بیت حرام اور حرم مکہ میں ۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ
الذي غرسه الله من اطيب المناصب وصل على سيدنا محمد
جن کے سروناز کو اگایا اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ ترین محل و مکان میں ۔ اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر
الذي انتخبه الله من ظهور النجباء وبطون النجائب وصل على
کہ جنہیں منتخب فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمدہ لوگوں کی پشتوں سے اور شرافت مآب عورتوں کے بطون سے ۔ اور صلواۃ بھیج
سيدنا محمد الذي اشرقت بظهوره الغياهب والخنادس وصل
سیدنا محمد پر کہ جن کے ظہور سے جگمگا اٹھے ظلمات اور تاریکیاں ۔ اور صلواۃ بھیج
على سيدنا محمد الذي تساقطت ببعثته الاصنام من اعلى
سیدنا محمد پر کہ گر پڑے جن کی بعثت سے اصنام و اوثان اپنے بلند
المجالس وصل على سيدنا محمد الذي اشرقت بظهوره الارض
مقامات سے (منہ کے بل) اور صلواۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ روشن ہوگئی جن کے ظہور کی بدولت زمین

محمد مفتاح العلا وكريم المجتلا اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد کی آل پر جو آقا کہ بلندیوں اور رفعتوں کی چابی اور سبب کامل ہیں اور بزرگ و بلند مرتبت چہرے اور جلوہ گاہ والے ہیں ۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج
محمد وعلى ال سيدنا محمد مقلة الامكان وموضع الامان اللهم
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ آنکھ ہیں عالم امکان کی اور جائے امان ہیں (ہر ایک کی) ۔ اے اللہ
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد روضة النعيم
صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سراسر باغ ہیں نعمتوں کے ۔
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ذروة
اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ عظیم شرف اور
الشرف الجسيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال
بزرگی کی بلند چوٹی ہیں ۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا
سيدنا محمد سلوة المحزون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
محمد کی آل پر جو آقا کہ سراسر تسلی و اطمینان ہیں غمزدگان کے لیے ۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر
وعلى ال سيدنا محمد مطلع النور المكنون اللهم صل وسلم
اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ جائے طلوع و ظہور ہیں مکنون و مستور نور کی ۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج
على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عالي المجد والسند
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ بلند بزرگی والے ہیں اور عالی مرتبت سہارا ہیں ۔
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الذي
اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ
قام بالمعنى وبالاسم اتحد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
قائم ہوئے ساتھ معنیٰ و حقیقت کے اور اسم کے ساتھ اتحاد اور ربط کامل قائم کیا ۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر
وعلى ال سيدنا محمد رقم الطراز الاول ومجمع النوال الاكمل
اور سیدنا محمد کی آل پر جو نشان و علامت ہیں نقش و نگار اول کی اور محل اجتماع ہیں عطاء اکمل کا ۔

وَنُرْهَا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ تَهَدَّمَتْ بِبِعْثَتِهٖ صَوَامِعُ

(اوپر سے بھی) اوراس کا نچلا پانی میں ڈوبا ہوا طبقہ بھی اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ منہدم ہو گئیں جن کی بعثت سے عبادت گاہیں

الْكُهَّانِ وَزَالَ بِنَاءُهَا وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ اَخَذَ اللّٰهُ عَلٰى

کاہنوں کی اور نیست ونابود ہو گئیں بنیادیں ان کی۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ لیے اللہ تعالیٰ نے

اٰدَمَ الْمَوَاثِيْقَ وَالْعُهُوْدَ اَنْ لَّا يَدَعَ نُوْرَهٗ اِلَّا فِىْ اَهْلِ الْكَرَمِ وَ

حضرت آدم علیہ السلام سے عہد وپیمان کہ نہ ودیعت کریں ان کے نور کو مگر اہل کرم اور

الْجُوْدِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ لَمْ يَزَلْ نُوْرُهٗ يَنْتَقِلُ

ارباب جود ہیں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کا نور اقدس ہمیشہ منتقل ہوتا رہا

مِنْ ظُهُوْرِ الْاَخْيَارِ اِلٰى بُطُوْنِ الْخَيِّرَاتِ وَالْاَحْرَارِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

پاکیزہ سیرت لوگوں کی پشتوں سے پاکیزہ سیرت اور شریف عورتوں کے ارحام کی طرف اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدِ الَّذِىْ اَوْصَلَ نُوْرَهٗ يَدُ الشَّرَفِ وَالْمَكَارِمِ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ وَ

محمد پر کہ جن کے نور انور کو پہنچایا شرافتوں اور بزرگیوں کے ہاتھ نے حضرت عبداللہ تک اور

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ اُلْبِسَ بِهٖ عَبْدُ اللّٰهِ ثَوْبَ الْبَهَاءِ

صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت حضرت عبداللہ کو پہنایا گیا حسن وخوبی کا

وَالْمَلَاحَةِ فَنَطَقَ بِالْبَيَانِ وَالْفَصَاحَةِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

لباس۔ پس انہوں نے کلام کیا واضح اور فصیح (زبان) کے ساتھ۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِىْ نُوْدِىَ عَبْدُ اللّٰهِ فِيْهِ اَدِّ مَا حَمَلْتَ مِنَ الْوَدِيْعَةِ اِلٰى اَحْشَاءِ

کہ حضرت عبداللہ کو ندا دی گئی ان کے متعلق کہ پہنچا دیجئے وہ امانت جو تم نے اُٹھا رکھی ہے طرف بلند مرتبت

اٰمِنَةَ الْمَنِيْعَةِ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ اُلْقِىَ فِىْ طِيْنَتِهٖ

آمنہ کی انتڑیوں (اوررحم) کے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ ڈالا گیا ان کی طینت اور خمیر ازلی میں

النُّوْرُ الَّذِىْ سَبَقَ فَخْرُهٗ وَتَقَادَمَ وَصْفُهٗ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

وہ نور جس کی شان فخر وناز گزر چکی اور پہلے بیان ہو چکا ہے وصف اس کا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدِ الَّذِىْ اُوْدِعَتْ طِيْنَتُهٗ فِىْ ظَهْرِ اَبِيْهِ اٰدَمَ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

محمد پر کہ ودیعت کی گئی ان کی طینت ان کے والدگرامی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اقدس میں اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدِ الَّذِىْ رَاٰى خُرُوْجَ النُّوْرِ مِنْ اُمِّهٖ حَتّٰى اَضَاءَ لَهَا قُصُوْرَ

محمد پر کہ جنہوں نے دیکھا نور کا برآمد ہونا ان کی والدہ ماجدہ سے حتیٰ کہ روشن کردئے اس نور نے ان کیلئے

الشَّامِ وَرَاٰى بَيْنَ عَيْنَىْ اِسْرَافِيْلَ كُلَّ شَىْءٍ اُنْزِلَ عَلَيْهِ قَبْلَ

شام کے محلات اور مشاہدہ فرمایا آپ نے حضرت اسرافیل کی لوح جبین پر ہر اس شئی کو جو نازل کی گئی آپ پر بعد میں

التَّنْزِيْلِ وَزَارَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ عِنْدَ وِلَادَتِهٖ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

قبل اس کے نازل کئے جاتے کے اور زیارت کی ان کی ملائکہ نے ان کی ولادت باسعادت کے وقت اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدِ الَّذِىْ جَاءَتِ الْوُحُوْشُ وَالطُّيُوْرُ لِبَابِهٖ مُنْقَادَةً وَصَلِّ عَلٰى

محمد پر کہ حاضر ہوئے جنگلی جانور اور پرندے ان کے درِ اقدس پر تابعدار بن کر۔ اور صلوٰۃ بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ نَزَلَتِ النُّجُوْمُ عِنْدَ وِلَادَتِهٖ عَلَى السُّقُوْفِ وَ

سیدنا محمد پر کہ اترے ستارے ان کے وقت ولادت میں مکانوں کی چھتوں پر (ان کے دیدار کے لیے) اور

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ رَفَعَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ تَدُوْرُ بِهٖ عَلَى الْخَلَآئِقِ

صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں اُٹھا لیا ملائکہ نے دراآنحالیکہ آپ کو پھراتے تھے مخلوقات پر اور

وَتَطُوْفُ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ كَانَ اَوْفَى النَّاسِ بِالْعَهْدِ

طواف کراتے تھے (دیدار کرانے کے لیے) اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جو سب سے زیادہ پورا کرنے والے تھے عہد کے

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ صَامَ رَمَضَانَ فِى الْمَهْدِ وَصَلِّ

اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے عالم مہد میں۔ اور صلوٰۃ بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَلِيْسِ الْاَسْلَافِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ نرم خو اور تابعدار اسلاف والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ ابن عبد اللہ بن عبد المطلب

ابنِ هاشمِ بنِ عبدِ منافٍ اللّٰهمّ صلِّ علیٰ سیّدِنا محمّدٍ وّعلیٰ اٰلِ
بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی
سیّدِنا محمّدِ بنِ قصیّ بنِ کلابِ بنِ مرّۃَ اللّٰهمّ صلِّ علیٰ سیّدِنا
آل پر جو آقا کہ لخت جگر ہیں قصی بن کلاب بن مرہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا
محمّدٍ وّعلیٰ اٰلِ سیّدِنا محمّدِ بنِ کعبِ بنِ لؤیّ بنِ غالبٍ اللّٰهمّ
محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ فرزند ارجمند ہیں کعب بن لوی بن غالب کے۔ اے اللہ
صلِّ علیٰ سیّدِنا محمّدٍ وّعلیٰ اٰلِ سیّدِنا محمّدِ بنِ فِهرِ بنِ مالكِ بنِ نضرَ
صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ نور نظر ہیں فہر بن مالک بن نضر کے
اللّٰهمّ صلِّ علیٰ سیّدِنا محمّدٍ وّعلیٰ اٰلِ سیّدِنا محمّدِ بنِ کنانۃَ بنِ
اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ فرزند دلبند ہیں کنانہ بن
خزیمۃَ بنِ مدرکۃَ اللّٰهمّ صلِّ علیٰ سیّدِنا محمّدِ بنِ الیاسِ بنِ
خزیمہ بن مدرکہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جو لخت جگر ہیں الیاس بن
مضرِ بنِ نزارٍ اللّٰهمّ صلِّ علیٰ سیّدِنا محمّدٍ وّعلیٰ اٰلِ سیّدِنا محمّدِ
مضر بن نزار کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر
بنِ معدّ بنِ عدنانَ بنِ اُودَ اللّٰهمّ صلِّ علیٰ سیّدِنا محمّدٍ وّعلیٰ
جو بیٹے ہیں معد بن عدنان بن اود کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد
اٰلِ سیّدِنا محمّدِ بنِ اُودِ بنِ همیعِ بنِ سلامانَ اللّٰهمّ صلِّ علیٰ
کی آل امجاد پر جو کہ قابل فخر پسر ہیں اود بن ہمیع بن سلامان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج
سیّدِنا محمّدٍ وّعلیٰ اٰلِ سیّدِنا محمّدِ بنِ ثابتِ بنِ حملِ بنِ قیذارٍ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ لخت جگر ہیں ثابت بن حمل بن قیدار کے
اللّٰهمّ صلِّ علیٰ سیّدِنا محمّدٍ وّعلیٰ اٰلِ سیّدِنا محمّدِ بنِ اسمٰعیلَ
اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ نور نظر ہیں حضرت اسماعیل

ابنِ ابراهیمَ بنِ اٰزرَ اللّٰهمّ صلِّ علیٰ سیّدِنا محمّدٍ وّعلیٰ اٰلِ سیّدِنا
بن ابراہیم بن آذر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی
محمّدِ بنِ ناخورَ بنِ شاروخَ بنِ ارغوَ اللّٰهمّ صلِّ علیٰ سیّدِنا محمّدٍ وّ
آل پر جو کہ نور چشم ہیں ناخور بن شاروخ بن ارغو کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور
علیٰ اٰلِ سیّدِنا محمّدِ بنِ فالغَ بنِ غابرَ بنِ ارفخشذَ اللّٰهمّ صلِّ علیٰ
سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ قرۃ العین ہیں فالغ بن غابر بن ارفخشد کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج
علیٰ سیّدِنا محمّدٍ وّعلیٰ اٰلِ سیّدِنا محمّدِ بنِ سامِ بنِ نوحِ بنِ لامكَ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ راحت جان ہیں سام بن نوح بن لامک کے
اللّٰهمّ صلِّ علیٰ سیّدِنا محمّدٍ وّعلیٰ اٰلِ سیّدِنا محمّدِ بنِ متوشلحَ
اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سرور قلب ہیں متوشلح
ابنِ اخنوخَ بنِ بیاردَ بنِ مهلائیلَ اللّٰهمّ صلِّ علیٰ سیّدِنا محمّدٍ
بن اخنوخ بن بیارد بن مہلائیل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر
وّعلیٰ اٰلِ سیّدِنا محمّدِ بنِ قینانَ بنِ انوشَ بنِ شیثَ بنِ اٰدمَ
اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ ولد عزیز ہیں قینان بن انوش بن شیث بن آدم کے
صلّی اللّٰهُ علیٰ نبیّنا وسیّدِنا محمّدٍ وّعلیٰ جمیعِ الانبیاءِ والمرسلینَ
اللہ تعالیٰ درود و صلوٰۃ بھیجے ہمارے نبی و آقا محمد پر اور آپ کے آباء و اجداد میں سے جتنے انبیاء و مرسلین ہیں
منهم وعلیهمُ السّلامُ اللّٰهمّ صلِّ علیٰ سیّدِنا محمّدٍ وّعلیٰ اٰلِ سیّدِنا
ان پر صلوٰۃ بھیجے اور سلام۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا
محمّدِنِ المخاطبِ بقولِ من ایّدہ اللّٰهُ بروحِ القدسِ من عندہٖ
محمد کی آل پر جو محبوب کہ مخاطب ہیں اس قول کے جن کی تائید فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ساتھ روح القدس کے
اِنّآ اَوحینآ اِلیكَ کما اَوحینآ اِلیٰ نوحٍ وّالنّبیّینَ من بعدہٖ صلّی
بے شک ہم نے وحی نازل کی ہے طرف تمہارے جیسے کہ وحی نازل کی ہم نے طرف (حضرت) نوح کے اور ان کے بعد والے انبیاء کے صلی

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ فِىْ اِبْتِدَآئِىْ وَانْتِهَآئِىْ وَ

اللہ علیہ و علیہم وسلم ۔ اے اللہ بے شک میں توسل کرتا ہوں تیری طرف اپنی ابتداء اور اپنی انتہاء میں اور

لَآ اُظْهِرُ لِغَيْرِكَ رَجَآئِىْ يَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ وَالسَّرَآئِرِ وَيَا جَامِعَ الشَّتَّاتِ

میں نہیں ظاہر کرتا تیرے غیر پر اپنی امید و رجاء کو اے جاننے والے مخفی امور اور اسرار کے اور اے جمع کرنیوالے مختلف و متفرق امور کے

فِى الْبَصَآئِرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ هُوَ رَافِعٌ لِّلْاِنْسَانِ رَفِيْعُ

عقول و اذہان میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ انسانوں کو رفعت بخشنے والے ہیں (اور) خود بلند مرتبت

الشَّانِ بَدِيْعُ الْبُرْهَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِ

ہیں اور انوکھے برہان والے ہیں ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن سے خطاب کیا گیا

اللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ

اللہ علی عظیم کے اس قول کے ساتھ پس تم تمسک کرو اور چنگل مارو ساتھ اس کے جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف بیشک تم صراط

مُّسْتَقِيْمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى

مستقیم پر ہو ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ نہیں جھٹلایا ان کے دل نے جو دیکھا ان کی آنکھوں نے

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى اَعْطِنِىْ لَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى

اور نہیں کلام کرتے ایسی جو سرزد ہو خواہش نفس سے نہیں ہے وہ (کلام) مگر وحی جو ان کی طرف نازل کی گئی ۔ عطا کر مجھے اپنے چہرۂ اقدس

وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَآئِكَ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ يَّزِيْدُ وَيُضَاعِفُ بِمَحْضِ

کی طرف نظر کی لذت اور اپنی ملاقات و دیدار کا شوق جو ہر لحظہ و ہر لحظہ بڑھنے اور کئی گنا زائد ہونے والا ہو محض اپنے

فَضْلِكَ وَاِحْسَانِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاَسْنَا

فضل اور احسان سے ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ بہت نورانی اور روشن نبی ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ الْاَسْمَآءِ الْحُسْنٰى اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ

اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ تیرے اسماء حسنیٰ کا سرِّ نہاں ہیں ۔ اے اللہ بطفیل اپنے اسم اعظم

الْاَعْظَمِ وَبِاَسْمَآئِكَ الْحُسْنٰى وَصِفَاتِكَ الْكُبْرٰى وَكُتُبِكَ الْعُظْمٰى

کے اور اپنے اسماء حسنیٰ کے اور اپنی تمام عظیم صفات کے اور اپنی تمام عظیم کتابوں کے

وَصُحُفِكَ الْعُلْيَا وَنُعُوْتِ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفٰى اِجْعَلْ هٰذِهِ الصَّلَوٰتِ

اور بلند مرتبت صحیفوں کے اور بطفیل اپنے نبی مصطفیٰ کی نعوت و صفات کے بنا ان صلوات کو

مُفَرِّحَاتٍ لِّقُلُوْبِنَا مَانِعَاتٍ لِّمُهْلِكَاتِنَا بَاعِثَاتٍ لِّمُنْجِيَاتِنَا مَاحِيَاتٍ

موجب فرحت و سرور کا واسطے ہمارے قلوب کے اور مانع ہماری ہلاکتوں کے اسباب کا اور باعث و محرک ہماری نجات کے عوامل کا

لِّذُنُوْبِنَا مُكَفِّرَاتٍ لِّسَيِّئَاتِنَا سَاتِرَاتٍ لِّعُيُوْبِنَا مُضَاعِفَاتٍ لِّحَسَنَاتِنَا نَاصِرَاتٍ

مٹانے والیاں ہمارے گناہوں کو کفارہ بننے والیاں ہمارے سیئات کیلئے چھپانے والیں ہمارے عیوب کو ۔ دوگنا کرنے والیں ہماری نیکیوں کو نصرت دینے

عَلٰى اَعْدَآئِنَا وَفَاتِحَاتٍ لِّمُهِمَّاتِنَا فِى الدَّارَيْنِ وَمُبَرِّعَاتٍ لِّقُبُوْرِنَا

والیں ہیں ہمارے اعداء پر اور حل کرنے والیں ہماری مہمات و مشکلات کو دارین میں ۔ اور روشن کرنے والیں ہماری قبروں کو

وَقَآئِدَاتٍ اِلٰى جَنَّاتِنَا وَبِلِقَآئِكَ رَافِعَاتٍ لِّدَرَجَاتِنَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

اور رہبر ہماری طرف ہماری جنات کے اور تیری لقاء و دیدار کے ۔ بلند کرنیوالیں ہمارے درجات کو بغیر کسی حساب

وَّعَذَابٍ وَّعِتَابٍ بِمَغْفِرَتِكَ وَرَاْفَتِكَ وَفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ وَ

اور عذاب و عتاب کے صدقے میں تیری مغفرت و رافت اور فضل و احسان اور کرم و

رِضْوَانِكَ اَنْتَ حَسْبِىْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ط نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ط

رضا مندی کے ، تو ہی کافی ہے مجھے اور اچھا کارساز ہے ، اچھا متولی و سرپرست اور بہترین مددگار ہے

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اے رب ہمارے اور طرف تیری ہی بازگشت اور رجوع ہے اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّدَدِ السُّوْدِ وَسِرِّ الْوُجُوْدِ عَبْدِ اللهِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سراپا مدد و اعانت ہیں سرداروں کے لیے اور سرِّ وجود ہیں ، اللہ تعالیٰ کے

الْاَمِيْنِ وَحِرْزِ اللهِ الْمَتِيْنِ التَّقِىِّ الْمُرَاقِبِ وَالْكَلِيْمِ الْمُخَاطَبِ

معتمد علیہ عبد ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مضبوط و مستحکم پناہ ہیں ۔ سراپا تقویٰ ہیں اور نگہبان اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے اور اسکے

وَالْهَدِيَّةِ الْمُهْدَاةِ وَالسَّابِقِ لِلْخَيْرَاتِ وَالْبُرْهَانِ السَّاطِعِ وَالدَّلِيْلِ

مخاطب ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہدیہ ۔ نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے اور سراپا غالب برہان اور قطعی دلیل ،

الْقَاطِعِ وَالْبَرَكَةِ الشَّامِلَةِ وَالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ الْاَوَّلِ فِي الْخَلْقِ وَالْاٰخِرِ
ایسی برکت جو سب کو محیط ہے اور ایسی شہادت جو سراسر عدالت ہے، جو اول ہیں تخلیق و ایجاد میں اور آخر ہیں
فِي الْبَعْثِ بِالْحَقِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ
حق کے ساتھ مبعوث ہونے میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَمَرِ الدَّيَاجِيْ وَالشَّهِيْدِ النَّاجِيْ وَ رَسُوْلِ الرَّاْفَةِ وَ قُثَمِ
کی آل پر جو آقا کہ شبہائے تاریک کے لیے روشن چاند ہیں اور نجات پانیوالے شہید اور احوال اُمت پر مطلع گواہ اور رسول رافت،
التُّحْفَةِ الْمَاحِيْ شُبَهِ الضَّلَالَةِ وَالصَّادِقِ الْمَقَالَةِ فَاتِحِ سُبُلِ
بہت سخی، اللہ تعالیٰ کا تحفہ و ہدیہ، ضلالت کے شبہات کو مٹانے والے۔ سچی کلام اور گفتگو والے۔ آغاز کرنے والے
الْهُدٰى وَخَاتِمِ سُنَنِ الْاِقْتِدَاءِ وَالْاِهْتِدَاءِ رُوْحِ الْعَوَالِمِ وَخُلَاصَةِ
ہدایت کی راہوں کا۔ اور تکمیل کرنیوالے ہیں قابلِ اقتداء و اہتداء و سنن کی، جو تمام جہانوں کیلئے روح کی مانند ہیں اور جوہر و خلاصہ ہیں
طِيْنَةِ اٰدَمَ مِفْتَاحِ خَزَآئِنِ الْحِكْمَةِ وَسِرِّ خَصَآئِصِ الرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ
حضرت آدم علیہ السلام کی طینت و خمیر کا۔ حکمت کے خزائن کی چابی ہیں اور رحمت و برکت کے خصائص کا سرِّ نہاں ہیں
الدُّرَّةِ الْفَاخِرَةِ وَطِيْبِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ بَابِ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ وَصِرَاطِهِ
قابلِ فخر دُرِّ یکتا۔ دنیا و آخرت کی پاکیزگی اور خوشبو۔ اللہ تعالیٰ کے حریمِ ناز کے عظیم دروازے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا بہت سیدھا
الْاَقْوَمِ ذَخِيْرَةِ الْاَنَامِ وَكَهْفِ الْاَرَامِلِ وَالْاَيْتَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
راستہ مخلوق کے لیے (انعاماتِ خداوندی کا) ذخیرہ اور بیوگان و یتامیٰ کی جائے پناہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام
عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْحَكَمِ الْعَادِلِ وَالْمُفَرِّقِ
بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ عادل حاکم ہیں اور تفریق کرنے والے ہیں
بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالنَّجِيِّ الْفَآئِزِ وَالْعَفُوِّ الْمُتَجَاوِزِ مُبِيْدِ الْعِدٰى وَ
درمیان حق و باطل کے اور کامیاب ہمراز اور ہمکلام ہیں اور سراپا عفو اور درگزر ہیں، دشمنوں کو ہلاک کرنے والے اور
رَاْسِ التُّقٰى وَالْعُلٰى غَايَةِ الْقُصْوٰى وَعَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى اَكْرَمِ بَنِيْ
عالی مرتبت لوگوں اور متقیوں کے سردار ہیں۔ بلندیٔ مراتب کی آخری حد ہیں اور ان کو تعلیم دی ہے شدید قوتوں والے نے تمام نوعِ انسانی

اٰدَمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُكْنِ الْمُتَوَاضِعِيْنَ اَللّٰهُمَّ
سے بزرگتر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ تواضع اور انکساری کرنے والوں کے سرو سامان عزت اور قوت ہیں اے اللہ
اجْعَلْنِيْ هَيِّمًا اِلَى الْمُشَاهَدَاتِ النَّفْسِيَّةِ عَرْضًا فَعَرْضًا فَاجْعَلْنِيْ
بنادے مجھے بہت زیادہ مشتاق اور محب مشاہدات نفسیہ کا جو یکے بعد دیگرے پیش آنے والے ہوں پس بنا دے مجھے
بَطْنًا مِّنَ الْمُسْتَوْدَعَاتِ الَّتِيْ اَوْدَعْتَهَا فِيْهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا وَّ
بطن اور ظرف ان ودیعتوں اور امانتوں کا جو تو نے ودیعت کی ہیں نفوس میں پھر بنادے انہیں میرے لیے خوشگوار اور لذیذ اور
لَا تَجْعَلْنِيْ حَزِيْنًا عِنْدَ رُؤْيَتِهَا وَلَا تَجْعَلْهَا فَانِيَةً بَلِ اجْعَلْنِيْ مُنْتَفِعًا
نہ بنا تا مجھے غمگین ان کے دیدار پر اور نہ ان مشاہدات کو فنا پذیر بنانا بلکہ بنانا مجھے نفع اندوز
وَّمُفَرَّحًا بِهَا وَذِيْ عِزٍّ وَّجَاهٍ عِنْدَ وُرُوْدِهَا وَحُصُوْلِهَا وَاَعْرِضْنِيْ عَنِ
اور شاداں و فرحاں ساتھ ان کے اور عزت و مرتبت والا ان کے ورود و حصول کے وقت اور مجھے ہٹادے اور دور کردے
الْعَقَبَاتِ الْقَالَبِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ الَّتِيْ ظَهَرَتْ مِنَ الْاٰثَارِ الْحِسِّيَّةِ وَ
بدنی اور نفسانی عقبات اور دشوار گھاٹیوں سے جو ظاہر ہوئیں حسی اور ذہنی آثار
الذِّهْنِيَّةِ الْعَادِيَةِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْحِسِّ وَالنَّفْسِ وَمِنَ الْعَقْلِيَّةِ
عادیہ سے جو فرق کرنے والے ہیں درمیان حس اور نفس کے اور عقلی
وَالْقَلْبِيَّةِ ثُمَّ السِّرِّيَّةِ الْقُدْسِيَّةِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَآءِ وَ
اور قلبی آثار سے پھر سری قدسی آثار سے جو فرق کرنے والے ہیں درمیان خوف و رجاء کے اور
السِّرِّ وَالْجَهْرِ وَالْفَنَآءِ وَالْبَقَآءِ وَالْقَبْضِ وَالْبَسْطِ وَالصَّحْوِ وَالسُّكْرِ وَ
اخفاء و جہر کے اور فناء و بقاء کے اور درمیان طبیعت کے انقباض اور انبساط کے اور درمیان ہوشیاری اور مدہوشی
الْكَوْنِ وَالْعَدَمِ وَالرُّوْحِيَّةِ فَسَلِّطْ عَلَيَّ اٰثَرَهُ بَلْ اَسْرِعْنِيْٓ اِلَى
کے اور وجود و عدم کے اور روحی آثار کے پس مسلط فرما مجھ پر اس کے آثار کو بلکہ مجھے جلدی لے جا طرف
الْمَلَكُوْتِ ثُمَّ اِلَى الْجَبَرُوْتِ ثُمَّ اِلَى الْاِسْتِغْرَاقِ فِيْ قُدْسِكَ وَ
ملکوت اور عالم بالا کے۔ پھر طرف جبروت اور صفات جلال کے پھر طرف استغراق کے اپنی ذات مقدسہ میں اور

مطالعات شهودك وطهر قلبي وزك نفسي ثمة بحيث تلتذ

اپنے شہود و حضور کے مطالعات میں اور پاک فرما میرے دل کو اور منزہ فرما میرے نفس کو اس مقام پر اس طرح پر کہ لذت وحلاوت

التذاذا او يعن المقام له عنتا ولا يعفن عفنا فيضمحل ويتخلل

محسوس کرے اس مقام میں اور وہ مقام خود اس کو پیش آئے اور اس پر فاسد و تباہ نہ ہو تاکہ سست اور ناکارہ ہو جائے اور اپنے مقام سے ہٹ

عند الطلعات الجلالية وسخر لي النفوس العالية التي ابدأتها

جائے وقت رونما ہونے تجلیات جلالیہ کے اور مسخر فرما میرے لیے نفوس عالیہ کو کہ جنہیں تونے پیدا فرمایا

ان تكون حائلة حاضرة متحملة لتلك الطلعات العالية لئلا

کہ ہوں حائل اور رکاوٹ حاضر و موجود (درمیان نفوس انسانیہ ناقصہ اور ان تجلیات کے) جو خود متحمل ہوں ان تجلیات عالیہ کے تاکہ

يكون شخصي ونفسي عتبا ولا عبثا ولا مبدلا من صورة

نہ ہو میرا شخص اور نہ میرا نفس محل عتاب اور نہ عبث و بے فائدہ اور نہ ہی تبدیل کیا ہوا ہو صورت

انسانية ونفس حيوانية الى صورة ادون من ذلك فتسخرو

انسانی اور نفس حیوانی سے (بطور مسخ کے) طرف ایسی صورت کے جو اس سے کمتر اور حقیر ہو پس تمسخر اور

تستهزئ بي العلويات اللهم انت الملك الجواد البر الرءوف

استہزاء کریں ساتھ میرے عالم بالا کے مکین نفوس عالیہ - اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے جو بہت جود و احسان اور رأفت

الرحيم وقد صيرت العزازيل ملكا معلما مع القدر والفخامة

ورحمت والا ہے اور تحقیق بنایا تھا تونے عزازیل کو فرشتہ جو تعلیم دیتا تھا بڑی قدر و منزلت اور عظمت کے ساتھ موصوف ہوتے

ثم اسررت فيه طغومات النارية الاصلية فغفل عن الهيئة

ہوئے پھر تونے چھپادیں اس میں حماقتیں اور کمینگیاں اس کے جوہر ناری کی - پس وہ غافل ہو گیا اپنی گھٹیا اور

الاولى الدنية الذميمية في الهيئة الثانية حتى طغى فجرد من

مذموم ہیئت سے دوسری ہیئت ملکیہ میں منہمک ہو کر یہاں تک کہ اس نے سرکشی کی ۔ پس وہ ملکی

اللباس والمقام واستحق اللعن ومثله الهاروت والماروت

لباس سے برہنہ کر دیا گیا اور اس منصب معلمی سے الگ کر دیا گیا اور مستحق ٹھہرا لعنت کا اور اسی کی مانند ہیں ہاروت و ماروت

اللهم انت الفاعل المنزه عن كل الافات وهي مخلوقة ومذللة

اے اللہ تو ہی مؤثر و موجد ہے جو منزہ و پاکیزہ ہے تمام آفات اور رکاوٹوں سے جبکہ وہ تیری ہی پیدا کردہ ہیں اور تیری قدرت کے

تحت قدرتك تسلطها على من اردت بها على حسب اقتضاء

نیچے مغلوب و مقہور ہیں تو مسلط فرماتا ہے انھیں جس پر ارادہ فرمائے ان کے مسلط کرنے کا اپنی الوہیت اور

الوهيتك وحكمتك اللهم انت الغني القوي الواجب وانا عبدك

حکمت کاملہ کے تقاضوں کے مطابق ۔ اے اللہ تو ہی غنی اور قوی ہے اور اپنے آپ موجود ہے وجود ذاتی کے ساتھ اور میں تیرا

الفقير الضعيف الحادث والافات خلقتها قوية وضعيفة

فقیر و محتاج اور ضعیف و ناتواں بندہ ہوں جو تیری ایجاد سے خلعت وجود پہنے ہوئے ہوں اور آفات کو پیدا کیا تونے اس حال میں کہ بعض ان کی

بالنسبة فلا استطيع تحملها اللهم انت القادر على ان

قوی ہیں اور بعض بنسبت ان کے ضعیف پس میں نہیں طاقت رکھتا کسی کے بھی برداشت کرنے کی ۔ اے اللہ تو ہی قادر ہے اس پر کہ

تمنعني من افة مركوزة في غذاء او شراب او سارية مع

مجھے دور رکھے اس آفت سے جو گڑی ہوئی ہے غذا میں یا مشروب میں یا سرایت کرنے والی ہے ساتھ

نفس الى مائة وعشرين سنة حتى تكمل معرفتي حسب

نفس کے روک رکھے اسے ایک سو بیس سال تک حتی کہ کامل ہو جائے میری معرفت میری طاقت کے

طاقتي وطهر وزك فكري عن اللحن ولساني عن الخطاء فالق

مطابق اور پاکیزہ و منزہ فرما میرے فکر کو غلطی و فساد سے اور میری زبان کو خطا سے پس القاء فرما

فيه حقا واخرج منه حقا انت الحق اللهم صل وسلم على

اس میں حق کا اور اس سے ظاہر فرما حق کو تو ہی حق ہے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سبب الفوز والنجا اللهم

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب گر سبب ہیں کامیابی اور نجات و فلاح کا ۔ اے اللہ

رب اسئلك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك

جو میرا پروردگار ہے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس دن میں جو کچھ ہے اس کی خیر کا اور اس کے مابعد کی خیر کا اور میں پناہ طلب کرتا ہوں

مِنْ شَرِّ مَا فِیْ هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ

اس کے شر سے جو اس دن میں ہے اور اس کے بعد کے شر سے ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت

فِی الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِیْ دِيْنِیْ وَدُنْيَایَ وَ

کا دنیا و آخرت میں اور سوال کرتا ہوں تجھ سے عفو و عافیت کا اپنے دین میں اور دنیا میں اور

فِیْ اَهْلِیْ وَمَالِیْ وَاَسْئَلُكَ صِحَّةً فِیْ اِيْمَانٍ وَّاِيْمَانًا فِیْ حُسْنِ

اپنے اہل اور مال میں ۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے صحت کا مع ایمان کے اور ایمان کا مع حسن

خُلُقٍ وَّنَجَاةً يَّتْبَعُهَا فَلَاحٌ وَّرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَّمَغْفِرَةً مِّنْكَ

خلق کے اور نجات کا جس کے تابع ہو فلاح و کامیابی اور سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا اور عافیت کا ۔ اور تیری مغفرت

وَرِضْوَانًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَيِّدِنَا

ورضامندی کا ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ عِمَادِ مَنْ اِلَيْهِ لَجَا وَالْتَجَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا

آل پر جو محبوب کہ سہارا ہیں ہر اس شخص کا جو ان کی پناہ پکڑے اور ان سے التجا کرے ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس خیر اور بھلائی کا جس

سَئَلَكَ بِهٖ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

کا سوال کیا تجھ سے تیرے نیک بندوں نے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الرِّسَالَةِ وَظَاهِرِ الدَّلَالَةِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ خاتم رسالت ہیں اور جن کی نبوت کے دلائل ظاہر ہیں ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تمام تر خیر اور بھلائی کا جو میں اس سے معلوم کر سکا ہوں اور جو میں نہیں معلوم کر سکا ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

اَمَنَةِ اَصْحَابِهٖ وَمَلَاذِ مَنْ لَّاذَ بِجَنَابِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ

جو اپنے صحابہ کرام کے لیے امان ہیں اور جائے پناہ ہیں ہر اس شخص کی جو پناہ پکڑے ان کی بارگاہ میں ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِیْ لَا يَحُوْلُ وَلَا يَزُوْلُ وَاَسْئَلُكَ الْاَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ

دائمی نعمتوں کا جو نہ تبدیل ہونے والی ہوں اور نہ زائل ہونے والی اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے امن کا خوف کے دن

وَاَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ

اور سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب موجبہ کا اور تیری مغفرت کے حتمی وسائل کا اور ہر

ذَنْبٍ وَّالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَّا تَدَعْ لِیْ ذَنْبًا

گناہ سے تحفظ اور بچاؤ کا اور ہر نیکی سے غنیمت و منفعت کا اور ہر گناہ سے سلامتی کا نہ چھوڑ تو میرے لیے کوئی گناہ

اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا كَرْبًا اِلَّا نَفَّسْتَهٗ وَلَا ضُرًّا اِلَّا

مگر یہ کہ اسے بخش دے ۔ اور نہ غم و اندوہ مگر اس کو دور کر دے اور نہ کرب و کلفت مگر اس کو ہٹا دے ۔ اور نہ کوئی ضرر اور نقصان

كَشَفْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِیَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

مگر اس کو دور کر دے ۔ اور نہ کوئی ایسی حاجت جو تجھے پسندیدہ ہے مگر یہ کہ تو اسے پورا فرما دے ۔ اے ارحم الراحمین ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الرَّحْمَةِ الْعُلْيَا لِلْاَنَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی

جو بلند مرتبت رحمت ہیں واسطے مخلوق کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمِنَّةِ الْعُظْمٰی عَلٰٓی اَهْلِ الْاِسْلَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی آل پر جو محبوب کریم عظیم احسان ہیں (اللہ تعالٰے کا) اہل اسلام پر ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ثِمَالِ الْيَتَامٰی وَعُرْوَةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ یتیموں کے فریاد رس ہیں اور مضبوط سہارا ہیں

الْاَيَامٰی اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَيِّدِنَا

بے خاوند عورتوں کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ السَّابِقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَيِّدِنَا

آل پر جو محبوب کہ سب سے پہلے پیدا کیے جانے والے نور ہیں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّاسِطَةِ الْخَلْقِ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْخَالِقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

محمد کی آل پر جو رسول معظم کہ وسیلہ ہیں مخلوق کے درمیان اور خالق جل وعلیٰ کے درمیان۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُرَّةِ عَيْنِ جِبْرَآئِيْلَ اَللّٰهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب جبرئیل علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ حبیب ہیں۔

اِسْرَافِيْلَ وَمِيْكَآئِيْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْۤ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَ التُّقٰى وَالْعَفَافَ

حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل کے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت وتقویٰ کا۔ اور عفت

وَالْغِنٰى وَاَسْئَلُكَ الثُّبَاتَ فِي الْاَمْرِ وَاَسْئَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ وَ

واستغناء کا۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے ثابت قدمی کا تمام امور میں اور سوال کرتا ہوں محکم اور پائیدار رشد وہدایت کا اور

اَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْۤ اَسْئَلُكَ

سوال کرتا ہوں تیری نعمتوں کے شکر کا اور تیری حسین عبادت (کی توفیق) کا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاَنْ تَغْفِرَ

نیک کاموں کی انجام دہی کا اور برے کاموں کے ترک کا اور مساکین کی محبت کا۔ اور میرے لیے مغفرت

لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ وَاِذَآ اَرَدْتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ

فرمانے اور رحم کرنے کا۔ اور جب تو ارادہ کرے کسی قوم کو فتنہ اور آزمائش میں ڈالنے کا تو مجھے وفات دے دینا در آنحالیکہ فتنہ سے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ

بچایا ہوا ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ رسول ہیں

الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا

پیدا کرنے والے بادشاہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدِ الْمَبْعُوْثِ لِتَتْمِيْمِ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

کی آل پر جن کو مبعوث فرمایا گیا اعلیٰ اخلاق کی تکمیل وتتمیم کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَّفِيْعِ الْجَلَالَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ بلند بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْمُتَحَمِّلِ لِاَعْبَآءِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ اٹھانے والے ہیں رسالت کے بوجھ

الرِّسَالَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْۤ اَسْئَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ

اور اثقال کو۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری خشیت اور خوف کا باطن اور ظاہر میں اور کلمہ

الْاِخْلَاصِ فِي الرِّضَآءِ وَالْغَضَبِ وَاَسْئَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى

اخلاص کا حالت رضا اور غضب میں۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے میانہ روی کا۔ فقر اور غنا میں۔

وَاَسْئَلُكَ نَعِيْمًا لَّا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَّا تَنْقَطِعُ وَاَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ

اور سوال کرتا ہوں ایسی نعمتوں کا جو ختم نہ ہوں اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو منقطع نہ ہو اور سوال کرتا ہوں تجھ سے تمام تر خیر اور

كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا

بھلائی کا جو جلدی میسر ہو یا دیر سے جو میں نے معلوم کر لی ہے یا میں نے نہیں معلوم کی اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے جنت کا اور

قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَّاَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَآءٍ قَضَيْتَهٗ

ایسے قول وعمل کا جو اس کے قریب کرے۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ بنا دے ہر قضا کو جو صادر فرمائی ہے تو نے

لِيْ خَيْرًا وَّاَسْئَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِيْ مِنْ اَمْرٍ اَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهٗ رُشْدًا

میرے لیے خیر اور بہتر۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ جس امر کی تو نے میرے لیے قضا صادر فرمائی ہے اس کا انجام رشد و بھلائی بنا دے

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْۤ اَسْئَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَآئِنُهٗ بِيَدِكَ وَاَسْئَلُكَ عِيْشَةً

اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہر خیر اور بھلائی کا جس کے خزانے تیرے دست قدرت میں ہیں۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے

نَّقِيَّةً وَّمِيْتَةً سَوِيَّةً وَّمَرَضًا غَيْرَ مُخْزِيٍّ وَّلَا فَاضِحٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

پاکیزہ گزران کا۔ اور موزوں ومناسب حالت موت کا۔ اور ایسے مرض کا جو مجھے رسوا کرنے والا۔ اور بے آبرو کرنے والا نہ ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ السَّآئِلِ الْمُجَابِ اَللّٰهُمَّ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کی التجاء اور دعا مقبول ومستجاب ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْبَرِّ التَّوَّابِ اَللّٰھُمَّ

صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر۔ اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا محسن ہیں اور معذرتوں کے قبول کرنے والے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْعَبْدِ الْمِسْکِیْنِ

صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سید خلق کہ (تیری بارگاہ صمدیت میں) عبد مسکین ہیں

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الزَّاجِرِ

اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ (معصیت سے) سختی کے ساتھ روکنے والے

الْمُتَطَوِّلِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا

ہیں اور نیکوکاروں پر احسان فرمانے والے۔ اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدِنِ الْوَاھِبِ الْمُتَفَضِّلِ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ خَیْرَ مَآ اٰتِیْ وَخَیْرَ

پر جو آقا کہ عطیہ دینے اور فضل واحسان فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ان امور کی خیر کا جن کو کرتا ہوں۔ اور ان کی خیر

مَآ اَفْعَلُ وَخَیْرَ مَآ اَعْمَلُ وَخَیْرَ مَا بَطَنَ وَخَیْرَ مَا ظَھَرَ وَالدَّرَجَاتِ

کا جن کا ارتکاب کرتا ہوں اور ان کی خیر اور بہتری کا جن پر عمل کرتا ہوں۔ اور باطنی امور کی خیر کا اور ظاہری امور کی خیر کا اور بلند ترین درجات کا

الْعُلٰی مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِیْنَ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِکْرِیْ وَتَضَعَ

جنت میں آمین۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے ذکر کو بلند کرے اور میرا گناہوں کا

وِزْرِیْ وَتُصْلِحَ اَمْرِیْ وَتُطَھِّرَ قَلْبِیْ وَتُحَصِّنَ فَرْجِیْ وَتُنَوِّرَ لِیْ فِیْ

بوجھ اتار دے۔ میرے امور کی اصلاح فرمائے اور میرے دل کو پاک کرے۔ میری شرمگاہ کی حفاظت فرمائے (غلط کاری سے)

قَبْرِیْ وَتَغْفِرَ لِیْ ذَنْبِیْ وَاَسْئَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰی مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِیْنَ

میری قبر کو منور فرمائے اور بخش دے میرے گناہ۔ اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے بلند درجات کا جنت میں آمین۔

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ

اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا

لَیْسَ ھُوَ عَلَی الْخَلْقِ بِمُصَیْطِرٍ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نہیں ہیں مخلوق پر جبر اور سختی کرکے عمل درآمد کرانے والے (داروغے) اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ سِرَاجِ الْاٰفَاقِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سب آفاق اور اطراف جہان کے چراغ ہیں۔ اے اللہ صلواۃ و

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَیْسَ ھُوَ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ نہ سخت کلام ہیں

بِفَظٍّ وَّلَا غَلِیْظٍ وَّلَا صَخَّابٍ فِی الْاَسْوَاقِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

نہ سخت مزاج ہیں اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّاحِی الْغَرَآئِمِ اَللّٰھُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب تاوانوں کے مٹانے والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ غَفَّارِ

صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ جرائم کے

الْجَرَآئِمِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا

بخشنے والے ہیں (بطور سببیت کے) اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ لَیْسَ ھُوَ عَلَی الْخَلْقِ بِجَبَّارٍ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ

محمد کی آل پر کہ جو آقا مخلوق پر بالکل جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

بِسِرِّ الْاَسْرَارِ الْمَانِعِ مِنَ الْاَضْرَارِ حَتّٰی لَا یَکُوْنَ لَنَا مَعَ الذُّنُوْبِ

بطفیل سر الاسرار کے جو بچانے والے ہیں نقصانات سے حتی کہ نہ رہے ہمارے لیے ساتھ گناہوں کے

وَالْعُیُوْبِ قَرَارٌ وَّثَبِّتْنَا وَاھْدِنَا لِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ

اور عیبوں کے قرار و سکون کے قرار و سکون اور ہمیں ثابت قدم فرما اور ہدایت فرما علم اور عمل کی۔ اے اللہ صلواۃ و

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الظِّلِّ الظَّلِیْلِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو بہت گھنا سایہ (رحمت) ہیں

وَمُزِیْلِ الشِّدَّةِ وَالْکُرْبَةِ وَالْعَفُوِّ عَمَّنْ ظَلَمَهٗ وَرَحْبِ السَّاحَةِ

اور دور کرنے والے ہیں شدت اور تنگی کے اور درگزر کرنے والے ہیں اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے اور کشادہ بارگاہ والے ہیں

وَالْمُحَذِّرِ مِنَ الْعِقَابِ وَالدَّالِّ عَلٰی تَحْصِیْلِ الصَّوَابِ وَالْمُقَدَّمِ

اور ڈرانے والے ہیں عقاب سے اور رہنمائی کرنے والے ہیں صحیح امور کے حاصل کرنے کی۔ اور سب سے مقدم ہیں

فِی الشَّفَاعَةِ وَالظَّاهِرِ فِی الزُّهْدِ وَالْقَنَاعَةِ قُدْوَةِ الْاَفَاضِلِ وَ

شفاعت میں (اول شافع ہیں)، اور سب پر ظاہر ہیں زہد اور قناعت میں۔ مقتداء ہیں بزرگ ہستیوں کے اور

عِصْمَةِ الْاَرَامِلِ الْقُدْوَةِ الْمَیْمُوْنِ وَالْجَوْهَرِ الْمَكْنُوْنِ وَقَابِلِ

سامانِ حفاظت ہیں بیوگان کے لیے۔ مبارک قیادت والے ہیں۔ پوشیدہ اور مخفی گوہر یکتا ہیں۔ اور قبول فرمانے والے ہیں

الْمَعْذِرَةِ وَاَبِی الْعَذْرَآءِ الْبَتُوْلِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا

معذرت کے اور والد گرامی ہیں پاکدامن بتول حضرت زہرا کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَدْرِ الصُّدُوْرِ وَبَدْرِ الْبُدُوْرِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ سب صدروں کے لیے صدر ہیں اور سب ماہتابوں کے لیے ماہتاب ہیں

وَقُطْبِ اَفْلَاكِ الْمَعَالِیْ وَمِنْحَةِ مَوْلَی الْمَوَالِیْ وَالْقَمَرِ الزَّاهِرِ وَ

اور رفعتوں کے آسمانوں کے قطب ہیں اور خاص عطیہ ہیں سب آقاؤں کے آقا (اللہ تعالیٰ) کا۔ اور روشن چاند ہیں اور

الْكَوْكَبِ النَّآئِرِ وَلَبِنَةِ التَّمَامِ وَظَاهِرِ الصِّفَاتِ وَسَلِیْمِ الصَّدْرِ وَ

نورانی کوکب اور (قصر رسالت کی) تکمیل و تتمیم والی آخری اینٹ ہیں۔ ظاہر اور روشن صفات والے ہیں۔ اور (کینہ وغیرہ سے) محفوظ و سالم سینے اور

الذَّاتِ شَمْسِ الْمَعَارِفِ وَبَدْرِ الْعَوَارِفِ عَیْنِ الصَّفَا وَمَصْدَرِ الْوَفَا

ذات والے ہیں۔ معارف کے شمس تاباں ہیں اور عطیات (خداوندی) کے ماہ تمام ہیں۔ سرچشمہ ہیں صفاء و اخلاص کے اور معدن و کان ہیں وفا کے

وَسِرِّ النُّهٰی وَرُوْحِ الْبَهٰی وَعَلِیِّ الْوَسَآئِلِ وَحَسَنِ الشَّمَآئِلِ وَالْمُقَرَّبِ

اور راز ہیں عقول کے اور روح ہیں حسن و خوبی کی۔ بلند تر وسائل والے ہیں اور حسین خصلتوں والے ہیں خود بھی اللہ کے مقرب ہیں

الْمُقَرِّبِ وَبَهْجَةِ الْكَوْنَیْنِ وَخَیْرِ الْفَرِیْقَیْنِ وَالْمُخْلِصِ الْمُقَفّٰی وَ

اور دوسروں کو قریب کرنے والے ہیں۔ کونین کی رونق و بہار ہیں۔ (عرب و عجم کے) دونوں فریق کے بہتر اور سردار ہیں۔ سراسر اخلاص ہیں اور سب

بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفٰی اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا

انبیاء کے بعد بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کے عہد کو بہت ہی پورا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدِنِ الْهَادِیْ الْمَهْدِیْ وَوَفَّقَ اللّٰهُ بِهِ الْعِبَادَ وَهَدٰی وَالْجَزَآءِ

آل پر جو محبوب کہ سراسر تحفہ ہیں جو (اللہ تعالیٰ) کی طرف سے اعطا کیا گیا ہے۔ اور توفیق دی اللہ تعالیٰ نے بسبب ان کے اپنے بندوں کو اور ہدایت

الْاَوْفٰی وَشَوَاهِدُ صِدْقِهٖ لَا تَخْفٰی وَالْوَلِیِّ الْمُحْسِنِ وَلِیِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ

دی اور کامل تر جزاء ہیں اور ان کی صداقت کے شواہد و آثار کسی پر مخفی نہیں ہیں۔ محسن و مددگار ہیں اور ہر مومن کے دوست اور یار ہیں

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ ظَاهِرِیْ وَبَاطِنِیْ عَنِ الرِّیَآءِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَ

اے اللہ میرے ظاہر اور باطن کو پاک فرما ریاکاری، منافقت اور شریعت کی مخالفت سے اور

اجْعَلْ تَوَاضُعِیْ وَخُضُوْعِیْ لِعِبَادِكَ حَیْثُ تَرْضٰی مِنْ غَیْرِ

بنا تو میری تواضع اور خضوع و خشوع اپنے بندوں کے لیے ایسے مقام میں کہ اس سے تو راضی ہو جائے بغیر

طَمَعٍ وَّلَا الْتِفَاتٍ اِلٰی مَالِ اَحَدٍ وَّجَاهِ شَخْصٍ فَیَسْبِقُ مِنِّیْ

طمع اور دھیان کے طرف کسی کے مال و جاہ کے۔ پس سبقت لے جائے میری طرف سے

تَعْظِیْمٌ وَّتَوَاضُعٌ اِلَیْهِ دُوْنَ مَنْ یَّسْتَحِقُّ اِلَّا عَلٰی طَرِیْقِ اِیْثَارِ

اس کے لیے تعظیم اور تواضع بغیر اس کے کہ وہ مستحق ہو اس کا۔ مگر اوپر طریقے ترجیح دینے

الْاُخُوَّةِ الْمَحْضَةِ مِنْ غَیْرِ نَظَرٍ اِلٰی وَصْفٍ مِّنْ اَوْصَافِهٖ اَللّٰهُمَّ

خالص برادرانہ جذبات کے بغیر نظر کرنے کے طرف کسی وصف کے اس کے اوصاف سے۔ اے اللہ

اَنْتَ الْعَلِیْمُ بِالْعُلُوْمِ الْكُلِّیَّةِ وَالْجُزْئِیَّةِ الْمُطَهَّرَةِ عَنِ الْكِذْبِ

تو ہی جاننے والا ہے علوم کلیہ اور جزئیہ کا جو مکمل طور پر پاک ہیں جھوٹ

وَالْخَطَآءِ وَالشُّكُوْكِ وَالْاَوْهَامِ فَاَثِّرْ طَهَارَةَ عِلْمِهٖ وَصِدْقِهٖ فِیْ

اور خطا سے اور شکوک و اوہام سے۔ پس موثر بنا اپنے علم اور سچائی کی طہارت کو

عِلْمِیْ وَقَلْبِیْ فَلَا یَمُرُّ وَهْمٌ مِّنِّیْ وَلَا خَیَالٌ فِیْ اَیِّ حِسٍّ اِلَّا وَهُوَ

میرے علم اور قلب میں پس نہ گزر ہو میرے وہم اور خیال کا کسی بھی حاسہ میں مگر یہ کہ وہ

طَاهِرٌ عَنِ الْخِلَافِ وَالْكِذْبِ وَالْمَیْنِ وَقَلْبِیْ اِنِ اجْتَهَدَ

پاک ہو خلاف واقع اور کذب و جھوٹ ہونے سے۔ اور میرا دل اگر اجتہاد کرے

بِاسْتِبْصَارِكَ فِي الْاَحْكَامِ الدِّيْنِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ اَوِ الْاِعْتِقَادِيَّةِ فَيَسِّرْهُ

تجھ سے بصیرت طلب کرنے کے ذریعے احکام دینیہ میں جو عمل سے متعلق ہوں یا اعتقاد سے تو اس کو سہولت بہم پہنچانا۔

وَاْمُرْهُ فِيْهَا اِلٰى مَا هُوَ حَقٌّ عِنْدَكَ مَحْفُوْظَةٌ عَنْ خِلَافِ اِرَادَتِكَ

اور اس کو اشارہ فرمانا ان احکام میں سے اس حکم کی طرف جو تیرے نزدیک حق ہو اور محفوظ ہو تیرے ارادہ اور تیرے

وَعِلْمِكَ وَطَهِّرْ قَلْبِيْ مِنْ خَطَرَاتٍ فَاحِشَةٍ مِّنْ اَيِّ فُحْشٍ كَانَ

علم کی مخالفت سے۔ اور پاک فرما میرے دل کو فحش خیالات سے ان میں جس قسم کا بھی فحش ہو

فَاجْعَلْهُ نَاظِرًا اِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْكَ قَائِمًا فِيْ مُشَاهَدَتِكَ مُصَلِّيًا وَّمُسَبِّحًا

پس کر اسے اپنی طرف دیکھنے والا اور تیرے اپنے مشاہدہ میں قائم رہنے والا، نماز پڑھنے اور تسبیح کہنے والا

مَّعَ مَلَكُوْتِكَ مِنْ حَيْثُ الْعَادَةِ وَالطَّبِيْعَةِ لَا عَلٰى وَجْهِ الْخَطْفِ وَ

ساتھ تیرے عالم بالا کے (مکینوں کے) از روئے عادت اور طبیعت کے نہ محض اچک لینے اور لحاق جذب کے

اَللّٰهُمَّ يَا اِلٰهَ الطَّبَائِعِ الْاَرْبَعَةِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ الْمُوَكَّلَةِ بِهَا اِحْفَظْنِيْ عَنِ

طور پر (متوجہ کرنے کی وجہ سے) اے خداوند چاروں طبائع کے اور ان پر موکل ملائکہ کے محفوظ فرما مجھے

الْاَبْخِرَةِ الرَّدِيَّةِ الْمُتَكَوِّنَةِ مِنْ عُصَارَةِ الْاَرْبَعَةِ فِي الْفُصُوْلِ الْاَرْبَعَةِ

ان ردی بخارات سے جو وجود میں آنے والے ہیں ان طبائع اربعہ کے پسینہ اور فضلہ سے چاروں موسموں میں

اَنْ تَسْرِيْ فِيَّ اَوْ فِيْ عُضْوٍ مِّنْ اَعْضَائِيْ مُضِرَّةً لِّغِذَائِيْ وَشَرَابِيْ

کر وہ جاری کریں مجھ میں یا میرے اعضاء میں سے کسی عضو میں ضرر و نقصان کو میری غذاء اور مشروبات کے لیے

وَعَنْ اِفْرَاطِهَا وَاَعْطِنِيْ بَدَنًا لِلّٰهِ فَالِحًا وَّبَدَنًا فِي اللّٰهِ صَالِحًا

اور ان ابخرہ کے حد سے متجاوز ہونے سے۔ اور عطا فرما مجھے ایسا بدن جو فلاح پانے والا ہے اللہ کے لیے۔ اور نیکوکار ہے ذات

وَلَا بَادِنًا لِّغَيْرِ اللّٰهِ طَالِحًا اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمُبْدِعُ جَلَآئِلَ النِّعَمِ

باری میں نہ فربہ ہونے والا، بسبب غیر اللہ کے فساد برپا کرنے والا۔ اے اللہ تو ہی از سر نو پیدا کرنے والا ہے جلیل اور عظیم

وَعِظَامِهَا وَاَنْتَ الْمُنْشِئُ دَقَائِقَ النُّوْبِ وَرَقَائِقِهَا وَاَنْتَ

نعمتوں کو۔ اور تو ہی پیدا کرنے والا ہے چھوٹی اور ہلکی آفات کو اور تو ہی

الْمُنْبِسُ الْمُسْبِلُ نِعَمَكَ عَلٰى كُلِّ الْخَلْقِ وَاَنْتَ الْمُتَصَرِّفُ فِيْمَا اَحْكَمْتَ

پھیلانے اور اتارنے والا ہے اپنی نعمتیں ساری مخلوق پر اور تو ہی تصرف فرمانے والا ہے ان میں جنہیں محکم اور مضبوط فرمایا

فَنِعْمَ الْمَوْجُوْدُ وَنِعْمَ الْحَكَمُ تَسْتُرُ الْعُيُوْبَ وَتَكْشِفُ الْكُرُوْبَ

پس اچھا موجود اور اچھا حکم کرنے والا ہے تو جو پردہ ڈالتا ہے عیبوں پر اور دور کرتا ہے تنگیوں کو۔

وَتُظْهِرُ مِنْ بَيْنِهِمَا الشُّرُوْقَ وَالْغُرُوْبَ وَاَنْتَ الْغَافِرُ الْغَفَّارُ

اور ظاہر فرماتا ہے ان دونوں کے درمیان سے روشنی (اور کرن امیدوں کی) اور تاریکی (محرومی کی) اور تو ہی بخشنے والا ہے

الْغَفُوْرُ لِمَا اَبْدَيْتَهٗ يَا مَنْ قَهْرُكَ عَلٰى اَعْدَآئِكَ وَاَنْتَ الْعَالِمُ

بہت بخشنے والا کثیر التعداد کو بخشنے والا ہے انہیں جن کو ظاہر فرمایا ہے تو نے۔ اے وہ ذات کہ اس کا قہر اس کے اعداء پر ہے اور تو

الْعَلِيْمُ بِمَآ اَكْنَنْتَهٗ فِيْ ظَوَاهِرِ لُطْفِكَ وَبِمَآ اَخْفَيْتَهٗ فِيْ ضَمَآئِرِ

ہی عالم و علیم ہے ان اسرار کا جنہیں پوشیدہ کیا ہے اپنے لطف و کرم کے ظہوروں میں۔ اور ان خفیات کا جنہیں تو نے چھپایا ہے اپنے

صُدُوْرِ اَهْلِ حُجَّتِكَ اَسْئَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الْقَدِيْمَةِ وَبِقُوَّتِكَ

اہل حجت و برہان کے سینوں کے اسرار اور پوشیدہ خیالات میں۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری قدرت قدیمہ اور قوت تامہ

الْقَوِيْمَةِ اَنْ تَرْزُقَنِيْ بَرْدَ عَفْوِكَ يَوْمَ الْمَحْشَرِ وَحَلَاوَةَ مَغْفِرَتِكَ

اور پائیدار کے وسیلہ سے کہ تو مجھے عطا کرے اپنے عفو و درگزر کی ٹھنڈک محشر کے دن اور اپنی مغفرت کی شیرینی

يَوْمَ ظُهُوْرِ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالسُّرُوْرِ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْنِيْ عَلٰى دَوَامِ

اس دن میں جو تفکر و ملال اور فرحت و سرور کے ظہور کا دن ہے۔ اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھ بلیات اور

الْبَلِيَّاتِ لِانْكِشَافِ نُوْرِكَ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ النُّوْرُ وَشَافِي

آزمائشوں کے دوام پر واسطے منکشف ہوتے تیرے نور کے۔ بے شک تو ہی اللہ ہے اور سراسر نور ہے اور شفا دینے والا ہے

الصُّدُوْرِ يَا غَفَّارُ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ مِنَ الْعِلْمِ اَنْفَعَهٗ وَمِنَ

سینوں اور دلوں (کی بیماریوں) کو اے بہت بخشنے والے۔ اے اللہ عطا فرما مجھے علم سے جو بہت نافع ہو اور

الْعَمَلِ اَرْفَعَهٗ وَمِنَ الرِّزْقِ اَوْسَعَهٗ وَمِنَ الْقَوْلِ اَصْدَقَهٗ

عمل سے جو بہت بلند مرتبت ہو اور رزق سے جو بہت وسیع ہو۔ اور قول سے جو بہت سچا ہو

وَمِنَ الْيَقِيْنِ اَوْفَقَهٗ وَمِنَ الْخَيْرِ اَكْمَلَهٗ وَمِنَ الصَّبْرِ اَجْمَلَهٗ وَمِنَ

اور یقین سے جو بہت موافق ہو (واقعہ اور نفس الامر کے) اور خیر سے جو بہت کامل ہو اور صبر سے جو بہت جمیل ہو اور

الْحُكْمِ اَعْدَلَهٗ وَمِنَ التُّقٰى اَدْوَمَهٗ وَمِنَ الْهُدٰى اَعْظَمَهٗ وَمِنَ الْعَيْشِ

حکم سے جو بہت ہی عدل پر مبنی ہو۔ اور تقویٰ سے جو دائم وقائم ہو۔ اور ہدایت سے جو عظیم تر ہو۔ اور گزران سے جو بہت

اَنْعَمَهٗ وَمِنَ النَّظَرِ اَحْرَمَهٗ وَمِنَ الرَّحْمَةِ اَكْرَمَهَا وَمِنَ النِّعْمَةِ

ہی خوشحالی پر مشتمل ہو۔ اور نظر سے جو بہت ہی حرمت والی ہو اور رحمت سے جو بہت ہی کرامت والی ہو اور نعمتوں سے

اَشْمَلَهَا وَمِنَ الْعَافِيَةِ اَجْمَلَهَا وَمِنَ الْعِبَادَةِ اَفْضَلَهَا اَللّٰهُمَّ قِنَا

جو بہت ہی محیط اور شامل ہوں۔ اور عافیت سے جو بہت ہی خوبتر ہو اور عبادت سے جو سب سے برتر ہو۔ اے اللہ بچا ہمیں

شَرَّ الْمَضْجَعِ وَبَلِّغْنَا حُسْنَ الْمُرْتَجَعِ وَاٰمِنَّا عِنْدَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَ

خواب گاہوں کے شر سے اور پہنچا ہمیں اچھی بازگشت کی جگہ تک اور امن عطا فرما بہت بڑی گھبراہٹ (قیامت) کے وقت اور

ثَبِّتْنَا عِنْدَ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ وَلَا تَفْضَحْنَا عَلٰى رُءُوْسِ الْاَشْهَادِ فِيْ

ثابت رکھ ہمیں وقت ہول و دہشت مطلع عـه کے اور نہ رسوا کرنا ہمیں گواہوں کے روبرو اس

ذٰلِكَ الْجَمْعِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا قَدْ سَبَقْنَا اِلَيْكَ الذُّنُوْبَ وَمَا قَدَّمْنَا وَمَا

بھیڑ اور اژدہام میں۔ اے اللہ بیشک ہم نے تیری طرف صرف گناہ ہی بھیجے ہیں اور ہم نے جو پہلے کیے

اَخَّرْنَا فِي اللَّوْحِ الْمَكْتُوْبِ فَهِيَ تَنْتَظِرُنَا وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ الَّتِيْ

اور جو بعد میں کیے لوح مرقوم میں ہیں۔ پس وہ گناہ ہماری تاک میں ہیں اور ہم نظریں جماتے ہوئے ہیں تیری رحمت پر جو

وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَعَمَّتْ كُلَّ حَيٍّ اَللّٰهُمَّ حَقِّقْ رَجَاءَنَا بِمَا نَنْتَظِرُهٗ

وسیع ہے ہر شئ کو اور محیط ہے ہر جاندار کو۔ اے اللہ ثابت اور موجود فرما ہماری امید و رجاء کو بسبب اس کے رحمت کے جس پر ہم

مِنْ رَّحْمَتِكَ وَاٰمِنَّا مِمَّا نَحْذَرُهٗ وَلَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا قَدَّمْنَا وَاغْفِرْلَنَا

نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور بے خوف کر دے ہمیں اس سے جس سے ہم اندیشہ ناک ہیں اور نہ مؤاخذہ فرما ہم سے بسبب اس کے جو ہم نے آگے بھیجا اور

مَا اجْتَرَمْنَا اَللّٰهُمَّ هَبْ لَنَا مِنْ حُسْنِ الْيَقِيْنِ مَا تُسَهِّلُ بِهٖ عَلَيْنَا

بخش دے ہمارے لیے جن جرائم کا ہم نے ارتکاب کیا۔ اے اللہ عطا فرما ہمیں حسن یقین سے اتنا قدر کہ سہل فرما دے بسبب اس کے ہم پر

عـه یعنی ملائکہ موت کے دیکھنے یا قبر کی ہولناکیاں دیکھنے پر یا قیامت کے دن جہنم کو دیکھنے پر جب انبیاء علیہم السلام بھی کرسیوں سے نیچے گر جائیں گے اور نفسی نفسی پکاریں گے۔

اِنْتِظَارَ الْمُنْيَةِ وَارْزُقْنَا مِنْ جَمِيْلِ الظَّنِّ مَا نَتَيَقَّنُ بِهٖ بُلُوْغَ

انتظار (حصول) آرزو کا۔ اور عطا فرما ہمیں حسن ظن سے اتنا قدر کہ یقین کریں بسبب اس کے آرزو تک رسائی

الْاُمْنِيَّةِ وَقِنَا ظُلْمَ الظّٰلِمِيْنَ وَحِقْدَ الْحَاقِدِيْنَ الضَّآلِّيْنَ اَللّٰهُمَّ

کا۔ اور بچا ہمیں ظالموں کے ظلم سے اور کینہ وروں گمراہوں کے کینہ سے۔ اے اللہ

اَعْطِنَا ثَوَابَ الْاَوَّابِيْنَ وَاجْزِنَا جَزَآءَ الْمُحْسِنِيْنَ وَاحْشُرْنَا مَعَ

ہمیں عطا فرما ثواب (اپنی طرف) رجوع کرنے والوں کا۔ اور جزا دے ہمیں نیکوکاروں والی جزاء اور ہمارا حشر فرما ساتھ

الْمُتَّقِيْنَ وَاَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَا

متقیوں کے۔ اور داخل فرما ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صالحین بندوں میں۔ اے اللہ نہ

تُضِلَّنَا فِيْ حَالٍ مِّنْ اَحْوَالِنَا وَاسْتَعْمِلْنَا فِيْمَا تَرْضٰى بِهٖ عَنَّا وَ

گمراہ فرمانا ہمیں کسی بھی حال میں ہمارے احوال سے۔ اور ہمیں عامل بنا ان امور کا کہ جن پر عمل سے تو راضی ہو جائے ہم سے

اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا اَللّٰهُمَّ

اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے دوست اور یار۔ اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے معاون و مددگار۔ اے اللہ

احْفَظْ عَلَيْنَا عِلْمَنَا وَعَمَلَنَا اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْاِقْبَالِ عَلَيْكَ وَ

محفوظ فرما ہم پر ہمارے علم کو اور ہمارے عمل کو۔ اے اللہ نصیب فرما ہمیں حسن توجہ طرف اپنے اور

الْاِصْغَآءِ اِلَيْكَ وَالْفَهْمَ عَنْكَ وَالْبَصِيْرَةَ فِيْ اَمْرِكَ وَالنَّفَاذَ فِيْ

کان لگانا طرف تیرے (فرمان سننے کے لیے) اور سوجھ بوجھ اپنی طرف سے۔ اور بصیرت اپنے امور میں اور جاری رہنا اپنی

طَاعَتِكَ وَالْمُوَاظَبَةَ عَلٰى اِرَادَتِكَ وَالْمُبَادَرَةَ اِلٰى خِدْمَتِكَ وَ

طاعت میں اور ہمیشگی و دوام اپنے ارادہ پر اور سرعت و عجلت اپنی خدمت و طاعت کے لیے اور

حُسْنَ الْاَدَبِ فِيْ مُعَامَلَتِكَ وَالتَّسْلِيْمَ اِلَيْكَ وَالرِّضَآءَ بِفَضْلِكَ

اچھا ادب و انداز اپنے معاملہ میں۔ اور سونپنا (تمام امور کا) طرف تیری۔ اور رضامندی ساتھ اپنے فضل و احسان کے

اِلٰهِيْ كَيْفَ يُنَاجِيْكَ فِي الصَّلَوٰتِ مَنْ يَّعْصِيْكَ فِي الْخَلَوٰتِ

اے میرے الٰہ کیسے مناجات کر سکتا ہے تیرے ساتھ نمازوں میں جو نافرمانبرداری کرتا ہے تیری تنہائیوں میں

لَوْلَا حِلْمُكَ اَمْ كَيْفَ يَدْعُوكَ فِي الْحَاجَاتِ مَنْ يَّنْسَاكَ عِنْدَ

اگر نہ ہوتا حلم وتحمل تیرا۔ یا کس طرح پکار سکتا تجھے حاجات میں جو بھول جاتا ہے تجھے وقت

الشَّهَوَاتِ لَوْلَا فَضْلُكَ اَمْ كَيْفَ تَنَامُ الْعُيُونُ وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ

شہوات کے اگر نہ ہوتا فضل تیرا۔ یا کس طرح سوتیں آنکھیں (سوتے والوں کی) حالانکہ ہر رات میں

تَقُولُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ هَلْ مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَاُعْطِيَهٗ

فرماتا ہے تو، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا تاکہ عطا کروں اسے اس

سُؤْلَهٗ اَمْ كَيْفَ يَنْقَطِعُ عَنْكَ مَنْ لَّمْ تَقْطَعْ عَنْهُ هٰذِهِ الْوَسَائِلُ

کا سوال۔ یا کیسے منقطع اور بے تعلق ہو سکتا ہے تجھ سے وہ شخص کہ نہیں قطع کیے تو نے اس سے یہ وسائل

اَمْ كَيْفَ يُبَاعُ الْبَاقِيُ بِالْفَانِيْ وَاِنَّمَا هِيَ اَيَّامٌ قَلَائِلُ لَذِّذْنِي اَللّٰهُمَّ

یا کیسے بیچا جا سکتا ہے باقی رہنے والے کو ساتھ فنا پذیر کے۔ اور یہ تو صرف اور صرف چند قلیل دن ہیں، لذت عطا فرما مجھے اے اللہ

بِتِلَاوَةِ اَسْمَائِكَ يَا رَبِّ تَذَلَّلْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ تَذَلُّلَ الْعَبِيْدِ

ساتھ تلاوت کرنے تیرے اسماء کے۔ اے اللہ میں عاجز و بے بس ہو چکا ہوں تیرے آگے مانند عاجز و بے بس ہوئے غلاموں کے

الْمُفْتَقِرِيْنَ بِالْحَاجَاتِ اِلَيْكَ وَتَلَذَّذْتُ بِاَسْمَائِكَ تَلَذُّذَ الْاٰئِكَ

جو محتاج و فقیر ہیں ساتھ حاجات کے طرف تیرے اور میں لذت اندوز ہوا ہوں تیرے اسماء (کی تلاوت) کے ساتھ مثل لذت اندوز ہونے تیری نعمتوں

فِيْ سِرِّيْ وَجَهْرِيْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ

کے ساتھ اپنے باطن میں اور ظاہر میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِ الرَّبِّ وَمُطَهَّرِ الْقَلْبِ كَهْفِ الْمَنِيْعِ وَسَنَدِ

کی آل اطہار پر جو کہ اللہ کے محبوب ہیں۔ پاکیزہ قلب والے ہیں۔ مضبوط و محفوظ پناہ گاہ ہیں۔ بلند مرتبت سہارا

الرَّفِيْعِ مَوْضِعِ سِرِّ جِبْرَائِيْلَ وَاَفْرَغَ اللّٰهُ عَلَيْهِ حِلْيَةَ الصَّبْرِ

ہیں محل و مقام ہیں جبریل اسرار کے۔ اور انڈیلی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر صبر جمیل کی زینت

الْجَمِيْلِ وَثَمَرَةَ الْاِيْمَانِ وَخِزَانَةَ الْاِمْتِنَانِ وَنَتِيْجَةَ الْيَقِيْنِ

و آرائش۔ اور نتیجہ و اثر ایمان کا۔ اور خزانہ احسان کا۔ اور نتیجہ یقین کا۔

وَشَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ وَقُطْبِ الْوِلَايَةِ وَمِصْبَاحِ الْهِدَايَةِ وَجَوْهَرِ

اور جو کہ شفیع عاصیاں ہیں اور قطب ولایت ہیں اور ہدایت کے روشن چراغ ہیں اور نفیس و

النَّفِيْسَةِ وَجَعَلَ اللّٰهُ جِبْرَائِيْلَ جَلِيْسَهٗ وَاَنِيْسَهٗ وَالدَّلَالَةِ

عمدہ جوہر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جبرئیل امین کو ان کا ہمنشین بنا دیا ہے۔ اور مونس و غمخوار۔ آپ کفایت کرنے

الْكَافِيَةِ وَالْغُرَّةِ السَّامِيَةِ الشَّافِيَةِ وَالنَّسَمَةِ الْكَرِيْمَةِ وَاَظْهَرَهُ

والی ہدایت ہیں۔ اور بلند مرتبت اور شفا بخش روشنی و نورانی اور پاکیزہ نفس ہیں اللہ تعالیٰ نے

اللّٰهُ تَعْظِيْمَهٗ وَتَكْرِيْمَهٗ وَصَادِقِ الْوَعْدِ وَطَلْعَةِ السَّعْدِ وَفَكَاكِ

ظاہر فرمایا جن کی تعظیم و تکریم کو۔ اور آپ سچے وعدے والے ہیں اور مبارک ظہور والے اور سراپا رہائی و خلاصی

الْاَسِيْرِ وَنِعْمَ الْجَارُ وَنِعْمَ الْمُجِيْرُ وَحَبْلِ الْوَثِيْقِ وَنَجَاةِ الْغَرِيْقِ

ہیں اسیران (نفس و شیطان) کی۔ بڑے اچھے پڑوسی ہیں اور بہت اچھے پناہ دینے والے مضبوط اور قابل وثوق رسی ہیں (اللہ کی) اور غرق

طَبِيْبِ الذُّنُوْبِ وَكَشَّافِ الْكُرُوْبِ سِرِّ رَحْمَةِ اٰدَمَ وَنُكْتَةِ

ہونے والے کا سبب نجات۔ اور گناہوں کے دور کرنے والے طبیب۔ شدائد کو دور کرنے والے۔ حضرت آدم پر کی جانے والی رحمت کا راز پنہانی۔ موجودات

اَكْوَانِ الْعَوَالِمِ وَقُطْبِ دَائِرَةِ السَّعَادَاتِ وَرَاْسِ الْمُوْقِنِيْنَ ۵

عوام کا مرکزی نکتہ (اور سر نہانی) اور بنیادی مقصود۔ نیکبختیوں کے دائرہ کے قطب اور درمیانی نقطہ اور سردار ارباب یقین کے۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ تُبَلِّغَ النَّفْسَ الذَّلِيْلَةَ مَبْلَغَ الشَّرِيْفَةِ

اے اللہ تو ہی قادر ہے اس پر کہ پہنچائے ذلیل نفس کو شریف کے مقام پر

وَالشَّرِيْفَةَ مَبْلَغَ الذَّلِيْلَةِ بِالْاَسْبَابِ النَّاشِيَةِ عِنْدَ الْمُبَلَّغِ وَقَدْ

اور شریف نفس کو ذلیل کے مقام پر بسبب ان اسباب کے جو پیدا ہونے والے ہیں پہنچائے جانے والے کے ہاں۔ اور

مَسَخْتَ قَوْمَ مُوْسٰى وَبَدَّلْتَ نُفُوْسَهُمْ اِلَى النُّفُوْسِ الَّتِيْ هِيَ

تو نے مسخ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور تبدیل کیا ان کے نفوس کو طرف ایسے نفوس کے جو

اَرْذَلُ عِنْدَ الْعُلْوِيَّاتِ وَالسُّفْلِيَّاتِ فَالْقُلُوْبُ وَالنُّفُوْسُ بَيْنَ

رذیل تر ہیں نزدیک علوی اور سفلی نفوس و ارواح کے۔ پس تمام قلوب اور نفوس تیری

صِفَتَيْكَ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ فَتَرَدَّدُ بَيْنَ هٰؤُلَآءِ وَبَيْنَ هٰؤُلَآءِ

جلال و جمال والی دونوں صفتوں کے درمیان ہیں پس مترود رہتے ہیں درمیان جلالیوں اور جمالیوں کے

فَقَلْبِي سَاكِتٌ كَلٌّ وَلِسَانِي عَجَمٌ عَنِ الْاِعْتِرَاضَاتِ وَالْاِرَادَاتِ

پس میرا دل خاموش ہے اور کمزور اور میری زبان گنگ ہے اعتراضات سے اور ارادوں سے

اَنْتَ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ جَوَادٌ بَرٌّ تُعْطِي مَقْصُوْدَ مَنْ يَّقْصِدُ اِلَى مَطْلُوْبَاتٍ

تو ہی کریم۔ بادشاہ، صاحب جود اور محسن ہے عطا کرتا ہے مقاصد ہر اس شخص کے جو قصد کرتا ہے طرف عالی مطلوبات

وَهُمُوْمٍ عَالِيَاتٍ وَّكُلِّ شَيْءٍ اِلَّا الْاُلُوْهِيَّةَ وَالرُّبُوْبِيَّةَ الْمُطْلَقَةَ

اور بلند افکار کے اور عطا کرتا ہے ہر شئی سوائے الوہیت اور ربوبیت مطلقہ کے

الْمُسْتَقِلَّةَ الْمُخْتَصَّةَ بِكَ وَلَيْسَ اَحَدٌ سِوَاكَ بِقَمِنٍ لِلْاُلُوْهِيَّةِ

اور مستقلہ کے جو مختص ہے تیری ذات کے ساتھ اور نہیں کوئی ایک سوائے تیرے حقدار الوہیت

وَالرُّبُوْبِيَّةِ اَنْتَ الْاَعْلٰى بِلَا جِهَةٍ اَنْتَ الذَّاتُ بِلَا مِثَالٍ وَالْاَمْثَالُ

اور ربوبیت کا۔ تو ہی بلند ترین ہے بغیر جہت کے۔ اور تو ہی وہ ذات ہے جو بے مثال ہے اور امثال

الصُّوْرِيَّةُ الْمُقَيَّدَةُ بِمَقُوْلَةٍ مِّنَ الْمَقُوْلَاتِ مُذَلَّلَةٌ مَّخْلُوْقَةٌ

صوریہ جو مقید ہیں ساتھ کسی مقولہ کے مقولات (عشرہ) سے وہ سب تیرے سامنے عاجز و بے بس ہیں اور تیری ہی پیدا کردہ ہیں

فَعَرِّفْنِيْ وَبَصِّرْنِيْ كُلَّ مِثَالٍ وَّصُوْرَةٍ حَتّٰى اُعَايِنَ الْاَسْرَارَ وَ

پس مجھے عرفان اور بصیرت عطا فرما ہر مثال اور ہر صورت کی حتیٰ کہ میں آنکھوں سے دیکھوں ان اسرار اور

الْعَجَآئِبَ الَّتِيْ صَارَتِ الذَّوَاتُ وَالْاَمْثَالُ مَوْصُوْفَةً بِهَا وَلَا

عجائبات کو کہ ذاتیں اور امثال ہو چکی ہیں۔ موصوف و متصف ساتھ ان کے اور نہ

تُعَرِّفْنِيْ مِنْ خَلْقِكَ اِلَّا مِقْدَارَ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ مِنَ الْاُمُوْرِ

پہچان کرا مجھے اپنی مخلوق سے مگر اسی قدر کہ محتاج ہے طرف اس معرفت کے امور

الْبَشَرِيَّةِ حَتّٰى يَكُوْنَ مَعْرِفَتِيْ لَكَ خَالِصَةً عِنْدَكَ فَتُعْطِيْ لَنَا

بشریہ میں حتیٰ کہ ہو جائے معرفت میری جو متعلق ہے تیری ذات سے خالص نزدیک تیرے۔ پس عطا کرے تو ہمیں

يَوْمَ الْجَزَآءِ بَهْجَةً وَّجِيْهَةً وَّالْقُرْبَ عِنْدَ رَسُوْلِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

یوم الجزاء میں رونق و آبرو مندی۔ اور قرب ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا

وَسَلَّمَ مَجْعُوْلَةً نَفْسِيْ مِنَ السَّابِقِيْنَ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ اٰمِيْنَ اَللّٰهُمَّ

در آنحالیکہ کیا ہوا ہو نفس میرا سابقین سے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے قرب سے بہرہ ور کئے ہوئے ہیں آمین۔ اے اللہ

اِنْ صَدَرَ مِنِّيْ فِعْلٌ فَاَصْدِرْهُ عَدْلًا وَّ صَلَاحًا نَاشِئًا مِّنْ اَيِّ جَارِحَةٍ

اگر سرزد ہو مجھ سے کوئی فعل تو اس کو سرزد فرما بطور عدل کے اور بہتری و بھلائی کے خواہ وہ میرے کسی بھی عضو سے

مِّنْ جَوَارِحِيْ اَوْ مِنْ قُوَّةٍ مِّنْ قُوَى الْاِنْسِيَّةِ فَاَسْكِنْ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ مُمِدٌّ

پیدا ہونے والا ہو یا انسانی قوتوں میں سے جس قوت سے۔ پس ساکن فرما ہر اس شئی کو جو امدادی ہو

لِمَادَّةِ جَوْرٍ وَّظُلْمٍ رَّاجِعٍ اِلٰى غَيْرِ رِضَاكَ فَخَلِّصْ فِعْلِيْ وَقَوْلِيْ وَوَهْمِيْ

جور اور ظلم کے مادہ کی، جس کا رجوع تیری رضا کے سوا کی طرف ہو۔ پس خالص کر میرے فعل و قول اور وہم

وَخَيَالِيْ وَمِنْ كُلِّ دَنَآءَةٍ وَّرَدَآءَةٍ كَآئِنَةٍ فِيْ ظَاهِرِ جَسَدِيْ وَبَدَنِيْ وَبَاطِنِيْ وَ

وخیال کو ہر طرح کی کمینگی اور گھٹیا پن سے جو ہو میرے جسم اور بدن کے ظاہر میں یا میرے باطن اور

قَلْبِيْ وَقُوَايَ اَللّٰهُمَّ لَوْلَا هِدَايَتُكَ وَرَحْمَتُكَ وَتَعْلِيْمُكَ لَكُنْتُ

قلب اور میرے قویٰ میں۔ اے اللہ اگر نہ ہوتی تیری ہدایت و رحمت اور تعلیم تو میں

اَدْوَنَ مِنَ الرَّمَادِ وَالْجَمَادِ بَلْ اَرْذَلَ مِنَ الدُّوْدَةِ الْمُتَكَوَّنَةِ مِنَ الْبُخَارِ

کمتر ہو جاتا راکھ سے اور جمادات سے بلکہ زیادہ رذیل اس کیڑے سے جو پیدا ہونے والا ہے بخارات سے

وَلَوْلَا تَعْلِيْمُكَ لَكُنْتُ اَضَلَّ مِنَ الْبَهَآئِمِ وَالْاَشْجَارِ يَا كَرِيْمَ الْعَفْوِ

اور اگر نہ ہوتی تیری طرف سے تعلیم و رہنمائی تو البتہ ہو جاتا میں زیادہ گمراہ چار پایوں سے اور پودوں سے۔ اے بزرگ درگزر والے

ذَا الْعَدْلِ اَنْتَ الَّذِيْ مَلَئْتَ كُلَّ شَيْءٍ عَدْلَهٗ كَرِّمْنِيْ بِالْعَفْوِ اِنْ

صاحب عدل تو ہی ہے جس نے بھر دیا ہے ہر شئی کو اپنے عدل سے مجھے عزت بخش ساتھ درگزر کے اگر

صَدَرَ مِنِّيْ ذَنْبٌ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اَنْتَ الْعَفُوُّ وَاجْعَلْنِيْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ

سرزد ہو مجھ سے کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا تو ہی عفو و درگزر فرمانے والا ہے۔ اور کر تو مجھے موصوف ساتھ اس کے

فِیْ کُلِّ مُؤْمِنٍ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ
بمع تمام مومنین گے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور سیّدنا محمد
سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ دَفَعَ اللّٰہُ بِہِ الضَّرَّآءَ وَالْبُؤْسَ اَللّٰھُمَّ
کی آل پر کہ جس محبوب کے صدقے میں دور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نقصانات اور شدتوں کو ۔ اے اللہ
اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْبُؤْسِ وَالتَّبَاؤُسِ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُ
بیشک میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کی شدت و تنگی سے اور اس کی بناوٹ اور تکلف سے ۔ اے اللہ بیشک میں پناہ طلب کرتا
بِکَ بِعِزَّتِکَ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اَنْ تُضِلَّنِیْ وَاَنْتَ الْحَیُّ الَّذِیْ
ہوں تیری عزت کی نہیں کوئی معبود برحق مگر تو اس سے کہ گمراہ کرے تو مجھے جبکہ تو ہی زندہ ہے جس پر
لَا یَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ یَمُوْتُوْنَ اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِکَ مِنْ
کبھی موت نہیں آئے گی ۔ اور سبھی جن و انسان وفات پائیں گے ۔ اے اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں
جَھْدِ الْبَلَآءِ وَدَرْکِ الشَّقَآءِ وَسُوْٓءِ الْقَضَآءِ وَشَمَاتَۃِ الْاَعْدَآءِ
بلاؤں کی مشقت سے اور بدبختی کے پا لینے سے اور بری قضاء سے اور دشمنوں کی خوشی سے
اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْلَمْ وَ
اے اللہ بیشک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شئی کے شر سے جو میرے علم میں آئی اور اس کے شر سے بھی جو میں نے نہیں جانی
اَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ مَا
اور میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری ہر اس شئی سے جو تیرے علم میں ہے ۔ اے اللہ بیشک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس عمل کے شر سے
عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِکَ مِنْ
جو میں نے کیا اور اس کے شر سے جو میں نے نہیں کیا ۔ اے اللہ بیشک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں
زَوَالِ نِعْمَتِکَ وَتَحَوُّلِ عَافِیَتِکَ وَفُجَآءَۃِ نِقْمَتِکَ وَجَمِیْعِ سَخَطِکَ
تیری نعمتوں کے زائل ہو جانے سے اور تیری عافیت کے برگشتہ ہو جانے سے اور اچانک تیرے انتقام کا نشانہ بننے سے اور تیری تمام ناراضگیوں سے
اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النُّوْرِ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور سیّدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ

الْبَاھِرِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا
ظاہر اور روشن نور ہیں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور سیّدنا محمد کی
مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْٓ اَخْجَلَتْ طَلْعَتُہُ النُّجُوْمَ الْاَزَاھِرَ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُ
آل پر کہ جس محبوب کی طلعت زیبا نے شرمندہ کر دیا ہے چمکتے ستاروں کو ۔ اے اللہ بیشک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری
بِکَ مِنْ شَرِّ سَمْعِیْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِیْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِیْ وَمِنْ شَرِّ
اپنے کانوں کے شر سے اور نگاہ کے شر سے ۔ اور اپنی زبان کے شر سے اور اپنے قلب
قَلْبِیْ وَمِنْ شَرِّ مَنِیِّیْ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْھَدْمِ وَاَعُوْذُ
کے شر سے اور مادہ منویہ کے شر سے ۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں دب کر مرنے سے ۔ اور پناہ مانگتا ہوں
بِکَ مِنَ التَّرَدِّیْ وَاَعُوْذُبِکَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْھَدْمِ وَاَعُوْذُ
بلندی سے گر کر ہلاک ہونے سے ۔ اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں غرق ہونے ۔ جل مرنے اور دب کر مرنے سے اور پناہ طلب کرتا ہوں
بِکَ اَنْ یَّتَخَبَّطَنِیَ الشَّیْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ اَنْ
تیری اس سے کہ شیطان مجھے دیوانہ کر دے موت کے قریب اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ
اَمُوْتَ فِیْ سَبِیْلِکَ مُدْبِرًا وَّاَعُوْذُبِکَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ لَدِیْغًا
مروں میں تیری راہ میں پیٹھ پھیرے ہوئے اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری کہ مروں سانپ سے ڈسا ہوا ۔
اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِکَ مِنْ مُّنْکَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَ
اے اللہ بیشک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری برے اخلاق و اعمال سے اور بری
الْاَھْوَآءِ وَالْاَدْوَآءِ وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْہُ نَبِیُّکَ
خواہشات اور بیماریوں سے ۔ اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری ہر اس شئی کے شر سے کہ پناہ مانگی ہے اس سے تیرے نبی
مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَیْکَ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تو ہی مدد و توفیق طلب کیا ہوا ہے ۔ اور تجھی پر
التُّکْلَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ اَللّٰھُمَّ
توکل ہے ۔ اور نہیں پھرنا (معصیت سے) اور نہ قوت (طاعت کی) مگر ساتھ توفیق اللہ کے جو بلند شان عظیم ہے ۔ اے اللہ

اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجَارِ السُّوْٓءِ فِیْ دَارِ الْمُقَامَةِ فَاِنَّ جَارَ
بیشک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری برے پڑوسی سے ہمیشہ کے دار قیام میں کیونکہ جنگل و بیابان کے
الْبَادِیَةِ یَتَحَوَّلُ وَمِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهٗ بِئْسَ الضَّجِیْعُ وَمِنَ
پڑوسی (کا پڑوس جلدی) بدل جاتا ہے۔ اور بھوک سے (پناہ طلب کرتا ہوں) کیونکہ وہ برا ساتھی ہے اور خیانت
الْخِیَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَ الْبِطَانَةُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ
سے کیونکہ وہ بری پوشیدہ خصلت ہے۔ اے اللہ بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری ایسے علم سے
لَّا یَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَّا یَخْشَعُ وَدُعَآءٍ لَّا یُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ مِنْ
جو نفع نہ دے۔ اور ایسے دل سے جو خشوع نہ کرے۔ اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو اور ان
هٰٓؤُلَآءِ الْاَرْبَعَةِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ نَّرْجِعَ عَلٰٓی اَعْقَابِنَا اَوْ نُفْتَنَ
چاروں سے بحیثیت مجموعی بھی۔ اے اللہ بے شک ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم لوٹیں ایڑیوں کے بل یا ہم فتنہ میں ڈالے جائیں
عَنْ دِیْنِنَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ یَّوْمِ السُّوْٓءِ وَمِنْ لَّیْلَةِ
اپنے دین سے۔ اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں برے دن سے اور بری
السُّوْٓءِ وَمِنْ وَّقْتِ السُّوْٓءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْٓءِ وَمِنْ صَاحِبِ
رات سے۔ برے وقت۔ بری ساعت۔ اور برے ساتھی
السُّوْٓءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْٓءِ فِیْ دَارِ الْمُقَامَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
سے۔ اور برے پڑوسی سے مستقل قیامگاہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج
عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ اللّٰهِ وَاَمِیْنِهٖ عَلٰی
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سراپا راز ہیں اللہ تعالےٰ کے اور اس کے امین
سِرِّهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ
اسرار بھی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر
الَّذِیْ تَعَبَّدَتْ لَهُ الْجِنُّ وَانْقَادَتْ لِاَمْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ
کہ جس آقا کی غلامی اور تابعداری اختیار کی جنوں نے اور مطیع ہو گئے ان کے امر کے۔ اے اللہ بیشک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری

الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْٓءِ الْاَخْلَاقِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ ضَرَّآءَ
مخالفت شرع سے اور منافقت و بد اخلاقی سے اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری اس سختی اور شدت سے
مُضِرَّةٍ وَّفِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ وَّاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا
جو ضرر رساں ہے اور فتنہ سے جو گمراہ کن ہے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر چیز کے شر سے جلدی پیش آنے والی ہو یا
عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَیْهَا
دیر سے جو ان میں سے مجھے معلوم ہے اور جو معلوم نہیں ہے اور میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری آتش دوزخ سے اور اس سے جو قریب کرے
مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَّاَعُوْذُبِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَآئِنُهٗ بِیَدِكَ وَاَعُوْذُبِكَ
اس کے قول ہو یا عمل۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر قسم کے شرور سے جن کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں
مِنْ فَجَآءَةِ الشَّرِّ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ الْاَعْمَیَیْنِ السَّیْلِ
اچانک شر سے دوچار ہونے سے۔ اے اللہ بیشک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں دو اندھوں سے طغیانی سے
وَالْبَعِیْرِ الصَّئُوْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ خَلِیْلٍ مَّاكِرٍ عَیْنَاهُ
اور حملہ آور اونٹ سے۔ اے اللہ بیشک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیری مکار دوست سے جس کی آنکھیں
تَرَیَانِیْ وَقَلْبُهٗ یَرْعَانِیْ اِنْ رَّاٰی حَسَنَةً دَفَنَهَا وَاِنْ رَّاٰی سَیِّئَةً
مجھے دیکھتی ہیں اور اس کا دل میری تاک میں ہے اگر نیکی اور اچھائی دیکھے تو اسے دفن کردے اور اگر دیکھے برائی
اَذَاعَهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
تو اس کو شائع کردے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر
ذُؤَابَةِ السُّرُوْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
جو کہ سرور کے بلند چوٹی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر
بَهْجَةِ الضِّیَآءِ وَالنُّوْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی
جو محبوب کہ ضیاء و نور کی رونق و بہار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا
اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّفْتَاحِ مَقَامَاتِ الْحَقَآئِقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
محمد کی آل پر جو محبوب کہ مقامات حقائق کی چابی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّصْبَاحِ دَلَآئِلِ الدَّقَآئِقِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ باریکیوں کے دلائل کا چراغ نور ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُرَّةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ ٹھنڈک ہیں

عَيْنِ الصُّدُوْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

دلوں کی آنکھوں کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الْاَوَّلِ فِى الْبُطُوْنِ وَالظُّهُوْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر جو محبوب کہ نور اول ہیں خفاء وبطون کے لحاظ سے بھی اور ظہور و آشکار ہونے کے لحاظ سے بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَيْرَاتِ اَللّٰهُمَّ

بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سب خیرات اور بھلائیوں سے بہتر و برتر ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَوَامِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ دائمی

السَّعَادَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

سعادتوں والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زُلَفِ الْمُتَّقِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

آل پر جو محبوب کہ (موجب) قرب ہیں واسطے متقین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرَامَةِ الْمُخْلَصِيْنَ اَللّٰهُمَّ

پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب سراپا کرامت و عزت ہیں مخلصین کے لیے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمُدَبِّرِ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ صحیح اور درست تدابیر والے

الصَّآئِبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

مدبر و منتظم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدِنِ الْمُتَكَلِّمِ الْمَسْمُوْعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو محبوب ایسے متکلم ہیں کہ جن کا کلام (عنداللہ) سنا اور قبول کیا جاتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ هُوَ عَلٰى كُلِّ خُلُقٍ رَضِيٍّ كَرِيْمٍ مَّطْبُوْعٌ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب پیدا کئے گئے ہیں ہر پسندیدہ اور بزرگ خلق وخصلت پر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الْبُرْءِ الدَّوَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

کہ جو آقا دائمی شفاء مجسم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شِفَآءِ الْاَسْقَامِ وَالْجَوٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

محمد کی آل پر کہ جو آقا سراسر شفاء ہیں تمام بیماریوں کی اور (علاج ہیں) سوزش عشق کا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْاُنْسِ الْمُؤَانِسِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا انس رکھنے والے ہیں اور انس مہیا کرنے والے ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

زَيْنِ الصُّدُوْرِ وَالْمَجَالِسِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ جو محبوب زینت مجسمہ ہیں صدارت پر فائز لوگوں کے لیے اور مجالس کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمُتَحَنِّفِ الْمُتَعَبِّدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب بہت زیادہ حق کی طرف رغبت ومیلان رکھتے تھے اور عبادت میں کمال ریاضت سے کام لیتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْوَدُوْدِ الْمُتَوَدِّدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ بہت محبت رکھنے والے اور محبت کا اظہار فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيْبِ الْكُلِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سب کے حبیب ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّذْهِبِ الْغُلِّ وَ

وسلام بھیج سیّدنا محمّد پر اور سیّدنا محمّد کی آل پر جو (غلاموں کی گردنوں سے) طوقِ غلامی اتارنے والے ہیں اور

وَالذُّلِّ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الذُّلِّ اِلَّا لَكَ وَمِنَ الْخَوْفِ اِلَّا

بے بسی و بیکسی کو دور کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم پناہ تیری طلب کرتے ہیں عاجزی و بے بسی سے مگر واسطے تیرے اور خوف سے مگر

مِنْكَ وَمِنَ الْفَقْرِ اِلَّا اِلَيْكَ كَمَا صُنْتَ وُجُوْهَنَا اَنْ نَّسْجُدَ لِغَيْرِكَ

تجھ سے۔ اور محتاجی سے مگر طرف تیرے، جیسے تو نے محفوظ فرمایا ہمارے چہروں کو کہ سجدہ کریں تیرے ماسوا کسی کو

فَصُنْ اَيْدِيَنَا اَنْ تَمْتَدَّ بِالسُّؤَالِ لِغَيْرِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ

پس بچا ہمارے ہاتھوں کو بھی کہ وہ دراز ہوں واسطے سوال کے تیرے غیر کے آگے۔ نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی۔ پاک ہے تو

اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغِلِّ وَالْغُلِّ

بیشک ہوں میں ظلم کرنے والوں سے۔ اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری کینہ سے اور طوقِ غلامی سے۔

وَمِنَ الْغِلَلِ وَالْغُلَلِ وَالْغَلَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ

اور خیانتوں سے۔ اور ریگستانوں میں بھٹکتے پھرنے سے اور شدتِ پیاس سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیری رضا کے طفیل تیری

وَسَخَطِ غَضَبِكَ وَغَضَبِ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَخَطِ غَضَبِ

ناراضگی سے اور شدتِ غضب سے اور غضبِ شدید سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیری ولایت کی شدتِ غضب سے

وِلَايَتِكَ وَوَلِيِّكَ وَاَوْلِيَآئِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ

اور تیرے ہر ولی کی شدتِ غضب سے اور تمام اولیاء کے شدتِ غضب سے اور تیری عفو کے صدقے میں تیری عقوبت اور

عُتُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ السَّحَجِ وَالسُّحُوْجِ وَالْحَرَجِ وَالْحُرُوْجِ

تیرے عتاب سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں چھلنے سے اور تمام قسم کی خراشوں سے۔ اور تنگی سے اور تمام طرح کی تنگیوں سے

وَالْهَرَجِ وَالْمَرَجِ وَالْمُرُوْجِ وَاَعْطِنِي السُّوَجَ وَالْمُزْدَوَجَ وَالْفَلَجَ

اور قتل سے۔ اور فساد سے اور تمام قسم کے فتنوں سے۔ اور عطا فرما مجھے انگوروں کے باہم متصل باغات اور کشائش و فراخی

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْنِ وَالشَّيْنِ وَالْهَيْنِ وَالْغَيْنِ وَ

اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں مصیبت سے اور عیب ونقص سے۔ اور کمزوری سے اور ناتوانی سے۔ اور پردے چڑھنے سے اور

الْغَيْنِ وَالْمَيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغِلَظِ وَالْغَلِيْظِ وَمِنَ الْغَيْظِ وَ

حجاب سے۔ اور جھوٹ سے۔ اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں سختی سے اور سخت لوگوں سے۔ اور ناراضگی سے اور بہت ناراض ہونے

الْغُيُوْظِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَظِّ وَالْفَظَظِ وَمِنَ الْغَمْطِ وَالْغُمُوْطِ اَللّٰهُمَّ

والوں سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں سخت مزاج سے اور بدخلقی سے۔ اور حقیر جاننے سے اور حقیر جاننے والے سے۔ اے اللہ

اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَجْعِ وَالْفَاجِعِ وَمِنَ الْفَضِيْحِ وَالْفُضُوْحِ اَللّٰهُمَّ

بیشک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں غمزدہ ہونے سے اور غمزدہ کرنے والے سے اور رسوا کرنے والے سے اور رسوائی سے۔ اے اللہ

اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ عَنْ دِيَاجِ الظُّلُمَاتِ الْاَنَانِيَّةِ الْوُهْمِيَّةِ وَخِدَاجِ

بے شک تیری پناہ طلب کرتے ہیں انانیتِ موہوم کی تاریک تر ظلمتوں سے اور بشری آلائشوں

الْقَاذُوْرَاتِ الْبَشَرِيَّةِ الْمَوْهُوْمِيَّةِ الْاَنَانِيَّةِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ سُوْٓءِ

بشری آلائشوں کے نقصان سے جو موہوم انانیت وہستی والی ہے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بُرے

الذِّكْرِ وَسُوْٓءِ الْفِكْرِ وَسُوْٓءِ الذَّوْقِ وَسُوْٓءِ الشَّوْقِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ

ذکر سے۔ بُرے فکر سے۔ بُرے ذوق سے اور بُرے شوق سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں

سُوْٓءِ الْعِلْمِ وَسُوْٓءِ الْحِلْمِ وَسُوْٓءِ الْكِذْبِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ سُوْٓءِ الْاَدَبِ

بُرے علم سے۔ بُرے حلم سے اور بُرے جھوٹ سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بُرے ادب اور طریقہ

وَسُوْٓءِ الْعَجَبِ وَسُوْٓءِ الْعُجْبِ وَسُوْٓءِ الْغَضَبِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ سُوْٓءِ

سے اور بُرے تعجب سے۔ اور بُرے تکبر سے اور بُرے غضب سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بُرے

الْفَمِ وَسُوْٓءِ الْعَمِ وَسُوْٓءِ الْوَهْمِ وَسُوْٓءِ الْفَهْمِ وَسُوْٓءِ الزَّعْمِ وَاَعُوْذُ بِكَ

منہ سے اور بُرے اندھے پن سے اور بُرے وہم سے اور سوءِ فہم اور بُری پندار سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں

مِنْ سُوْٓءِ الظَّنِّ وَسُوْٓءِ الْفَنِّ وَسُوْٓءِ الْغَيْرِ وَسُوْٓءِ الضَّيْرِ وَسُوْٓءِ

بُرے گمان سے۔ اور بُرے اسلوب و انداز سے۔ اور بُری تبدیلی سے۔ اور بُرے ضرر و نقصان سے اور

الْمَيْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ سُوْٓءِ الشَّيْنِ وَسُوْٓءِ الشَّيَّادِ وَسُوْٓءِ الْمَشْيُوْدِ

بُری خوراک سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بُرے مکر سے اور بدترین مکار سے۔ اور مکر کئے ہوئے سے

وَسُوْءِ الْكِيَادِ وَاَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِيْ اَضَاءَتْ لَهُ

اور بُری مکاری سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بطفیل تیرے چہرۂ کریم کے نور کے کہ روشن ہوگئے بسبب اسکے

السَّمٰوٰتُ وَاَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمٰتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

سب آسمان اور جگمگا اُٹھیں بسبب اس کے سب تاریکیاں۔ اور درست ہوگیا اسی پر معاملہ دنیا اور آخرت کا۔

اَنْ لَّا تُحِلَّ عَلَيَّ غَضَبَكَ وَلَا تُنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطَكَ وَلَكَ الْعُتْبٰى

کہ تو نہ حلال ٹھہرائے مجھ پر اپنے غضب کو اور نہ نازل کرے مجھ پر اپنی ناراضگی کو اور تیرے شایان شان ہے عتاب کو روکے رکھنا

حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ وَمِنْكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ

حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے۔ اور نہیں پھرنا (معصیت سے) اور نہ طاقت (نیکی کی) مگر ساتھ تیرے اور تجھ سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں

فَسَادِ الزَّمَانِ وَتَسْمِيْعِهٖ وَظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَتَرْوِيْعِهٖ وَمِنْ كُلِّ ظَالِمٍ وَّ

زمانہ کے فساد سے اور اس کی ریاکاری سے۔ اور اہل اسلام کے ظلم سے اور اس کے خوفزدہ کرنے سے۔ اور ہر ظالم اور

حَاسِدٍ وَّتَصْدِيْعِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَقْوَالِ

حاسد سے اور اس کی چیرہ دستی سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بُرے اخلاق و اقوال سے

وَالْاَعْمَالِ وَالْاَفْعَالِ وَالْاِسْتِدْلَالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ

اور بُرے اعمال و افعال سے۔ اور بُرے استدلال سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شئی کے شر سے کہ پناہ طلب کی

مِنْهُ عِبَادُكَ الصّٰلِحُوْنَ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ

اس سے تیرے نیک بندوں نے، تو ہی میرا یار و مددگار ہے دُنیا و آخرت میں مجھے وفات دینا

مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

حالت اسلام میں۔ اور لاحق کرنا ساتھ نیک لوگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْهَيِّنِ اللَّيِّنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ باوقار انداز والے اور نرم طبیعت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الضِّيَاءِ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سراپا ضیاء ہیں

الْبَيِّنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

جو واضح و آشکار ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

السَّهْلِ الطَّلْقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ السَّمْحِ

جو محبوب کہ نرم طبع اور ہنس مکھ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب جود وسخی ہیں

الْمُتَخَلِّقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْمُوَقِّرِ

اور اعلیٰ اخلاق سے متصف ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب کہ (نیکی) اثر قبول کرنے

الْوَقُوْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْخَيِّرِ

والے ہیں اور بہت باوقار ہیں اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ سراسر خیر

الْمَبْرُوْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ

مقبول ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ جامع ہیں

كُلِّ خُلُقٍ كَرِيْمٍ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہر بزرگ خصلت کے جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیشک تم حاوی و غالب ہو خلق عظیم پر۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ السَّارِي الْمُدَلِّلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ رات کو سیر فرمانے والے ہیں اور رہنمائی کئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْمُفَهَّمِ الْمُكَحَّلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ فہم عطا کئے ہوئے ہیں اور قدرتی سرمہ لگی آنکھوں والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَاضِي الْحَوَائِجِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ (باذن اللہ) حاجات کو پورا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَتِيْجَةِ النَّتَائِجِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سب نتائج و مقاصد کا نتیجہ اور حاصل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَّافِضِ الدُّنْيَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب دنیا کو ترک کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّفَضِّلِ الْفَقْرِ عَلَى الْغِنٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر جو محبوب ترجیح دینے والے ہیں فقر کو غنا پر ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور قیام کرنے والے ہیں۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْقَارِئِ الْبَسَّامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ (قرآن کے) قاری ہیں اور بہت مسکرانے والے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَطِيْرَةِ الْخَطَآئِرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ بلند قدر ہیں تمام بلند قدروں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَبْصِرَةِ اُولِى الْبَصَآئِرِ اَللّٰهُمَّ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی جو محبوب کہ سراسر سامانِ بصیرت ہیں اربابِ بصیرت کے لیے ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُوْحِ اَرْوَاحِ الصُّوَرِ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ صورتوں کے ارواح کی روح ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ اَوَآئِلِ السُّوَرِ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ سورتہائے قرآنی کے حروفِ مقطعات کے راز پنہانی ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّاطِقِ بِالْحَقِّ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ کلام فرمانے والے ہیں ساتھ حق کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَاعِلِ الْخَيْرَاتِ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ مخلوقات کے لیے بھلائیوں کا

فِى الْخَلْقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سامان کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو

اِلْحَرَمِ الْاٰمِنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محبوب کہ سراپا حرم ہیں امن وامان کا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

لُبَابِ الْمَعَادِنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو محبوب کہ خلاصہ اور مغز ہیں تمام معادن کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مَّسْلَكِ الْهُدٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو آقا کہ ہدایت کا راہِ سلوک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

عَلَمِ مَنْ هَدٰى وَاهْتَدٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

جو محبوب کہ علم اور بلند چوٹی ہیں ہدایت کرنے والوں اور ہدایت پانے والوں کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّلِىِّ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ اہلِ اسلام کے یار و مددگار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَّاظِرِ عَيْنِ الدِّيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى

آل پر کہ جو محبوب کریم دین کی آنکھ کی پتلی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمَلْطُوْفِ بِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى

آل پر کہ جس محبوب پر (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) لطف وکرم کیا گیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمَشْغُوْفِ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى

آل پر کہ جس محبوب کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمَرْفُوْقِ بِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى

آل امجاد پر کہ جس محبوب کے ساتھ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) نرمی اور مدارات سے کام لیا گیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمَنْظُوْرِ اِلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى

آل پر کہ جس محبوب کی طرف ہر ایک کی نظر لگی ہوئی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِى الْعَرْشِ الْمَتِيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آل پر جو محبوب کہ مضبوط و مستحکم عرش والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّسْمُوْعِ الْقَوْلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ مقبول قول والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْعُدَّۃِ فِیْ کُلِّ شِدَّۃٍ وَّھَوْلٍ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ

اور سیّدنا محمدؐ کی آل پر جو محبوب کہ سروسامان ہیں (تسکین کا) ہر شدت اور دہشت میں۔ اے اللہ بیشک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

بِحَاءِ الْحَمْدِ وَمِیْمِ الْحَمْدِ وَدَالِ الْحَمْدِ اَنْ تُخْرِجَ لِیْ مِنْ دَالِ دِیْنِكَ

حمد کی حاء اور حمد کی میم اور حمد کی دال کے طفیل کہ برآمد فرمائے میرے لیے اپنے دین کی دال سے

دَارَكَ وَدَاعِیَتَكَ وَدُعَاءً تُعِیْدُ بَرَکَتَهٗ عَلَیَّ وَتُنْجِیْنِیْ بِهٖ مِنْ کُلِّ مَکْرُوْهٍ

اپنا دار و مکان اور داعیہ اپنا اور ایسی دُعا کہ لوٹائے تو اس کی برکت مجھ پر اور نجات دے مجھے ہر ناپسندیدہ چیز سے

لَدَیَّ وَاَنْ تَقْضِیَ لِیْ حَاجَاتِی النَّازِلَةَ فِیَّ وَاَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ اٰخِرَۃً

نزدیک میرے۔ اور یہ کہ پورا فرمائے میرے اندر نازل ہونے والی حاجات کو اور بالآخر ظاہر فرمائے اس سے

مَّحْمُوْدَۃً وَّدُنْیَا نَامَوْجُوْدَۃً مَّشْھُوْدَۃً وَّعَاقِبَةً جَمِیْلَةً مَّسْعُوْدَۃً اَللّٰھُمَّ

محمود عاقبت و انجام کو۔ اور وہ دُنیا ہماری جو موجود و مشہود ہے اور اس عاقبت و انجام کو جو جمیل اور باسعادت ہے۔ اے اللہ

اجْعَلْ لِّیْ مِنْ حِرْزِكَ وَمُنَاجَاتِكَ وَدُعَائِكَ سَیْفًا قَاطِعًا وَّسِکِّیْنًا

بنا میرے لیے اپنے تعویذ۔ مناجات اور دُعا کو کاٹنے والی تلوار اور پار ہو جانے والی چھری اور

نَافِذًا وَّقَوْسًا سَائِقًا وَّسَھْمًا صَائِبًا یُّدْفَعُ بِھَا الْعَدُوُّ وَالْمُتَمَرِّدُ وَالْحَسُوْدُ

تیر چلانے والی قوس اور نشانے پر بیٹھنے والا تیر کہ دور کیا جائے ساتھ اس کے سرکش دُشمن اور حاسد

وَالْمُنْکِرُ وَالْمُتَشَرِّدُ وَالْمُنْحَرِفُ وَالْمُتَرَدِّدُ وَیُضْرَبُ بِھَا اَعْنَاقُ الْاَعْدَاءِ

منکر اور دُور بھاگنے والا۔ اور ہٹنے والا اور تردد و تذبذب میں مبتلا اور ماری جائیں بسبب ان کے گردنیں اعداء کی۔

وَیُقْتَلُ بِھَا شَوَاکِلُ الْبَلَاءِ وَیُھْلَكُ بِھَا مَا لَیْسَ لِرَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ

اور قتل کی جائیں ساتھ ان کے مختلف الاقسام بلائیں اور ہلاک کیا جائے ساتھ ان کے جو نہیں ہے واسطے مالک ارض و سما کے

بِحَقِّ مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَالْمُصْطَفَی الْمَکِیْنِ وَاَسْئَلُكَ رِزْقًا حَلَالًا

بطفیل حق محمدؐ کے جو سردار ہیں مرسلین کے اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں اور بلند قدر ہیں اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے حلال و پاکیزہ

طَیِّبًا وَّلَا تُؤْمِنِّیْ مَکْرَكَ وَلَا تُنْسِنِیْ ذِکْرَكَ وَلَا تَکْشِفْ عَنِّیْ سِتْرَكَ وَلَا

رزق کا اور یہ کہ نہ بے خوف کرے تو مجھے اپنی خفیہ تدبیر سے اور نہ بھولنے دے ذکر اپنا اور نہ ہٹائے مجھ سے ستر اپنا۔ اور نہ

تُقَنِّطْنِیْ مِنْ رَّحْمَتِكَ وَلَا تُبَعِّدْنِیْ مِنْ کَنَفِكَ وَجِوَارِكَ وَاَعِذْنِیْ مِنْ

نامید کرے مجھے اپنی رحمت سے۔ اور نہ دور کرے مجھے اپنے پہلوئے رحمت سے اور پڑوس سے۔ اور مجھے بچائے

سَخَطِكَ وَغَضَبِكَ وَلَا تُؤْیِسْنِیْ مِنْ رَّحْمَتِكَ وَرَوْحِكَ وَکُنْ لِّیْ اَنِیْسًا

اپنے غصّے اور غضب سے۔ اور نہ مایوس کرے مجھے اپنی رحمت سے اور راحت و خوشی سے، اور ہو جا تو میرا انس مہیا

مِّنْ کُلِّ رَوْعَةٍ وَّوَحْشَةٍ وَّاعْصِمْنِیْ مِنْ کُلِّ ھَلَکَةٍ وَّزَلْزَلَةٍ وَّغَمٍّ وَّھَمٍّ

کرنے والا ہر خوف اور وحشت سے۔ اور بچا مجھے ہر قسم کی ہلاکت اور زلزلہ سے اور غم و تفکر سے

وَّبَلَاءٍ وَّوَبَاءٍ وَّطَعْنٍ وَّطَاعُوْنٍ وَّحَرَقٍ وَّغَرَقٍ وَّحَرٍّ وَّبَرْدٍ وَّجُوْعٍ وَّ

اور بلا و وبا سے۔ اور نیزوں کے زخم اور طاعون سے اور جل مرنے اور غرق ہونے سے اور گرمی و سردی سے اور

عَطَشٍ وَّقَحْطٍ وَّغَارَۃٍ وَّضِیْقٍ وَّنَجِّنِیْ مِنْ کُلِّ بَلِیَّةٍ وَّاٰفَةٍ وَّعَاھَةٍ

بھوک و پیاس سے اور قحط سالی اور غارت سے اور تنگدستی سے اور نجات دے مجھے ہر آزمائش اور آفت سے اور عیب و نقص سے

وَّغُصَّةٍ وَّمِحْنَةٍ وَّشِدَّۃٍ وَّزَلَلٍ وَّخَطَاءٍ وَّھَانَةٍ وَّکُرْبَةٍ وَّھَزْقٍ وَّھَدَمٍ

اور ہر غم و غصہ سے۔ اور محنت و شدت سے اور لغزش و خطا سے اور حقارت اور کربت سے۔ بادل کی سخت گرج سے اور دب کر مرنے

وَّحَسْقٍ وَّسَرَقٍ فِی الدَّارَیْنِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ

سے اور زمین میں دھنسنے سے اور ضعف و ناتوانی سے دونوں جہان میں۔ بے شک تو وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔ اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں تجھ

بِعَدَدِ خَلْقِكَ بِعِزَّۃِ عَرْشِكَ بِرِضَاءِ نَفْسِكَ بِنُوْرِ وَجْھِكَ بِمَبْلَغِ حِلْمِكَ

سے تیری مخلوق کی گنتی کے مطابق تیرے عرش کی عزت کے طفیل، تیری ذات کی رضامندی کے طفیل، تیرے نور ذات کے طفیل، تیرے بے انتہا

بِمُنْتَھٰی رَحْمَتِكَ بِاِدْرَاكِ مَشِیَّتِكَ بِکُلِّ صِفَاتِكَ بِنِھَایَاتِ اَسْمَائِكَ

حلم کے طفیل، تیری بے نہایت رحمت کے طفیل، تیری مشیت کے احاطہ کے طفیل، تیری تمام تر صفات کے طفیل، تیرے اسماء کی بے نہایتی کے طفیل۔

بِمَکْنُوْنِ سِرِّكَ بِجَمِیْلِ بِرِّكَ بِکَمَالِ مَنِّكَ بِفَیْضِ جُوْدِكَ بِسِبَاقِ رَحْمَتِكَ

تیرے راز مستور کے طفیل۔ تیرے جمیل احسان کے طفیل تیرے کمال امتنان کے طفیل۔ تیرے فیضان جود کے طفیل۔ تیری رحمت کے سبقت لیجانے کے

بِعَدَدِ کَلِمَاتِكَ بِتَوْحِیْدِ وَحْدَانِیَّتِكَ بِبَقَاءِ سَرْمَدِیَّةِ اَوْقَاتِكَ بِعِزَّۃِ

طفیل، تیرے کلمات کی گنتی و شمار کے صدقے میں۔ تیری وحدانیت کے اقرار و اعتراف کے صدقے میں تیرے اوقات کی سرمدیت و بقاء ابد کے صدقے میں تیری

رُبُوبِیَّتِكَ بِجَاهِكَ بِجَلَالِكَ بِكَمَالِكَ بِجَمَالِكَ بِاَفْعَالِكَ بِاِنْعَامِكَ

عزت ربوبیت کے صدقے میں تیرے جاہ وجلال کے صدقے ہیں ۔ تیرے کمال وجمال کے صدقے ہیں ۔ تیرے تمام افعال اور تیرے انعام کے صدقے ہیں ۔

بِحَقِّكَ وَبِحَقِّ رَسُولِكَ مُحَمَّدِ ؐ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَ

تیرے حق کے صدقے میں تیرے رسول مقبول محمد مصطفٰے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

اَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ اَنْ تَجْعَلَ لَنَا فَرَجًا وَّمَخْرَجًا وَّشِفَآءً مِّنَ الْهُمُوْمِ وَ

کے حق کے صدقے میں (سوال کرتا ہوں کہ) بنائے تو ہمارے لیے کشائش اور جگہ خلاصی کی اور شفاء تفکرات اور

الْغُمُوْمِ وَالْبَلَآءِ وَالْوَبَآءِ وَالطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ وَالْعَنَآءِ وَمِنْ جَمِيْعِ

غمگینیوں سے ۔ اور بلاء و وباء سے ۔ اور طعن و طاعون سے اور مشقت و شدت اور جملہ

الْاٰفَاتِ وَالْعَاهَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ بِحَقِّ كٓهٰيٰعٓصٓ وَبِحَقِّ طٰهٰ وَيٰسٓ

آفات و نقائص سے اور بلیات سے بطفیل حق کہیعص اور بطفیل حق طٰہٰ اور یٰس ۔

وَطٰسٓ وَحٰمٓ عٓسٓقٓ وَبِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ

اور طٰسٓ اور حٰمٓعٓسٓقٓ کے اور بطفیل حق بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے ۔ بے شک ہم نے فتح دی ہے آپ کو

فَتْحًا مُّبِيْنًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ

فتح آشکارا تا کہ بخش دے اللہ تمہارے وہ جو گزرے تمہارے ذنوب سے (تمہارے خیال میں) اور وہ جو بعد میں سرزد ہوں گے (تمہارے اندیشوں میں) اور

نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ عِلْمَ

کامل کرے تم پر اپنی نعمت کو اور چلائے تمہیں راہِ راست پر ۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں توحید کے

التَّوْحِيْدِ وَعَمَلَ التَّوْحِيْدِ وَقَوْلَ التَّوْحِيْدِ وَخَيَالَ التَّوْحِيْدِ وَحَالَ

علم کا ۔ اور توحید پر عمل کا ۔ اور توحید کے قول و اقرار کا ۔ اور توحید کے خیال کا اور توحید کے

التَّوْحِيْدِ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ۝ اَللهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝

حال کا ۔ فرما دیجیے وہ اللہ یکتا ہے ۔ اللہ بے نیاز ہے ۔ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود جنا گیا

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

اور نہیں اس کے لیے کوئی بھی رشتہ دار

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

الحمد للّٰہ المنّۃ

کہ دریں زمان سعادت اقتران بفضل

ایزد منّان تحفۂ عجائب و ہدیۂ غرائب الی اللہ

مقبول بارگاہ شاہ کونین حضرت محمد رسول اللہ

مُسمّٰی بہ

مجموعۂ صلوات الرسول ؐ


الجزء السادس

فی شرفہ وشرافتہ صلی اللہ علیہ وسلم

از تصنیف خادم مخلوق الملک السبحان خلیفہ حضرت شاہ جیلانی

حضرت خواجۂ خواجگان خواجہ محمد عبد الرحمٰن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبۂ سرحد پاکستان



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ بِحَظِيْظِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَبِحَظِّ

اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل اقبال مندی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے۔ اور بطفیل نصیب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَبِحُظُوْظِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے اور بطفیل حصص خیر کے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○

سب ستائش اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، بہت مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔ مالک ہے یوم جزا کا۔

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ

(اے ان صفاتِ کمال والے) تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں ہم۔ چلا ہمیں راہِ راست پر۔ راہ

الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا ہے نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط قَيُّوْمِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرَضِيْنَ ط مُدَبِّرِ

سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو قائم و برپا رکھنے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ تدبیر فرمانے والا ہے

الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ مُنَوِّرِ اَبْصَارِ بَصَآئِرِ الْعَارِفِيْنَ ط بِنُوْرِ الْمَعْرِفَةِ

سب مخلوقات کی۔ روشن کرنے والا ہے آنکھیں عارفوں کی بصیرتوں کی۔ ساتھ معرفت

وَالْيَقِيْنِ ط جَاذِبِ اَسْرَارِ الْاَئِمَّةِ وَالْمُحَقِّقِيْنَ ط بِجَذْبِ الْقُرْبِ

و یقین کے نور کے۔ کھینچنے والا ہے آئمہ اور اہل تحقیق کے بواطن و قلوب کو قرب اور بلندیٔ مرتبت کی

وَالتَّمْكِيْنِ ط وَفَاتِحِ قُلُوْبِ الْمُوَحِّدِيْنَ ط بِمَفَاتِيْحِ حَمْدِ الشَّاكِرِيْنَ ط

کشش سے۔ اور کھولنے والا ہے اہل توحید کے قلوب کو شکر گزاروں کی حمد کی چابیوں کے ساتھ

وَجَامِعِ اَشْتَاتِ شَمْلِ الْمُحِبِّيْنَ ط فِیْ حَضَآئِرِ قُدْسِهٖ وَاُنْسِهٖ بِجَمْعِ

اور جمع فرمانے والا ہے پراگندگیاں اہل محبت کی جمعیت کی اپنی بزم قدس و انس میں بسبب جمع کرنے

الْحِفْظِ وَالْيَقِيْنِ ۝ اَحْمَدُهٗ حَمْدًا يَّفُوْقُ وَيَعْلُوْا وَيَفْضُلُ حَمْدًا

حفظ اور یقین کے ۔ میں اس کی ثناء کرتا ہوں ایسی ثناء جو فائق اور بلند ہو اور برتر ہو تمام حمد

الْحَامِدِيْنَ ؕ حَمْدًا يَّكُوْنُ لِيْ رِضًا وَّ فَيْضًا وَّحِفْظًا وَّحَظًّا وَّذُخْرًا

کرنے والوں کی حمد سے ۔ ایسی حمد کہ ہو میرے لیے سراسر رضا ، فیضان اور حفاظت کا سامان اور حصۂ خیر اور ذخیرہ

وَّحِرْزًا عِنْدَ خَالِقِيْ وَخَالِقِ الْاَقَالِيْمِ وَالْجِهَاتِ وَالْاَقْطَارِ وَالْاَمْصَارِ

اور سبب حفاظت نزدیک میرے خالق کے ۔ اور تمام اقالیم وجہات کے خالق اور اطراف و بلاد اور

وَالْاَعْصَارِ وَالْاَمْلَاكِ وَالْاَفْلَاكِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ؕ رَبِّ السَّمٰوٰتِ

زمانوں کے خالق ۔ اور ملائکہ و افلاک کے خالق کے جو سب جہانوں کا رب ہے ۔ سب آسمانوں کا مالک

وَرَبِّ الْاَرَضِيْنَ وَرَبِّ الْاَقْرَبِيْنَ ۝ وَرَبِّ الْاَبْعَدِيْنَ ۝ وَرَبِّ

اور سب زمینوں کا مالک ہے ۔ قریب ترین لوگوں کا پروردگار ہے اور بعید ترین کا پروردگار ہے ۔ اور اوّلین

الْاَوَّلِيْنَ ؕ وَرَبِّ الْاٰخِرِيْنَ ؕ وَرَبِّ الْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝ وَرَبِّ

کا رب ہے اور آخرین کا رب ہے ۔ اور ملائکہ مقربین کا رب ہے ۔ تمام انبیاء و

الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَرَبِّ الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ ؕ اَلرَّحْمٰنِ

مرسلین کا رب ہے ۔ اور رب ہے تمام مخلوقات کا ۔ رحمٰن

الرَّحِيْمِ ۙ الْاَزَلِيِّ الْقَدِيْمِ السَّمِيْعِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

رحیم ہے ۔ ازلی ہے قدیم ہے ۔ ہمیشہ سے سننے والا ، بلند شان اور مالک عظمت ہے ۔ دائمی عزت والا اور دائمی حکمت

الَّذِيْ دَحَى الْاَقَالِيْمَ ۝ وَاخْتَصَّ مُوْسَى الْكَلِيْمَ ۝ وَاخْتَارَ سَيِّدَنَا

والا ہے ۔ جس نے پھیلایا سب اقالیم کو ۔ اور مخصوص ٹھہرایا ۔ حضرت موسیٰ کلیم کو ۔ اور اختیار فرمایا سیدنا

مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيْبًا مِّنْ بَيْنِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حبیب کے تمام انبیاء اور مرسلین میں سے ۔

وَسَمّٰى نَفْسَهُ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمَ ۝ فَهُمَا اِسْمَانِ عَظِيْمَانِ كَرِيْمَانِ

اور اپنی ذات کو موسوم کیا رحمٰن ورحیم کے ساتھ ۔ پس وہ دونوں عظمت وکرامت والے اور

جَلِيْلَانِ فِيْهِمَا شِفَآءٌ لِّكُلِّ سَقِيْمٍ وَّدَوَآءٌ لِّكُلِّ عَلِيْلٍ وَّغِنَآءٌ

جلالت والے نام ہیں ۔ ان دونوں میں شفاء ہے واسطے ہر مریض کے ۔ اور دوا ہے واسطے ہر بیمار کے اور دولتمندی ہے

لِّكُلِّ فَقِيْرٍ وَّعَدِيْمٍ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ لَيْسَ لَهٗ فِيْ مُلْكِهٖ

واسطے ہر فقیر اور تہی دامن کے ، مالک ہے قیامت کے دن کا ۔ نہیں اس کے لیے اس کے ملک میں

مُنَازِعٌ وَّلَا شَرِيْكٌ وَّلَا ظَهِيْرٌ وَّلَا شَبِيْهٌ وَّلَا نَظِيْرٌ وَّلَا مُدَبِّرٌ وَّلَا وَزِيْرٌ

مخالفت کرنے والا ۔ اور نہ حصہ دار ۔ نہ مددگار اور نہ مشابہت رکھنے والا اور نہ کوئی مناسبت رکھنے والا ۔ نہ منتظم اور نہ وزیر

وَّلَا مُعِيْنٌ بَلْ كَانَ قَبْلَ وُجُوْدِ الْعٰلَمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ ۝ وَلَمْ يَزَلْ

اور نہ کوئی اعانت کرنے والا ۔ بلکہ وہ موجود ہے پہلے اس کے کہ موجود ہوتے سب جہان ۔ اور ہمیشہ سے ہے

سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى مَلِيْكًا كَرِيْمًا قَيُّوْمًا اَبَدَ الْاٰبِدِيْنَ وَدَهْرَ الدَّاهِرِيْنَ

اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاحب ملک ۔ کریم ۔ قائم رہنے والا ہے قائم رہنے اور باقی رہنے والوں کے زمانہ تک بلکہ ہمیشہ کے لیے

فَهُوَ اِحَاطَتِيْ مِنْ جَمِيْعِ الشَّيَاطِيْنِ وَالسَّلَاطِيْنِ ۝ وَعَوْنٌ لِّيْ مِنْ

پس وہی میرا قلعہ ہے تمام شیاطین اور سلاطین سے ۔ اور میرا معاون ہے تمام تر

جَمِيْعِ الْاَقْرَبِيْنَ وَالْاَبْعَدِيْنَ ؕ اِيَّاكَ نَعْبُدُ يَا مَوْلٰنَا بِالْاِقْرَارِ وَ

لوگوں سے قریب ترین اور بعید ترین سے ۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اے ہمارے مولیٰ ساتھ اقرار (الوہیت)

نَعْتَرِفُ لَكَ اَيْضًا بِالْعَجْزِ وَالتَّقْصِيْرِ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ

کے اور اعتراف کرتے ہیں تیرے لیے عجز وقصور کا بھی ۔ اور ایمان لاتے ہیں ساتھ تیرے اور توکل کرتے ہیں

عَلَيْكَ فِيْ كُلِّ الْاُمُوْرِ ۝ وَنَعْتَصِمُ بِكَ مِنْ جَمِيْعِ الذُّنُوْبِ وَنَشْهَدُ

تجھ پر تمام امور میں ۔ بچاؤ حاصل کرتے ہیں تجھی سے تمام گناہوں سے ۔ اور شہادت دیتے ہیں

اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ۝ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ

کہ نہیں معبود برحق مگر تو ہی اے ذوالجلال والاکرام ۔ اور تجھی سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں ۔

نَسْتَعِيْنُ بِاللّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَاجَةٍ مِّنْ اُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ ؕ

توفیق طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہر حاجت میں دُنیا و آخرت کے حاجات میں سے ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَاجِ اَهْلِ الْبَدْوِ وَالْحَضَرِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر جو کہ بادشاہ ہیں دیہاتیوں اور شہریوں کے۔

وَمَنْ اَقَرَّ بِفَضْلِهٖ وَمَنْ نَّاٰى عَنْهُ وَمَنْ حَضَرَ يَا هَادِىَ الْمُضِلِّيْنَ

اور (ان تمام کے) جنہوں نے اقرار کیا آپ کی فضیلت کا۔ اور جو آپ سے دور رہے یا جو حاضر بارگاہ ہوئے۔ اے ہدایت دینے والے گمراہ

لَا هَادِىَ لَنَا غَيْرُكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ

کرنے والوں کے نہیں کوئی ہادی ہمارے لیے سوا تیرے۔ تو یکتا و بے ہمتا ہے۔ نہیں شریک واسطے تیرے۔ تو ہی بادشاہ ہے حق ہے

الْمُبِيْنُ ۝ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَهَادِيَنَا وَمُهْدِيَنَا مُحَمَّدًا

آشکارا کرنے والا ہے (حق کا) اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہمارے سردار۔ نبی۔ ہادی اور معطی محمد

عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَحَبِيْبُكَ النَّبِىُّ الْاُمِّىُّ صَادِقُ الْوَعْدِ الْاَمِيْنُ

تیرے عبد خاص۔ تیرے رسول اور حبیب، نبی امی سچے وعدوں والے۔ امین و معتمد علیہ ہیں

الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً اِلٰى كَآفَّةِ الْخَلَآئِقِ اَجْمَعِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ

جو بھیجے ہوئے ہیں بطور رحمت مجسم ہونے کے طرف تمام خلائق کے۔ درود بھیجے اللہ تعالےٰ ان پر اور

عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَشِيْعَتِهٖ وَوَارِثِيْهِ وَحِزْبِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ

ان کی آل اور اصحاب اور آپ کی جماعت اور آپ کے تابعین پر اور آپ کے گروہ پر جو پاکیزہ و منزہ ہیں

صَلٰوةً وَّسَلَامًا دَآئِمَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ بَاقِيَيْنِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

ایسا درود و سلام کہ وہ دونوں دائم اور باہم لازم و ملزوم ہوں اور باقی رہنے والے ہوں قیامت کے دن تک

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِّنَ

چلا ہمیں راہ راست پر راہ ان لوگوں کی کہ تو نے انعام فرمایا ہے ان پر یعنی

النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ

انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صالحین۔ اور بہت اچھے ہیں وہ حضرات از روئے

رَفِيْقًا ۝ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝ صِرَاطَ اَهْلِ

رفیق ہونے کے۔ وہ عظیم فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور صاحب علم ہونے کے (چلا ہمیں) راہ

الْاِسْتِقَامَةِ وَالدِّيْنِ وَالتَّعْظِيْمِ صِرَاطَ اَهْلِ الْاِخْلَاصِ وَالتَّسْلِيْمِ

اہل استقامت اور اہل دین کی اور عظمت والوں کی۔ راہ اہل اخلاص اور ارباب تسلیم کی۔ راہ

صِرَاطَ الرَّاغِبِيْنَ اِلٰى جَنَّاتِ النَّعِيْمِ ۝ صِرَاطَ الْمُسْتَاْنِسِيْنَ بِالنَّظَرِ

ان حضرات کی جو راغب ہیں طرف جنات نعیم کے۔ راہ طلب گاران انس کی بسبب نظر کے

اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ اَللّٰهُمَّ لَا تَغْضَبْ عَلَيْنَا

طرف تیرے وجہ کریم کے۔ نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے۔ اے اللہ نہ غضب فرما ہم پر

وَسَهِّلْ لَّنَا طَرِيْقًا بَيِّنًا لِّمَا قَدْ نَطْلُبُهٗ مِنْكَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ وَ

اور آسان فرما ہمارے لیے راستہ آشکار البسبب اس کے کہ ہم تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں اے رب العالمین۔ اور

احْجُبْ عَنَّا كُلَّ قَاطِعٍ وَّمَانِعٍ وَّحَاسِدٍ وَّبَاغِضٍ مِّنَ الْخَلْقِ وَ

روک لے ہم سے ہر قطع کرنے والے اور منع کرنے والے۔ اور حسد و بغض رکھنے والے کو سب مخلوق میں سے بالعموم

الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَجْمَعِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

اور سب جنوں انسانوں میں سے بالخصوص۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ شَمِلَهُ الْمَجْدُ الْاَثِيْلُ وَلَمَّهٗ وَتَنَاهٰى

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کا احاطہ کر رکھا ہے پائیدار بزرگی نے اور ان کے بال تو بیرہ لگا رکھا ہے۔ اور انتہاء

اِلَيْهِ الشَّرَفُ الْمُنِيْفُ وَالشَّرَفُ الْخَيْفُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

کو پہنچا طرف انہیں کے شرف عالی اور مختلف النوع شرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ وَافَتْهُ الْمَهَابَةُ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کے ساتھ سازگاری کی قدرتی اور خداداد ہیبت اور

الْجَلَالُ وَتَمَّ لَهُ الْمَحَاسِنُ وَالْجَمَالُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

جلال نے۔ اور کامل ہوئیں ان کے لیے خوبیاں اور جمال صورت۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّرَفِ وَالْاَمَانِ وَالْبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد پر جو آقا کہ صاحب شرف اور صاحب امان ہیں اور بیعت الرضوان والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبَيَانِ
وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ صاحب بیان ہیں

وَالْفِطْرَةِ وَالْبَيْعَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
اور دین فطرت والے ہیں۔ اور درخت کے نیچے بیعت لینے والے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحِزْبَةِ وَالْقِرْبَةِ وَبَيْعَةِ
محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ ورد والے اور مشکیزہ والے اور بیعت

الْعَقَبَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا
عقبہ والے ہیں؎ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ وَالْقِتَالِ وَالْجِهَادِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
جو محبوب کہ عمدہ گھوڑے والے ہیں اور قتال و جہاد والے ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَوْلِ
وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ مقبول

الْمَسْمُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَالرُّكُوْعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
قول والے ہیں اور سجود و رکوع والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْفَوَائِدِ وَالْعَقَائِدِ وَالْاَعْلَامِ
اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ فوائد کے مالک ہیں۔ اور عقائد و اعلام

وَالْمَسَاجِدِ وَالْمَحَافِلِ الْجَلِيَّةِ وَالْمَشَاهِدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
اور مساجد کے مالک ہیں اور روشن و آشکار محافل و مشاہد والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّوَاهِدِ وَ
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ علامات صدق اور دلائل حقانیت

الدَّلَائِلِ وَالْفَضَائِلِ وَالْمَسَائِلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
کے مالک ہیں اور فضائل کے سرچشمہ اور مسائل شرعیہ کے معلم ہیں ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

؎ جو اہل مدینہ سے میدان منیٰ ایام موسم میں معاہدۂ نصرت کے طور پر لے گئی تھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی صورت میں۔

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقِبْلَةِ الْيَمَانِيَّةِ وَالْمَوَاهِبِ
محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ کعبہ یمانیہ اور ربانی عطیات کے مالک

الرَّبَّانِيَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا
ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوِتْرِ وَالضُّحٰى وَالْاُضْحِيَّةِ وَالْاَضْحٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ
جو کہ نماز وتر اور صلوٰۃ ضحیٰ کے ساتھ مختص ہیں اور قربانی اور عید الاضحیٰ والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ النَّامُوْسِ
وسلام بھیج سیدنا محمد پر۔ اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ جبریل امین (جیسے مخلص خادم) والے ہیں

وَالْمَحَبَّةِ الْمُثْمِرَةِ فِى الْقُلُوْبِ وَالنُّفُوْسِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
اور ایسی محبت والے جو بار آور ہے قلوب اور نفوس میں (ساتھ نورانیت کے)۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرُّتْبَةِ الْجَلِيَّةِ
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقائے خلق کہ روشن مرتبہ

وَالدَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ وَالْمَحَاسِنِ الْبَدِيْعَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
بلند درجہ اور انوکھی خوبیوں کے مالک ہیں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ النَّجْدَةِ وَالْقُوَّةِ وَ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقائے نامدار عظیم طاقت وقوت کے مالک ہیں

الْمَكَانَةِ وَالْحُظْوَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اور عظیم درجہ اور نصیبہ کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ الْمُقَرَّبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
محمد کی آل پر جو محبوب مکرم کہ تیرے ہاں قریب ترین منزل ومقام پر فائز ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ النُّوْرِ وَالْبُرْهَانِ
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ نور و برہان کے مالک ہیں

وَالْحِكْمَةِ وَالْقُرْاٰنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

اور حکمت و قرآن کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّبْعِ الْمَثَانِيْ وَالتَّحْقِيْقِ وَالْمَبَانِيْ اَللّٰهُمَّ

آل پر جو محبوب کہ سبع مثانی (سورۂ فاتحہ) کے ساتھ مختص فرمائے گئے ہیں اور حقائق کے ثابت کرنے اور (اسرار کو بطور) حروف تہجی بیان کرنے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاَمَانَةِ

والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ امانت

وَالطَّاعَةِ وَالْبَلَاغَةِ وَالْبَرَاعَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وطاعت والے ہیں اور بلاغت و برتری والے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیّدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقِبْلَتَيْنِ وَالْمَسْجِدَيْنِ وَالْمَقَامَيْنِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ دونوں قبلوں اور دونوں مسجدوں (مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ) اور دونوں مقاموں (مقام ابراہیم اور

وَالْحَرَمَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

مقام محمود) اور دونوں حرموں (حرم مکہ اور حرام مدینہ) والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَظِّ الْاَوْفَرِ وَالْوَجْهِ الْاَقْمَرِ الْاَنْوَرِ وَالطَّرْفِ

پر جو محبوب کہ (تیرے ہاں) وافر ترین حصے والے ہیں اور چاند جیسے نورانی چہرے والے۔ اور آنکھ کے سفید حصہ

الْاَحْوَرِ وَالْجَبِيْنِ الْاَزْهَرِ وَالْجَمَالِ الْاَبْهَرِ وَالْمَقَامِ الْاَفْخَرِ الْاَنْوَرِ

کی زیادہ سفیدی والے۔ روشن جبین والے (عقول کو) حیرت زدہ کرنے والے جمال کے مالک اور بہت ہی قابل فخر نورانی مقام

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

صَاحِبِ اللِّمَّةِ وَالشَّامَّةِ وَالْخَاتَمِ وَالْغَمَامَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محبوب کہ دراز زلفوں والے اور سونگھنے کی عظیم قوت والے اور مہر نبوت والے اور (سایہ فگن) بادل والے۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ النَّاقَةِ وَالنَّجِيْبِ

وسلام بھیج سیّدنا محمد پر اور سیّدنا محمد کی آل پر جو آقا اونٹنی (کو سواری کا شرف بخشنے) والے ہیں اور شریف ترین خاندان والے۔

وَالْهِرَاوَةِ وَالْقَضِيْبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

اور صاحب عصا اور صاحب سیف ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْجَيْشِ الْمَنْصُوْرِ وَالسِّوَاكِ وَالطَّهُوْرِ اَللّٰهُمَّ

آل پر جو محبوب کہ فتح یاب لشکر والے اور مسواک اور وضو والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ

الْوَفْرَةِ الْعَطِرَةِ وَالْوَجْنَةِ النَّضِيْرَةِ وَالطَّلْعَةِ السَّعِيْدَةِ وَالْحَالَةِ

عنبریں زلفوں والے۔ ترو تازہ رخساروں والے۔ سعادت مند ستارے والے اور لائق ہزار ستائش

الْحَمِيْدَةِ وَالْخُفَّيْنِ وَالْوِسَادَةِ وَالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ يَا حَمِيْدَ الْاَفْعَالِ

حالت و کیفیت والے ہیں اور موزوں۔ تکیہ اور زہد و عبادت والے ہیں۔ اے قابل ستائش افعال اور

ذَا الْمَنِّ عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهٖ بِلُطْفٍ اِجْعَلْنِيْ مَحْمُوْدًا مَّسْعُوْدًا بِكُلِّ

احسان وانعام فرمانے والے تمام مخلوق پر ساتھ لطف و کرم کے بنا دے مجھے بھی سزاوار ستائش اور سعادتمند ساتھ

اَفْعَالٍ وَّاَقْوَالٍ عِنْدَ كُلِّ نَفَسٍ مَّعَ حَرَكَةٍ وَّسُكُوْنٍ وَّاجْعَلْنِيْ عَلٰى

تمام افعال و اقوال کے نزدیک ہر نفس کے ساتھ ہر حرکت اور سکون کے بنا دے مجھے

اَقْصٰى طُرُقٍ مَّحْمُوْدَةٍ عِنْدَ الْعَارِفِيْنَ وَالْوَاصِلِيْنَ ثُمَّ مُنَّ عَلَيَّ

انتہائی محمود طریقہ پر نزدیک تمام عارفین و واصلین کے۔ پھر احسان فرما مجھ پر

مَنًّا بِعَطَاءٍ كَثِيْرٍ دِيْنِيٍّ وَّرُوْحِيٍّ فِيْ مَرْتَبَةِ تَكْمِيْلٍ اِضَافِيٍّ فَكُلَّمَا

دینی اور روحانی عظیم و کثیر عطا کے ساتھ ترقی پذیر تکمیل کے مرتبہ میں۔ پس ہر بار کہ

رَجَعَ الْمَنُّ بِجَبْرِ الْجَلَالِ الدَّاعِيْ اِلَى التَّجْرِيْدِ وَالْاِهْلَاكِ اَعِدْهُ

مراجعت فرما ہو احسان بسبب شان جبر و جلال کے جو باعث ہو انعامات سے محرومی کا اور ہلاکت کا تو اس کو لوٹا مجھ پر

بِلُطْفِ الْجَمَالِ الْعَرِيْقِ الْبَهِيْجِ النَّاظِرِ بِهٖ عِبَادُكَ الْمُخْلِصُوْنَ

ساتھ شان لطف و جمال کے جو راسخ و پائیدار اور خوش منظر ہے۔ دیکھنے والے ہوں ساتھ اس کے تیرے مخلص بندے طرف میرے

فَاجْعَلْ لَيْلِي وَنَهَارِي وَكُلَّ مَنْ يَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ وَرَسُولَكَ وَعَبْدَكَ

پس بنا دے تو مجھے میرے تمام شب و روز میں اور ہر اس شخص کو جو متوجہ ہو تیری طرف اور تیرے رسول کی طرف اور تیرے

الْمُخْلِصَ ذَاتَ مَنْ مُشَرَّفٍ جَامِعٍ بِكُلِّ خُلُقٍ فَاضِلٍ مِنْ كُلِّ

اس عبد مخلص کی طرف بہت بڑے اعلیٰ اور جامع احسان والے واسطے ہر فضیلت والی خصلت کے

عَالِمٍ بِالْفِعْلِ وَالْقُوَّةِ الرَّاجِحَةِ اَوِ الْمُسَاوِيَةِ اٰمِيْنَ يَا سُبُّوحُ

تمام جہان سے جو ان میں بالفعل ہے یا بالقوۃ وزنی استعداد کے ساتھ یا مساوی کے ساتھ آمین اے سبوح

الْمُنَزَّهُ وَيَا قُدُّوسُ الْقَادِرُ طَهِّرْنِي مِنَ الدَّنَسِ النَّاسُوتِيِّ فَاَنْتَ

پاکیزہ ترین۔ اے قدوس صاحب قدرت پاک فرما مجھے جسمانی میل سے پس تو ہی

الْمُلْقِي اِلَى الْعُلْوِيِّ بِالْجَبْرِ وَالْقَهْرِ الْقَوِيِّ الْجَرَّارِ مِنْ مَادَّةٍ دَنِيَّةٍ

، القاء کرنے والا ہے طرف بلندیوں والوں کے جبر اور شدید قہر کو جو کھینچنے والا ہے انہیں رذیل مادہ سے

اِلَى عَالَمِ الْقَرَارِ وَيَا نَقِيًّا مِنْ كُلِّ لَوْثٍ قَوْلِيٍّ اَوْ وَهْمِيٍّ مَرْكُوزٍ

طرف دار قرار کے۔ اور اے کہ پاک ہے ہر آلائش قولی اور وہمی سے جو مرکوز ہے

فِي اَيِّ حِسٍّ وَاجْعَلْ قَلْبِي ثُمَّ رُوحِي عَرِيجًا عَلَى سَمَاءِ الْقُدْسِ

کسی بھی حس میں۔ اور بنا تو میرے دل کو پھر میری روح کو چڑھنے والا تقدس کے آسمان پر

وَقَدِّرْ لِي ثَمَّةَ مَطْوِيَّتَيْنِ الْجِهَاتُ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْاَزْمِنَةُ

اور میرے زیر تصرف فرما اس جگہ دو سمٹی ہوئی چیزیں۔ تمام جہات بمنزلہ ایک جہت کے ہوں اور زمانے (ماضی و مستقبل

فِي نَهْجٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَصِيرَ الشَّهْرُ وَالْجُمُعَةُ وَالْيَوْمُ يَوْمًا وَاحِدًا

اور حال) ایک انداز و طریق (حال) پر ہوں حتیٰ کہ ہو جائے مہینہ۔ ہفتہ اور دن مانند ایک دن کے

مُطَّلِعًا عَلَى الْاَسْرَارِ الْغَيْبِيَّةِ الَّتِي هِيَ وَرَاءَ الْمُعَقَّعَقَةِ فِي الْخَلَاءِ

درآنحالیکہ اطلاع پانے والا ہوں ان اسرار غیبیہ پر جو ماوراء ہیں بعید ترین خلاء میں

الْاَبْعَدِ مِنْ غَيْرِ اَطْرَافِ الْجِهَاتِ وَالْاَزْمِنَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِاشْتِغَالِ

جو مکان و زمان کے حدود و اطراف سے پاک ہے جو کہ مقید ہیں بشری اشتغال کے ساتھ

الْبَشَرِيَّةِ الْخَامِدَةِ الْحَرَارَةِ النُّورِيَّةِ الْاِشْرَاقِيَّةِ الْمُؤَلَّفَةِ الْمُعَلَّقَةِ

جو بشریت کی بجھی ہوئی نورانی روشن حرارت والی ہے جس کی تالیف اور تعلق قائم کیا گیا ہے

بِالْهَوَائِيَّةِ الْيَبَسِيَّةِ الْمُخَمَّرَةِ مَعَ الْاَرْضِيَّةِ الْكَدِرَةِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ

ساتھ مادۂ ہوائیہ کے جو خشک ہے اور اس کو ملایا گیا ہے ساتھ مادہ ارضیہ کے جو گدلا ہے اے اللہ تو ہی

تُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي اِذَا دَعَا اِلَيْكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

قبول کرتا ہے دعا کرنے والے کی دعا جب وہ تیری طرف متوجہ ہو کر دعا کرے۔ اور نہیں طاقت اور قوت مگر ساتھ توفیق

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ مَنْ عَلَا بِالْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ وَاسْتَحَى

اللہ علی عظیم کے۔ پاک ہے وہ جو بلند و برتر ہوا ساتھ عظمت و جلال کے۔ اور باز رہے

اَصْحَابُ الْكَمَالِ مِنَ الْاِتِّصَافِ بِالتَّنَزُّهِ فِي اَدْنَى نُورِهِ مِنْ فُرُوعٍ

اصحاب کمال متصف ہونے سے ساتھ نزاہت کاملہ کے اس ادنیٰ کرشمۂ نور میں جو فروع و آثار سے

عَلَيْهِ لِاَصْلِهِ الذَّاتِيِّ الْمُقَدَّسِ الْمُحْرِقِ خُطُورَ الْعِبَادِ وَ

ہے اس کے اصلی ذاتی مقدس نور کے جو جلا دینے والا ہے بندوں کے وسوسوں کو اور

الْمَوْجُودَاتِ الْاَشْخَاصِيَّةِ وَالْاَنْوَارِ الْمَلَكِيَّةِ السُّبُوحِيَّةِ اِنْ

موجودات شخصیہ اور انوار ملکیہ سبوحیہ کے وساوس کو اگر

نَظَرْنَ اِلَى اَوْجُهِ عَظَمَةِ الْجَلَالِ وَالسَّائِرِينَ اِلَى الْاَحَدِيَّةِ

نظر کریں طرف اس کی عظمت جلال کے وجوہ کے۔ اور (اس طرح) سیر کرنے والے طرف مقام احدیت کے

الْمُمْتَنِعِ السَّيْرِ اِلَيْهَا فَسُبْحَانَ مَنْ خَافَ عَنْهُ اَجْسَامٌ صَلْبِيَّةٌ شَاقَّةٌ

کہ ممتنع ہے سیر طرف اس کے۔ پس پاک ہے وہ ذات کہ خوفزدہ ہیں اس سے سخت ٹھوس مشقت آزما اجسام

قَوِيَّةٌ عَلَى الْاِصْطِدَامَاتِ وَالْاِحْتِكَاكَاتِ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَهُمْ اَبَيْنَ

یعنی پہاڑ جو قادر ہیں تصادمات اور ضربات سہنے پر (اور ہونے والے ہیں) مانند دھنی ہوئی اون کے۔ حالانکہ انہوں نے انکار کیا

اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اَللّٰهُمَّ اِنِّي ظَالِمٌ

تھا (امانت کا بوجھ) اٹھانے سے اور اس سے ڈر گئے تھے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے۔ اے اللہ بیشک میں اپنے نفس پر

لِنَفْسِیْ وَاَنْتَ الْعَلِیُّ الْحَکِیْمُ لَا یَحْضُرُ فِی الْقَلْبِ شَیْءٌ اِلَّا وَ اَنْتَ

ظلم کرنے والا ہوں اور تو عالی شان، حکمت والا ہے۔ نہیں حاضر ہوتی دل میں کوئی شئ مگر تو ہی

الْفَعَّالُ وَلَقَدْ اَنْشَاْتَنَا فِی النَّشْاَةِ الْاُوْلٰی بِغَیْرِ وِسَاطَةِ اَعْمَالِنَا

اس میں مؤثر ہے اور البتہ تحقیق تو نے پیدا فرمایا ہمیں پہلی دفعہ بغیر ہمارے اعمال اور افعال کی

وَاَکْسَابِنَا اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا

وساطت کے (بلکہ محض اپنے فضل سے) اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ سَادَ جَمِیْعَ الْاَنَامِ وَحَقَّ لَهٗ اَنْ یَّسُوْدَ اَللّٰھُمَّ صَلِّ

پر جو آقا کہ سردار بنے ساری مخلوق کے اور حقدار ہیں سردار بننے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ عَبِقَ

وسلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو چھوٹا

عَرَقُ الْمَجْدِ مِنْ اَرْدَانِهٖ وَفَاحَ وَطَلَعَ طَالِعُ السَّعْدِ مِنْ وَّجْهِهٖ

پسینہ مجد و شرف کا جس محبوب کی آستینوں سے اور مہکا۔ اور طلوع ہوا ستارا سعادتمندی کا جن کے چہرہ اقدس سے

وَلَاحَ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا

اور چمکا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ تَرَقّٰی اِلٰٓی اَعْلٰی دَرَجَاتِ الشَّرَفِ وَفَاقَ شَرَفُهٗ مَنْ

آل پر کہ جس آقا نے ترقی فرمائی فضیلت کے اعلیٰ درجات تک اور فوقیت لے گیا ان کا شرف و فضل

یَّاْتِیْ مِنَ الْاُمَمِ وَمَنْ سَلَفَ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا

آنے والی امتوں پر اور گزر جانے والوں پر بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیّدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ فَاضَ بَحْرُ یَمِیْنِهٖ فَاَخْجَلَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس کریم کا بحر سخا جوش پر آیا تو اس نے شرمندہ کر دیا

الْاَنْھَارَ وَالْبُحُوْرَ وَقَلَّدَ اللّٰهُ جِیْدَهٗ اَبْدَعَ مِنْ دُرَرِ النُّحُوْرِ اَللّٰھُمَّ

تمام دریاؤں اور سمندروں کو اور ہار پہنایا ان کی گردن میں اللہ تعالیٰ نے سینوں کو مزین کرنے والے عمدہ انوکھے موتیوں سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ عَادَ

صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے رجوع فرمایا

عَلٰی قَوْمِهٖ بِعَوَائِدِ جُوْدِهٖ وَمَدَدِهٖ وَسُلِّطَ عَلٰٓی اَعْدَائِهٖ بِعَدَدِهٖ

اپنی قوم پر اپنے جود کی فیض رسانیوں اور مدد کے ساتھ اور مسلط کئے گئے اپنے اعداء پر اپنے کثیر تعداد لشکروں

وَعُدَدِهٖ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا

اور سازوسامان کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ طَلَعَ قَمَرُ نُوْرِهٖ فِیْٓ اُفُقِ السَّمَآءِ وَتَرَقّٰی عَلَی الْاَنْبِیَآءِ

پر کہ جس آقا کا ہلال نور طلوع فرما ہوا آسمان کے افق پر اور ترقی کر گیا انبیاء

وَالْمُرْسَلِیْنَ وَسَمَا اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی

و مرسلین (کے اقرار) سے۔ اور بلند ہوا۔ اے اللہ درود وسلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِی اسْتَخْرَجَهُ اللّٰهُ مِنْ اَشْرَفِ عُنْصُرِهٖ فِی

آل پر کہ جس آقا کو ظاہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے عرب کے شریف ترین عنصر سے۔

الْعَرَبِ وَرُفِعَ عَلٰی رَاْسِهٖ تَاجُ الْمَحَاسِنِ وَعَلَیْهِ انْتَصَبَ اَللّٰھُمَّ

اور بلند کیا گیا ان کے سر ناز پر خوبیوں کا تاج اور انہیں پر نصب ہوگیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ

صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا

تَجَلّٰی بِنُوْرِ حُلَّةِ السِّیَادَةِ فَنَالَهَا وَتُوِّجَ بِتَاجِ الْعِزَّةِ فَاَدْرَكَ

جلوہ گر ہوئے خلعتِ سیادت کے نور کے ساتھ پس پا لیا اس کو۔ اور تاج پہنائے گئے عزت کا پس احاطہ

کَمَالَهَا اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا

کر لیا اس کے کمال کا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ رَتَعَ فِیْ رِیَاضِ الْعِزِّ جَوَادُ عَزْمِهٖ وَجَدَّ مُفَصَّلَ

پر کہ چرنے لگا عزت کے سبزہ زاروں میں ان کے عزم کا رہوار۔ اور کاٹ دئے (دوسروں کی)

السُّؤْدَدِ بِمُدَامَةِ جَزْمِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

سرداری کے بند اور جوڑا اپنی پختگی اور ثابت قدمی کے تسلسل سے۔ اے اللہ صلواۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمّد پر

عَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَضَآءَتِ الْاٰفَاقُ بِاَنْوَارِهٖ وَاَيْنَعَتْ

اور آپ کی آل پر کہ روشن ہوگئے آفاق جس محبوب کے انوار سے اور پک کر تیار ہو گئے

ثِمَارُ الْاَسْرَارِ مِنْ يَانِعِ اَسْرَارِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اسرار کے پھل انہیں کے پختہ اسرار سے ۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیّدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ زَيَّنَ اللهُ الْاَرْضَ بِدَعْوَتِهٖ

محمّد پر اور آپ کی آل پر کہ مزیّن فرمایا ہے اللہ تعالٰے نے زمین کو اس محبوب کی دعا سے

وَمَلَأَ اللهُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ بِاُمَّتِهٖ وَشِيْعَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور معمور فرمایا ہے مشرق تا مغرب کو آپ کی اُمّت اور خواص سے۔ اے اللہ صلواۃ وسلام نازل فرما

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ سَلَكَ طَرِيْقَ

سیّدنا محمّد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا چلے عزّت اور جواں مردی کی

الْعِزَّةِ وَالْبَسَالَةِ وَاَشْرَقَ فِىْ وَجْهِهٖ نُوْرُ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ اَللّٰهُمَّ

راہ پر اور جگمگایا ان کے چہرۂ انور میں نبوّت اور رسالت کا نور ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ

صلواۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمّد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے

طَلَعَ بَدْرُ شَرَفِهٖ فِىْ اُفُقِ الْمَجْدِ تَمَامًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

فضل و کمال کا بدر تمام افق مجد میں طلوع فرما ہوا۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیّدنا

مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ تَشَرَّفَ بِعُلُوِّ نَسَبِهٖ فَزَكّٰى اَخْوَالًا وَّاَعْمَامًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمّد پر کہ جو مشرف ہوگئے نسبی برتری کے ساتھ پس پاکیزہ ہوگئے ننھیال اور ددھیال کے لحاظ سے۔ اے اللہ صلواۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ نَحَرَ

وسلام نازل فرما سیّدنا محمّد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے ذبح کر ڈالا

بِمُدْيَةِ الْعِزِّ عِدَاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

عزّ وجاہ کے خنجر سے اپنے دشمنوں کو۔ اے اللہ صلواۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمّد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ انْفَرَدَ بِالسِّيَادَةِ لَمَّا بَلَغَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ

آل پر کہ جو محبوب منفرد ہوگئے ساتھ سیادت کے جب پہنچ گئے ہر شیٔ سے

قَصْدَهٗ وَمُنَاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

اپنے مقصد اور آرزو تک۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیّدنا محمّد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ حَلَّ مِنَ الْحُبِّ وَالتَّشْرِيْفِ اَعْلٰى مَرْتَبَةٍ

آل پر جو محبوب کہ متمکن ہوئے محبوبیت اور شرف و فضل کے اعلیٰ اور بلند

وَّعُلْيَاهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

تر مرتبہ پر۔ اے اللہ صلواۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمّد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ اَقَرَّ لَهٗ بِالْفَضْلِ مَنْ كَانَ قَبْلَهٗ مِنَ الرُّسُلِ وَالْاَنْبِيَآءِ

پر کہ جس محبوب کے فضل وشرف کا اقرار کیا آپ سے پہلے تمام رسل اور انبیاء علیہم السلام نے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ

اے اللہ صلواۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمّد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کو

اَحَبَّهُ اللهُ بِاصْطِفَآئِهٖ وَفَضَّلَهُ اللهُ عَلٰٓى اُولِى الْعَزْمِ مِنْ رُّسُلِهٖ

محبوب بنایا اللہ تعالیٰ نے (ساری مخلوق سے) چن کر اور فضیلت دی ان کو اولوالعزم رسل

وَاَنْبِيَآئِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

اور انبیاء پر۔ اے اللہ صلواۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمّد پر اور آپ کی

مُحَمَّدِ ِالَّذِىْ عَمَّ كُلَّ بَرِيَّةٍ فَضْلُهٗ وَفَضَّلَهُ اللهُ عَلٰى كُلِّ رَسُوْلٍ

آل پر کہ جس محبوب کے جود وافضال نے احاطہ کر رکھا ہے ساری مخلوق کا اور فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ سے پہلے

قَبْلَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہر رسول پر۔ اے اللہ صلواۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمّد پر اور آپ کی

الْمَخْصُوْصِ بِالْقُرْبِ فِی الْاَزَلِ وَهُوَ اَفْضَلُ مَخْلُوْقٍ وَّ اَجَلُّ

آل پر کہ جو محبوب مختص کئے گئے ساتھ قرب ومنزلت کے ازل میں۔ اور ساری مخلوق سے افضل اور بزرگتر ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

سَادَ اَهْلَ السُّؤْدَدِ وَالْكَمَالِ وَسَادَ اَهْلَ الْجُوْدِ وَالْاِفْضَالِ اَللّٰهُمَّ

سردار ہوئے ارباب سیادت اور اصحاب کمال کے اور آقا بنے اہل جود اور ارباب سخا کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ زَيَّنَ

صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت اللہ تعالیٰ نے محافل کو

اللّٰهُ بِهِ الْمَحَاضِرَ وَيَلْجَاُ اِلَيْهِ فِی الْمَعَادِ كُلُّ بَرٍّ وَّفَاجِرٍ اَللّٰهُمَّ

زینت دی اور پناہ حاصل کریں گے طرف انہیں کے قیامت کے دن سبھی نیکوکار اور گنہگار۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمَنْعُوْتِ

صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ ثنا کئے گئے ہیں

بِنَعْتِ الْجَلِيَّةِ الْعَلِيَّةِ وَالْمَوْصُوْفِ بِكُلِّ صِفَةٍ رَّضِيَّةٍ مَّرْضِيَّةٍ

روشن اور بلند مرتبت صفات کے ساتھ اور وصف کئے گئے ہیں ہر دل نشین اور دلربا صفت کے ساتھ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِیْ سَنَّ كُلَّ سُنَّةٍ حَسَنَةٍ وَّصَنَعَ الْجَمِيْلَ وَحَسَّنَهٗ اَللّٰهُمَّ

کہ جنہوں نے جاری فرمایا ہر اچھے طریقے اور روش کو اور اچھے کام کئے اور ان کی اچھائی کو اجاگر فرمایا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کے

طَوَّقَ اللّٰهُ بِهِ رِقَابَ الْاَنَامِ مِنَنَهٗ وَافِرَةَ الْاَقْسَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

طفیل اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی گردنوں میں اپنے مختلف النوع احسانات کے ہار ڈالے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ تَوَّجَهُ اللّٰهُ

وسلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے

بِتَاجِ الْحِكْمَةِ وَرَحِمَ بِهٖ هٰذِهِ الْاُمَّةَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

حکمت کا تاج پہنایا اور انہیں کی بدولت اس اُمّت پر رحم فرمایا۔ اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے

وَرَحْمَتِكَ بِمَا سَئَلَكَ بِهٖ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فضل اور تیری رحمت کا ساتھ اس انداز واسلوب کے کہ جس کے ساتھ تجھ سے سوال کیا سیّدنا محمدؐ نے درود بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر اور

بِوِدَادِ الْمَوْدُوْدِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِیْ وَآدًّا لَّكَ يَا وَدُوْدُ يَا وَدُوْدُ

سلام بطفیل محبّت مودودے۔ اے اللہ بنا دے میرے دل کو اپنی محبّت رکھنے والا اے ودود۔ اے ودود

يَا وَدُوْدُ اِلٰهِیْ اَعْطِنِیْ وُدًّا فِیْ قُلُوْبِ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا وَدُوْدُ

اے ودود۔ اے میرے خدا مجھے عطا فرما محبوبیت اپنے مومنین بندوں کے قلوب میں۔ یا ودود

يَا وَدُوْدُ يَا وَدُوْدُ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِیْ شَرَّ مَنْ كِفَايَتُهٗ بِيَدِكَ يَا وَدُوْدُ يَا

یا ودود یا ودود۔ اے اللہ مجھے کفایت فرما ان کے شر سے جن سے کفایت تیرے دست قدرت میں ہے یا ودود

وَدُوْدُ يَا وَدُوْدُ اَللّٰهُمَّ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ

یا ودود۔ یا ودود۔ اے اللہ اے مالک عرش۔ اے آغاز کرنے والے ایجاد کا۔ اے دوبارہ لوٹانے والے ہیئت اولیٰ پر

يَا فَعَّالُ لِّمَا يُرِيْدُ اَسْئَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِیْ مَلَاَ اَرْكَانَ

اے کرسکنے والے ہر اس فعل کو جس کا ارادہ فرمائے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے نور ذات کے طفیل جس نے معمور کر دیا ہے

عَرْشِكَ وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِیْ قَدَرْتَ بِهَا عَلٰی جَمِيْعِ خَلْقِكَ وَ

عرش اعظم کے اجزاء وحصص کو اور تیری قدرت کے طفیل کہ جس کے ساتھ تو مقتدر ہے اپنی تمام مخلوق پر اور

بِرَحْمَتِكَ الَّتِیْ وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ يَا مُغِيْثُ اَغِثْنِیْ

تیری رحمت کے طفیل جس نے احاطہ کر رکھا ہے ہر شئی کا۔ نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی۔ اے فریادرس میری امداد فرما۔

يَا مُغِيْثُ اَغِثْنِیْ يَا مُغِيْثُ اَغِثْنِیْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ

اے فریادرس میری امداد فرما۔ اے فریادرس میری امداد فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صحت

وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ اَللّٰهُمَّ بِحَمْدِكَ

پاکبازی کا اور امانداری کا۔ اور حسن خلق اور تقدیر پر رضامندی کا۔ اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوْٓءً

ساتھ شہادت دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی۔ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں تیری طرف۔ میں نے برائی کا ارتکاب کیا

وَّظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ وَاَنْ

اور اپنی جان پر ظلم کیا پس بخش دے مجھے کیونکہ گناہ نہیں بخشتا مگر تو ہی۔ اور یہ کہ

تُعَافِيَنِيْ مِنَ الدَّيْنِ وَتُغْنِيَنِيْ مِنَ الْفَقْرِ وَاَنْ تَرْزُقَنِيْ رِزْقًا

عافیت دے مجھے قرض سے۔ اور غنا بخشے فقر و فاقہ سے۔ اور عطا کرے مجھے رزق

حَلَالًا وَّاسِعًا مُّبَارَكًا فِيْهِ وَاَنْ تَرْحَمَنِيْ وَتَتُوْبَ عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِيْ

حلال جو وسیع و بابرکت ہو اور یہ کہ مجھ پر رحم فرمائے۔ اور نظر رحمت کرے اور عافیت دے

مِنْ جَمِيْعِ الْبَلَآءِ وَالْبَلْوَآءِ وَاَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَتَرْحَمَ

بلیات سے اور آزمائشوں سے۔ اور مجھے بخشے اور میرے والدین کو، اور رحم فرمائے

الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ

مومن مردوں عورتوں پر اور مسلمان مردوں عورتوں پر جو ان میں سے بقید حیات ہیں

وَالْاَمْوَاتِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا

اور جو فوت ہو چکے ہیں۔ اے اللہ بخش دے میرے گناہ اور میرے والدین کے اور ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے

رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا وَّلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَتَابِعْ بَيْنَنَا وَ

(از راہ رحمت) تربیت کی میری حالت صغرسنی میں اور واسطے تمام مومن مردوں اور عورتوں کے۔ اور مطابقت پیدا فرما درمیان ہمارے

بَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ وَ

اور درمیان ان کے نیکیوں میں۔ اے میرے پروردگار مغفرت ورحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اور

اَنْ تَتُوْبَ عَلَيْنَا وَاَنْ تُعَافِيَنَا مِنْ جَمِيْعِ الْبَلَآءِ وَالْبَلْوَآءِ مَا

ہم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرما۔ اور ہمیں عافیت عطا فرما تمام بلیات اور ابتلاءات سے جو ظاہر

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَاَنْ تَرْحَمَنَا وَاَنْ تَعْفُوَ عَنَّا وَتَغْفِرَ لَنَا وَلِجَمِيْعِ

ہیں یا جو مخفی ہیں اور رحم فرمائے ہم پر اور درگزر فرمائے ہم سے اور مغفرت فرمائے ہمارے لیے اور

الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ تَضَرُّعَنَا وَاٰمِنْ خَوْفَنَا وَتَقَبَّلْ اَعْمَالَنَا

مومنین کے لیے۔ اے اللہ ہماری زاریوں پر ترس فرما۔ اور ہمارے خوف کو امن سے بدل۔ ہمارے اعمال قبول فرما۔

وَاَصْلِحْ اَحْوَالَنَا وَاجْعَلْ بِطَاعَتِكَ اشْتِغَالَنَا وَاِلَى الْخَيْرَاتِ

اور اصلاح فرما ہمارے احوال کی۔ اور کر دے ہمیں اپنی طاعت کے ساتھ ہی مشغول۔ اور طرف بھلائیوں کے

مَاٰلَنَا وَحَقِّقْ بِالزِّيَادَةِ اٰمَالَنَا وَاخْتِمْ بِالسَّعَادَةِ اٰجَالَنَا هٰذَا

انجام کار ہمارا اور محقق فرما ہماری آرزوؤں کو ان سے زائد عطا کر کے اور انتہا تک پہنچا ساتھ سعادتمندی کے ہماری عمروں کو۔ ہماری

ذُلُّنَا ظَاهِرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وَحَالُنَا لَا يَخْفٰى عَلَيْكَ اَمَرْتَنَا فَتَرَكْنَا

یہ عاجزی ظاہر ہے تجھ پر اور ہماری حالت نہیں مخفی تجھ پر۔ تو نے حکم دئیے ہمیں تو ہم نے ان کو ترک کر دیا

وَنَهَيْتَنَا فَارْتَكَبْنَا وَلَا يَسَعُنَا اِلَّا عَفْوُكَ فَاعْفُ عَنَّا يَا خَيْرَ

اور تو نے ہمیں منع فرمایا مگر ہم نے انہیں ممنوعہ امور پر عمل کیا اور نہیں ہمیں سمیٹ سکتا مگر تیرا دامن عفو پس ہم سے درگزر فرما۔ اے سب سے بہتر

مَاْمُوْلٍ وَّاَكْرَمَ مَسْئُوْلٍ اِنَّكَ عَفُوٌّ غَفُوْرٌ رَّءُوْفٌ رَّحِيْمٌ اَللّٰهُمَّ

مرکز امید۔ اور سب سے بزرگتر مرکز سوال۔ بے شک تو ہی درگزر اور مغفرت فرمانے والا ہے اور رأفت ورحمت فرمانیوالا ہے۔ اے اللہ

اِنِّيْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ وَتَتُوْبَ عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِيْ

بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مغفرت اور رحمت کا اپنے لیے اور نظر رحمت کا مجھ پر اور عافیت کا

مِنْ جَمِيْعِ الْبَلَآءِ وَالْبَلْوَآءِ الْخَارِجِ مِنَ الْاَرْضِ وَالنَّازِلِ مِنَ

تمام بلیات ومصائب سے جو زمین سے برآمد ہونے والے ہوں یا نازل ہونے والے ہوں

السَّمَآءِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا فَاعْفُ عَنَّا

آسمان سے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ قبول فرما مجھ سے۔ پس درگزر فرما ہم سے

وَاسْتَجِبْ لَنَا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَلِمَنْ اَحَبَّنَا فِيْكَ

اور قبول فرما ہمارے لیے۔ اے اللہ مغفرت فرما ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے اور واسطے محبت رکھنے والوں کے ہم سے تیری خاطر

وَلِمَنْ اَحْبَبْنَاهُ مِنْ اَجْلِكَ وَلِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور جن سے ہم محبت رکھتے ہیں تیری وجہ سے اور واسطے تمام اُمت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَكُنْ لَّهُمْ وَلَنَا وَلِسَآئِرِ الْمُسْلِمِيْنَ

اے اللہ مغفرت ورحمت فرما ان کے لیے اور ہو جا تو خود ان کا ہمارا اور تمام اہلِ اسلام کا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

حَمِدَ اللهُ اَفْعَالَهٗ وَاَقْوَالَهٗ وَنَوَالَهٗ وَاَفْضَالَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ستائش فرمائی اللہ تعالےٰ نے جس محبوب کے افعال و اقوال کی اور جود و نوال کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَيَّدَهُ اللهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کی امداد فرمائی اللہ تعالیٰ نے

بِجُنُوْدِهٖ وَنَوَّرَ الْوُجُوْدَ بِوُجُوْدِهٖ وَخَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ مِنْ اَجْلِهٖ

ساتھ اپنے لشکروں کے اور منور فرمایا وجود و ہستی کو ان کے وجودِ مسعود سے اور موجود فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو ان کے طفیل

وَاَسْبَغَ عَلَيْهِ نِعَمَهٗ بِفَضْلِهٖ وَطَوْلِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور ان پر انڈیل دئے اپنے انعامات اپنے فضل اور قدرت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَنْ لَّاذَ بِهٖ مِنَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے ساتھ اگر پناہ لی

الْعُصَاةِ نَالَ الْفَوْزَ وَالنَّجَاةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عاصیوں نے بھی تو پا لیا فلاح اور نجات کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَنْ اَمَّ جَنَابَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ نَالَ

اور آپ کی آل پر کہ جو بھی قصد کرے گا اس آقا کی بارگاہ کا قیامت کے دن پا لے گا

الْاَمْنَ وَالسَّلَامَةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

امن اور سلامتی کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ مَنْ حَطَّ بِسَاحَتِهٖ رِحَالَهٗ بَلَّغَهُ اللهُ يَوْمَ

آل پر کہ جس نے بھی اس کریم کے در پر ڈیرے لگا لیے پہنچا دے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت

الْقِيَامَةِ قَصْدَهٗ وَاٰمَالَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے دن اپنے مقاصد اور آرزوؤں تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَمَّلَ اللهُ بِهِ الدِّيْنَ وَنَفَذَتْ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت کامل فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین کو اور جاری فرمایا

شَفَاعَتُهٗ فِى الْمُذْنِبِيْنَ الْمُلَوَّثِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

ان کی شفاعت کو گناہگاروں آلودہ دامنوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ تَكَفَّلَ لِاَهْلِ طَاعَتِهٖ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب ضامن ہو چکے ہیں اپنے طاعت گزاروں کے لیے

بِعَمِيْمِ شَفَاعَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

شفاعت عامہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ قُبِلَ مِنْهُ الدُّعَآءُ وَطَابَ مِنْهُ الْمَكَانُ وَ

آل پر کہ جس محبوب سے قبول کی گئی ان کی دُعا اور پاکیزہ ہو گئی بسبب ان کے ان کی رہائش گاہ اور

الْمَعَآءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

ان کا باطن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ طَوَّقَ اللهُ بِهِ الْاَنَامَ مِنَنَهُ الْوَافِرَةَ الْعِظَامَ اَللّٰهُمَّ

آل پر کہ جس محبوب کے طفیل اللہ تعالیٰ نے طوق ڈالے مخلوق (کی گردنوں میں) اپنے وافر اور عظیم احسانات کے۔

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس کو

قَلَّدَ اللهُ جَمِيْعَ اُمَّتِهٖ جَمِيْلَ مَحَبَّتِهٖ وَرَاْفَتِهٖ وَحَبَّبَ اللهُ

پابند فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری اُمت کو آپ کی محبت جمیلہ کا اور اخلاص و ہمدردی کا۔ اور محبوب بنا لیا اللہ

أُمَّتَهُ فِيهِ وَنَالَهُمْ مِنْ خَيْرِ مَا لَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

نے آپ کی اُمّت کو آپ کی وجہ سے اور انھیں پہنچائی وہ خیر و بھلائی جو اس کے پاس ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي فَاقَ عَلَى النَّبِيِّينَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ فوقیت و برتری لے گئے انبیاء

وَالْمُرْسَلِينَ بِالشَّرَفِ وَالسِّيَادَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

و مرسلین پر ساتھ شرف اور سیادت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي حَقِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی اُمّت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت

أُمَّتِهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

نازل فرمائی "جنھوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اچھی جزا رجنّت ہے اور مزید برآں (دیدار ذات)۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا امام ہیں آئمہ اعلام کے اور

الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

انبیاء کرام علیہم السلام کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ أَئِمَّةِ الْأَبْرَارِ وَالْأَخْيَارِ وَالْفِرْقَةِ

آپ کی آل پر کہ جو آقا آئمہ ابرار و اخیار کے امام ہیں اور بلند مرتبے والے

النَّاجِيَةِ ذِي الرُّتْبَةِ الْعَالِيَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نجات و فلاح پانے والے فرقہ (اہل سنت) کے مقتدا و پیشوا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ رُسُلِ اللّٰهِ وَجُنُودِ اللّٰهِ وَدِينِ اللّٰهِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا رسل خداوندی اور اس کے لشکروں کے امام ہیں اور دین خداوندی

وَحِزْبِ اللّٰهِ وَشَرْعِ اللّٰهِ وَحَضْرَتِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور اس کی جماعت اور شریعت اور اس کی بارگاہ کے امام ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ أَهْلِ الْكَمَالِ وَأَهْلِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ امام ہیں اہل کمال اور ارباب

الْعَطَايَا وَالنَّوَالِ وَالْعَدْلِ وَحَضْرَةِ الْوِصَالِ وَأَهْلِ الْفَضَائِلِ

عطاء و نوال کے اور اصحاب عدل اور بارگاہ وصال اور اہل فضائل کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا امام

حَضْرَةِ الْمُشَاهَدَاتِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَهْلِ الطَّاعَةِ وَالسِّيَادَةِ

و مقتداء ہیں مشاہدات کے مقام میں اور جماعت (مشاہدین) کے اور مقتداؤں اور سرداروں کے

وَالسَّعَادَةِ وَالشَّهَادَةِ وَإِمَامِ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور اہل سعادت اور حقداران شہادت کے اور امام ہیں (اللہ تعالیٰ کی) بارگاہ مقدسہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْأَتْقِيَاءِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو امام ہیں متقیوں کے

وَأَهْلِ التَّحْدِيثِ وَأَهْلِ الْبَلَاغِ وَأَهْلِ الْعِرْفَانِ فِي حَضْرَةِ

اور الہام کیے جانے والوں کے۔ اور احکام خداوندی پہنچانے والوں کے اور اہل عرفان کے انسان کامل کی

الْإِنْسَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

بارگاہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ إِمَامِ أَهْلِ الْهُدٰى وَالرُّسُلِ وَخَطِيبِهِمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو آقا کہ امام ہیں اہل ہدیٰ اور رسل کرام کے اور (ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ) کلام و خطاب کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ جَامِعِ الْأُنْسِ

بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ امام ہیں انس

وَالنَّاسِ وَالْاِخْتِصَاصِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ الْأَبْرَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور انسانوں کی اور اختصاص و ملائکہ ابرار کی جامع (مسجد) کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ حَضْرَةِ الْمُشَاهِدِیْنَ
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا امام ہیں اہل شہود کے مقام مشاہدہ کے
وَالصَّادِقِیْنَ وَالْمُصَدِّقِیْنَ وَالصِّدِّیْقِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
اور اہل صدق و تصدیق کے۔ اور صدیقین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج
عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْمِلَّةِ الْاِسْلَامِیَّةِ
سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب ملت اسلامیہ اور
وَالْاَئِمَّةِ الْاِسْلَامِیَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی
آئمہ اسلام کے امام ومقتداء ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور
اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الدُّنْیَا وَالْاُخْرٰی وَاِمَامِ الْفُضَلَاءِ وَاَهْلِ
آپ کی آل پر جو آقا امام ہیں دُنیا و آخرت میں۔ اور امام ہیں فضلاء اور
الْمَجْدِ وَالْعُلٰی وَالصَّفَا وَالْحِلْمِ وَالْوَفَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی
بزرگی و برتری والوں کے اور اہل صفا اور ارباب حلم ووفا کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج
سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ مِحْرَابِ حَضْرَةِ الْحَقِّ
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب امام ہیں بارگاہ حق کی عبادت گاہ کے
وَاِمَامِ الْخَیْرِ وَاَئِمَّةِ الْاَنَامِ وَالْكَرَمِ وَالْجُوْدِ وَالشِّیَمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
اور خیر و بھلائی کے اور مخلوقات کے آئمہ کے امام ہیں اور ارباب جودوکرم کے اور اعلیٰ خصلتوں والے حضرات کے۔ اے اللہ
وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْحَضَرَاتِ
صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ امام ہیں کامل
الْكَامِلَةِ وَاَهْلِ الْعِنَایَةِ وَالدِّرَایَةِ وَالتَّوْحِیْدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
بارگاہوں کے۔ اور اہل عنایت۔ اور ارباب درایت وکیاست اور اہل توحید کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج
عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْمُرْسَلِیْنَ وَ
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ مرسلین کے امام ہیں اور

اَهْلِ الْجَنَّةِ عِبَادِ اللّٰهِ الْمُؤْمِنِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا
اللہ تعالیٰ کے مومن جنتی بندوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْمُخْلِصِیْنَ وَالْمُوْقِنِیْنَ وَ
محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب امام ہیں اہل اخلاص و ایقان کے اور
الصَّابِرِیْنَ وَالْمُؤَیِّدِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْقَائِمِیْنَ
ارباب صبر کے۔ اور اسلام کی تائید واستحکام (کی سعی) کرنے والوں کے۔ اور اہل اسلام وایمان کے اور (حق وصدق کیساتھ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ
قائم رہنے والوں کے اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب امام و مقتداء ہیں
اَهْلِ الْاِسْلَامِ وَدَارِ السَّلَامِ اِمَامِ الْخَوَاصِّ وَاَهْلِ الْاِخْلَاصِ اَللّٰهُمَّ
اہل اسلام اور دارالسلام کے اور خواصان خداوند تعالیٰ اور اہل اخلاص کے۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْاَئِمَّةِ
صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب آئمہ
الْمُكَرَّمِیْنَ وَالْقَانِتِیْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِیْنَ وَالْمُوَفَّقِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
مکرمین کے امام ہیں اور عبادت گزاروں کے اور اہل استغفار کے اور اہل توفیق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ
وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْمُجَاهِدِیْنَ
وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ امام ہیں مجاہدین
وَالْمُهَاجِرِیْنَ وَالزَّاهِدِیْنَ وَالْمُهْتَدِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی
مہاجرین اور زاہدین کے اور ہدایت یافتہ حضرات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج
سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْاُمَمِ وَالْعَرَبِ وَ
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا امام ہیں تمام اُمتوں کے اور عرب و
الْعَجَمِ وَاِمَامِ اَهْلِ الْاِیْمَانِ وَالْفَضْلِ وَالْعِرْفَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عجم کے اور اہل ایمان اور ارباب فضل و عرفان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْمُبِيْنِ
و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ (دین) مبین کے امام ہیں

وَاِمَامِ الثَّقَلَيْنِ وَاَئِمَّةِ الثَّقَلَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
اور جنوں انسانوں کے مقتداء اور ان کے مقتداؤں کے مقتداء ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ اَوْلِيَآئِكَ وَحَضْرَتِكَ اَللّٰهُمَّ
محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ تیرے دوستوں کے امام ہیں اور تیری بارگاہ میں باریاب سعادتمندوں کے امام ہیں۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْمُقَرَّبِيْنَ
اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ امام ہیں مقربان بارگاہ خداوند تعالیٰ کے

وَالطَّيِّبِيْنَ وَالطَّاهِرِيْنَ وَالْفَآئِزِيْنَ وَالتَّوَّابِيْنَ وَالنَّاصِحِيْنَ وَ
اور طیبین و طاہرین کے۔ اور اہل فلاح کے۔ توبہ کرنے والوں اور اہل اخلاص کے۔

الْمُفْلِحِيْنَ وَالرَّاكِعِيْنَ وَالسَّاجِدِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
کامیاب۔ اور رکوع و سجود کرنے والے لوگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الذَّاكِرِيْنَ وَالتَّابِعِيْنَ
سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا امام ہیں اہل ذکر اور متابعت کرنے والوں کے

وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاضِعِيْنَ وَالْخَآئِفِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
اور ارباب خشوع و خضوع کے۔ اور اللہ کا خوف کھانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَالْمُتَقَدِّمِيْنَ
سیّدنا محمد پر اور سیّدنا محمد کی آل پر جو محبوب اہل تقویٰ۔ اہل سبقت

وَالْمُحْسِنِيْنَ وَالرَّاغِبِيْنَ وَاِمَامِ اَهْلِ التَّحْقِيْقِ وَالتَّوْفِيْقِ اَللّٰهُمَّ
اور ارباب احسان کے امام ہیں اور رغبت الی اللہ رکھنے والوں کے اور اہل تحقیق و توفیق کے امام ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ
صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور سیّدنا محمد کی آل پر جو آقا امام ہیں

الْحَرَمَيْنِ وَالْقِبْلَتَيْنِ وَاِمَامِ مَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ وَمَنْ نَّجَا وَ
حرم مکہ اور حرم مدینہ کے اور بیت المقدس اور بیت اللہ شریف کے اور امام ہیں اہل تقویٰ اور مصلحین کے اور اہل نجات و

اَفْلَحَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
فلاح کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

اِمَامِ الْوَاصِلِيْنَ وَالْمُتَعَبِّدِيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ وَالْعَالِمِيْنَ وَ
محبوب امام ہیں واصلین بارگاہ خداوند تعالیٰ کے اور عبادت میں سعی و کوشش کرنیوالوں کے اور صلحاء اور اہل علم

الْعَامِلِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
و عمل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ اِمَامِ الشَّافِعِيْنَ وَالْقَانِعِيْنَ وَالرَّاهِبِيْنَ وَالْمُوَحِّدِيْنَ
آل پر جو محبوب کہ امام ہیں اہل شفاعت اور اہل قناعت کے اور اہل خوف اور ارباب توحید کے

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ حَيٌّ لَّا تَمُوْتُ وَدَآئِمٌ لَّا تَفُوْتُ وَخَالِقٌ لَّا تُخْلَقُ
اے اللہ بے شک تو زندہ ہے ہرگز نہیں مرے گا اور دائم ہے کبھی فوت نہیں ہوگا اور خود (دوسروں کو) پیدا کرنیوالا ہے (لہٰذا) پیدا کئے جانے

وَسَمِيْعٌ لَّا تَشُكُّ وَبَصِيْرٌ لَّا تَرْتَابُ وَرَبٌّ لَّا تُعَابُ وَشَاهِدٌ لَّا
سے بالاتر ہے اور سمیع ہے شک سے بالاتر ہے۔ اور بصیر ہے۔ ریب و تردد سے پاک ہے۔ اور پالنے اور پروان چڑھانے والا ہے عیب سے مبرا ہے۔ حاضر ہے

تَغِيْبُ وَاَبَدِيٌّ لَّا تَفْقِدُ وَلَا تَنْفَدُ وَصَادِقٌ لَّا تَكْذِبُ وَقَاهِرٌ
غائب ہونے سے پاک ہے۔ اور ابدی ہے معدوم اور فنا ہونے سے پاک ہے۔ سچا ہے جھوٹ سے پاک ہے۔ غالب و قاہر ہے

لَّا تُغْلَبُ وَقَرِيْبٌ لَّا تَبْعُدُ وَقَادِرٌ لَّا تُضَآمُ وَغَافِرٌ لَّا تُظْلَمُ
مغلوب ہونے سے پاک ہے۔ قریب ہے بعید ہونے سے بالاتر ہے صاحب قدرت ہے ضرر دئے جانے سے پاک ہے۔ اور بخشنے والا ہے

وَصَمَدٌ لَّا تُطْعَمُ وَقَيُّوْمٌ لَّا تَنَامُ وَمُجِيْبٌ لَّا تَسْاَمُ وَجَبَّارٌ لَّا
ظلم کئے جانے سے بالاتر ہے۔ اور بے نیاز ہے احتیاج طعام سے منزہ ہے اور ارض و سما کو قائم رکھنے والا ہے نیند سے پاک ہے دعا قبول کرنیوالا ہے ملال سے

تُكَلَّمُ وَعَلِيْمٌ لَّا تُرَامُ وَعَالِمٌ لَّا تُعَلَّمُ وَقَوِيٌّ لَّا تَضْعُفُ وَعَظِيْمٌ
منزہ ہے اور جبار ہے کہ اس سے کلام کی جرأت نہیں کی جاسکتی اور ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے اسکو دھوکا دینے کا ارادہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور علم اس کا مقتضائے ذات ہے

لَا تُوْصَفُ وَوَفِيٌّ لَّا تُخْلِفُ وَعَدْلٌ لَّا تَحِيْفُ وَغَنِيٌّ لَّا

اسے تعلیم نہیں دی جاسکتی۔ ایسا قوت والا ہے کہ ضعف پذیر نہیں ہوسکتا اور اتنا عظیم کہ مخلوق کی توصیف سے بالاتر۔ ایسا وفا والا کہ خلاف وعدہ نہیں کرتا اور سراسر عدل

تَفْتَقِرُ وَمَعْرُوْفٌ لَّا تُنْكَرُ وَكَبِيْرٌ لَّا تَغْدِرُ وَحَكَمٌ لَّا تَجُوْرُ وَ

جور سے پاک۔ ایسا غنی کہ فقر واحتیاج سے پاک۔ ایسا جانا پہچانا کہ اس کا انکار نہیں ہوسکتا اور بڑائی والا جو عہد شکنی نہیں کرتا اور ایسا حاکم کہ ظلم نہیں کرتا اور

مَنِيْعٌ لَّا تُقْهَرُ وَوَكِيْلٌ لَّا تُخْفِرُ وَغَالِبٌ لَّا تُغْلَبُ وَوِتْرٌ لَّا

بلند مرتبت کہ مقہور نہیں ہوسکتا۔ اور کارساز کہ ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اور ایسا غالب جو مغلوب نہیں ہوسکتا اور یکتا کہ کسی کا تابع امر نہیں اور

تُسْتَأْمَرُ وَفَرْدٌ لَّا تَسْتَشِيْرُ وَوَهَّابٌ لَّا تَمَلُّ وَسَرِيْعٌ لَّا تَذْهَلُ

یگانہ کہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں۔ بخشش وعطا والا کہ دینے سے ملول نہ ہو۔ اور جلدی (حساب لینے) والا کہ سہو و ذہول سے اور

وَلَا تَضِلُّ وَحَلِيْمٌ لَّا تَعْجَلُ وَجَوَادٌ لَّا تَبْخَلُ وَعَزِيْزٌ لَّا تَذِلُّ

بھولنے سے پاک ہے۔ بردبار کہ عقوبت میں جلدی نہیں کرتا۔ ایسا صاحب جود وعطا کہ بخل سے پاک اور ایسا عزت والا کہ ذلت سے منزہ

وَقَآئِمٌ لَّا تَنَامُ وَحَافِظٌ لَّا تَغْفُلُ وَمُحْتَجِبٌ لَّا تُرٰى وَدَآئِمٌ

قائم ودائم کہ سونے سے پاک۔ اور محافظ کہ غفلت سے پاک اور ایسا پوشیدہ (بوجہ کمال ظہور) کہ دیکھا نہیں جاسکتا اور دائم

لَّا تَزُوْلُ وَبَاقٍ لَّا تَبْلٰى وَوَاحِدٌ لَّا تُشَبَّهُ وَمُقْتَدِرٌ لَّا تُنَازَعُ

جو زوال سے پاک ہے۔ اور ہمیشہ رہنے والا ہے بوسیدہ اور ضعیف نہیں ہوسکتا۔ یگانہ کہ کسی سے تشبیہ نہیں دیا جاسکتا۔ اور صاحب اقتدار جس سے نزاع نہیں کیا

وَمَلِكٌ لَّا تَزُوْلُ يَا كَرِيْمُ الْجَوَادُ الْمُكْرِمُ يَا قَرِيْبُ الْمُجِيْبُ

جاسکتا اور شہنشاہ کہ زوال پذیر نہیں (تیری سلطنت)۔ اے کریم صاحب جود واکرام۔ اے قریب قبول کرنے والے بلند

الْمُتَعَالِيْ يَا جَلِيْلُ الْمُتَجَلِّلُ الْمُتَجَمِّلُ يَا سَلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ

شان اے صاحب جلالت جلال کامل اور جمال کامل کا اظہار کرنیوالے۔ اے سلامتی دینے والے۔ امان دینے والے نگہبان

يَا عَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْمُتَجَبِّرُ يَا ظَاهِرُ الظُّهُوْرُ الْمُظْهِرُ يَا طَاهِرُ

اے عزیز جبار کبریائی مطلقہ اور جبر کامل کا اظہار کرنے والے۔ اے ظاہر، سراسر ظہور اور ظاہر کرنے والے۔ اے طاہر

الطُّهُوْرُ الْمُطَهِّرُ الْمُتَطَهِّرُ يَا قَاهِرُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ يَا عَزِيْزُ الْمُعِزُّ

سراسر طہور اور اچھی طرح پاک کرنے والے اور ذاتی طہارت کاملہ کا اظہار کرنے والے۔ اے قاہر، قادر اور صاحب اقتدار۔ اے عزیز، اے عزت دینے والے

الْمُتَعَزِّزُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

اور عزت غالبہ والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ فَاقَتْ هِمَّتُهٗ جَمِيْعَ الْهِمَمِ وَعَلَّمَهُ اللّٰهُ مَا لَمْ

آل پر کہ جس آقا کی ہمت تمام خلق کی ہمتوں سے فائق ہوگئی۔ اور سکھلایا انہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی انہوں نے

يَكُنْ يَعْلَمُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

(اس سے قبل) نہیں جانا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ قَادَ جِبْرَئِيْلُ بِزِمَامِ نَاقَتِهٖ وَمَا شَارَكَهٗ

آل پر کہ جس آقا کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر چلے روح الامین اور نہ شریک ہوا ان کے ساتھ

اَحَدٌ فِيْ عُلُوِّ جَلَالَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کوئی بھی ان کی بلندئ درجات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَنَزَّهَ شَامِخُ عِزِّهٖ عَنِ

اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کی کوہ وقار عزت منزہ رہی

النَّقْصِ وَالْعُيُوْبِ وَثَبَتَ رَاسِخُ مَجْدِهٖ بِالذَّاتِ وَالْوُجُوْبِ

نقص اور عیوب سے اور ثابت وراسخ رہی ان کی بزرگی ان کے مرتبہ ذات میں بطریق وجوب ولزوم کے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدِنِ الْقَآئِمِ فِي الْمُلْكِ بِشَرْعِهٖ وَجَلَالِهٖ وَالرَّاحِمِ فِي

جو آقا قائم کرنے والے ہیں ملک خداوند تعالیٰ میں اس کی شریعت اور جلال کو اور رحم کرنے والے ہیں

الْمَلَكُوْتِ بِرَحْمَتِهٖ وَجَمَالِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

تمام ملک میں اللہ کی رحمت اور شان جمال کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ حَازَ كُلَّ فَخْرٍ غَيْرَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے جمع کر لیا ہر فخر کو بلا شرکت

مُشْتَرِكٍ وَحَلَّ مَنْزِلَةً مَّا حَلَّهَا نَبِيٌّ وَّلَا مَلَكٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

غیرے۔ اور قیام پذیر ہوئے اس مقام میں کہ جہاں کوئی نبی اور فرشتہ نہ قدم رکھ سکا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کے

عُلِّقَ اَهْلُ الْمَجْدِ بِنَوَالِهٖ وَاقْتَبَسَ اَهْلُ الْكَمَالِ مِنْ كَمَالِهٖ

جود و نوال کے ریزہ خوار بنائے گئے اہل مجد اور انھیں سے خیرات لی کمال کی اہل کمال نے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

ذَاتِ الْعِزِّ وَالْمَجْدِ وَالْمُجِيْرِ لِمَنْ دَعَاهُ فِى الرَّخَآءِ وَالشِّدَّةِ

کہ جو آقا عزت و مجد والے ہیں اور پناہ دینے والے ہیں اپنے پکارنے والے کو فراخی اور شدت میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

نِ الَّذِىْ اُيِّدَ بِرُوْحِ الْاِيْمَانِ الرُّوْحَانِيِّ وَرُوْحِ جُثْمَانِ الْاَمَانِيِّ

کہ جس محبوب کی تائید کی گئی ساتھ ایمان روحانی کی روح کے اور آرزوؤں کے اجسام کی روح سے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

الْاَعْظَمِ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ كُلِّ مُعَظَّمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

آل پر جو آقا کہ اللہ کے ہاں عظیم تر ہیں ہر عظمت والے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ ضَاعَفَ اللّٰهُ لَهٗ ثَوَابَهٗ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کے لیے کئی گنا بڑھایا اللہ تعالیٰ نے ثواب کو

وَيَسَّرَ اللّٰهُ لِكُلِّ خَيْرٍ اَسْبَابَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور آسان فرمایا ان کے لیے ہر خیر کے اسباب کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْٓ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ لِنَقْضِ الْكُفْرِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقائے نامدار کو ارسال فرمایا اللہ تعالیٰ نے کفر کے تار تار کرنے اور

حَلِّهٖ وَنَادَتْ مُعْجِزَاتُهٗ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ اَللّٰهُمَّ

اس کے مٹانے کے لیے اور اعلان فرمایا ان کے معجزات نے "فرما دیجیے لے آؤ مختصر سی سورت اس قرآن کی سورت جیسی" اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اللہ تعالیٰ

كَانَ اللّٰهُ لَهٗ عَوْنًا وَّمُعِيْنًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس محبوب کا معاون اور مددگار ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَانَ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ

اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کی مہر نبوت ان کے کندھوں کے درمیان تھی

وَكَانَ رُوْحُ الْقُدُسِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور روح القدس ان پر نازل ہوتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الْمُصَلِّىْ فِىْ مِحْرَابِ جَمْعِ الْجَمْعِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا نماز ادا کرنے والے ہیں مقام جمع الجمع کی عبادتگاہ میں

وَالْمَعْصُوْمِ بِالضَّرُوْرَةِ وَالْقَطْعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور جن کا معصوم ہونا ضروری اور قطعی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اُيِّدَ بِالْاٰيَاتِ وَالسُّوَرِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کی تائید کی گئی ہے آیات اور سورتوں کے ساتھ

وَغَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور اعلان مغفرت فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے (مزعومہ) سابقہ ذنوب کا اور (موہومہ) لاحقہ کا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ جَمَعَ وُجُوْهَ

بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے اپنے اندر جمع کر لیا بزرگی

اَلْكَرَامَةِ وَاَنْوَاعَ السَّعَادَةِ وَمَلَكَ اَشْتَاتَ الْاِنْعَامِ فِي الدَّارَيْنِ
اور سعادت مندی کے جملہ اقسام کو اور مالک ہو گئے مختلف انواع کے انعامات کے دارین میں

وَالزِّيَادَةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ
اور مزید کے اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَفَتَّقَتْ مِنْهُ عُرُوْسُ الْحَقَآئِقِ وَلَمْ
آل پر کہ جس آقا سے نمودار ہوئے مزین حقائق اور نہ پا سکا ان کے درجات و مراتب کو

يُدْرِكْهُ سَابِقٌ وَّلَا لَاحِقٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
کوئی پہلا اور نہ پچھلا ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْٓ اَشْرَقَتْ فِي الْاٰفَاقِ اَنْوَارُهٗ وَ
اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جگمگائے آفاق میں انوار اس محبوب کے اور

طَابَتْ فِي الْمَسَامِعِ اَحَادِيْثُهٗ وَاَخْبَارُهٗ اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ بِيَدِهٖ
شیریں و پاکیزہ ہوئیں کانوں میں احادیث اور اخبار ان کی۔ اے اللہ اے کہ اس کے دست قدرت میں ہیں

خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ نِّعَمُهٗ لَا تُحْصٰى
سموات و ارض کے خزائن ۔ اے اللہ ۔ اے کہ جس کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا

وَاَمْرُهٗ لَا يُعْصٰى وَنُوْرُهٗ لَا يُطْفٰى وَلُطْفُهٗ لَا يَخْفٰى وَيَا مَنْ
اور جس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی جاسکتی۔ اور اس کا نور بجھایا نہیں جاسکتا اور اس کا لطف مخفی نہیں رہ سکتا۔ اے کہ جس نے

فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوْسٰى وَاَحْيَ الْمَيِّتَ لِعِيْسٰى وَجَعَلَ النَّارَ بَرْدًا
پھاڑا موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو اور مردے زندہ کئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور کر دیا آگ کو ٹھنڈک

وَّسَلَامًا عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اور سلامتی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ اَمْرِيْ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا يَّا مَنْ يُّنَادِيْكَ
اور بنا میرے لیے میرے امر سے کشائش اور راہ خلاص۔ اے کہ جسے پکارتے ہیں

الْمُنَادُوْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ وَّمِنْ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ وَاَقْعَارِ
پکارنے والے ہر گہرے راستہ سے اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے اور سمندروں کی

الْبِحَارِ وَاَوْكَارِ الطُّيُوْرِ بِاَلْسِنَةٍ شَتّٰى وَلُغَاتٍ مُّخْتَلِفَةٍ وَّحَوَآئِجَ
گہرائیوں سے۔ اور پرندوں کے گھونسلوں سے مختلف زبانوں کے ساتھ، مختلف لغات میں اور ہر قسم کے حاجات میں

اُخْرٰى يَا مَنْ لَّا يَشْغَلُهٗ شَاْنٌ عَنْ شَاْنٍ يَا مَنْ لَّا يَشْغَلُكَ
اے کہ جسے مشغول نہیں کر سکتی ایک حالت دوسری حالت سے۔ اے کہ جسے مشغول نہیں کر سکتی

شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ اَنْتَ الَّذِيْ لَا تُغَيِّرُكَ الْاَزْمِنَةُ وَلَا تُحِيْطُ
ایک شئ دوسری شئ سے تو ہی ہے کہ جسے زمانے متغیر نہیں کر سکتے اور نہ مکان تیرا احاطہ

بِكَ الْاَمْكِنَةُ وَلَا تَصِفُكَ الْاَلْسِنَةُ وَلَا يَاْخُذُكَ نَوْمٌ وَّلَا
کر سکتے ہیں اور نہ زبانیں تیری توصیف کر سکتی ہیں اور نہ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے نیند اور نہ

سِنَةٌ وَّلَا يُشْبِهُكَ شَيْءٌ وَكَيْفَ لَا تَكُوْنُ كَذٰلِكَ وَاَنْتَ
اونگھ۔ اور نہ مشابہ ہے تیرے کوئی شئ۔ اور کیونکر تیری یہ شان نہ ہو حالانکہ تو ہی

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَكَ الْكَرِيْمَ
ہر شئ کو عدم وجود میں لانے والا ہے۔ اور ہر چیز مرتبۂ ذات میں فانی ہے سوائے تیری ذات کے

سُبُّوْحٌ ذِكْرُكَ قُدُّوْسٌ اَمْرُكَ وَاحِدٌ حَقُّكَ نَافِذٌ قَضَآئُكَ
پاکیزہ ہے ذکر تیرا، مقدس ہے امر تیرا۔ شرکت سے منزہ ہے حق تیرا، نافذ ہے قضاء تیری

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

وَّيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ مِمَّآ اَرْجُوْ مِنْكَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ مَآ اَخَافُ
اور آسان فرما میرے لیے وہ امور جن کی تجھ سے امید رکھتا ہوں۔ اور پھیر دے مجھ سے جس سے میں اندیشہ رکھتا ہوں

عَنْهُ بِصَرْفِ حَرْفِ يُسْرٍ مِّمَّا اَخَافُ عُسْرَتَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
بدلہ میں دینے حرف یسر کے اس سے جس کی عسرت سے خائف ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكُلِّ
و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سب کے سردار ہیں
فِى الْكُلِّ سَيِّدِ الْاَشْرَافِ وَشَرَفِ شَرَآئِفِ الْاَوْصَافِ بِحُرْمَتِهٖ
سب زمانوں میں، اشراف کے سردار ہیں۔ اور اعلیٰ اوصاف کیلئے سراپا شرف ہیں (صلوٰۃ نازل فرما) بطفیل انہیں کی حرمت
وَقَبُوْلِهٖ وَشَرَفِهٖ اَللّٰهُمَّ فَرِّجْ عَنِّىْ مَآ اَخَافُ ضِيْقَتَهٗ اَللّٰهُمَّ
و قبولیت اور شرف کے۔ اے اللہ دور فرما مجھ سے جس کی تنگی سے میں خائف ہوں۔ اے اللہ
يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَسَهِّلْ لِىْ مَآ اَخَافُ حُزُوْنَتَهٗ سُبْحَانَكَ
آسان فرما اور تنگی نہ فرما اور آسان فرما میرے لیے جس کی درشتی سے میں خوفزدہ ہوں۔ پاک ہے تو
اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ
اے اللہ اور تیری حمد کے ساتھ مصروف ہیں، نہیں معبود برحق مگر تو ہی، تو پاک ہے۔ بیشک میں
الظّٰلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
ظلم کرنے والوں سے ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لُبَابِ اللُّبَابِ وَاَكْرَمِ نَبِىٍّ اُنْزِلَ عَلَيْهِ
آل پر جو کہ خلاصہ ہیں خالص و مخصوص بندگان خداوند تعالیٰ کے اور انتہائی عزت والے نبی ہیں نازل کی گئی ہے ان پر
اَفْضَلُ كِتَابٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
سب سے فضیلت والی کتاب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی
اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَشْاَةِ الْاِمْدَادِ وَنُقْطَةِ دَآئِرَةِ الْاِسْتِوَآءِ
آل پر جو وسیلہ ذریعہ ہیں امداد موصول ہونے کا۔ اور مرکز ہیں استواری اور بھلائی کے
وَالرَّشَادِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
دائرہ کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبْعَةِ الْجُوْدِ وَالْمَنَآئِحِ وَاَفْضَلِ غَادٍ وَّخَيْرِ
آل پر جو محبوب کہ سرچشمہ ہیں جود و عطیات کا۔ اور افضل ترین ہیں صبح آنے والوں سے اور بہترین ہیں

رَآئِحٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ
پچھلے وقت آنے والوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر
اِلَّذِىْ افْتَخَرَتْ بِهِ الرِّسَالَةُ وَتَعَزَّزَتْ بِهٖ وَفَاقَتْ بِهٖ مَنَاقِبُ
کہ جس محبوب پر فخر کیا رسالت نے اور عزت پائی ان کے بدولت اور بلندیوں پر پہنچے بسبب ان کے مناقب
النُّبُوَّةِ وَغُلِّقَتْ بِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
نبوت اور انہیں کے ذریعے بند کئے گئے (از سر نو پیدا کئے جانے سے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر
وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَتَمَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ نِعْمَتَهٗ وَكَمَّلَ
اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تام کر دیا اور کامل کر دیا
اللّٰهُ لَهٗ دِيْنَهٗ وَمِلَّتَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کا دین اور ان کی ملت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر
وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ خُصَّ بِبَدَآئِعِ الْحِكَمِ وَيُعْرَفُ
اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو مخصوص ٹھہرایا گیا ہے انوکھی حکمتوں کے ساتھ اور نمایاں کردی جائیگی
اُمَّتُهٗ بَيْنَ الْاُمَمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
ان کی اُمت دوسری اُمتوں کے درمیان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر
وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ حَلَّ لَهُ اللّٰهُ الْحَقِيْقَةَ وَاَظْهَرَ
اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا (اسرار) حقیقت کو اور ظاہر کیا
اللّٰهُ صِدْقَهٗ لِلْخَلِيْقَةِ وَتَصْدِيْقَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
اللہ تعالیٰ نے ان کا صدق اور تصدیق ساری مخلوق پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ اللّٰهُ لَهٗ حَافِظًا
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ حافظ
وَّنَاصِرًا وَّاَصْبَحَ بِهِ الْاِسْلَامُ لِلْكُفْرِ قَاهِرًا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ
و ناصر ہے۔ اور انہیں کی بدولت اسلام کفر پر غالب ہوا۔ اے اللہ بیشک میں تیرا بندہ ہوں

وَابْنُ اَمَتِكَ جَمِيْعُ الْخَلْقِ مَقْهُوْرُوْنَ بِقُدْرَتِكَ وَنَوَاصِيْهِمْ

اور تیری باندی کا بیٹا ہوں۔ ساری مخلوق تیری قدرت کے تحت مغلوب ہے اور سب کی پیشانیاں

بِيَدِكَ وَقُلُوْبُهُمْ فِىْ قَبْضَتِكَ وَمَفَاتِيْحُهُمْ عِنْدَكَ لَا تَتَحَرَّكُ

تیرے دست قدرت میں ہیں۔ اور ان کے دل تیرے قبضے میں ہیں اور سب (خزانوں) کی چابیاں تیرے پاس ہیں نہیں حرکت

ذَرَّةٌ اِلَّا بِاِذْنِكَ لَيْسَ مَعَكَ بَرٌّ فِى الْخَلْقِ وَلَا شَرِيْكَ لَكَ فِى

کرتا کوئی ذرہ مگر تیرے اذن سے۔ نہیں ہے تیرے ساتھ احسان کرنے والا مخلوق میں۔ اور نہ کوئی شریک ہے ملک

الْمُلْكِ يَآ اِلٰهَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ رَبَّ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ

میں تیرے لیے۔ اے معبود اولین و آخرین کے۔ اے رب ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے

وَجِبْرَآئِيْلَ وَمِيْكَآئِيْلَ تَوَسَّلْتُ اِلَيْكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيْمِ وَ

اور جبرئیل و میکائیل علیہما السلام کے میں نے وسیلہ پکڑا ہے تیری بارگاہ میں ساتھ تیرے اسم عظیم اور

بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَبِدِيْنِكَ الْقَوِيْمِ وَبِصِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ

وجہ کریم کے اور ساتھ تیرے مستحکم دین کے اور صراط مستقیم کے۔

وَبِسَبْعِ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَبِاَلْفِ اَلْفِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ

اور ساتھ سبع مثانی (فاتحہ کی سات آیات کے) اور قرآن عظیم کے۔ اور ہزار در ہزار قل ہو اللہ

اَحَدٌ ۝ وَبِبَيْتِكَ الْحَرَامِ وَبِاسْمِكَ الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمِ الْقَدِيْمِ

احد کے۔ اور تیرے بیت حرام اور عظیم و اعظم، قدیم و اکرم

الْاَكْرَمِ الْمُكَرَّمِ الَّذِىْٓ اَخْفَيْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ الْعَزِيْزِ الَّذِىْٓ اَنَارَتْ

اور مکرم نام کے ساتھ جس کو مخفی کر دیا ہے تو نے اپنی کتاب عزیز میں جس کی بدولت نور سے

بِهِ الظُّلُمَاتُ وَاَقَامَتْ بِهِ السَّمٰوٰتُ وَخَضَعَتْ بِهِ الْاَقَالِيْمُ

بدل گئیں ظلمتیں اور برپا ہوئے سب آسمان اور سرنگوں ہوئیں اقالیم

وَالْاَفْلَاكُ وَذَلَّتْ بِهِ الْاَرَضُوْنَ وَانْخَمَدَتْ بِهِ الشَّيَاطِيْنُ وَ

اور افلاک اور تابع ہوئیں زمینیں اور ماند پڑ گئیں حرکتیں شیاطین کی بطفیل اُس کے، اور

انْفَتَحَتْ بِهِ الْاَقْفَالُ وَتَصَدَّعَتْ مِنْ خَشْيَتِهِ الْجِبَالُ وَلَانَتْ

کھل گئے بسبب اس کے بند قفل۔ اور پھوٹ پڑے اس کے خوف سے پہاڑ۔ اور نرم ہو گئے

بِهِ الصُّخُوْرُ وَهَانَتْ بِهِ صِعَابُ الْاُمُوْرِ وَذَلَّ مِنْ خَشْيَتِهٖ

بسبب اس کے سخت پتھر۔ اور نرم ہو گئے بسبب اس کے سخت امور۔ اور تابعدار ہو گیا بسبب اس کے خوف کے

كُلُّ ذِىْ رُوْحٍ وَّسَلِمَتْ بِهٖ سَفِيْنَةُ نُوْحٍ وَّتَكَلَّمَتْ بِهِ الْمَوْتٰى

ہر ذی روح اور سلامت رہی بسبب اس کے نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اور کلام کیا بسبب اس کے مردوں

لِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ

نے حضرت عیسٰی بن مریم علیہما السلام کے ساتھ۔ اور مسخر کر دیا تو نے عرب و عجم کو بسبب اس کے)

لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَجَبْتَ بِهِ الدُّعَآءَ وَ

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور قبول کیا تو نے بسبب اس کے دعا کو اور

اَنْقَذْتَ بِهِ الْغَرْقٰى وَاَنْجَيْتَ بِهِ الْهَلْكٰى وَاَحْرَسْتَ بِهِ

بچایا بسبب اس کے غرق ہونے والوں کو۔ اور نجات دی ہلاکت سے دوچار ہونے والوں کو اور نگہبانی کی

الْاَلْسُنَ وَبِهٖ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ تَوَسَّلْتُ اِلَيْكَ

زبانوں کی بسبب اس کے اور بسبب اس کے عزت دیتا ہے تو جسے چاہے اور حقیر کرتا ہے جس کو چاہے۔ وسیلہ پکڑا میں نے تیری طرف

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِخَفِىِّ لُطْفِ اللّٰهِ وَبِجَمِيْلِ سِتْرِ اللّٰهِ دَخَلْتُ فِىْ

اے حی۔ اے قیوم ساتھ خبر گیری کرنے والے لطف خداوندی کے۔ اور ساتھ خوبصورت پردے خداوند تعالٰی کے۔ میں داخل ہوا

كَنَفِ اللّٰهِ وَتَشَفَّعْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ اَنَا فِىْ حِصْنِ اللّٰهِ اَنَا فِىْ ذِمَّةِ

اللہ تعالٰی کے پہلوئے رحمت میں اور شفاعت حاصل کی رسول اللہ کی۔ میں اللہ تعالٰی کے قلعہ میں ہوں۔ میں اس کی ذمہ داری میں

اللّٰهِ اَنَا فِىْ قَبْضَةِ اللّٰهِ وَلَا يَصْرِفُ السُّوْٓءَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا قُوَّةَ لِلْخَلْقِ

ہوں۔ میں اللہ تعالٰی کے قبضۂ قدرت میں ہوں اور نہیں پھیرتا برائی یا شدت کو مگر اللہ تعالٰی۔ اور نہیں طاقت مخلوق کیلئے (میری ضرر رسانی کی)

اِذَا كُنْتُ مَعَ اللّٰهِ وَحَمِدَ كُلُّ جَبَّارٍ بِسَطْوَةِ اللّٰهِ مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا

جب کہ اللہ کی معیت میں ہوں۔ اور ستائش کی ہر جبار نے اللہ کی سطوت کی۔ ما شاء اللہ۔ نہیں

قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ بِيَدِ اللّٰهِ ؕ وَلَا غَالِبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اَللّٰهُمَّ

قوت مگر ساتھ اللہ کے، تمام خیر اور بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور نہیں غالب مگر اللہ۔ اے اللہ

اُحْرُسْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِيْ لَا تَنَامُ وَاكْنُفْنَا بِكَنَفِكَ الَّذِيْ لَا يُرَامُ وَ

ہماری نگرانی فرما اپنی نگاہِ عنایت سے جو نیند سے پاک ہے اور جگہ عطا فرما اپنے پہلوئے رحمت میں سے کہ جس کا کوئی قصد نہیں کر سکتا اور

ارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ؕ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

رحم فرما ہم پر ساتھ اپنی قدرت کے، بیشک تو ہر چیز پر ہمیشہ کے لیے بہت ہی قدرت والا ہے۔ اے حی، اے قیوم

تَحَصَّنَّا بِكَ فَاحْمِنَا بِحِمَايَتِكَ يَا حَلِيْمُ يَا سَتَّارُ وَاَدْخِلْنَا يَا

ہم نے حفاظت حاصل کی ہے ساتھ تیرے پس ہماری حمایت فرما اپنی مخصوص حمایت کے ساتھ۔ اے حلم والے، اے پردہ پوش۔ اور

اَوَّلُ يَا اٰخِرُ فِيْ مَكْنُوْنِ غَيْبِ سِرِّ مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

داخل کر ہمیں۔ اے اول۔ اے آخر، ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کے مکنون اور پنہائی غیب میں۔

وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِكَ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِكَ وَاضْرِبْ عَلَيْنَا

اور ہمیں بچا اپنے ہاں رسوا ہونے سے۔ اور اپنے بندوں کے شر سے۔ اور قائم فرما ہم پر

سُرَادِقَاتِ حِفْظِكَ وَاَدْخِلْنَا فِيْ حِفْظِ عِنَايَتِكَ وَجُدْ عَلَيْنَا

اپنی حفاظت کے خیمے اور داخل فرما ہمیں اپنی عنایت میں اور سخاوت فرما ہم پر

بِخَيْرٍ مِّنْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ احْتَجَبْنَا وَبِحَوْلِ

اپنی مخصوص خیرات سے اے ارحم الراحمین۔ اللہ کے نام کے ساتھ پردہ حاصل کیا ہم نے۔ اور اللہ تعالیٰ کی

اللّٰهِ اعْتَصَمْنَا وَبِقُوَّةِ اللّٰهِ اسْتَمْسَكْنَا فَمَنْ اَرَادَنَا بِسُوْءٍ اَوْ

طاقت کے ساتھ حفاظت حاصل کی ہم نے۔ اور اللہ کی قوت کے ساتھ چنگل مارا ہم نے۔ پس جس نے ارادہ کیا ہمارا ساتھ برائی کے۔ اور

كَادَنَا بِكَيْدٍ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ مَمْنُوْعٌ مَّدْفُوْعٌ يَا اَللّٰهُ يَا وَاحِدُ

تدبیر کی ہمارے خلاف مکر کی پس وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم اور دھتکارا ہوا ہے۔ یا اللہ، یا واحد

يَا اَحَدُ يَا جَوَّادُ اُنْفُحْنَا مِنْكَ بِنَفْحَةِ خَيْرٍ اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ

یا احد، یا جواد۔ عطیہ دے ہمیں اپنی بارگاہ فیض سے عطیہ خیر کا۔ اے اللہ، اے کہ جس نے

لَطَفْتَ بِخَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَطَفْتَ بِالْاَجِنَّةِ فِيْ بُطُوْنِ

مہربانی فرمائی ساتھ پیدا کرنے آسمانوں اور زمین کے اور لطف فرمایا ساتھ ہر جنین کے انکی ماؤں کے ارحام

اُمَّهَاتِهَا اُلْطُفْ بِنَا فِيْ قَضَآئِكَ وَقَدَرِكَ لُطْفًا يَّلِيْقُ بِكَرَمِكَ

میں لطف فرما ساتھ ہمارے اپنی قضاء و قدر میں ایسا لطف جو لائق ہے ساتھ تیرے کرم کے

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ؕ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ صلوٰۃ اور سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ بِهِ اللّٰهُ كُلَّ الْمُؤْمِنِيْنَ هَدٰى وَ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت اللہ تعالیٰ نے سب مومنین کو ہدایت عطا فرمائی۔ اور

لَهُ اللّٰهُ فَضْلًا بِالْاِسْلَامِ بَدٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

انھیں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ازرہ فضل اسلام کو ظاہر فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ تَنَامُ عَيْنُهٗ وَلَا يَنَامُ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی صرف آنکھیں سوتی ہیں اور دل انور نہیں

قَلْبُهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

سوتا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ جَسَدَهُ الْكَرِيْمَ

کہ جس آقا کے لیے حرام فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر کہ کھائے ان کے جسد کریم کو

وَجَعَلَ اللّٰهُ الْمُصَلِّيَ عَلَيْهِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ

اور کر دیا ہے اللہ نے ان پر درود بھیجنے والے کو اپنے عرش عظیم کے سایہ کے نیچے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ

صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے

اَنْفَذَ اَمْرَكَ وَاَشَادَ ذِكْرَكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

نافذ کیا تیرا امر اور عام کیا تیرا ذکر اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨ الْمُخْتَارِ مِنْ اَطْيَبِ بُطُوْنِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو چنے گئے ہیں عرب قبائل کی شاخوں میں سے پاکیزہ ترین

الْعَرَبِ وَوَحْيُهٗ غَيْرُ مُكْتَسَبٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

شاخ سے اور ان کی وحی ان کی محنت اور کوشش سے نہیں (بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے) اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ جَعَلَ اللّٰهُ طَاعَتَهٗ نَجَاتًا

محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے عین نجات اور

وَّرِبْحًا وَّجَآءَ بِالْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَآءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

سراسر منفعت بنا دیا ہے۔ اور آپ لائے ہیں ایسی ملت جو سراسر حق ہے اور سہل۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّكِيْنَةَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب پر اللہ تعالےٰ نے نازل فرمایا سکینت کو

وَاَخَذَ اللّٰهُ الْمِيْثَاقَ عَلَى النَّبِيّٖنَ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ

اور اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء علیہم السلام سے کہ ضرور بالضرور ایمان لائیں گے ساتھ آپ کے اور ضرور بالضرور امداد کریں گے ان کی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

ۨ الْمُتَقَلِّبِ فِىْٓ اَصْلَابِ النَّبِيّٖنَ وَيَجْلِسُ عَلٰى يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ

جو محبوب کہ منتقل ہوتے رہے ہیں (بعض) انبیاء علیہم السلام کی اصلاب میں بھی۔ اور بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب (وزارت عظمیٰ

وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى

کی کرسی پر) اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں (از روئے یمن وبرکت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨ اَوَّلِ مَنْ يَّسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّهٖ وَلَمْ يَرْضَ اللّٰهُ

آل پر جو محبوب پہلے شخص ہوں گے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اذن طلب کریں گے۔ اور نہیں پسند کیا اللہ تعالیٰ نے

دِيْنَ اَحَدٍ اِلَّا بِحُبِّهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

کسی کا دین مگر بطفیل انہیں کی محبت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ جَعَلَهُ اللّٰهُ مُؤْتَمًّا بِهٖ وَبِدِيْنِهٖ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے مقتدیٰ بنایا اور ان کے دین کو لائق اقتداء بنایا

وَجَعَلَهُ اللّٰهُ مَتْبُوْعًا مِّنْ يَّوْمِ خَلْقِهٖ وَتَكْوِيْنِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور اللہ نے بنایا ان کو مقتداء ان کی تخلیق اور ایجاد کے دن سے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْٓ اَمَرَ اللّٰهُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے متعلق اللہ نے مخلوق کو

الْخَلْقَ اَنْ يَّهْتَدُوْا بِهَدْيِهٖ وَاَنْ يَّقِفُوْا عِنْدَ اَمْرِهٖ وَنَهْيِهٖ

حکم دیا ہے ہدایت حاصل کریں ان کی سیرت و کردار سے اور عمل پیرا ہوں ان کے امر ونہی پر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

ۨ الَّذِىْ لَا يَرِثُهٗ مِنْ ذَوِىْ رَحِمِهٖ وَارِثٌ وَّاَحَلَّ اللّٰهُ لِاُمَّتِهٖ

کہ جس آقا کے ترکہ کا وارث نہیں ہو سکتا ان کے رشتہ داروں سے کوئی بھی۔ اور حلال ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے ان کی

الطَّيِّبَاتِ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اُمّت کے لیے پاکیزہ اشیاء کو اور حرام ٹھہرایا ان پر خبیث اشیاء کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ جَعَلَ اللّٰهُ مَلٰٓئِكَةً عِنْدَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے طفیل مقرر کئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ بیت المعمور

الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ يُصَلُّوْنَ عَلٰٓى اَرْوَاحِ اُمَّتِهٖ عِنْدَ الْحُضُوْرِ اَللّٰهُمَّ

کے پاس جو درود بھیجتے ہیں آپ کی اُمّت کی روحوں پر وہاں حاضر ہونے پر (موت کے بعد)۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨ الَّذِىْ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس

جَعَلَ اللّٰهُ اَصْحَابَهُ الْاَبْرَارَ رُحَمَآءَ بَيْنَهُمْ اَشِدَّآءَ عَلَى الْكُفَّارِ

آقا کے اصحاب ابرار کو اللہ نے بنایا ہے آپس میں رحیم و مہربان۔ کفار پر سخت اور شدید

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِیْ جَعَلَ اللّٰهُ كُلَّ سِحْرٍ يُسْحَرُ بِهٖ اَحَدٌ مِّنَ الْاَنَامِ بَاطِلًا يَّوْمَ
کہ اللہ تعالیٰ نے کردیا ہر جادو کو جو کرتا تھا کوئی بھی شخص مخلوق سے باطل اور بے اثر۔ ان کی

وِلَادَتِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ
ولادت کے دن۔ علیہ السلام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ٳلَّذِیْ سَبَقَتْ رُوْحُهٗ اَرْوَاحَ الْاَنْبِيَآءِ وَ
آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی روح سبقت لے گئی تمام ارواح انبیاء و

الرُّسُلِ فِیْ مَيَادِيْنِ الْمَعْرِفَةِ اِلٰى رِيَاضِ الْوِصَالِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
مرسلین پر معرفت کے میدانوں میں طرف وصال خداوند تعالےٰ کے باغات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ٳلَّذِیْ جَعَلَ
و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے طفیل اللہ تعالیٰ نے کردیا ہے

اللّٰهُ ثَوَابَ اُمَّتِهٖ فِیْ مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الْحَسَنَةِ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا
ان کی اُمّت کے نیک اعمال کے ثواب کو (کم ازکم) دس گنا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِیْٓ اَوْجَبَ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ عَلَيْهِ عِنْدَ ذِكْرِهٖ وَتُرْعَةُ الْفِرْدَوْسِ
کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے صلوٰۃ بھیجنا واجب کردیا ہے ان کا ذکر آنے پر اور جنّت الفردوس کا باغیچہ

بَيْنَ مِنْبَرِهٖ وَقَبْرِهٖ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
ان کے منبر شریف اور قبر انور کے درمیان ہے۔ پاک ہے تو اے اللہ اور تیری حمد کرتے ہیں، نہیں کوئی معبود برحق مگر

اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَیُّ يَا قَيُّوْمُ
توہی مہربان صاحب احسان، اے جلال و اکرام والے۔ اے حی۔ اے قیوم

يَا بَرُّ يَا سَلَامُ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ
اے نکوکار، اے سراسر سلامتی، اے از سرِ نو پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے۔ جاننے والے غیب اور

الشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
ظاہر کے، کبریائی اور برتری کے مالک۔ اے اللہ از سرِ نو پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے،

ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِیْ لَا تُرَامُ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا
اے مالک جلال و اکرام اور ایسے غلبہ کے جس (کے خاتمہ) کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے۔ اے اللہ، اے

رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُلْزِمَ قَلْبِیْ حِفْظَ كِتَابِكَ
رحمٰن بطفیل تیرے جلال اور نورِ ذات کے کہ لازم کردے میرے دل میں حفظ اپنی کتاب کا جیسے

كَمَا عَلَّمْتَنِیْ وَارْزُقْنِیْٓ اَنْ اَتْلُوَهٗ عَلَى النَّحْوِ الَّذِیْ يُرْضِيْكَ
کہ تو نے مجھے تعلیم دی اور مجھے نصیب فرما اس کی تلاوت ایسے انداز میں جو راضی کردے تجھے

عَنِّیْ اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ اَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِیْ وَاَنْ تُطْلِقَ
مجھ سے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ منور کردے ساتھ اپنی کتاب کے میری نگاہ کو اور روانی بخشے

بِهٖ لِسَانِیْ وَاَنْ تُفَرِّجَ بِهٖ عَنْ قَلْبِیْ وَاَنْ تَشْرَحَ بِهٖ صَدْرِیْ
ساتھ اس کے میری زبان کو اور کھول دے بسبب اس کے میرے دل سے (حجابات) اور وسیع کردے بسبب اس کے میرے سینے کو

وَاَنْ تَسْتَعْمِلَ بِهٖ بَدَنِیْ فَاِنَّهٗ لَا يُعِيْنُنِیْ عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ
اور عامل بنائے ساتھ اس کے میرے بدن کو کیونکہ نہیں اعانت کرتا میری حق پر سوائے تیرے کوئی بھی

وَلَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِيْمِ
اور نہیں کوئی معبود برحق مگر تو اور نہیں طاقت اور قوت مگر ساتھ اللہ علی عظیم کے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ وَلَآ اَسْئَلُ اِلٰى غَيْرِكَ وَاَرْغَبُ اِلَيْكَ وَ
اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اور نہیں دامن سوال دراز کرتا تیرے غیر کی طرف اور رغبت کرتا ہوں طرف تیری

لَآ اَرْغَبُ اِلٰى غَيْرِكَ وَاَسْئَلُكَ يَا اَمَانَ الْخَآئِفِيْنَ وَيَا جَارَ
اور نہیں رغبت رکھتا تیرے غیر کی طرف۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے خوف زدگان کو امان دینے والے اور طلبگاران پناہ

المُستَجِيرِينَ اَنتَ الفَتَّاحُ اِلَى الخَيرَاتِ وَمُقِيلُ العَثَرَاتِ

کو پناہ دینے والے تو ہی کھولنے والا ہے (دروازے) طرف خیرات کے۔ اور در گزر کرنے والا ہے لغزشوں سے

وَمَاحِي السَّيِّئَاتِ وَكَاتِبُ الحَسَنَاتِ وَرَافِعُ الدَّرَجٰتِ وَمَانِعُ

اور مٹانے والا ہے برائیوں کا۔ اور ثابت رکھنے والا ہے حسنات کو اور بلند کرنے والا ہے درجات کا۔ اور روکنے والا ہے

البَلِيَّاتِ وَاَسئَلُكَ بِاَفضَلِ المَسَائِلِ كُلِّهَا وَاَعظَمِهَا وَاَنجَحِهَا

مصائب کو اور سوال کرتا ہوں تجھ سے ساتھ بہترین عظیم تر اور کامیاب ترین انداز سوال کے تمام تر سوالات میں سے کہ

الَّتِي لَا يَنبَغِي لِلعِبَادِ اَن يَّسئَلُوكَ اِلَّا بِهَا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسئَلُكَ

نہیں لائق بندوں کے کہ سوال کریں تجھ سے مگر ساتھ اس کے۔ اے اللہ بے شک ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے

القُربَةَ الاَعظَمِيَّةَ وَعَذَارَى المُشَرَّفَةَ بِشَرَفِهٖ وَشَرَافَتِهٖ صَلَّى

عظیم تر قربت کا اور مقبول معذرتوں کا بطفیل شرف اور شرافت محبوب صلی اللہ

اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَنَسئَلُكَ بِاَسمَآئِكَ الحُسنٰى وَصِفَاتِكَ

علیہ و سلم کے اور سوال کرتے ہیں تجھ سے بطفیل تیرے اسماء حسنیٰ کے اور تیری بلند مرتبت

العُليَا وَكَلِمَاتِكَ التَّآمَّاتِ وَبِكُتُبِكَ المُنَزَّلَةِ وَبِكِتَابِكَ

صفات کے اور کلمات تامہ کے۔ اور نازل کردہ کتابوں کے اور کتاب

العَزِيزِ وَبِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَبدِكَ وَ

عزیز کے اور بطفیل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیرے عبد اور

رَسُولِكَ يَا رَبَّ الاَربَابِ وَيَا مُنزِلَ الكِتَابِ يَا سَرِيعَ

رسول ہیں، اے رب الارباب، اے نازل کرنے والے کتاب کے۔ اے جلدی لینے والے

الحِسَابِ يَا مَن اِذَا دُعِيَ بِهٖ اَجَابَ يَا رَحِيمُ اَللّٰهُمَّ ارحَمنَا

حساب کے۔ اے کہ جب دعا کیا جائے تو قبول فرماتا ہے، اے مہربان۔ اے اللہ رحم فرما ہم پر

بِمَا رَحِمتَ بِهِ المُضطَرِّينَ وَاَجِبنَا بِمَآ اَجَبتَ بِهِ السَّآئِلِينَ

ساتھ اس رحمت خاصہ کے کہ رحم فرماتا ہے ساتھ اس کے مجبوروں پر۔ اور قبول فرما ہمیں ساتھ اس قبولیت کے کہ قبول کیا سائلین کو

اَللّٰهُمَّ هٰذَا المَطلَبُ فِي غَايَةِ الحَقَارَةِ اِذَا نَظَرتَ اِلٰى كَرَمِكَ

اے اللہ یہ مطلوب انتہائی حقیر ہے جب نظر فرمائے تو طرف اپنے کرم

وَرَحمَتِكَ وَعِظَمِ الوَسِيلَةِ اَللّٰهُمَّ صَحِّحنِي وَاَوصِلنِي اِلٰى

اور رحمت کے اور طرف وسیلہ کی عظمت کے۔ اے اللہ مجھے صحت بخش اور مجھے واصل فرما اس

مَا اَوصَلتَ اِلَيهِ اَولِيَآئَكَ وَهُوَ عَينُ المَقصُودِ اَللّٰهُمَّ

مقام تک کہ واصل فرمایا تو نے طرف اس کے اپنے دوستوں کو اور وہی عین مقصود ہے۔ اے اللہ

رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبعِ وَرَبَّ العَرشِ العَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ

مالک ساتوں آسمانوں کے اور مالک عرش اعظم کے۔ اے رب ہمارے اور رب

كُلِّ شَيءٍ مُنزِلَ التَّورٰىةِ وَالاِنجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالفُرقَانِ

ہر شئ کے، نازل کرنے والے تورات و انجیل کے اور زبور و فرقان

العَظِيمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

عظیم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي شَمَّرَ عَن سَاقِهٖ فِي اللّٰهِ وَاجتَهَدَ وَاَدخَلَ

آل پر جنہوں نے اپنی سعی وکوشش کو صرف کیا اور جدوجہد فرمائی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور داخل کیا

فِي دِينِ اللّٰهِ مَا لَم يُدخِلهُ مِنَ الاَنبِيَآءِ اَحَدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اللہ کے دین میں (اتنی کثیر تعداد کو) جسے نہیں داخل کیا انبیاء میں سے کسی نے بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّم عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے طفیل

اشتَدَّت بِهِ الدَّعوَةُ وَعَزَّ ذُرَاهَا وَاَقَامَ اَوَدَ النُّبُوَّةِ وَشَدَّ

پختہ ہو گئی دعوت توحید و رسالت اور عزت والی ہو گئیں چوٹیاں اس کی۔ اور درست کیا نبوت کی شقتوں کو اور مضبوط کیا

عُرَايهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

اس کے ارکان کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْٓ اَعْجَزَ اللّٰهُ فِيْهِ الْمَحَامِدَ وَدَمَّرَ اللّٰهُ بِهٖ

آل پر کہ عاجز کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو (عظیم کمالات دے کر مخلوق کو) ان کے محامد سے اور دور کیا بسبب ان کے

الْمَفَاسِدَ وَطَهَّرَ اللّٰهُ بِهِ الْمَحَارِيْبَ وَالْمَسَاجِدَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

مفاسد کو اور پاک فرمایا اللہ تعالیٰ نے بسبب ان کے عبادت گاہوں اور مساجد کو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب میں

اُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ وَلَبِسَ ثَوْبَ الْخُشُوْعِ وَالْاِنَابَةِ اَللّٰهُمَّ

قدرتی ہیبت اور رعب پیدا کیا گیا (مگر انہوں نے اپنے طور پر) اوڑھا خشوع اور انابت کا لباس۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

فَاقَتْ مُعْجِزَاتُهٗ كُلَّ مُعْجِزَةٍ وَّاَصْبَحَ بِهِ الْاِسْلَامُ فِىْ عِزَّةٍ

فوقیت پائی اس محبوب کے معجزات نے ہر معجزہ پر اور ہو گیا بسبب ان کے اسلام کا بول بالا

وَّقُلُوْبُ اَعْدَآئِهٖ مُسْتَفِزَّةٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور ان کے اعداء کے دل (بوجہ خوف وہیبت) ترساں ولرزاں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمُعَظَّمِ فِى الْقُلُوْبِ وَالنُّفُوْسِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ عظیم تر ہیں قلوب و نفوس میں۔

وَالْمُهَابِ فِىْ عُيُوْنِ اَعْدَآئِهٖ عِنْدَ الْبُؤُوْسِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور ہیبت والے ہیں اعداء کی نظروں میں لڑائیوں کے وقت۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الدَّاعِىْٓ اِلَى اللّٰهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب دعوت دینے والے ہیں طرف اللہ تعالیٰ کے اس کی توفیق سے

بِاِذْنِهٖ وَاَذَّنَ جِبْرَآئِيْلُ فِىْٓ اُذُنِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور آذان دی جبرئیل امین نے ان کے کان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ طَافَ الْبَيْتَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے طواف کیا بیت اللہ کا

مَحْبُوْرًا وَّكَانَ فِى الْحَرْبِ مُؤَيَّدًا وَّمَنْصُوْرًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ

یعنی چادروں کا احرام باندھ کر اور تھے حرب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور نصرت دیے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نُصِرَ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو نصرت دی گئی

بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَّاُيِّدَ بِالْاِعْتِزَازِ وَالْقَهْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

ساتھ رعب و دبدبہ کے مہینہ کی راہ تک اور تقویت دیے گئے ساتھ غلبہ اور قہر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کے متعلق

لَا يَسْمَعُ بِهٖ اَحَدٌ مِّنْ اَعْدَآئِهٖ مِنَ الْخَلْقِ اِلَّا وَجِلَ قَلْبُهٗ

نہیں سنتا تھا ساری مخلوق میں سے کوئی دشمن مگر اس کا دل خوفزدہ ہو جاتا تھا

مِنْهُ وَخَفَقَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

اور لرز جاتا تھا آپ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ زَالَتْ بِهِ النُّحُوْسُ وَاَصْبَحَ بِهٖ عَرْشُ

آل پر کہ جس محبوب کی بدولت نحوستیں زائل ہو گئیں اور ابلیس کا تخت

اِبْلِيْسَ مَنْكُوْسًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

اوندھا ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ يَطْمِسُ اللّٰهُ عَلٰى وُجُوْهِ اَعْدَآئِهٖ

آپ کی آل پر کہ بے نور کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے کافر دشمنوں کے

مِنَ الْكُفَّارِ فَيَتَسَاقَطُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ فِى النَّارِ ؕ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

چہرے پس وہ منہ کے بل گر پڑیں گے آگ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْٓ اَخْفٰی

و سلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس سراج منیر کے

نُوْرُہُ الْوَھَّاجُ ضَوْءَ الْبَدْرِ وَالسِّرَاجِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

نور تاباں نے چھپا لیا (اپنے اندر) چودھویں کے چاند اور چراغ کے نور کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ جَعَلَ اللّٰہُ نُوْرَہُ

سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس نورانی محبوب کے روشن نور کو اللہ تعالیٰ نے

الْوَضَّاحَ اَوْضَحَ مِنْ ضَوْءِ الصَّبَاحِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

صبح کے سپیدہ سے بھی زیادہ روشن بنایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ جَعَلَ اللّٰہُ نُوْرَہُ

سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس نور مجسّم کے نور غالب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے

السَّاطِعَ اَشْرَقَ مِنَ الْھِلَالِ الطَّالِعِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا

زیادہ روشن ہلال روشن سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْٓ اَضَآءَ نُوْرُہُ فِی الْاَکْوَانِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کا نور جگمگایا سب جہانوں میں

وَانْتَشَرَ وَاَخْجَلَ نُوْرُہُ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور پھیلا۔ اور شرمندہ کر دیا ان کے نور نے سورج اور چاند کی روشنی کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ جَلَا عَرُوْسُ

بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے جمال دلربا کا عروس حسن

جَمَالِہِ الْمَبْرُوْرِ فِیْ خِلْعَةِ الْکَمَالِ وَالسُّرُوْرِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جلوہ نما ہوا کمال و سرور کی خلعت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّلِیِّ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ

سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ہر ایمان دار نفس کے ولی و مولیٰ ہیں

وَمَوْلَاھَا وَمَلَاَ نُوْرُہُ الْبِقَاعَ وَکَسَاھَا اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور پُر کر دیا ہے ان کے نور انور نے قطعات ارض کو اور انھیں لباس نور پہنا دیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ ھُوَ بَھْجَةُ

بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ بہار ہیں

الدِّیْنِ وَالدُّنْیَا وَاسْتَخْرَجَہُ اللّٰہُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّشْرِقَةِ الضِّیَاءِ وَ

دین اور دُنیا کی۔ اور ظاہر فرمایا ہے انھیں اللہ تعالیٰ نے روشن نورانی شجرہ سے۔ اور

اَشْرَقَ نُوْرُہُ الْعُلٰی اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی

چمکا ان کا نور بلندیوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ

اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ بُرْھَانُہُ یَلُوْحُ وَنُوْرُہُ وَاضِحُ الْوُضُوْحِ

کی آل پر کہ جس رسول کا برہان صدق چمکتا ہے اور ان کا نور بہت ہی واضح و آشکار ہے

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

خَیْرِ مَنْ زَانَتِ الْحَسْنَآءُ مَحَاسِنَہُ وَخَیْرِ مَنْ نَّشَا عَیْنُ الْاَکْوَانِ

جو محبوب کہ خوبتر ہیں ان تمام لوگوں سے کہ مزین کیا حسن و خوبی نے ان کے محاسن کو اور نشو و نما دی کائنات کے چشمہ نے

کَائِنَةً اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا

اس کے وجود کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ اَجْمَلِ اَجْمَلِ النَّاسِ عِزَّةً وَّیُبْعَثُ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فِیْٓ

آل پر جو محبوب کہ جمیل تر ہیں سب سے جمیل ترین لوگوں میں سے از روئے عزت کے اور مبعوث فرمائے جائیں گے قیامت کے

اَوَّلِ زُمْرَةٍ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ

دن پہلے گروہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَمُلَتْ مَحَاسِنُہُ وَشَرُفَتْ مَوَاطِنُہُ وَ

پر کہ جس محبوب کی خوبیاں کامل ہو گئیں۔ اور شرافت پا گئے ان کے مقامات سکونت۔ اور

زَكَتْ مَعَادِنُهٗ وَعَظُمَتْ مَطَالِبُهٗ وَكَرُمَتْ مَوَاهِبُهٗ وَفَخُرَتْ

پاکیزہ ہوگئیں (اس گوہریکتا) کی کانیں۔ اور عظیم ہوگئے ان کے مطالب اور بزرگتر ہوگئے ان کے عطیے اور قابل فخر ہوگئے

مَنَاصِبُهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

ان کے منصب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ حُبُّهٗ مَشْرُوْعٌ وَّذِكْرُهٗ مَرْفُوْعٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر کہ جس محبوب کی محبت عین شریعت ہے اور ان کا ذکر بلند کیا ہوا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ شَرَّفَ اللّٰهُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اللہ تعالےٰ نے شرف بخشا

بُنْيَانَهٗ وَعَظَّمَ اللّٰهُ شَاْنَهٗ وَاَظْهَرَ اللّٰهُ عِزَّهٗ وَبُرْهَانَهٗ وَعَمَّ

جن کے نسب وحسب کو اور عظیم بنایا ان کی شان کو۔ اور غالب فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور دلیل حقانیت کو اور کثیر بنایا

اُمَّتَهٗ وَخَيْرَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

ان کی اُمّت کو اور عام کیا ان کے فیض کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ سَارَ بِاُمَّتِهٖ نَحْوَ الْمَسَرَّةِ سَيْرَهٗ وَعَمَّ

آپ کی آل پر کہ جس آقا نے چلایا اپنی اُمّت کو مسرت کی جانب مانند اپنی سیر کے اور احاطہ کیا

الْعِبَادَ بِالْخَيْرِ طُرًّا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

ساتھ خیر اور بھلائی کے سب بندگان خداوند کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ لَوْلَاهُ مَا رُفِعَتِ الْخَضْرَآءُ وَلَا

آپ کی آل پر کہ جس آقا محبوب کا وجود مسعود نہ ہوتا تو نہ بلند کیا جاتا سبز خیمہ افلاک کا اور نہ

بُسِطَتِ الْغَبْرَآءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

پھیلائی جاتی زمین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ جَعَلَ اللّٰهُ النَّارَ عَلٰى اُمَّتِهٖ بَرْدًا وَّ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی اُمّت پر اللہ تعالیٰ نے نار جہنم کو ٹھنڈک اور

سَلَامًا وَّجَعَلَ اللّٰهُ اُمَّتَهٗ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاُمَمِ بِاَرْبَعِيْنَ

سلامتی بنا دیا ہے۔ اور بنایا ان کی اُمّت کو کہ داخل ہوں گے جنت میں تمام اُمّتوں سے پہلے چالیس

عَامًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

سال۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ اُعْطِيَ تَزْكِيَةَ اُمَّتِهٖ فِي الْمَحْشَرِ وَكَانَ وَجْهُهٗ فِي

پر کہ جس آقا کو عطا کیا گیا ہے مرتبہ اپنی اُمّت کی صفائی بیان کرنے کا محشر میں۔ اور تھا آپ کا چہرہ انور

الْبَيْتِ كَالسِّرَاجِ يَظْهَرُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

گھر میں چمکتا مانند چراغ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي انْكَشَفَتْ بِسَمَاعِ ذِكْرِ مَدِيْحِهٖ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کا ذکر و مدح سننے سے مشکلات حل ہو جاتی

الْغُمَّةُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِهٖ مِنَ الْاُمَّةِ مُنِعَ حِفْظَ الْحِكْمَةِ

پر کہ جو ایمان نہ لائے ساتھ اس آقا کے اُمّت دعوت سے محروم کر دیا جاتا ہے حکمت کے حفظ کرنے سے

وَكَانَ نُوْرُهٗ عَلَيْهِ ظُلْمَةً اَللّٰهُمَّ حُلَّ هٰذِهِ الْعُقْدَةَ وَاَزِلْ هٰذِهِ

اور ہوگا اس کا (ظاہری) نور اس پر تاریکی حقیقت میں۔ اے اللہ اس عقدہ کو حل فرما اور زائل فرما اس

الْعُسْرَةَ وَلَقِّنِيْ حُسْنَ الْمَيْسُوْرِ وَقِنِيْ سُوْءَ الْمَقْدُوْرِ وَارْزُقْنِيْ

تنگی کو۔ اور سکھلا مجھے خوبتر آسان عمل۔ اور بچا مجھے برے عمل سے۔ اور مجھے نصیب فرما

حُسْنَ الطَّلَبِ وَاكْفِنِيْ شُؤْمَ الْمُنْقَلَبِ اَللّٰهُمَّ حُجَّتِيْ حَاجَتِيْ

اچھا انداز طلب کا۔ اور کفایت فرما مجھے باز گشت کے برے منظر سے۔ اے اللہ میری دلیل و حجت میری محتاجی ہے

وَعُدَّتِيْ فَاقَتِيْ وَوَسِيْلَتِي انْقِطَاعُ حِيْلَتِيْ وَرَاْسُ مَالِيْ عَدَمُ

اور میرا ساز و سامان میرا فقر و فاقہ ہے۔ اور میرا وسیلہ میری تدابیر کا انقطاع اور بے اثری ہے اور میری پونجی میری

اِحْتِیَالِیْ وَشَفِیْعِیْ دُمُوْعِیْ وَکَنْزِیْ عَجْزِیْ اِلٰھِیْ قَطْرَۃٌ مِّنْ بِحَارِ

بیچارگی ہے۔ اور میرے سفارشی میرے آنسو ہیں۔ اور میرا خزانہ میری عاجزی و بےبسی ہے۔ اے بارالٰہا ایک قطرہ تیرے

جُوْدِكَ تُغْنِیْنِیْ وَذَرَّۃٌ مِّنْ تَیَّارِ عَفْوِكَ تَکْفِیْنِیْ فَارْزُقْنِیْ وَعَافِنِیْ

جود و نوال کے سمندر سے مجھے غنی کر سکتا ہے۔ اور ایک ذرہ تیری عفو کی موجزن لہر سے مجھے کافی ہو سکتا ہے پس مجھے عطا فرما اور عافیت

فَاعْفُ عَنِّیْ فَاغْفِرْلِیْ وَاقْضِ حَاجَتِیْ وَنَفِّسْ کُرْبَتِیْ وَفَرِّجْ ھَمِّیْ

بخش مجھ سے درگذر فرما پس مغفرت فرما، میری حاجت پوری فرما اور میری مشکل دور فرما

وَاکْشِفْ غَمِّیْ وَاَھْلِكْ عَدُوِّیْ وَارْزُقْنِیْ خَیْرَ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَۃِ

اور میرا تفکر دور فرما۔ اور میرا غم غلط فرما۔ اور میرے دشمن کو ہلاک فرما۔ اور مجھے دنیا و آخرت کی بہتری نصیب فرما

اَللّٰھُمَّ یَاخَفِیَّ الْاَلْطَافِ نَجِّنَا مِمَّا نَخَافُ یَاحَیُّ حِیْنَ لَاحَیَّ

اے اللہ کہ جس کے الطاف (غمزدگان کی) خبرگیری کرنے والے ہیں نجات دے ہمیں ہر خوفناک شئ سے۔ اے زندہ جبکہ نہیں ہوگا

فِیْ دَیْمُوْمَۃِ مُلْکِہٖ وَبَقَآئِہٖ رَبِّ اَنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ وَاجْبُرْ

کوئی زندہ بمع اس کے دوام و بقاءِ ملک کے۔ اے میرے رب میں مغلوب ہوں پس میرا بدلہ لے۔ اور درست فرما

قَلْبِیَ الْمُنْکَسِرَ وَاجْمَعْ شَمْلِیَ الْمُنْتَشِرَ اِنَّكَ اَنْتَ الرَّحْمٰنُ الْمُقْتَدِرُ

میرے ٹوٹے دل کو اور جمعیت بخش میری پراگندگی خاطر کو۔ بے شک تو ہی بہت رحم کرنے والا صاحب اقتدار ہے

اِکْفِنِیْ یَاکَافِیْ وَھُوَ الْعَبْدُ الْمُفْتَقِرُ وَکَفٰی بِاللّٰہِ نَصِیْرًا ۚ اِنَّ الشِّرْكَ

مجھے کفایت فرما اے کفایت فرمانے والے اور یہ بندہ محتاج ہے۔ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ از روئے مددگاری کے۔ بے شک شرک

لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ ۚ وَمَا اللّٰہُ یُرِیْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۚ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ

البتہ ظلم عظیم ہے۔ اور نہیں ارادہ فرماتا اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کا۔ پس قطع کر دیا گیا اثر و نشان

الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۚ یَامَنْ سَبَّحَتْ وَقَدَّسَتْ

ظالم قوم کا۔ اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار عالمین ہے۔ اے کہ تسبیح و تقدیس

وَعَظَّمَتْ وَکَبَّرَتْ وَمَجَّدَتْ لِجَلَالِ جَمَالِ کَمَالِ اَقْدَامِ

اور عظمت و کبریائی اور مجد بیان کی بسبب اس کے غلبہ و جبروت کے مضبوط اور عظیم اقدامات کے

اَفْوَامِ اَعْظَامِ عِزِّہٖ وَجَبَرُوْتِہٖ مَلَآئِكُ سَبْعِ سَمٰوٰتِكَ اِجْعَلْنَا فِیْ

جلال و جمال اور کمال کے ساتوں آسمانوں کے ملائکہ نے بتا دے ہمیں

ھٰذَا الْعَامِ وَھٰذَا الشَّھْرِ وَفِیْ ھٰذَا الْیَوْمِ وَفِیْ ھٰذِہِ السَّاعَۃِ وَ

اس سال۔ اس مہینے۔ اس دن اور اس ساعت میں اور

فِیْ ھٰذَا الْوَقْتِ الْمُبَارَكِ مِمَّنْ دَعَاكَ فَاَجَبْتَہٗ وَسَاَلَكَ

اس مبارک وقت میں ان پیاروں سے جنہوں نے دعا کی پس تو نے قبول فرمائی اور تجھ سے سوال کیا

فَاَعْطَیْتَہٗ وَتَضَرَّعَ اِلَیْكَ فَرَحِمْتَہٗ وَاِلٰی دَارِكَ دَارِ السَّلَامِ

پس تو نے انھیں عطا کیا۔ اور تیری طرف زاری کی پس تو نے ان پر رحم کیا اور اپنے مخصوص دارالسلام کی طرف

اَدْنَیْتَہٗ بِفَضْلِكَ یَاجَوَادُ یَاجَوَادُ یَاجَوَادُ جُدْ عَلَیْنَا وَعَامِلْنَا

قریب کیا اپنے فضل سے۔ یا جواد۔ یا جواد۔ یا جواد ہمیں جود و کرم سے نواز اور سلوک فرما ساتھ ہمارے

بِمَآ اَنْتَ اَھْلُہٗ وَلَا تُقَابِلْنَا بِمَا نَحْنُ اَھْلُہٗ اِنَّكَ اَھْلُ التَّقْوٰی

جیسا کہ تیری شان کے لائق ہے اور نہ ہمارے سامنے لاوہ عذاب و عقاب جس کے ہم سزاوار ہیں، بے شک تو ہی اس کا اہل ہے کہ تجھ سے ڈرا

وَاَھْلُ الْمَغْفِرَۃِ اَللّٰھُمَّ صَرَّفْتُ رَجَآئِیْ اِلٰی وَجْھِكَ الْکَرِیْمِ وَ

جائے اور تو ہی بخشنے والا ہے۔ اے اللہ میں نے اپنی امیدوں کو تیرے وجہ کریم کی طرف پھیرا ہے۔ اور

اَحْسَنْتُ ظَنِّیْ فِیْ عَفْوِكَ الْعَظِیْمِ فَارْحَمْنِیْ وَارْحَمْ وَالِدَیَّ وَ

میں نے حسن ظن سے کام لیا ہے تیری عفو عظیم میں پس رحم فرما مجھ پر اور میرے والدین پر۔ اور

اِخْوَانِیْ وَالْمُنْتَسِبِیْنَ اِلَیَّ وَارْضَ عَنِّیْ وَعَنِ الْمُنْعِمِیْنَ عَلَیَّ

میرے بھائیوں اور مجھ سے نسبت رکھنے والوں پر۔ مجھ سے اور مجھ پر انعام و احسان کرنے والوں پر راضی ہو

اَللّٰھُمَّ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِیْثُ یَاغِیَاثَ الْمُسْتَغِیْثِیْنَ اَغِثْنَا

اے اللہ تیری رحمت کے ساتھ ہم استغاثہ کرتے ہیں اے فریادیوں کے فریادرس ہماری امداد فرما۔

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ ھُوَ زَعِیْمُ الْاَرْکَانِ

اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جو کہ تیرے ارکان دولت کے سردار ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ
عَلَا فِى الْجَلَالَةِ فَرْعُهٗ وَاَظْهَرَ اللّٰهُ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَدْيَانِ دِيْنَهٗ وَ
بلند ہوئی بزرگی میں اولاد (نسبی و معنوی) ان کی اور غالب کیا اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان پر ان کے دین اور
شَرْعَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا
شریعت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر
مُحَمَّدِنِ الَّذِىْٓ اَصْبَحَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ بِعِزَّتِهٖ ذَلِيْلًا اَللّٰهُمَّ
ہو گیا ہر جبار و معاند اس محبوب کی عزت کے صدقے میں ذلیل۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ اَرْشَدِ
صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ سب سے زیادہ رہنمائی
النَّاسِ لِطُرُقِ الْقَوَامِ وَاَعْدَلِ مَنْ قَامَ بِرِعَايَةِ الْاَحْكَامِ
فرمانے والے ہیں استقامت کی راہوں کی اور سب سے زیادہ عادل ہیں احکام خداوند تعالیٰ کی رعایت و نگہبانی کرنے والوں سے۔
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب
اَفْضَلِ مَنْ سَاقَ الْمَطِىَّ بِهٖ وَخَيْرِ مُؤْتَمَنٍ اَدّٰى اَمَانَةَ رَبِّهٖ
کہ افضل ہیں ان تمام حضرات سے کہ سواریاں جن کو لے کر چلیں اور سب سے بہتر معتمد علیہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی امانت کو ادا کیا
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر
اَبَرِّ مَنْ لَّقِىَ الْوُفُوْدَ بِنَفْسِهٖ وَفَضَّلَهُ اللّٰهُ عَلٰى جَمِيْعِ جِنْسِهٖ
جو محبوب ان سب سے محسن ہیں جو در پر آنے والوں کو بنفس نفیس ملے۔ اور فضیلت دی انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اہل جنس پر
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

خَيْرِ مَنْ وَّطِئَ التُّرَابَ بِنَعْلِهٖ وَاسْتَمَدَّ الْفَضْلُ مِنْ جُوْدِهٖ
جو محبوب کہ بہتر ہیں ان تمام لوگوں سے جنہوں نے پامال کیا مٹی کو اپنے جوتوں سے اور مدد و افزونی حاصل کی فضل
وَفَضْلِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
کمال نے ان کے جود و نوال سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا
سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ اَعْظَمِ النَّاسِ فِى الْبَرِيَّةِ حَقًّا وَّخَيْرِ الْبَرِيَّةِ
محمد کی آل پر جو محبوب کہ ساری مخلوق میں سب سے عظیم تر ہیں از روئے حقوق کے۔ اور ساری مخلوق سے بہتر ہیں
طُرًّا سُؤْدَدًا وَّتُقًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
از روئے سیادت اور تقویٰ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر
وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ اَسْنَى الْمَذَاهِبِ مَذْهَبًا وَّاَعْلَى الْمَنَاصِبِ
اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ سب سے قوی اور مستحکم ہیں از روئے مذہب کے۔ اور سب سے برتر ہیں از روئے
مَنْصَبًا وَّاَفْضَلِ الْخَلْقِ كَهْلًا وَّطِفْلًا وَّمُحْتَلِمًا وَّمَا اشْتَمَلَتْ قَطُّ
منصب کے۔ اور ساری مخلوق سے افضل ہیں کہولت بچپن میں اور بلوغت میں۔ اور نہیں مشتمل ہوا کبھی
عَلٰى مِثْلِهٖ رَحِمٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
ان جیسی بلند مرتبت ذات پر کوئی بطن و رحم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ
اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ هَدَى اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْخِلَافِ وَبَيَّنَ اللّٰهُ
کی آل پر کہ جس ہادیٔ برحق کے ذریعے ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے اختلافی امور میں۔ اور واضح کیا ان کے ذریعے
بِهٖ سَبِيْلَ الْعِفَافِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ
عفت و پاکیزگی کا راستہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی
سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ زَانَتْ بِهِ الْاِمَامَةُ وَبَشَّرَتْ بِهٖ وَرْقَاءُ
آل پر کہ زینت پائی اس محبوب کی بدولت امامت نے۔ اور بشارت دی آپ کے متعلق ورقاء
الْيَمَامَةُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا
یمامہ نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الْمُخْلِصِ لِلّٰهِ بِالشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ وَالْمُسَبِّحِ لِلّٰهِ بِحَمْدِهٖ

جو محبوب کہ اللہ کے لیے اخلاص کا اظہار کرنے والے ہیں ساتھ شہادت واقرار کے ۔ اور اس کی تسبیح کہنے والے ہیں بیح حمد کے

فِي الْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى

ہر شام اور صبح ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور آپ

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَاعِي الْخَلْقِ اِلٰٓى اِرَادَتِهٖ بِنُبُوَّتِهٖ وَقَائِدِ الْخَلْقِ

کی آل پر جو محبوب کہ دعوت دینے والے ہیں مخلوق کو طرف اپنے مقاصد کے ساتھ نبوت کے اور قائد ہیں

اِلٰى شَرِيْعَتِهٖ بِرِسَالَتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مخلوق کے طرف اپنی شریعت کے ساتھ رسالت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیّدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْٓ اَظْهَرَ اللّٰهُ شَرِيْعَتَهٗ فِي الْعٰلَمِيْنَ

اور سیّدنا محمد کی آل پر کہ غالب کیا اللہ تعالیٰ نے اس آقا کی شریعت کو تمام جہانوں میں

عَلٰى جَمِيْعِ شَرَآئِعِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ؕ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سب انبیاء و مرسلین کی شریعتوں پر ۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلِفِ الْاِبْتِدَاءِ

سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ ابتداع (ایجاد) کی الف یعنی مبداء ہیں

وَبَآءِ بِدَايَةِ الْاِخْتِرَاعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور باء ہیں بدایت یعنی آغاز تخلیق کی ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیّدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَآءِ تَمَامِ الْفَوَآئِدِ وَثَآءِ ثُبُوْتِ

اور سیّدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ تاء ہیں تمام فوائد اور ان کے کمال کی اور ثاء ہیں ثبوت

الْعَقَآئِدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

عقائد کی ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جِيْمِ جَمَالِ الْاَكْوَانِ وَحَآءِ حَيَاتِ الْاَعْيَانِ

آل پر جو محبوب کہ جیم ہیں جمال کائنات کی اور حاء ہیں حیات اعیان کی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیّدنا محمد پر اور سیّدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ خَآءِ خُلُوْصِ الْاِخْلَاصِ وَدَالِ دُعَآءِ الْخَوَآصِّ

آل پر جو محبوب کہ خاء ہیں خلوص اخلاص کی ۔ اور دال ہیں دعاء خواص کی ۔

وَذَالِ ذُؤَابَةِ الْفَخْرِ وَالْعُلَآءِ وَرَآءِ رَحْمَةِ الْمَلِكِ الْمَوْلٰى

اور ذال ہیں فخر اور علو کے ذوابہ (چوٹی) کی ۔ اور راء ہیں ملک ومولیٰ جل وعلیٰ کی رحمت کی۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور سیّدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ زَآءِ زِيْنَةِ الْمَقَامَاتِ وَطَآءِ طَهَارَةِ الْقُلُوْبِ وَالذَّوَاتِ

آل پر جو محبوب کہ زاء ہیں مقامات و مراتب کی زینت کی اور طاء ہیں قلوب وذوات کی طہارت کی ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ ظَآءِ ظُهُوْرِ الْاَوَاخِرِ وَالْاَوَآئِلِ وَظِلَالِ الْاٰمَالِ وَ

آل پر جو محبوب کہ ظاء ہیں اوائل و اواخر کے ظہور کی اور آمال و آرزوؤں کے ظلال (سایوں) کی اور

كَافِ كَمَالِ الْاِكْمَالِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کاف ہیں کمال اکمال کی ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیّدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَامِ لُبَابِ النَّعْمَآءِ وَمِيْمِ مَعَانِي الْاَسْمَآءِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ لام ہیں نعمتوں کے لباب (خلاصہ) کا ۔ اور میم ہیں اسماء کے معانی کا ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ

نُوْنِ نِهَايَةِ الْمَطَالِبِ وَصَادِ صَفَآءِ الْمَشَارِبِ وَوَاوِ وُرُوْدِ اَهْلِ

نون ہیں مطالب کی نہایت کا ۔ اور صاد ہیں مشارب اور گھاٹوں کی صفاء کا اور واؤ ہیں اس

الْمَشَارِبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

مشارب کے ورود کی۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ ضَادِ ضِيَآءِ الْمَحَافِلِ وَعَيْنِ عَنَاصِرِ الْفَضَآئِلِ اَللّٰهُمَّ

آل پر جو محبوب کہ ضاد ہیں محافل کی ضیاء کا اور عین ہیں فضائل کے عناصر (ارکان) کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غَيْنِ غِذَآءِ

صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ غین ہیں ارواح

الْمُهَجِ وَفَآءِ فَضِيْلَةِ الْفَرَجِ وَقَافِ قُرْبَانِ الْقُرُبَاتِ وَسِيْنِ سِرِّ

ونفوس کی غذاء کا۔ اور فاء ہیں کشائش و فراخی کی فضیلت کی۔ اور قاف ہیں قربات و عبادات کے قربان و قرب کا اور سین

الْاَسْرَارِ وَالْعِنَايَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں اسرار و عنایات کے ستر (اور راز) کا۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شِيْنِ شَرَفِ الْاَبْرَارِ وَهَآءِ هِدَايَةِ الْاَخْيَارِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ شین ہیں ابرار کے شرف کا۔ اور ہاء ہیں اعلیٰ کردار والوں کی ہدایت کی

وَصَادِ صَفَآءِ قُلُوْبِ الْاَخْيَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور صاد ہیں اعلیٰ سیرت والوں کے قلوب کی صفاء کے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاوِ وِلَايَةِ النُّهٰى وَلَامِ اَلِفِ الْاِبْتِدَآءِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ واو ہیں عقول و اذہان کی ولایت کے اور لام ہیں ابتداء

وَالْاِنْتِهَآءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

وانتہاء کی الف کے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ يَآءِ يَنَابِيْعِ الْاِمْتِنَانِ الْمُوْصِلَةِ اِلَى الرِّضَآءِ وَالرِّضْوَانِ

جو محبوب کہ یاء ہیں امتنان و احسان کے ینابیع (سرچشموں) کی جو پہنچانے والے ہیں طرف رضاء و رضوان کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَلٰوةً تُبَلِّغُ حَرْفَ الْيَآءِ وَحَقِيْقَةَ النِّدَآءِ اِلٰٓى اَهْلِ الْاِصْطِفَآءِ

ایسی صلواۃ جو پہنچائے حرف یا اور حقیقت نداء کو اہل اصطفاء

وَالْاِجْتِبَآءِ وَتُوْصِلُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارَ وَبِحُرْمَةِ اَسْمَآءِ اَصْحَابِ

واہل اجتباء تک اور واصل کرے مہاجرین و انصار کو اور بطفیل حرمت و عزت اصحاب بدر

الْبَدْرِيَّةِ وَالْاُحُدِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَقْبُوْلِيْنَ الْمَرْضِيِّيْنَ رِضْوَانُ

اور اصحاب احد کے اسماء کے اور دیگر مقبولان و پسندیدگان بارگاہ خداوند تعالیٰ کے اسماء کے رضوان اللہ

اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ ۞ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَرَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ

تعالیٰ علیہم اجمعین۔ پہنچائے بارگاہ الوہیت اور بارگاہِ رسالت تک۔ صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

علیہ و سلم۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ دَعَا الْخَلِيْقَةَ عِنْدَ خَلْقِ الْاَرْوَاحِ كَمَا دَعَاهُمْ عِنْدَ

آل پر جس محبوب نے دعوتِ توحید و رسالت دی مخلوق کو (اپنے نورانی وجود کے ساتھ) ارواح کی تخلیق کے وقت جیسے کہ دعوت

خَلْقِ الْاَشْبَاحِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

دی انھیں وقت پیدا کئے جانے اجسام کے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ بُعِثَ وَالْخَلْقُ فِيْ ظُلْمَةٍ وَّعَمًى وَّلَمْ يَزَلْ

آل پر کہ جو محبوب اس وقت مبعوث ہوئے جبکہ مخلوق ابھی ظلمت اور پردۂ عدم میں تھی۔ اور آپ ہمیشہ

يُخْرِجُ الْخَلْقَ بِنُوْرِهٖ مِنَ الظُّلُمٰتِ طَوْعًا وَّكَرْهًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نکالتے رہے اپنے نور کی بدولت انہیں ظلمتوں سے (طرف نور ایمان کے) طوعاً و کرہاً۔ اے اللہ صلواۃ و سلام

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِيْ فَتَحَ اللّٰهُ بِهٖ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس مرشد کریم کی بدولت کھول دئے اللہ تعالیٰ نے

اَبْوَابَ الْهِدَايَةِ وَسَدَّ اللّٰهُ اَبْوَابَ الضَّلَالَةِ وَالْغَوَايَةِ اَللّٰهُمَّ

دروازے ہدایت کے اور بند فرما دئے دروازے ضلالت و غوایت کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الدَّاعِىْ
صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ دعوت دینے والے ہیں
اِلَى الْاِيْمَانِ فِى السِّرِّ وَالْاِعْلَانِ وَبَوَّاَهُ اللّٰهُ اَعْلٰى دَرَجَاتِ
طرف ایمان کے پنہانی اور علانیہ طریقہ پر۔ اور جگہ دی انھیں اللہ تعالیٰ نے جنات کے اعلیٰ درجات
الْجِنَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر
مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ يُبْدَاُ بِهِ الذِّكْرُ الْجَمِيْلُ وَيُخْتَمُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
کہ جس محبوب کی بدولت آغاز ہوا ذکر جمیل کا (عالم ارواح میں) اور انھیں (کے ذکر) پر اسکی انتہا ہوئی (عالم اشباح میں)
وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی
اٰيَاتُهٗ اَضْوَءُ الْاٰيَاتِ وَاَجْلٰى وَاَعْلَى اللّٰهُ قَدْرَهٗ عَلٰى كُلِّ مَنِ
آیات سب آیات و معجزات سے روشن تر اور واضح تر ہیں اور بلند فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر کو ہر
اعْتَلٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
بلند و بالا مرتبت پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل
مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ تَقَلَّدَ بِسَيْفِ الرِّسَالَةِ وَمَحَا اللّٰهُ بِهُدَايَتِهٖ كُلَّ
پر کہ جس آقا نے گلے میں لٹکائی رسالت کی تلوار اور مٹایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کی بدولت
شُبْهَةٍ وَّضَلَالَةٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
ہر شبہ اور گمراہی کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی
اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ نَعَتَهُ اللّٰهُ فِىْ كُلِّ كِتَابٍ اَنْزَلَ وَفَضَّلَ
آل پر جس محبوب کی نعت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہر اس کتاب میں جس کو اس نے نازل فرمایا
اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ رَسُوْلٍ اَرْسَلَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
اور فضیلت دی انہیں ہر اس رسول پر جسے ارسال فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ هَدَى اللّٰهُ بِهٖ مَنِ
محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہر ہدایت
اهْتَدٰى وَبَاطِنُهٗ نُوْرٌ وَّظَاهِرُهٗ هُدًى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
پانے والے کو اور اس محبوب کا باطن سراسر نور ہے اور ظاہر سراسر ہدایت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج
عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ مَبْعُوْثٍ
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو بذات خود افضل ہیں اور مبعوث ہوئے ہیں
بِاَفْضَلِ مِلَّةٍ وَّتَحَلَّى الْاَنَامُ بِهٖ اَحْسَنَ حُلَّةٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
ساتھ افضل ترین ملت کے اور مخلوق نے زیب تن کیا ان کے طفیل خوبترین حلہ وخلعت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ
وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَمَامِ نِظَامِ
و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ متمم ہیں سلسلۂ
النَّبِيِّيْنَ وَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرَآئِيْلُ الْاَمِيْنُ بِالرِّسَالَةِ مِنْ رَّبِّ
انبیاء علیہم السلام کے اور نازل ہوئے ان پر جبرئیل امین ساتھ احکام رسالت کے
الْعٰلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
رب العالمین کی طرف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی
مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ لَا جُوْدَ اِلَّا مِنْ بَنَانِ يَمِيْنِهٖ وَتَلَاْلَاَ الْبَرْقُ فَوْقَ
آل پر کہ نہیں ہے جو دو عطا مگر اس محبوب کے دست راست کی انگلیوں سے اور چمکا نور مانند برق کے ان کی
جَبِيْنِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
پیشانی مبارک پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی
سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ رَقِىَ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بِجِسْمِهٖ وَفَضَّلَهُ
آل پر کہ جو محبوب چڑھے آسمانوں کے ساتوں طبقات پر جسم اقدس کے ساتھ اور فضیلت بخشی ہے انہیں
اللّٰهُ فِىْ غَيْبِ سَابِقِ عِلْمِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سابق اور علم غیب ازلی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ سَادَ مَنْ يَّاْتِىْ وَمَنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ سردار ہیں آنے والوں کے اور گزرے

مَضٰى وَجَعَلَهُ اللّٰهُ لِلرِّسَالَةِ مُرْتَضٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہوؤں کے اور اللہ تعالیٰ نے انھیں رسالت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ كَمَّلَ اللّٰهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامل فرمایا ہے

لَهُ الْمَجْدَ وَالْعُلٰى وَتَلَقَّتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّسُلُ فِى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى

بزرگی و برتری کو۔ اور استقبال کیا ان کا ملائکہ اور رسل کرام نے ملاء اعلےٰ میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

نِ الَّذِىْ شَيَّدَ اللّٰهُ ارْتِقَآءَهٗ وَكَسَاهُ اللّٰهُ نُوْرَهٗ وَبَهَآئَهٗ اَللّٰهُمَّ

پختہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ارتقاء و بلندی کو اور خلعت پہنائی انھیں اپنے نور اور حسن کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ

صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت

سَلِمَ بِهِ الدِّيْنُ مِنْ كُلِّ اٰفَةٍ وَّلَا تَعْتَرِىْ حَدَّ سُيُوْفِهٖ مَنْ لَّهٗ

دین محفوظ ہو گیا ہر آفت سے اور نہیں پیش آتی ان کی تلواروں کی دھار کو ذلت

وَّلَا مَخَافَةٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

اور نہ ہی خوف۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ رَافَقَهٗ جِبْرَآئِيْلُ وَمِيْكَآئِيْلُ وَلَبِسَ

آل پر کہ جس محبوب کے ساتھ رفاقت کا شرف حاصل کیا جبرئیل و میکائیل نے اور پہنا انہوں نے

تَاجَ الْمَهَابَةِ وَالتَّبْجِيْلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رعب و دبدبہ اور تعظیم و تکریم کا تاج۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَطْلَعَ شَمْسَ نَهَارِ الدِّيْنِ وَ

اور آپ کی آل پر جس محبوب نے دین کے روز روشن کا آفتاب بلند اور

اَشْرَقَهٗ وَاَخْفٰى لَيْلَ ظَلَامِ الْكُفْرِ وَاَمْحَقَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

روشن کیا۔ اور کفر کی شب تاریک کو روپوش اور نیست و نابود کیا۔ اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الْمَخْصُوْصِ بِالْفَضْلِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو مختص ٹھرایا گیا ہے ساتھ فضل و کمال کے

فِى الْاَزَلِ وَسَدَّدَهُ اللّٰهُ فِى الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ؕ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ازل میں اور راسخ و مستحکم فرمایا گیا انھیں قول و عمل میں۔ اے اللہ صلواۃ وسلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ هَدَى اللّٰهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کی بدولت ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے

بِهِ الْخَلْقَ اِنْسَهٗ وَجِنَّهٗ وَاَظْهَرَ شَرْعَ اللّٰهِ فِيْنَا وَسَنَّهٗ

سب مخلوق جن و انس کو اور ظاہر کیا ہمارے اندر شرع خداوندی کو اور اسے جاری فرمایا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ اَكْرَمَ اللّٰهُ مَثْوَاهُ وَاَظْهَرَ سِرَّهٗ وَشَرَحَ

جس محبوب کے ٹھکانے کو اللہ نے عزت والا بنایا اور ان کے راز ہستی کو ظاہر فرمایا۔ اور کشادہ فرمایا

اللّٰهُ لِلْحَقِّ صَدْرَهٗ وَشَرَّفَ اللّٰهُ قَدْرَهٗ وَشَرَافَتَهٗ

حق کے لیے ان کے سینہ کو۔ اور بزرگی دی ان کی قدر و منزلت اور شرافت و

وَفَخْرَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى

فخر کو۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الْمَخْصُوْصِ بِالشَّفَاعَةِ الْكُبْرٰى فِى الْوَرٰى

کی آل پر جنہیں مخصوص کیا گیا ہے شفاعت کبریٰ کے ساتھ مخلوق کے لیے

وَاَعْجَزَتْ مُعْجِزَاتُهُ الْاَنَامَ طُرًّا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور عاجز کر دیا ہے ان کے معجزات نے ساری مخلوق کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیّدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ شَرَحَ اللّٰهُ بِهِ الْهُدٰى

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو واضح کیا

وَاَقَامَهٗ وَسَارَتْ بِهٖ رِيَاحُ النَّصْرِ شَهْرًا خَلْفَهٗ وَ شَهْرًا

اور اسے قائم فرمایا اور چلیں ان کی بدولت نصرت کی تند ہوائیں ایک مہینہ کی راہ تک ان کے پیچھے اور ایک مہینہ کی راہ تک

اَمَامَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ

ان کے آگے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ خَضَعَتْ لَهٗ فُنُوْنُ الْاَمْلَاكِ وَ اَطْفَاَ

آل پر کہ جس محبوب کے لیے نیازمندی ظاہر کی تمام اقسام کے ملائکہ نے اور بجھا دیا

نُوْرُ نُبُوَّتِهٖ ظَلَامَ الْاِشْرَاكِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

ان کے نور نبوت نے شرک کی ظلمتوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیّدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَنْجَحَ اللّٰهُ قَصْدَهٗ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے قصد و ارادہ کو اللہ نے کامیاب فرمایا

وَنَصَرَ اللّٰهُ حِزْبَهٗ وَاَنْجَزَ وَعْدَهٗ وَكَمَّلَ اللّٰهُ لَهٗ وَصْفَهٗ

اور آپ کی جماعت کی امداد فرمائی اور اپنا وعدہ پورا کیا اور کامل کیا آپ کے لیے آپ کے ہر وصف کو

وَصَلّٰى اِمَامًا وَّالنَّبِيُّوْنَ خَلْفَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور آپ نے نماز ادا فرمائی بطور امام ہونے کے جبکہ سبھی انبیاء آپ کے پیچھے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَتِ الْبُشْرٰى

سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ مسرت و خوشی

تَلُوْحُ فِىْ وَجْهِهٖ وَلَا يَاْتِى الزَّمَانُ بِشِبْهِهٖ وَلَا يَقُوْمُ بِكُنْهِهٖ

چمکتی تھی ان کے چہرۂ اقدس میں اور نہیں لاسکے گا زمانہ آپ کے مشابہ شخص کو جیسے نہ لا سکا اور نہ ہی موجود کر سکے گا ان کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

مجانس کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اتَّضَحَتْ بِهٖ لِلْعٰلَمِيْنَ الْمَعَالِمُ وَاَحَلَّ اللّٰهُ

کہ جس محبوب کی بدولت واضح ہوئے سب اہل جہاں کے لیے معالم دین۔ اور حلال ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر

لَهٗ مَا كَانَ حَرَامًا مِّنَ النَّفْلِ وَ الْغَنَآئِمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اموال نے اور غنیمت کو جو کہ پہلے حرام تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْاَنْبِيَآءِ

سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ انبیاء علیہم السلام کے امام و

وَخَطِيْبِهَا وَدَوَآءِ الْاَدْوَآءِ وَطَبِيْبِهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

خطیب ہیں اور سب بیماریوں کی دوا اور طبیب ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ حَيَّاهُ اللّٰهُ

سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا کو تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے

بِاَشْرَفِ الْمَكَارِمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بزرگ و برتر خوبیوں کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیّدنا محمد پر

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ نَشَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحِكْمَةَ فَجَمَعَهَا

اور آپ کی آل پر جس محبوب پر اللہ تعالیٰ نے حکمت کو پھیلایا پس انہوں نے اس کو اپنے دامن قلب میں اسمیٹ لیا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

نِ الَّذِىْ جَعَلَهُ اللّٰهُ اَفْضَلَ قُدْوَةٍ وَّعُرْوَتَهٗ فِى الدِّيْنِ اَوْثَقَ

جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا افضل ترین مقتداء اور ان کے دین کی گرہ کو اور اسباب تمسک کو مضبوط ترین

عُرْوَةٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

گرہ اور ذریعہ تمسک بنایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدِ الَّذِیْ دَعْوَتُهٗ فِی الْمَحْشَرِ اَنْفَعُ دَعْوَةٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
کہ جس محبوب کی دُعا محشر میں سب سے زیادہ نافع ہو گی۔ اے اللہ صلوٰۃ
وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ تَحَنَّثَ
و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے عبادت کی غار میں
فِی الْغَارِ قَبْلَ اَنْ یُّوْحٰۤی اِلَیْهِ وَجَعَلَ اللّٰهُ کُلَّ خَیْرٍ فِی الصَّلٰوةِ
قبل اس کے کہ ان پر وحی نازل کی جائے اور بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر خیر ان پر درود بھیجنے
عَلَیْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤی اٰلِ سَیِّدِنَا
میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس
مُحَمَّدِ الَّذِیْ بِعْثَتُهٗ اَمَانٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْوَجَلِ اَللّٰهُمَّ
محبوب کی بعثت امان ہے خوف و خطر سے۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ
صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے
جَدَّ فِیْ مَحْوِ الضَّلَالَةِ وَمَحْقِهٖ وَتَمَّمَ اللّٰهُ بِهٖ تَمَامَ خُلُقِهٖ اَللّٰهُمَّ
کوشش فرمائی گمراہی کے مٹانے اور بے نام و نشان کرنے میں اور تکمیل فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنے تمام پسندیدہ اخلاق کی۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ
صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے
فَازَ مَنْ اَلْقٰی اِلَیْهِ زِمَامَهٗ وَشَرَحَ اللّٰهُ بِهِ الْهُدٰی وَاَقَامَهٗ اَللّٰهُمَّ
حوالے کیا جس نے اپنی باگ ڈور کو تو وہ کامیاب ہو گیا اور واضح کیا اللہ نے ان کے طفیل ہدایت کو اور مستحکم فرمایا۔ اے
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ
اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو
دَعَاهُ اللّٰهُ لِمُنَاجَاتِهٖ وَفَضَّلَهُ اللّٰهُ عَلٰی جَمِیْعِ مَخْلُوْقَاتِهٖ مِنْ
اللہ تعالیٰ نے بلایا اپنی ہمکلامی کے لیے اور انھیں فضیلت دی اپنی تمام مخلوق پر

اَهْلِ اَرْضِهٖ وَسَمٰوٰتِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
خواہ اہلِ ارض سے ہے یا اہل سموات سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر
وَّعَلٰۤی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْۤ اَعْلَی اللّٰهُ عَلَی الْاَدْیَانِ دِیْنَهٗ
اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کا دین اللہ نے سب ادیان پر بلند فرمایا
وَیُحْشَرُ تَحْتَ لِوَآئِهٖ اٰدَمُ فَمَنْ دُوْنَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
اور جمع کئے جائیں گے ان کے پرچم کے نیچے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج
عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ فَضَّلَ اللّٰهُ
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی صنف کو فضیلت دی اللہ تعالیٰ
مِنْ صِنْفِ النَّبِیِّیْنَ صِنْفَهٗ وَحَسَّنَ اللّٰهُ مِنَ الْاَوَّلِیْنَ مَرْاٰهُ
نے انبیاء علیہم السلام کے اصناف اور فروع پر اور حسین بنایا تمام اولین سے ان کے منظر کو
وَلَیَّنَ عِطْفَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی
اور نرم بنایا ان کے پہلو کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور
اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِی اسْتَخْرَجَهُ اللّٰهُ مِنْ سُلَالَةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ عبد المطلب
ابْنِ هَاشِمٍ وَّحَمَا اللّٰهُ بِهٖۤ اَهْلَ الدُّنْیَا وَالدِّیْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
بن ہاشم کی نسل سے اور محفوظ فرمایا ان کے طفیل دُنیا والوں کو اور دینداروں کو۔ اے اللہ رحمت
وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِیْ سَمَحَ
و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے
غَمَامَ الْجُوْدِ مِنْ یَّمِیْنِهٖ وَجَعَلَهُ اللّٰهُ مُقْتَدًی بِهٖ وَبِدِیْنِهٖ
جود و نوال کے ابر کو جاری فرمایا اپنے داہنے ہاتھ سے۔ اور اللہ نے ان کو مقتدیٰ بنایا اور ان کے دین کو لائق اقتداء۔
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤی اٰلِ سَیِّدِنَا
اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ صَدَّقَهٗ اَهْلُ الصِّدْقِ وَالْفَضَآئِلِ وَقَامَتْ
جس رسول برحق کی تصدیق کی اہل صدق اور باب فضائل نے اور قائم ہوئے
بِصِدْقِهِ الْاٰيَاتُ وَالدَّلَآئِلُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
ان کے صدق و حقانیت کے ساتھ آیات اور دلائل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ تُقْضٰى بِعَظِيْمِ شَانِهٖ
محمد پر اور آپ کی آل پر کہ فیصلے صادر کئے جاتے ہیں اس محبوب کی عظمت شان کیساتھ
وَتُلَقَّى الْقُرْاٰنُ مِنْ فَصِيْحِ لِسَانِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
اور حاصل کیا جاتا ہے قرآن ان کی فصیح و بلیغ زبان سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اَعْظَمَ
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم تر
وَسَآئِلَ وَشَفَّعَهُ اللّٰهُ فِیْ كُلِّ خَآئِفٍ وَّنَاعِلٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
وسیلہ۔ اور شفیع بنایا انھیں ہر خوفزدہ اور خشیت والے میں۔ اے اللہ صلوٰۃ
وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ ذَلَّ
و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ تابعدار بنایا
كُلَّ الْعِدٰى بِحُسَامِهٖ وَاَعْطَاهُ اللّٰهُ مِنْ خَيْرِ الدَّارَيْنِ فَوْقَ مَطْلَبِهٖ
جس آقا نے تمام دشمنوں کو اپنی تلوار سے۔ اور عطا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دارین کی خیر سے ان کے مقصد و مرام
وَمَرَامِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا
سے زیادہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل
مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ بِدَايَتُهٗ لِلْمُرْسَلِيْنَ نِهَايَةٌ وَّلَهٗ مِنَ اللّٰهِ
پر کہ جس آقائے خلق کی ابتدا مرسلین کے مقامات کی انتہاء ہے۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
كِفَايَةٌ وَّحَوْطَةٌ وَّحِمَايَةٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
کفایت و حفاظت اور حمایت حاصل ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ كَسَاهُ اللّٰهُ نُوْرَهٗ وَبَهَآئَهٗ
محمد پر اور آپ کی آل پر کہ پہنایا اللہ تعالیٰ نے انہیں نور اور حسن
وَطَهَّرَ اللّٰهُ مَكَانَهٗ وَمَثْوَاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا
اور پاک کیا ان کے مکان اور ٹھکانے کو۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا
مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ نُهِیَ عَنْ زَخَارِفِ
محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو روک دیا گیا دُنیا کی آرائشوں (کی طرف نظر کرنے)
الدُّنْيَا وَاَقَرَّ لَهٗ بِالْفَضْلِ مَنْ كَانَ قَبْلَهٗ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ
سے اور اقرار کیا ان کے فضل و کمال کا پہلے مرسلین اور
الْاَنْبِيَآءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ
انبیاء علیہم السلام نے۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی
سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ خُصَّ بِالْحَوْضِ وَاللِّوَآءِ وَاَرْسَلَهُ اللّٰهُ
آل پر کہ جو محبوب مخصوص ٹھرائے گئے حوض کوثر اور لواء حمد کے ساتھ اور مبعوث فرمایا انہیں اللہ
اِلٰى كَآفَّةِ الْخَلْقِ بِالسَّوَآءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
نے تمام مخلوق کی طرف ساتھ راہ اعتدال کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر
وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ طَبَعَهُ اللّٰهُ عَلٰى مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ
اور آپ کی آل پر کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کو مکارم اخلاق پر
وَاَعْطَاهُ اللّٰهُ سُؤْلَهٗ يَوْمَ التَّلَاقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
اور عطا کرے گا انھیں ان کا مطلوب قیامت کے دن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَغَاثَ اللّٰهُ
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اللہ تعالیٰ نے فریاد رسی فرمائی
بِهِ الْوَرٰى وَرَحِمَ اللّٰهُ بِهِ الْعِبَادَ طُرًّا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
ان کی بدولت سب مخلوق کی اور ان کے طفیل رحم فرمایا سب بندوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ اَحْیَ اللّٰہُ بِہٖ
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا ان کی بدولت

رُسُوْمَ الدِّیْنِ وَاَذَلَّ اللّٰہُ بِہٖ رِقَابَ الْکَفَرَۃِ الْجَاحِدِیْنَ
دین کے آثار کو اور ذلیل کیا ان کے ذریعے کفار و منکرین کو

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

نِ الَّذِیْ ھُوَ بِکُلِّ خَیْرٍ یُّوْصَفُ وَھُوَ بِالصِّدْقِ قَبْلَ النُّبُوَّۃِ
جو محبوب کہ ہر خیر و خوبی کے ساتھ موصوف ہیں۔ اور اعلان نبوت سے قبل صدق کے ساتھ

یُعْرَفُ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ
معروف تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِی احْتُرِمَتْ بِہِ النُّفُوْسُ وَرَفَعَ اللّٰہُ بِہِ
آل پر کہ احترام کیا گیا ان کے صدقے میں نفوس کا اور اُٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کے طفیل

الضَّرَّآءَ وَالْبُؤْسَ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
نقصانات اور شدائد کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْٓ اَرْسَلَہُ اللّٰہُ لِلْاِسْلَامِ دَاعِیًا
اور آپ کی آل پر کہ اللہ تعالیٰ نے ارسال فرمایا اس محبوب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے

وَّبَعَثَہُ اللّٰہُ لِلْکُفْرِ مَاحِیًا وَّعَنِ الْبُھْتَانِ نَاھِیًا اَللّٰھُمَّ
اور مبعوث فرمایا انھیں کفر کو مٹانے کے لیے۔ اور بہتان تراشی سے منع کرنے کے لیے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ
صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

نِ الَّذِیْ جَعَلَ اللّٰہُ زِمَامَ الْمَعَالِیْ فِیْ یَدَیْہِ وَحَرَمًا اٰمِنًا لِّمَنْ
کہ اللہ تعالیٰ نے دے دی برتریوں کی لگام اس محبوب کے ہاتھوں میں۔ اور بنایا انھیں امن والا حرم واسطے

یَّلْجَاُ اِلَیْہِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ
پناہ طلب کرنے والے کے طرف ان کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِیْ کَانَ لَمْ یَزَلْ مَکِیْنًا اَمِیْنًا اَللّٰھُمَّ صَلِّ
آل پر جو محبوب کہ ہمیشہ سے برتری اور امانت کے مالک رہے۔ اے اللہ رحمت

وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الطَّاھِرِیْنَ
اور سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ فرزندارجمند ہیں پاکباز مردوں

وَالطَّاھِرَاتِ وَالْمُحْصِنِیْنَ وَالْمُحْصِنَاتِ اَللّٰھُمَّ یَا مَنْ یَّعْلَمُ
اور عورتوں کے اور نکاح والے مردوں اور عورتوں کے۔ اے اللہ، اے کہ جانتا ہے

مُرَادَ الْمُرِیْدِیْنَ وَیَا مَنْ یَّعْلَمُ ضَمِیْرَ الصَّامِتِیْنَ یَا مَنْ
مراد مراد والوں کی، اے کہ جانتا ہے خاموش لوگوں کے قلبی معاملات کو۔ اے کہ

یَّسْمَعُ اَنِیْنَ الْوَاھِنِیْنَ یَا مَنْ یَّرٰی بُکَآءَ الْخَآئِفِیْنَ یَا مَنْ
سنتا ہے کمزوروں کی آہوں کو۔ اے کہ دیکھتا ہے رونا خوفزدگان کا۔ اے کہ

یَّمْلِکُ حَوَآئِجَ السَّآئِلِیْنَ یَا مَنْ یَّقْبَلُ عُذْرَ التَّآئِبِیْنَ یَا مَنْ
مالک ہے سائلوں کی حاجات کا۔ اے کہ قبول فرماتا ہے معذرت توبہ کرنے والوں کی۔ اے کہ

لَّا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ اَللّٰھُمَّ یَا صَانِعَ کُلِّ مَصْنُوْعٍ وَّیَا
نہیں ضائع کرتا اجر نکوکاروں کا۔ اے اللہ، اے بنانے والے ہر شئ کے۔ اور اے

جَابِرَ کُلِّ کَسِیْرٍ وَّیَا حَاضِرَ کُلِّ خَآئِفٍ وَّیَا مُوْنِسَ کُلِّ فَقِیْرٍ
درست کرنے والے ہر ٹوٹی شئ کے۔ اے موجود ہونے والے پاس ہر خوفزدہ کے اے انس دینے والے ہر

وَّیَا خَالِقَ کُلِّ مَخْلُوْقٍ وَّیَا فَاتِحَ کُلِّ مَفْتُوْحٍ وَّیَا حَافِظَ کُلِّ
فقیر کے۔ اے پیدا کرنے والے ہر مخلوق کے۔ اے فتح کرنے والے ہر مفتوح کے۔ اے حفاظت کرنے والے ہر

مَحْفُوْظٍ وَّیَا غَالِبَ کُلِّ مَغْلُوْبٍ وَّیَا مَالِکَ کُلِّ مَمْلُوْکٍ وَّیَا
محفوظ کے۔ اے غالب ہر مغلوب کے اے مالک ہر مملوک۔ اے

شَاهِدَ كُلِّ مَشْهُوْدٍ اِجْعَلْ مِنْ اَمْرِىْ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا وَّاقْذِفْ

شاہد ہر مشہود کے بنا میرے لیے کشائش اور خلاص کی راہ میرے امور میں۔ اور ڈال دے

فِىْ قَلْبِىْٓ اَنْ لَّآ اَرْجُوَ اَحَدًا سِوَاكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ قَلِّبْ

میرے دل میں (اپنی رجا اس حد تک) کہ نہ امید رکھوں تیرے سوا کسی سے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے پھیر دے

قُلُوْبَنَا اَللّٰهُمَّ يَا دَآئِمَ الْاَبَدِ الْمُحْصِىْ الْمُهْدِىْ بِعَدَدِ

ہمارے دلوں کو (اپنی طرف) اے اللہ اے ہمیشہ رہنے والے، اے احاطہ کرنے والے، ہدیہ دینے والے بمطابق گنتی

الْحِصَى الْحُنَفَآءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ

کنکریوں کے حق کی طرف مائل ہونے والوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

ِنِ الَّذِىْ يُنَادٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِكْرَامًا لِّعُلُوِّ شَرَفِ قَدْرِهٖ وَشَرَافَةِ

کہ ندا دی جائے گی قیامت کے دن ان کی قدر و منزلت کی بلندی اور عظمت و شرافت

عَظْمِهٖ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ يُّسَمّٰى بِاسْمِهٖ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا

کے اکرام کے لیے کہ ضرور داخل ہوں گے جنت میں جو موسوم کئے گئے ہیں اس محبوب کے اسم پاک کے ساتھ۔ اے اللہ ہمیں محفوظ

مِنْ جَمِيْعِ الْبَلَآءِ وَالْقَضَآءِ بِمَآ اَهْلَكَ مِنْ شَرِّ الْاَعْدَآءِ وَبِمَا يُهَيِّجُ

فرما تمام بلیات سے اور قضاء سے ساتھ اس شئے کے جو ہلاک کرے یعنی اعداء کے شر سے اور ساتھ اس شئے کے جس کو بھڑکائے

الْحَمْرَآءُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بَيْنَ الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ بِحَقِّ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ

گرما کی شدت یعنی شر ہر اس شئے کا جسے پیدا کیا زمین اور آسمان کے درمیان بحق خاتم سلیمان بن

بْنِ دَاوٗدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَبِحَقِّ تَمْخِيْثَا يَا تَمْخِيْثَا يَا مُوْشَطِيْثَا يَا

داؤد علیہما السلام اور بحق تمخیثا یا تمخیثا یا موشیطیثا یا

كَهِيْجُ يَا كَهْكَهِيْجُ يَا رَبَّاهُ يَا سَيِّدَاهُ يَا مَوْلَاهُ يَا غَايَةَ رَغْبَتَا بِشَرَفِ

کھیج یا کھکھیج، اے رب۔ اے سید، اے مولیٰ اے میرے منتہائے رغبت بطفیل اپنے شرف

رَغْبَتِهٖ وَمَحَبَّتِهٖ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ يَا اَمَانَ الْخَآئِفِيْنَ يَا

رغبت و محبت کے۔ اے فریادیوں کے فریادرس۔ اے خوفزدگان کی امان۔ اے

مُجِيْبَ الدَّعَوَاتِ يَا قَاضِىَ الْحَاجَاتِ اسْتَجِبْ دُعَآئِىْ بِحَقِّ اٰدَمَ

دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے حاجات کے پورا کرنے والے قبول فرما میری دعا کو بطفیل حق آدم

صَفِيِّ اللّٰهِ وَنُوْحٍ نَّبِىِّ اللّٰهِ وَاِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللّٰهِ وَمُوْسٰى كَلِيْمِ اللّٰهِ وَ

صفی اللہ کے اور نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ کے اور

عِيْسٰى رُوْحِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَبِحَقِّ جِبْرَآئِيْلَ وَمِيْكَآئِيْلَ

عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ کے اور بحق جبرائیل و میکائیل

وَاِسْرَافِيْلَ وَعِزْرَآئِيْلَ وَحَمَلَةِ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِىِّ وَالْكَرُوْبِيِّيْنَ

اور اسرافیل و عزرائیل کے اور حاملین عرش و کرسی اور کروبیون

وَالرُّوْحَانِيِّيْنَ وَالْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَبِحَقِّ سَفَرَةِ الْبَرَرَةِ وَالْكِرَامِ

اور روحانیوں کے اور ملائکہ مقربین کے اور بحق ان ملائکہ کرام کے جو کاتبان (صحف و کتب ہیں) اور بزرگ

الْكَاتِبِيْنَ وَبِحَقِّ تَوْرٰىةِ مُوْسٰى وَاِنْجِيْلِ عِيْسٰى وَزَبُوْرِ دَاوٗدَ وَفُرْقَانِ

ملائکہ کے جو کاتبان اعمال ہیں۔ اور بحق تورات موسیٰ و انجیل عیسیٰ و زبور داؤد اور فرقان

مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ شَرَفًا

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ و صحبہ وسلم۔ اے اللہ مجھے عطا فرما شرف

وَّشَرَافَةً بِشَرَفِهٖ وَشَرَافَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور بزرگی بطفیل شرف اور شرافت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَوَّنَهُ اللّٰهُ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ بنایا اس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ہر موجود سے

قَبْلَ كُلِّ وُجُوْدٍ وَّكَانَ اٰدَمُ غَيْرَ مَوْجُوْدٍ وَّلَاذَ بِهٖ اٰدَمُ فَتِيْبَ عَلَيْهِ

پہلے جبکہ حضرت آدم بھی موجود نہیں ہوئے تھے۔ اور پناہ پکڑی ساتھ ان کے آدم علیہ السلام نے پس ان پر توبہ کی گئی

وَبَوَّا اِدْرِيْسَ مَكَانَ صِدْقٍ لَّدَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور جگہ دی ادریس علیہ السلام کو مکان صدق میں پاس اپنے (انھیں کے طفیل) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ نَالَ بِهٖ نُوْحٌ فِی
محمد پر اور آپ کی آل پر کہ پایا انہیں کے طفیل نوح علیہ السلام نے

السَّفِیْنَةِ اَمْنًا وَّخُصَّ بِهٖ صَالِحٌ بِالْمَقَامِ الْاَسْنٰی وَعَزَّ بِهٖ
کشتی میں امن - اور خاص کئے گئے بطفیل ان کے صالح علیہ السلام ساتھ بلند مرتبت کے۔ اور عزت پائی بطفیل ان کے

شُعَیْبٌ وَّهُوْدٌ وَّجَاهَدَ بِهٖ مُوْسَی الْیَهُوْدَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
شعیب اور ہود علیہما السلام نے۔ اور جہاد کیا انھیں کے طفیل موسیٰ علیہ السلام نے یہود سے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ نَجَی بِهٖ اٰدَمُ مِنْ
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ نجات پائی بطفیل ان کے آدم علیہ السلام نے اپنی

ذَنْبِهِ الَّذِیْ كَانَ وَنُوْحٌ مِّنَ الطُّوْفَانِ وَالْكَلِیْمُ بِشَقِّ الْبَحْرِ مِنْ
خطاء اجتہادی کے اثر مترتب سے اور نوح علیہ السلام نے طوفان سے۔ اور حضرت کلیم نے بطفیل ان کے سمندر کے پھٹ جانے کے

فِرْعَوْنَ وَجُنُوْدِهٖ وَرَفَعَ اللّٰهُ بِهٖ عِیْسَی بْنَ مَرْیَمَ فَنَجٰی مِنْ یَّهُوْدِهٖ
بعد فرعون سے اور اس کے لشکروں سے۔ اور اٹھا لیا انھیں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پس نجات پائی انھوں نے یہود سے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ
اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اسی محبوب کے طفیل

بِهٖ صَیَّرَ النَّارَ بَعْدَ الضِّرَامِ عَلَی الْخَلِیْلِ بَرْدًا وَّسَلَامًا وَّاُعْطِیَ بِهٖ
کر دیا اللہ نے آگ کے بھڑکنے کے بعد حضرت خلیل علیہ السلام پر ٹھنڈک اور سلامتی اور عطا کئے گئے انھیں کے

دَاوٗدُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَاُوْتِیَ بِهٖ سُلَیْمَانُ الْمُلْكَ وَحُسْنَ
طفیل داؤد علیہ السلام حکمت اور فصل خطاب اور دیا گیا انھیں کے طفیل سلیمان علیہ السلام کو ملک اور اچھا

الْمَاٰبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا
ٹھکانہ - اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ اُفْدِیَ بِهِ الذَّبِیْحُ وَكَانَ بِهٖ دُعَآءُ الْمَسِیْحِ ط وَ
کہ جس محبوب کے طفیل فدیہ دیے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور تھی انہیں کے صدقے میں دعا مسیح علیہ السلام کی مقبول. اور

كَشَفَ اللّٰهُ بِهِ الضُّرَّ عَنْ اَیُّوْبَ وَبِاسْمِهٖ رُدَّ یُوْسُفُ اِلٰی
دور کیا اللہ تعالیٰ نے بطفیل ان کے ایوب علیہ السلام سے بیماری کو۔ اور انہیں کے نام کے صدقے میں لوٹایا گیا یوسف علیہ السلام کو

یَعْقُوْبَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا
طرف یعقوب علیہ السلام کے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدِ نِ الَّذِیْ نَالَ الصَّبْرَ وَالرِّضٰی زَكَرِیَّا بِعُلَاهُ وَاٰنَسَ ذُوالنُّوْنِ
کہ پایا صبر ورضا کو زکریا علیہ السلام نے ان کی برتری کے صدقے میں۔ اور انس حاصل کیا ذوالنون علیہ السلام نے

مِنْ سَنَاهُ وَنَجَّی اللّٰهُ بِهٖ لُوْطًا وَّلَمْ یَكُنْ نَّبِیٌّ وَّهُوَ بِهٖ مَنُوْطٌ اَللّٰهُمَّ
ان کے نور وضیاء سے اور نجات دی ان کے صدقے لوط علیہ السلام کو اور نہیں موجود ہوا کوئی نبی مگر وہ آپ کے ساتھ متعلق تھا اے اللہ

اعْصِمْنِیْ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِعِصْمَةِ شَرَفِهٖ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ
مجھے بچا شیطان رجیم سے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و شرف کے

وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِیْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ وَلَا یَهْدِیْ لِاَحْسَنِهَآ اِلَّآ
طفیل - اے اللہ مجھے ہدایت دے اچھے اخلاق کی اور نہیں ہدایت دیتا ان کی مگر

اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّیْ سَیِّئَهَا لَا یَصْرِفُ عَنِّیْ سَیِّئَهَآ اِلَّآ اَنْتَ اَللّٰهُمَّ
تو ہی اور دور کر مجھ سے برے اخلاق کو اور نہیں دور کرتا انہیں مگر تو ہی۔ اے اللہ

بَاعِدْ بَیْنِیْ وَبَیْنَ خَطَایَایَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
دوری پیدا فرما درمیان میرے اور میری خطاؤں کے جیسے کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کی

اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَایَایَ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّنِیْ مِنَ الْخَطَایَا
اے اللہ دھو ڈال میرے گناہوں کو ساتھ پانی، برف اور اولوں کے اور پاک کر مجھے گناہوں سے

كَمَا یُنَقَّی الثَّوْبُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ ذَنْبِیْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجِلَّهٗ
جیسے پاک کیا جاتا ہے کپڑا میل سے۔ اے اللہ بخش دے میرے گناہ تمام چھوٹے اور بڑے

وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِیَتَهٗ وَسِرَّهٗ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِیْ تَقْوٰهَا وَزَكِّهَا
اوّل و آخر اور علانیہ و خفیہ۔ اے اللہ عطا کر میرے نفس کو تقویٰ اور اسے پاک فرما

أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلٰهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے اس کا۔ تو ہی اس کا ولی اور مولیٰ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ مِنْ مَّقَامِهِ الْاَنْبِيَاءُ
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اسی محبوب کے مرتبہ ومقام کی بدولت انبیاء نے بلندی پائی
سَمَتْ وَمِنْ بِحَارِ جُوْدِهٖ غَرَفَتْ وَمَا نَالَ اَحَدٌ مِّنْهُمْ مِنْحَةً اِلَّا بِهٖ
اور انھیں کے جود وعطا کے سمندروں سے چلو بھرے۔ اور جس نے جو انعام پایا انھیں کے ذریعے پایا اور انھیں پر
وَاِلَيْهِ انْتَهَتْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
ان انعامات کی انتہاء ہوئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر
مُحَمَّدِنِ صَدْرِ الْاَنْبِيَاءِ وَقُدْوَتِهِمْ وَصَفْوَةِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخِيَرَتِهِمْ
جو محبوب کہ انبیاء علیہم السلام کے صدر اور مقتدا ہیں اور مرسلین سے منتخب اور افضل ہیں
وَسَمْكِ صُعُوْدِهِمْ وَسَبَبِ وُجُوْدِهِمْ وَعَيْنِ كَمَالِهِمْ وَرِيَاضِ
ان کی ترقی کی انتہاء اور معراج ہیں۔ ان کا سبب وجود اور عین کمال ہیں۔ اور ان کے جمال
جَمَالِهِمْ وَمَهَبِّ رِيَاحِهِمْ وَعَنْبَرِ اَرْيَاجِهِمْ وَعِزَّةِ يُمْنِهِمْ وَ
کے باغات اور ان کے لیے اٹھنے والی ہواؤں کا منبع ہیں اور ان کی خوشبوؤں کے لیے عنبر۔ ان کی برکتوں کی عزت
بَهْجَةِ حُسْنِهِمْ وَمَحْضِ هِدَايَتِهِمْ وَعَيْنِ عِنَايَتِهِمْ وَقِبْلَةِ
ان کے حسن کی بہار۔ خالص ہدایت اور مجسم عنایت، قبلہ
صَلَاتِهِمْ وَمَدَدِ صِلَاتِهِمْ وَكَعْبَةِ طَوَافِهِمْ وَدَعْوَةِ اَسْلَافِهِمْ
صلوٰۃ اور ان کی عطیات کی افزائش (برکات) ان کے طواف کا کعبہ۔ ان کے اسلاف کی دعوت
وَمِفْتَاحِ خَزَآئِنِهِمْ وَيَنْبُوْعِ مَعَادِنِهِمْ وَنُوْرِ اَنْوَارِهِمْ وَسِرِّ
ان کے خزائن کی چابی۔ ان کے معادن کا سرچشمہ۔ ان کا نور انوار اور سر الاسرار
اَسْرَارِهِمْ وَتَاجِ رُءُوْسِهِمْ وَغِذَآءِ نُفُوْسِهِمْ وَعَلَمِ اَعْلَامِهِمْ
ان کے سروں کا تاج۔ نفوس کی غذا، ان کے پرچموں کی زینت ہیں

وَمِسْكَةِ خِتَامِهِمْ وَعِقْدِ سِلْكِهِمْ وَشِرَاعِ فُلْكِهِمْ وَفَيْضِ مَنْهَلِهِمْ
ان کی مہر کی کستوری اور ان کی لڑی کا ہار ہیں۔ ان کی کشتی کا بادبان۔ ان کے گھاٹ کا فیضان
وَبَابِ مَدْخَلِهِمْ وَظِلِّهِمُ الْمَدِيْدِ وَحِصْنِهِمُ الْمَشِيْدِ وَفَجْرِهِمُ
ان کے داخل ہونے کا دروازہ۔ اور ان پر دراز سایہ۔ ان کا مضبوط قلعہ۔ ان کی چمکتی فجر
اللَّامِعِ وَطُوْرِهِمُ الْمَانِعِ وَحَجِّهِمُ الْمَبْرُوْرِ وَسَعْيِهِمُ الْمَشْكُوْرِ وَ
اور ان کا محافظ طور۔ ان کا مقبول حج۔ ان کی قابل شکریہ سعی
حَظِّهِمُ الْوَافِيْ وَدَوَآئِهِمُ الشَّافِيْ وَسِرَاجِهِمُ الزَّاهِيْ وَطِرَازِهِمُ
ان کا حظ کامل۔ ان کی دوا شافی۔ ان کا چمکتا چراغ۔ اور ان کا قابل فخر نقش و نگار
الْبَاهِيْ وَغُرَّةِ اٰفَاقِهِمْ وَلُبَابَةِ اَعْرَاقِهِمْ وَهُدٰى صَلَاحِهِمْ وَرُشْدِ
ان کے آفاق کی روشنی۔ ان کی ہڈیوں کا مغز۔ ان کی بہتری کی ہدایت۔ اور کامیابی کی
فَلَاحِهِمْ وَوُصْلَةِ مَوْصُوْلِهِمْ وَسُلَّمِ وُصُوْلِهِمْ وَحُلِيِّ اَجْيَادِهِمْ
رہنمائی۔ ان کی پیوستگی کا ذریعۂ وصل۔ اور ان کے وصول کی سیڑھی۔ اور ان کی گردنوں کے ہار اور زیورات
وَمَدَدِ اَمْدَادِهِمْ وَجَامِعِ شَمْلِهِمْ وَخِتَامِ مَحْفِلِهِمْ وَمَبْلَغِ شُيُوْنِهِمْ
ان کی امدادوں کا ذریعہ ووسیلہ۔ ان کی جمعیت کا سامان۔ ان کی محافل کا انجام اور ان کے اوصاف و کمالات کا منتہاء
وَاِنْسَانِ عُيُوْنِهِمْ وَاُنْسِ اُنْسِهِمْ وَضِيَآءِ شَمْسِهِمْ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِمْ
ان کی آنکھوں کی پتلی۔ ان کے انس کا موجب۔ ان کے آفتاب کی ضیاء۔ اور ان کی بلندیوں کی چوٹی اور غایت
وَاِمَامِ اِمَامِهِمْ وَمِسْكَةِ حَبِيْبِهِمْ وَذَرِيْرَةِ طَبِيْبِهِمْ وَ
اور ان کے اماموں کے امام۔ ان کے حبیب کے کنگن۔ اور ان کے طبیب کی چھڑکنے والی دوائی اور
ضَوْءِ سِرَاجِهِمْ وَسُمُوِّ مِعْرَاجِهِمْ وَصَدْرِ صُدُوْرِهِمْ وَبَدْرِ
ان کے چراغ کی روشنی۔ ان کے معراج کی بلندی اور ان کے صدر الصدور۔ اور ان کے ماہتابوں کے
بُدُوْرِهِمْ وَمَشْرَعِ شَرْعِهِمْ وَمَجْمَعِ جَمْعِهِمْ وَقُطْبِ فَلَكِهِمْ وَ
ماہتاب۔ ان کے شرائع کا گھاٹ۔ اور ان کے اجتماع کا محل و مقام۔ ان کے فلک کا قطب اور

عَيْنِ كَتِيْبَتِهِمْ وَوَاسِطَةِ قِلَادَتِهِمْ وَبَيْتِ قَصِيْدَتِهِمْ وَنُقْطَةِ
ان کے لشکروں کے نگران - اوران کے ہار کا درمیانی قیمتی جوہر - ان کے قصیدہ کا بیت - ان کے دائرہ نبوت
دَآئِرَتِهِمْ وَشَمْسِ عُلَاهُمْ وَهِلَالِ لَيْلَتِهِمْ وَرَاْسِ مَشْرَبِهِمْ
کا مرکز - ان کی بلندی و برتری کا آفتاب اور ان کی رات کا ہلال - ان کے مشرب کا اصل
وَغَايَةِ مَطْلَبِهِمْ وَبَدْرِ هُدَاهُمْ وَنَجْمِ عُلَاهُمْ وَنُوْرِ بَهَاهُمْ
اوران کے مطلب کی غایت - ان کی ہدایت کا بدر منیر اور ان کی برتری کا ستارا اوران کے حسن کا نور
وَضَوْءِ سَنَاهُمْ وَيُمْنِ طَرِيْقَتِهِمْ وَغُصْنِ حَدِيْقَتِهِمْ وَمَرْكَزِ
ان کی روشنی کی ضوء - ان کے طریقہ کی برکت - ان کے باغ کی تازہ شاخ - اور ان کے وجود کا
وُجُوْدِهِمْ وَفَلَكِ صُعُوْدِهِمْ وَمَدَدِ جَمَالِهِمْ وَسُوْدَدِ كَمَالِهِمْ
مرکز - ان کی بلندیوں کا آسمان - ان کے جمال کا موجب افزائش اور ان کے کمال کی سیادت
وَمَنْهَلِ وُرُوْدِهِمْ وَخَالِصِ وُدِّهِمْ وَمَطْلَعِ اَنْوَارِهِمْ وَرَوْضَةِ
ان کا (پیاس بجھانے کیلئے) وارد ہونے اور دھونے کا گھاٹ - ان کی محبت کا خلاصہ ان کے انوار کا افق مشرق ان کے پھولوں کا باغ
اَزْهَارِهِمْ وَعَرْشِ اَكْنَافِهِمْ وَجَوْهَرِ اَصْدَافِهِمْ وَحَبْلِ اعْتِصَامِهِمْ
ان کے اطراف و جوانب کے (محیط) عرش - ان کی سیپیوں کے جوہر - ان کے تمسک کے قابل حبل متین
وَنَتِيْجَةِ اَفْهَامِهِمْ وَرُكْنِهِمُ السَّدِيْدِ وَطَالِعِهِمُ السَّعِيْدِ وَصُبْحِهِمُ
ان کے افہام و عقول کا نتیجہ و ثمرہ - اور ان کا مضبوط سہارا - ان کا سعادت مند ستارا - ان کی واضح صبح سعادت
الْاَبْلَجِ وَحُسْنِهِمُ الْاَبْهَجِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
اوران کا رونق افزا حسن - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر
وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْٓ اُعْطِيَ خُلُقَ اٰدَمَ وَمَعْرِفَةَ شِيْثَ
اور آپ کی آل پر جس محبوب کو عطا کیا گیا ہے آدم علیہ السلام کا خلق - حضرت شیث کی معرفت
وَشُجَاعَةَ نُوْحٍ وَّشِدَّةَ مُوْسٰى وَخُلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ وَلِسَانَ
حضرت نوح کی شجاعت - حضرت موسیٰ کی شدت حضرت ابراہیم کی خلت - حضرت اسماعیل کی

اِسْمٰعِيْلَ وَحُبَّ دَانِيَالَ وَرِضٰى اِسْحَاقَ وَزُهْدَ عِيْسٰى وَ
زبان فصیح - حضرت دانیال کی محبت - حضرت اسحاق کی رضا - حضرت عیسیٰ کا زہد
فَصَاحَةَ صَالِحٍ وَّحِكْمَةَ لُوْطٍ وَّجَمَالَ يُوْسُفَ وَبُشْرٰى يَعْقُوْبَ
حضرت صالح کی فصاحت - حضرت لوط کی حکمت - حضرت یوسف کا جمال - حضرت یعقوب کی بشارت
وَطَاعَةَ يُوْنُسَ وَجِهَادَ يُوْشَعَ وَصَوْتَ دَاوٗدَ وَعِصْمَةَ يَحْيٰى
حضرت یونس کی طاعت - حضرت یوشع کا جہاد - حضرت داؤد کی سریلی آواز - حضرت یحییٰ کی پاکدامنی
وَصَبْرَ اَيُّوْبَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ
اور حضرت ایوب کا صبر علیہم الصلوٰۃ والسلام - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی
سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ كَانَ مَنْظَرُهٗ يَدُلُّ عَلٰى نُبُوَّتِهٖ وَخُلُقُهٗ
آل پر جن کا چہرہ اقدس ان کی نبوت پر دلالت کرتا تھا اور جن کا خلق حسن
يَدُلُّ عَلٰى حُسْنِ سِيْرَتِهٖ وَسَرِيْرَتِهٖ وَظَهَرَتْ اَنْوَارُ النُّبُوَّةِ عَلٰى
ان کے حسن کردار اور حسن باطن پر دلالت کرتا تھا اور ظاہر ہوئے نبوت کے انوار ان کی جبین اقدس پر
جَبِيْنِهٖ قَبْلَ الْبِعْثَةِ وَلَمْ يَتْرُكْ دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا يَّرِثُهٗ وَرَثَتُهٗ
ان کی بعثت سے قبل - اور انہوں نے ترکہ میں نہ چھوڑا درہم و دینار کو جس کے وارث بنتے ان کے قریبی رشتہ دار
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْٓ
اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو
اُوْتِيَ مَقَالِيْدَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلٰى فَرَسٍ اَبْلَقَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عطا کی گئیں آسمانوں اور زمینوں (کے خزانوں) کی چابیاں چتکبرے گھوڑے پر (لاد کر) - اے اللہ رحمت
وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالَّذِيْ هُوَ عِمَادُ
اور سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ ستون ہیں
الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَاَتَمَّ اللّٰهُ بِهِ الْكَلِمَةَ الْعُلْيَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
دین و دنیا کے اور کامل فرمایا ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کلمہ علیا (کلمہ توحید) کو - اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما

عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ ‍نِ الَّذِیْ بُغِّضَتْ اِلَیْہِ
سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ مبغوض ٹھہرائے گئے طرف اس محبوب کے

فِیْ حَالِ صِغَرِہِ الْاَوْثَانُ وَاُعْطِیَ اَلْفَ قَصْرٍ مِّنْ لُّؤْلُؤٍ تُرَابُھَا
بچپن میں ہی اصنام اور عطا کئے گئے آپ کو ہزار محلات موتی سے جن کے صحن کی تراب (کی جگہ)

الْمِسْكُ وَالزَّعْفَرَانُ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ
کستوری اور زعفران بچھا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور

عَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ ‍نِ الَّذِیْ جَعَلَ اللّٰہُ الْاَنْبِیَآءَ فِی الْمَعَادِ
سیّدنا محمد کی آل پر کہ کردیا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو آخرت میں

تَلْجَاُ اِلَیْہِ وَجَعَلَ اللّٰہُ الْمَلٰٓئِکَۃَ تُبَلِّغُہٗ صَلٰوۃَ مَنْ صَلّٰی عَلَیْہِ
پناہ پکڑنے والے طرف ان کے اور متعین کردیا ہے ملائکہ کو جو پہنچاتے ہیں انھیں درود وسلام درود وسلام

وَسَلَّمَ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا
بھیجنے والوں کا۔ اے اللہ صلوٰۃ وسلام نازل فرما سیّدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدِ ‍نِ الَّذِیْ یَتَزَوَّجُ مَرْیَمَ وَاٰسِیَۃَ فِی الْجَنَّۃِ الْعَالِیَۃِ اَللّٰھُمَّ
جو محبوب کہ نکاح فرمائیں گے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے ساتھ جنت عالیہ میں۔ اے اللہ

اِنَّکَ خَلَّاقٌ عَظِیْمٌ اِنَّکَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ اِنَّکَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ اِنَّکَ
تو عظیم خالق ہے، تو ہی سننے جاننے والا ہے۔ تو ہی بخشنے رحم کرنے والا ہے۔ تو ہی

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَللّٰھُمَّ فَالِقَ الْاِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّیْلِ
عرش عظیم کا مالک ہے۔ اے اللہ پھاڑنے والے صبح کے (شب تار کے بطن سے) اور بنانے والے

سَکَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا اِقْضِ عَنَّا الدَّیْنَ وَاَغْنِنِیْ
رات کو وقت سکون و استراحت کا۔ اور سورج وچاند کو ذریعہ حساب کا۔ ادا کر ہم سے قرض اور غنی کر ہمیں

مِنَ الْفَقْرِ وَقَوِّنِیْ عَلَی الْجِھَادِ فِیْ سَبِیْلِكَ اَللّٰھُمَّ رَبَّ
فقر سے۔ اور مجھے قوت دے اپنی راہ میں جہاد پر۔ اے اللہ۔ اے ربّ

السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ
ساتوں آسمانوں کے اور رب عرش عظیم کے۔ اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے

لَا شَرِیْكَ لَكَ وَالْفَرْدُ لَا نِدَّ لَكَ کُلُّ شَیْءٍ ھَالِكٌ اِلَّا وَجْھَكَ
نہیں شریک تیرے لیے۔ اور تو ہی یکتا ہے نہیں مدمقابل تیرے لیے۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے ماسوائے تیری ذات کے

لَنْ تُطَاعَ اِلَّا بِاِذْنِكَ وَلَنْ تُعْصٰی اِلَّا بِعِلْمِكَ تُطَاعُ فَتَشْکُرُ
تیری ہرگز اطاعت نہیں کی جاسکتی مگر تیری توفیق سے۔ اور ہرگز نافرمانبرداری نہیں کی جاسکتی مگر تیرے علم سے۔ تیری اطاعت کی جاتی ہے پس تو جزائے خیر عطا فرماتا

وَتُعْصٰی فَتَغْفِرُ اَقْرَبُ شَھِیْدٍ وَّاَدْنٰی حَفِیْظٍ حُلْتَ دُوْنَ
ہے اور تیری نافرمانبرداری کی جاتی ہے پس تو بخش دیتا ہے۔ قریب ترین گواہ ہے۔ اور قریب ترین گواہ ہے۔ اور قریب ترین

النُّفُوْسِ وَاَخَذْتَ بِالنَّوَاصِیْ وَکَتَبْتَ الْاٰثَارَ وَنَسَخْتَ الْاٰجَالَ
محافظ، تو حائل ہوگیا نفوس کے آگے اور تو نے پکڑ لیا ہے سب کی پیشانیوں کو اور تو نے لکھوا دیا ہے آثار اور نشانات کو اور لکھوا دیا ہے عمروں کو

اَلْقُلُوْبُ لَكَ مُفْضِیَۃٌ وَّالسِّرُّ عِنْدَكَ عَلَانِیَۃٌ اَلْحَلَالُ مَا اَحْلَلْتَ
قلوب تیرے لیے پہنچانے والے ہیں (راز ہائے دروں کو) اور پنہاں تیرے نزدیک آشکار ہے۔ حلال وہی ہے جس کو تو نے حلال ٹھہرایا

وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ وَالدِّیْنُ مَا شَرَعْتَ وَالْاَمْرُ مَا قَضَیْتَ وَ
اور حرام وہ ہے جس کو تو نے حرام ٹھہرایا اور دین وہی ہے جس کو تو نے جاری کیا۔ اور امر وہی ہے جس کی قضاء تو نے فرمائی۔ اور

الْخَلْقُ خَلْقُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَاَنْتَ اللّٰہُ الرَّءُوْفُ الرَّحِیْمُ
مخلوق تیری ہی مخلوق ہے۔ اور بندہ تیرا ہی بندہ ہے اور تو ہی اللہ ہے جو بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے

اَسْئَلُكَ بِنُوْرِ وَجْھِكَ الَّذِیْٓ اَشْرَقَتْ لَہُ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ
میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل تیرے وجہ کریم کے نور کے جس کی بدولت روشن ہوگئے آسمان اور زمین

وَبِکُلِّ حَقٍّ ھُوَ لَكَ وَبِحَقِّ السَّآئِلِیْنَ عَلَیْكَ اَنْ تَقْبَلَنِیْ فِیْ
اور بطفیل ہر اس حق کے جو تیرے لیے ہے۔ اور بطفیل حق ان کے جو تیری بارگاہ کے سوالی ہیں کہ تو قبول فرمائے مجھے

ھٰذِہِ الْغَدَاۃِ وَالْعَشِیَّۃِ وَاَنْ تُجِیْرَنِیْ مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ
اس صبح اور شام اور بچائے مجھے آگ سے اپنی قدرت کے ساتھ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ذَا

اے اللہ اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے جاننے والے غیب وشہادت کے

الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ فَاِنِّیْٓ اَشْهَدُ اِلَيْكَ فِیْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

اے جلال و اکرام والے۔ میں شہادت دیتا ہوں طرف تیری اس حیات دُنیا میں

وَاُشْهِدُكَ وَكَفٰى بِكَ شَهِيْدًا اِنِّیْٓ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ

اور تجھے گواہ بناتا ہوں" اور تو کافی ہے بطور گواہ کے" کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی

وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَاَنْتَ عَلٰى

واحد و یکتا نہیں شریک تیرے لیے۔ ملک تیرا ہی ہے۔ اور حمد تیرے ہی لیے ہے۔ اور تو

كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ۞ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ

ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل تیرے اسم اعظم کے

الْمَكْتُوْبِ مِنْ نُّوْرِ وَجْهِكَ الْاَعْلٰى الْمُؤَيِّدِ الدَّآئِمِ الْبَاقِیْ

جو لکھا ہوا ہے تیرے وجہ اعلیٰ کے نور سے، جو تائید و تقویت دینے والا ہے اور دائم و باقی۔ اور

الْمُخَلَّدِ فِیْ قَلْبِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ

ہمیشہ رکھا جانے والا ہے تیرے نبی محمد کے قلب انور میں۔ میں سوال کرتا ہوں بطفیل تیرے اسم اعظم کے

الْوَاحِدِ بِوَحْدَةِ الْاَحَدِ الْمُتَعَالِیْ عَنْ وَحْدَةِ الْكَمِّ وَالْعَدَدِ

جو متصف ہے احدیت والی وحدت کے ساتھ بالاتر ہے کمیت اور عدد والی وحدت سے

الْمُقَدَّسِ عَنْ كُلِّ اَحَدٍ ۞ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞

اور مقدس و پاکیزہ ہے ہر ایک کے (رشتہ و تعلق) سے فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ

نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ تھا

لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۞

اس کے لیے کوئی رشتہ دار اور ہم پلہ